

# فروع ولایت

امیرت امیر المؤمنین علیؑ علیہ السلام کا مکمل بارگاہ

آیۃ اللہ جعفر سبحانی

ناشر: مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

عنوان ----- صفحہ

حرف اول ۷

مقدمہ ۹

پہلا باب

بعثت پیغمبر (ص) سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ۱۴

عظیم افراد اور ان کے دوست اور دشمن ۱۴

حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے تین پہلو ۱۶

حضرت علی علیہ السلام کی خاندانی شخصیت ۱۷

حضرت علی علیہ السلام کی ماں کی شخصیت ۱۸

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ۱۹

پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے ۲۱

حضرت علی - غار حرا میں ۲۱

دوسرا باب

بعثت پیغمبر (ص) کے بعد اور ہجرت سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ۲۵

پہلی فصل

پہلا مسلمان ۲۵

علی علیہ السلام سے پہلے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا ۲۶

عقیق کندی کا بیان ۲۸

اسحاق سے مامون کا مناظرہ ۲۹

دوسری فصل

حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے پر پابندی ۳۳

پہلا مددگار ۳۷

اس تاریخی واقعہ کا مدارک ۴۰

تاریخی حقائق کا کاکتمان ۴۱

اسکافی کا بیان ۴۲

تیسری فصل

بے مثال فداکاری ۴۴

خانہ وحی پر حملہ ۴۷

بنی امیہ کے زمانے کے مجرم ۴۸

ناروا تعصب ۵۰

جواب ۵۱

امام علیہ السلام کی فداکاری پر دو معتبر گواہ ۵۴

تیسرا باب

بعد ہجرت اور رحلت پیغمبر (ص) کی رحلت سے پہلے حضرت علی - کی زندگی ۵۷

### پہلی فصل

اس زمانے پر ایک نظر ۵۷

۱۔ میدان جنگ میں آپ کی فدا کاری اور جانبازی ۵۷

۲۔ وحی (قرآن) کا لکھنا ۵۸

امام علیہ السلام نے کس طرح ہجرت کی ۵۹

قریش نے حضرت علی علیہ السلام کا تعاقب کیا ۶۰

### دوسری فصل

دو بڑی فضیلتیں ۶۳

اتحاد و اخوت ۶۵

حضرت علی - پیغمبر ﷺ کے بھائی تھے ۶۶

امام کی ایک اور فضیلت ۶۷

### تیسری فصل

جنگ بدر کا بے نظیر بہادر ۶۹

حقیقت کو چھپانا ۷۲

حق و باطل کا مقابلہ ۷۳

### چوتھی فصل

حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم (ص) کے داماد ہیں ۷۶

حضرت زہرا (س) سے شادی کے خواہشمند افراد ۷۶

روحی، فکری اور اخلاقی اعتبار سے برابر ہونا ۷۸

شادی کے اخراجات ۷۹

حضرت زہرا کا جہیز ۷۹

حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر ۸۰

### پانچویں فصل

جنگ احد میں امیر المومنین علیہ السلام کی جان نثاری ۸۳

جانثاری مقصد و ہدف پر ایمان کی علامت ہے ۸۵

امام علیہ السلام کی جانثاری پر ایک نظر ۸۷

### چھٹی فصل

اسلام کی شرک پر کامیابی ۹۰

اس جان نثاری کی اہمیت ۹۴

### ساتویں فصل

جنگ خیبر اور اس کے تین اہم امتیازات ۹۶

خیبر میں اسلام کی تابناک کامیابی ۹۹

امیر المومنین علیہ السلام کی رسول اکرم (ص) سے نسبت ۱۰۰

### آٹھویں فصل

دشمنوں کے ساتھ انصاف سے پیش آنا ۱۰۳

## نویں فصل

بیغمبر اسلام (ص) کا مخصوص نمائندہ و سفیر ۱۰۸

بے جا تعصب ۱۱۱

## دسویں فصل

مسلمانوں کے لئے آئندہ کا لائحہ عمل ۱۱۴

امامت کے بارے میں دو نظریے ۱۱۶

واقعہ غدیر خم ۱۲۲

واقعہ غدیر کی تشریح ۱۲۴

غدیر کا واقعہ کبھی بھی بھلایا نہیں جاسکتا ۱۲۷

## چوتھا باب

بیغمبر (ص) کی وفات کے بعد اور خلافت سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ۱۳۱

## پہلی فصل

حضرت علی علیہ السلام کی پچیس سالہ خاموشی ۱۳۱

اسلام کا پہلا ورق جدا ہو گیا ۱۳۴

کیا عباس اور ابو سفیان کی درخواست عاقلانہ تھی ۱۳۶

بغض و کینہ رکھنے والا گروہ ۱۳۸

بامقصد خاموشی ۱۴۰

تیسرا گروہ اور مسئلہ خلافت ۱۴۱

امام (ع) کے لئے صرف ایک راستہ تھا ۱۴۴

بیغمبر اسلام (ص) امت کے مرتد ہونے سے خوف زدہ تھے ۱۴۵

اعلیٰ مقصد کی اہمیت ۱۴۹

پرانے کینے اور بغض و حسد ۱۵۰

مسلمانوں کا اتحاد ۱۵۴

## دوسری فصل

خلفائے ثلاثہ کی خلافت اور امیر المومنین علیہ السلام کا طریقہ کار ۱۵۷

## تیسری فصل

حضرت علی (ع) سے بیعت لینے کا طریقہ ۱۶۲

خانہ وحی پر حملے کے بارے میں تاریخ کا انصاف ۱۶۴

حضرت علی (ع) کو کس طرح مسجد لے گئے ۱۶۸

حضرت زہرا (س) کے ساتھ ناروا سلوک ۱۶۹

انسانوں کی انسانوں پر حکومت ۱۷۰

## چوتھی فصل

حضرت علی علیہ السلام اور فدک ۱۷۵

فدک کی اقتصادی اہمیت ۱۷۵

فدک کا جغرافیہ ۱۷۵

فدک بیغمبر اسلام (ص) کی طرف سے حضرت فاطمہ (س) کو دیدہ تھا ۱۷۶

بیغمبر اسلام(ص) نے فدک اپنی بیٹی کو کیوں دیا؟ ۱۷۷

فدک کی آمدنی ۱۷۸

فدک غضب کرنے کا مقصد ۱۸۱

حکومت کے لئے مالی بحران ۱۸۳

فدک غضب کرنے کی ایک اور وجہ ۱۸۴

فدک ہمیشہ گروہوں اور سیاستوں کا شکار ۱۸۷

پانچویں فصل

مسئلہ فدک اور افکار عمومی ۱۹۲

خصوصی ۱۹۳

خالصہ ۱۹۳

سرزمین فدک اموال خالصہ میں تھی ۱۹۵

فدک بیغمبر اسلام(ص) نے (س)فاطمہ کو دیا تھا ۱۹۵

خلیفہ کے جوابات ۲۰۰

مسئلہ فدک کے بارے میں آخری فیصلہ ۲۰۲

ایک سوال کا جواب ۲۰۳

فدک سے متعلق دیگر باتیں ۲۰۴

فدک کے مسئلہ میں کوئی ابہام نہیں تھا ۲۱۰

چھٹیں فصل

کیا انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ۲۱۵

اس بارے میں قرآن کا نظریہ ۲۱۵

۱.یحییٰ نے زکریا سے میراث پائی ۲۱۶

دوسوالوں کا جواب ۲۱۸

۲. سلیمان نے داؤد سے میراث پائی ۲۲۰

بیغمبر سے منسوب حدیث ہے ۲۲۲

حضرت فاطمہ زہرا (س)کا غضبناک ہونا ۲۳۰

ساتویں فصل

حضرت علی علیہ السلام اور شوریٰ ۲۳۳

ابوبکر نے حق نمک ادا کر دیا ۲۳۳

نژاد پرستی اور طبقاتی نظام ۲۳۵

خلیفہ سے ایک ایرانی کاریگر کی فریاد ۲۳۶

شوریٰ کا انتخاب ۲۳۹

عمر کی شوریٰ پر ایک نظر ۲۴۳

آٹھویں فصل

خاندان رسالت ، حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں ۲۵۲

امام علیہ السلام خلفاء کی فکری اور قضاوتی آماجگاہ تھے ۲۵۵

حضرت علی - ، رسول اسلام کی نظر میں ۲۵۷

بیغمبر(ص) کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کی قضاوت ۲۵۹

نویں فصل

حضرت علی علیہ السلام اور خلیفہ اول کی سیاسی مشکلیں ۲۶۲  
حضرت علی(ع) اور ابوبکر کی علمی و سیاسی مشکلیں ۲۶۲  
رومیوں کے ساتھ جنگ ۲۶۲  
یہودیوں کے بزرگ علماء کے ساتھ مناظرہ ۲۶۳  
عیسائی دانشمند کو اطمینان بخش جواب ۲۶۵  
ایک شرابی کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا فیصلہ ۲۶۷

#### دسویں فصل

حضرت علی علیہ السلام اور خلیفہ دوم کو سیاسی مشورے ۲۶۹  
ایران فتح کرنے کے متعلق مشورہ ۲۶۹  
بیت المقدس فتح کرنے کے بارے میں مشورہ ۲۷۱  
تاریخ اسلام کی ابتداء ۲۷۱  
خلیفہ دوم کے زمانے میں لوگ صرف حضرت علی(ع) کی طرف رجوع کرتے تھے ۲۷۳

#### گیارہویں فصل

عثمان اور معاویہ کی علمی مشکلات کا حل کرنا ۲۷۸

#### بارہویں فصل

حضرت علی علیہ السلام کی سماجی خدمات ۲۸۲  
۱۔ فقیروں اور یتیموں کی خیر گیری ۲۸۲  
۲۔ غلاموں کو آزاد کرنا ۲۸۳  
۳۔ زراعت اور درخت کاری ۲۸۳  
۴۔ چھوٹی نہریں کھودنا ۲۸۴  
۵۔ مسجدوں کی تعمیر کرنا ۲۸۵  
۶۔ مکان و جائیداد کا وقف کرنا ۲۸۵

#### پانچواں باب

حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے کے واقعات ۲۸۷

#### پہلی فصل

حضرت علی(ع) کی خلافت کی طرف مسلمانوں کے رجحان کی علت ۲۸۷  
عثمان کے خلاف اقدام کرنے کی علت ۲۸۸  
بغاوت کی علت ۲۸۹  
پہلی وجہ - حدود الہی کا جاری نہ ہونا ۲۸۹  
بے جا عذر ۲۹۳  
دوسری وجہ- بنی امیہ کے درمیان بیت المال کا تقسیم ہونا ۲۹۶  
بیت المال کے بارے میں اسلام کا نظریہ ۲۹۸  
تیسری وجہ- اموی حکومت کی تشکیل ۳۰۰  
چوتھی وجہ- پیغمبر اسلام (ص) کے صحابہ پر ظلم و ستم ۳۰۳  
۱۔ عبداللہ بن مسعود پر ظلم و ستم ۳۰۳  
۲۔ عمار یاسر پر ظلم و ستم ۳۰۷  
پانچویں وجہ- بزرگ شخصیتوں کو جلا وطن کرنا ۳۱۰  
مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کی جلاوطنی ۳۱۰

جلاوطن ہونے والے افراد کون تھے؟ ۳۱۲

دوسری فصل

مقدمہ کا واقعہ اور عثمان کا قتل ۳۱۵

پانچ عوامل کا عکس العمل ۳۱۵

عثمان کے گھر کا محاصرہ ۳۱۸

مخالفوں کے سامنے خلیفہ کا تعہد ۳۱۹

انقلابیوں کے سرداروں کو قتل کرنے کا حکم ۳۲۱

محاصرہ میں خلیفہ کا مختلف لوگوں کو خط بھیجنا ۳۲۳

عثمان کے قتل میں جلدی مروان کی غلط تدبیر کا نتیجہ تھا ۳۲۳

تیسری فصل

قتل عثمان کے بعد لوگوں کا حضرت علی (ع) کی بیعت کرنا ۳۲۴

انقلابیوں کی حضرت علی (ع) کے ہاتھوں پر بیعت ۳۲۷

حقیقی بیعت ۳۲۸

جھوٹی تاریخ ۳۳۱

اختلافات کی جڑ ۳۳۲

چوتھی فصل

حضرت علی علیہ السلام سے مخالفت کے اسباب ۳۳۴

بیت المال تقسیم کرنے سے پہلے حضرت علی (ع) کا خطبہ ۳۳۵

بیت المال تقسیم کرنے کا طریقہ ۳۳۶

گذشتہ حکمرانوں کی معزولی ۳۳۷

معاویہ کی معزولی میں امام علیہ السلام کی عجلت کی وجہ ۳۳۹

بہترین موقع جو چھوٹ جاتا ۳۴۲

موروثی حکومت کی برقراری ۳۴۲

پانچویں فصل

خلافت معاویہ کی دیرینہ آرزو ۳۴۴

قاتلان عثمان کے نام بہانہ ۳۴۸

چھٹی فصل

ناکثین سے جنگ (جنگ جمل) ۳۵۰

۱۔ ناکثین، یا عہد و پیمانہ توڑنے والا گروہ ۳۵۱

۲۔ قاسطین، یا ظالمین اور حقیقت سے دور رہنے والا گروہ ۳۵۱

۳۔ مارقین، یا دین سے خارج ہونے والا گروہ ۳۵۱

بیچہ گانہ عنر ۳۵۳

نفاق و منافقت ۳۵۴

ناکثین کے قیام کرنے کی علت ۳۵۵

عائشہ کا مدینہ کے نیم راہ سے مکہ واپس جانا ۳۵۶

امام علیہ السلام کے مخالفوں کا مرکز ۳۵۷

جنگ جمل کے اخراجات ۳۵۸

### ساتویں فصل

- ناکثین کی گرفتاری کے لئے امام (ع) کا خاکہ ۳۶۱  
فوج کو دوبارہ جمع کرنا ۳۶۳  
بصرہ کے راستے میں ناکثین کی سرگذشت ۳۶۴  
تیز تیز قدم بڑھانا ۳۶۶  
عہد و پیمانہ توڑنے والے بصرہ کے قریب ۳۶۷  
ناکثین سے باز پرس ۳۷۱  
دونوں گروہوں کے درمیان وقتی صلح ۳۷۲  
الف۔ طلحہ وزبیر کی بیعت کے بارے میں استفسار ۳۷۲  
ب۔ امام علیہ السلام سے مسئلہ کا حل دریافت کرنا ۳۷۴

### آٹھویں فصل

- خونریز یوزش ۳۷۶  
حاکم بصرہ کا انجام ۳۷۷  
حکیم بن جبہ کا اقدام ۳۷۷  
حضرت علی (ع) کا اس حملہ سے باخبر ہونا ۳۷۸  
۱۔ محمد بن ابی بکر کو کوفہ بھیجنا ۳۷۹  
۲۔ ابن عباس اور مالک اشتر کو کوفہ روانہ کرنا ۳۸۰  
۳۔ امام حسن علیہ السلام اور عمار یاسر کو کوفہ روانہ کرنا ۳۸۱  
ابوموسیٰ اشعری کی ناکام کوشش ۳۸۴  
ابوموسیٰ اشعری کی معزولی ۳۸۵

### نویں فصل

- امام علیہ السلام کی "ذی وقار" سے بصرہ کی طرف روانگی ۳۸۷  
قعقاع بن عمرو کو روانہ کرنا ۳۹۱  
دشمن کی فوج کم کرنے کے لئے امام علیہ السلام کی سیاست ۳۹۱  
امام علیہ السلام کی طلحہ اور زبیر سے ملاقات ۳۹۲  
زبیر کے بیٹے کی تقریر اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جواب ۳۹۵  
حضرت علی علیہ السلام کی تقریر ۳۹۵  
امام علیہ السلام کا آخری مرتبہ اتمام حجت کرنا ۳۹۷

### دسویں فصل

- حضرت علی علیہ السلام کے سپاہیوں کی بہادری ۳۹۹  
ناکثین کی طرف سے جنگ کا آغاز ۳۹۹  
امام علیہ السلام کا اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنے کا طریقہ ۴۰۳  
اونٹ کا گرنا ۴۰۳  
طلحہ وزبیر کا انجام ۴۰۶  
زبیر کا قتل ۴۰۶  
جنگ جمل میں قتل ہونے والوں کی تعداد ۴۰۷  
جنگ جمل میں قتل ہونے والوں کی تدفین ۴۰۸  
حضرت علی علیہ السلام کی مقتولین سے گفتگو ۴۱۰  
بصرہ کی شکست ، امام علیہ السلام کا خطوگ لکھنا اور عائشہ کو مدینہ روانہ کرنا ۴۱۲  
بصرہ میں امام علیہ السلام کی تقریر ۴۱۴



اچھی نیت عمل کی جانشین ہے ۴۱۵

بیت المال کی تقسیم ۴۱۶

عائشہ کو مدینہ روانہ کرنا ۴۱۶

حاکموں کو منصوب کرنا ۴۱۷

گیارہویں فصل

کوفہ، حکومت اسلامی کا مرکز ۴۲۰

حکمرانوں کا عادلانہ تعین ۴۲۴

سیاسی آزادی ۴۲۵

کوفہ کی نماز جمعہ میں امام علیہ السلام کا پہلا خطبہ ۴۲۸

حاکموں کو روانہ کرنا ۴۲۹

بعض حاکموں کو امام علیہ السلام کا خط لکھنا ۴۳۰

امام علیہ السلام کا حاکم ہمدان کے نام خط ۴۳۱

اذر بائیجان کے گورنر اشعث کے نام امام علیہ السلام کا خط ۴۳۲

بارہویں فصل

جنگ صفین کے علل و اسباب ۴۳۵

امام علیہ السلام کا بیغام معاویہ کے نام ۴۳۵

شام میں امام علیہ السلام کا نمائندہ ۴۳۷

امام علیہ السلام کا بیعت لینے کا مقصد معاویہ کو معزول کرنا تھا ۴۳۸

معاویہ کی جانب سے شامیوں کو اس قضیہ سے آگاہ کرنا ۴۳۹

معاویہ کی گفتگو کا ایک جائزہ ۴۳۹

تیرہویں فصل

حضرت علی علیہ السلام سے مقابلے کے لئے معاویہ کے اقدامات ۴۴۲

معاویہ کا خط عمرو عاص کے نام ۴۴۲

دو کہنہ کار سیاستدانوں کی ہمکاری ۴۴۴

عمرو عاص کا شیطانی حربہ ۴۵۰

معاویہ کا خط شربیل کے نام ۴۵۱

معاویہ کا بزرگان قبیلہ اور خشک زبڈون سے مدد مانگنا ۴۵۲

زابدشام کی نمائندہ امام (ع) سے گفتگو ۴۵۴

جریر کی طرف سے اتمام حجت ۴۵۷

شام میں نمائندہ امام (ع) کی شکست کی وجہ ۴۵۷

معاویہ کا آخری حربہ ۴۵۸

امام علیہ السلام کا اپنے نمائندہ کو جواب ۴۵۹

جریر یر معاویہ سے دوستی کا الزام ۴۶۰

نمائندہ امام (ع) کی شام سے واپسی ۴۶۳

جریر امام - کے حضور میں ۴۶۴

معاویہ کے خطوط اسلامی شخصیتوں کے نام ۴۶۵

عبداللہ بن عمر کا جواب ۴۶۶

معاویہ کے خط لکھنے کا مقصد ۴۶۷

معاویہ کا خط سعد بن وقاص کے نام ۴۶۸

سعد و وقاص کا جواب ۴۶۸

معاویہ کا خط محمد بن مسلمہ کے نام ۴۶۹  
معاویہ کے خط کا مفہوم اور اس کا مقصد ۴۶۹  
شام کا خطیب ۴۷۱  
صحابہ کے بیٹوں کا سپہارا ۴۷۳  
قاتلان عثمان کو سیرد کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا ۴۷۴

#### چودھویں فصل

جنگ صفین کے لئے امام (ع) کی فوج کی آمادگی ۴۷۷  
نخیلہ میں امام - کی فوج کی پیش قدمی ۴۷۷  
امام علیہ السلام کی تقریر ۴۸۰  
مالک اشتر کی تقریر ۴۸۱  
امام کے لشکر میں معاویہ کے نفوذ کے عوامل ۴۸۲  
پردے فاش ہونے لگے ۴۸۴  
انتظار یا شام کی طرف روانگی ۴۸۵  
غیظ و غضب میں بردباری ۴۸۶  
امام علیہ السلام کا آخری فیصلہ ۴۸۸  
جہاد اسلامی کے تین اہم رکن ۴۸۸  
سیاہیوں کو حوصلہ عطا کرنا ۴۹۰  
راہ کے انتخاب میں آزادی ۴۹۱  
امام علیہ السلام کی فوج کے عظیم سپہ سالار ۴۹۲  
پہلا فوجی دستہ ۴۹۳

#### پندرہویں فصل

حضرت علی علیہ السلام کی میدان صفین کی طرف روانگی ۴۹۴  
سرزمین کربلا سے عبور ۴۹۷  
امام علیہ السلام ساہل اور مدائن میں ۴۹۸  
انبار کے کسانوں نے امام علیہ السلام کا استقبال کیا ۴۹۹  
امام علیہ السلام کا رقبہ میں قیام ۵۰۲  
رقبہ سے معاویہ کے نام خط ۵۰۳  
پل بنا کر فرات سے گزرنا ۵۰۳  
امام علیہ السلام زمین شام پر ۵۰۴  
معاویہ کا صفین میں آنا ۵۰۶  
امام کا سرزمین صفین پر ورود ۵۰۶  
امام علیہ السلام کا تحمل ۵۰۷  
حملہ کرنے اور قبضہ توڑنے کا حکم ۵۰۸  
عظیم قدرت کے باوجود انسانی اصول کی پابندی ۵۱۱  
فرات آزاد کرنے کے بعد ۵۱۳

#### سولہویں فصل

آخری اتمام حجت ۵۱۵  
معاویہ کے پاس تین نمائندے بھیجنا ۵۱۵  
عراق و شام کے قاریوں کا اجتماع ۵۱۶  
ابتدائی جھڑپیں ۵۱۹

ابو امامہ و ابو الدرداء ۵۱۹  
معاویہ کی طرف سے بند توڑنے کی افواہ ۵۲۰  
مخالفت کی تلافی ۵۲۲  
۳۷ ہجری کے حادثات ۵۲۳  
معاویہ کے جواب کی وضاحت ۵۲۴  
معاویہ کے نمائندے امام علیہ السلام کی خدمت میں ۵۲۶

#### ستریویں فصل

جنگ صفین کا انجام ۵۲۹  
فوجی صف بندی ۵۳۲  
امام علیہ السلام کی تقریر ۵۳۷

#### اٹھارویں فصل

اجتماعی حملے کا آغاز ۵۳۹  
امام علیہ السلام کے لشکر کے سرداروں کی شعلہ ور تقریریں ۵۴۳  
۱- کون ہے جو اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے ۵۴۴  
۲- دو حُجْر کی جنگ ۵۴۴  
۳- فوج شام کے میسرہ پر عبداللہ بن بدیل کا حملہ ۵۴۵  
جنگ، لیلۃ الہریر تک ۵۴۸  
دسویں دن کا حادثہ ۵۴۹  
میمنہ کی فوج میں ترمیم ۵۵۰  
قاتل کا گریہ ۵۵۱  
تاریخ دہراتی ہے ۵۵۳  
شمر بن ذی الجوشن امام علیہ السلام کی رکاب میں ۵۵۴  
شہادت پر فخر و مباہات ۵۵۴  
ایک فوجی حکمت عملی ۵۵۶  
شدید جنگ کے دوران سیاسی ہتھکنڈے ۵۵۷  
عمار اور باغی گروہ ۵۶۴  
عمار کی تقریر ۵۶۵  
امام کی فوج میں عمار کے ہونے کا اثر ۵۶۷  
جنگ صفین میں امام علیہ السلام کی بہادری ۵۷۱  
امام علیہ السلام تیروں کی بارش میں ۵۷۲  
معاویہ کے غلام حریت کا قتل ۵۷۴  
امام علیہ السلام نے معاویہ کو جنگ کی دعوت دی ۵۷۵  
شہید کے بیٹے کی بہادری ۵۷۶  
لومڑی شیر کے بچے میں ۵۷۷  
عمر و عاص اور مالک اشتر آمنے سامنے ۵۷۷  
یربیز گار نوجوان اور دنیا طلب بوڑھا ۵۷۸  
شام کے سپاہیوں کی بزدلی ۵۷۹  
تاریخ اپنے کو دہراتی ہے ۵۸۰  
صلح کے لئے معاویہ کا اصرار ۵۸۰

#### انیسویں فصل

جنگ صفین میں تبدیلی اور تاریخ اسلام ۵۸۴

بیسویں فصل

مسئلہ تحکیم ۵۹۲

معاویہ کا خط امام علیہ السلام کے نام ۵۹۲

امام علیہ السلام کا جواب معاویہ کے نام ۵۹۳

حکمین کا انتخاب ۵۹۴

تحمیل عہد حکمیت ۵۹۸

صلح نامہ کی عبارت ۶۰۱

تحکیم کے خلاف خوارج کا رد و عمل ۶۰۳

چوتھا دباؤ ۶۰۴

قیدیوں کی رہائی ۶۰۶

امام علیہ السلام کی حکمیت پر نظارت ۶۰۷

اکیسویں فصل

امام علیہ السلام کی صفین سے کوفہ کی طرف روانگی ۶۰۸

امام علی - خیاب بن ارت کی قبر پر ۶۱۱

امام علیہ السلام اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان گفتگو ۶۱۳

فرج کے سردار اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان گفتگو ۶۱۴

ابو موسیٰ اشعری اور احنف کے درمیان گفتگو ۶۱۴

سعد وقاص اور اس کا بیٹا عمر ۶۱۵

معاویہ کا حالات سے پریشان ہونا ۶۱۶

فتنہ حکمیت کا خاتمہ ۶۱۷

بائیسویں فصل

جنگ نہروان ، یا قرآن کو نیزہ پر بلند کرنے کا نتیجہ ۶۲۴

خوارج کی بنیاد ۶۲۷

خوارج کی دوسری اہم فرد ۶۲۹

خوارج کے درمیان مختلف اعتقادی فرقے ۶۳۰

خوارج کا بدترین مظاہرہ ۶۳۲

۱- خصوصی ملاقاتیں ۶۳۴

۲- حکومت کی مخالفت میں نماز جماعت سے دوری ۶۳۵

۳- لاحکم الا اللہ کا نعرہ ۶۳۶

امام کی بلند ہمتی اور خوش اخلاقی ۶۳۹

امام علیہ السلام کی ہدایت ۶۴۰

ابن عباس کی دلیل اور خوارج ۶۴۱

امام علیہ السلام کا خوارج کی جھاؤنی پر جانا ۶۴۳

دوست نما دشمن کی شرارت ۶۴۵

خوارج کی ہدایت کی دوبارہ کوشش ۶۴۶

دوسرا مناظرہ ۶۴۷

تیسویں فصل

خوارج کی مخالفت کی وجہ اور اس کی وضاحت ۶۵۰

۱۔ دین پر لوگوں کی حکومت ۶۵۱

۲۔ وقت کا تعیین ۶۵۲

۳۔ حاکمیت انسان کا حاکمیت خدا کے انحصار سے تعارض ۶۵۳

حکمت ، آخری امید ۶۵۵

فساد کو جڑ سے ختم کرنا ۶۵۶

عبداللہ کے قاتلون کی تنبیہ ۶۶۲

آخری اتمام حجت ۶۶۴

فتنہ خوارج کے خاتمہ کی تاریخ ۶۶۷

چھٹاباب

جنگ نہروان کے بعد کے واقعات اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ۶۶۸

پہلی فصل

لوٹ مار، بدامنی اور درد ناک قتل ۶۶۹

۱۔ ضحاک بن قیس کی لوٹ مار ۶۷۰

۲۔ بُسر کو حجاز و یمن بھیجنا ۶۷۴

بُسر کا سفر ۶۷۵

۳۔ سفیان بن عوف کی لوٹ مار ۶۸۰

دوسری فصل

مصر کی فتح اور محمد بن ابی بکر کی شہادت ۶۸۴

امام علیہ السلام کا والی اور بے طرف لوگ ۶۸۷

وہ موت جس نے بعض کو ہنسایا اور بعض کو رلایا ۶۹۱

امام علیہ السلام کا خط محمد بن ابی بکر کے نام ۶۹۱

محمد بن ابی بکر کا خط امام علیہ السلام کے نام ۶۹۲

عمر و عاص کو مصر بھیجنا ۶۹۳

محمد بن ابی بکر کی شہادت ۶۹۴

حضرت علی علیہ السلام اور خیر شہادت محمد بن ابی بکر ۶۹۶

امام علیہ السلام کا آخری خطبہ ۶۹۷

تیسری فصل

امام علیہ السلام کی زندگی کا آخری ورق ۷۰۰

محراب عبادت میں آپ کی شہادت ۷۰۰

شب شہادت امام علیہ السلام ۷۰۴

حضرت علی علیہ السلام کا غم ۷۱۱

منابع مصادر

فروغ ولایت استاد الشعراء ڈاکٹر شعور اعظمی (ممبئی)

نام کتاب: فروغ و لایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

تالیف: آیۃ اللہ جعفر سبحانی

ترجمہ: سید حسین اختر رضوی اعظمی

تطبیق اور تصحیح: مسعود اختر رضوی اعظمی

نظر ثانی: سید شجاعت حسین رضوی

پیشکش: معاونت فرہنگی، مجمع جهانی اہل بیت، ادارہ ترجمہ

ناشر: مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

طبع اول: ۱۴۲۹ھ ۲۰۰۸ء

تعداد: ۳۰۰۰

مطبع: لیلا

قال رسول اللہ ﷺ:

"انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ، و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتہم بہما لن تضلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتیٰ یردا علی الحوض".

حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: "میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں: (ایک) کتاب خدا اور (دوسری) میری عترت اہل بیت (علیہم السلام)، اگر تم انہیں اختیار کئے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو گے، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں۔"

اس حدیث شریف کو متواتر اور اس سے مشابہ دوسری حدیثوں کو مختلف تعبیروں کے ساتھ شیعہ اور اہل سنت کے مختلف کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں۔

(صحیح مسلم: ۱۲۲۷، سنن دارمی: ۴۳۲۲، مسند احمد: ج ۳، ۱۴، ۱۷، ۲۶، ۳۶۶۴، ۳۷۱، ۱۸۲۵ اور ۱۸۹، مستدرک حاکم: ۱۰۹۳، ۱۴۸، ۵۳۳، وغیرہ۔)

پروردگار عالم کا ارشاد ہے:

( اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَبْلُ الْاٰنِيَّتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا )

(سورۃ احزاب: آیت ۳۳)

شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں رسول خدا ﷺ کی بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیۃ مبارکہ پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے اور "اہل بیت" سے مراد یہی اصحاب کساء ہیں اور وہ: محمد ﷺ، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام ہیں۔ نمونہ کے طور پر ان کتابوں کی طرف رجوع کریں: مسند احمد بن حنبل (وفات ۲۴۱ھ): ج ۱، ص ۳۳۱، ج ۴، ص ۱۰۷، ج ۶، ص ۲۹۲ و ۴؛ صحیح مسلم (وفات ۲۶۱ھ) ج ۷، ص ۱۳۰؛ سنن ترمذی (وفات ۲۷۹ھ): ج ۵، ص ۳۶۱ و...؛ الذریۃ الطاہرۃ النبویۃ دولابی (وفات: ۳۱۰ھ ص ۱۰۸؛ السنن الکبریٰ نسائی (وفات ۳۰۳ھ): ج ۵، ص ۱۰۸ و ۱۱۳؛ المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری (وفات: ۴۰۵ھ): ج ۲، ص ۴۱۶، ج ۳، ص ۱۳۳ و ۱۴۷ و ۱۱۳؛ البرہان زرکشی (وفات ۷۹۴ھ) ص ۱۹۷؛ فتح الباری شرح صحیح البخاری ابن حجر عسقلانی (وفات ۸۵۲ھ): ج ۷، ص ۱۰۴؛ اصول الکافی کلینی (وفات ۳۲۸ھ): ج ۱، ص ۲۸۷؛ الامامۃ و التنصیر ابن بابویہ (وفات ۳۲۹ھ): ص ۴۷، ج ۲۹؛ دعائم الاسلام مغربی (وفات ۳۶۳ھ): ص ۳۵ و ۳۷؛ الخصال شیخ صدوق (وفات ۳۸۱ھ): ص ۴۰۳ و ۵۵۰؛ الامالی شیخ طوسی (وفات ۴۶۰ھ): ج ۴۸۲، ۴۳۸ و ۷۸۳ نیز مندرجہ ذیل کتابوں میں اس آیت کی تفسیر کی طرف مراجعہ کریں: جامع البیان طبری (وفات ۳۱۰ھ)؛ احکام القرآن جصاص (وفات ۳۷۰ھ)؛ اسباب النزول واحدی (وفات ۴۶۸ھ)؛ زاد المسیر ابن جوزی (وفات ۵۹۷ھ)؛ الجامع لاحکام القرآن قرطبی (وفات ۶۷۱ھ)؛ تفسیر ابن کثیر (وفات ۷۷۴ھ)؛ تفسیر ثعالبی (وفات ۸۲۵ھ)؛ الدر المنثور سیوطی (وفات ۹۱۱ھ)؛ فتح القدیر شوکانی (وفات ۱۲۵۰ھ)؛ تفسیر عیاشی (وفات ۳۲۰ھ)؛ تفسیر قمی (وفات: ۳۲۹ھ)؛ تفسیر فرات کوفی (وفات ۳۵۲ھ) آیۃ اولوا الامر کے ذیل میں؛ مجمع البیان طبرسی (وفات ۵۶۰ھ) ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری کتابیں ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم  
حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے منھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہو جاتے ہیں ، چنانچہ متمدن دنیا سے عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا ، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و مؤسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰؐ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا ، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا ، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں ، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہبِ عقل و آگہی سے روبرو ہونے کی توانائی کھو دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اسلامؐ کی یہ گرانہا میراث کہ جس کی اہل بیت (ع) اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے ، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دئی گئی تھی ، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت (ع) نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے ، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت % کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہیں ، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں ، یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا ، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت (ع) کونسل) مجمع جہانی اہل بیت (ع) نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت (ع) و طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے ، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے ، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت % عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوتؐ و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدوخال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن ، انانیت کے شکار ، سامراجی خوں خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے لئے استقبال کے لئے تیار کیا جا سکتا ہے ۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں ، زیر نظر کتاب ، مکتب اہل بیت (ع) کی ترویج و اشاعت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے ، آیۃ اللہ جعفر سبحانی دام ظلہ کی گر انقدر کتاب فروغ و ولایت کو فاضل جلیل مولانا سید حسین اختر رضوی اعظمی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور

مزید توفیقات کے آرزومند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام  
مدیر امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بیت (ع)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

انسانی معاشرہ، تحقیق و جستجو کرنے والوں کی نظر میں ایک ایسے دریا کے مانند ہے جو خاموش اور بغیر آواز کے ہے اور زمانہ گزرنے کی وجہ سے اس کے بعض حصے خشک ہو گئے ہیں اور اب جبکہ بہت زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو ممکن ہے نابود و ختم ہو جائے جس چیز نے اس کو خاموش اور بغیر آواز کا دریا باقی رکھا ہے وہ صرف ہوا کے تند اور تیز جھونکے اور تند و ضعیف طوفان ہیں طوفان اور ہوا کے جھونکے اٹھتے ہیں اور موج بنا کر کشتیوں کی قسمت و تقدیریں معین کرتے ہیں اور اس میں سے بعض موجیں ایسی بھی ہیں جو کشتی کو غرقاب کر کے لوگوں کو موت کی وادی تک پہنچا دیتی ہیں اور بعض موجیں ایسی ہیں جو نجات اور زندگی عطا کرتی ہیں۔

جی ہاں، عظیم تاریخی شخصیتیں انسانی معاشرے کے لئے وہی بہترین موجیں ہیں جو کبھی کبھی لوگوں کو ہلاکت و بدبختی میں گرفتار کر دیتی ہیں اور کبھی کبھی زندگی و سعادت کے لئے ہمیشہ راہنمائی کرتی ہیں، حقیقتاً خداوند عالم کی طرف سے معین کئے ہوئے الہی نمائندے اور پیغمبر اور پاک و پاکیزہ راہنما وہی بہترین موجیں ہیں جو اپنی بے مثال موج ہدایت کے ذریعے معاشرہ کی کشتی کو اپنی عاقلانہ اور منطقی تربیت اور لوگوں کو آخرت کی طرف رغبت دلانے یا نجات تک پہنچانے اور ہمیشہ عمدہ زندگی کی طرف راہنمائی کرنے کے لئے انسانی اور الہی قوانین کی طرف راغب کرتی ہیں۔

یہ صاحبان عظمت و شرافت برائیوں اور پلیدیوں سے خدا کی دی ہوئی طاقت و ہدایت کے ذریعے ہمیشہ جنگ کرتے رہے اور انسانی معاشرے کو عزت و کرامت جیسی نعمتوں سے نوازتے رہے تاریخ شاید بے کہ جہاں پر بھی وحی کا نور چمکا ہے وہاں کے افراد کی فکریں اور عقلیں کھل گئیں ہیں اور انسانیت اور معاشرے میں ترقی کا سبب بنا ہے۔ پیغمبر اسلام (ص) ایک نور تھے جو انسانوں کے تاریک قلب و دماغ میں چمکے اور اس زمانے کے بدبخت و خبیث معاشرے کو انسانی فرشتوں سے روشناس کرایا اور تہذیب و تمدن کا ایسا تحفہ پیش کیا جو آج تک تمام انسانی قوانین میں سب سے عمدہ اور قیمتی ہے اور ہر شخص اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اور اگر صرف اور صرف تمام مسلمان اس راستے پر چلتے جو پیغمبر نے اسلامی معاشرے کے لئے معین کیا تھا اور اختلاف و تفرقہ، تعصب اور خود غرضی سے پرہیز کرتے تو یقیناً کامل ہے کہ چودہ سو سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس تہذیب و تمدن کے مبارک درخت سے بہترین بہترین میوے تناول کرتے، اور ایسی ظلم و ستم سے دنیا میں اپنی عظمت و بزرگی کے محافظ ہوتے لیکن افسوس اور ہزار افسوس کہ پیغمبر ختمی مرتبتؐ کی دردناک رحلت کے بعد جنگ و جدال، خود غرضی اور مقام طلبی نے بعض مسلمانوں پر قبضہ جمالیاتھا جس کی وجہ سے اسلامی اور الہی راستے میں زبردست اور خطرناک انحراف پیدا ہو گیا اور اسلام کے سیدھے راستے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔

حقیقتاً، معاشرہ اُن دنوں کس چیز سے راضی نہ تھا؟ اور کس وجہ سے لوگ ناشکری اور سرکشی اختیار کئے ہوئے تھے؟

جی ہاں، ان لوگوں کی ناشکری اور ناراضگی ایسے امام کی مخالفت کی وجہ سے تھی کہ جنہیں پیغمبر اسلام (ص) نے مختلف طریقوں اور زاویوں اور مناسبتوں سے پہنچنایا تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ درد ناک اور غم انگیز مخالفتیں اور ناشکری جو تمام مومنوں، پرہیز گاروں، عالموں، دانشمندانوں، سیاستدانوں اور فکر و آگہی رکھنے والوں خلاصہ یہ کہ پیغمبر اسلام (ص) کے بعد سب سے بزرگ الہی نمائندے نے ۲۵ سال تک گوشہ نشینی اختیار کر لیا اور تنہا آپ ہی نے ان دنوں اسلامی معاشرے کو منتشر ہونے سے بچایا اور یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کو لوگوں نے نہ یہ کہ صرف علی۔ کو نہیں پہچانا بلکہ اس امام برحق و عظیم الشان کے فضائل و کمالات کو ذرہ برابر بھی درک



نہیں کیا۔

لیکن اس ۲۵ سال کی گوشہ نشینی کے بعد جسے حضرت نے یوں تعبیر کیا ہے کہ جیسے میری آنکھ میں کانٹا اور گلے میں ہڈی ہو ، جس وقت اسلامی معاشرہ پیغمبر اسلام (ص) کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے بالکل منحرف ہو گیا اور مسلمانوں نے چاہا کہ پھر سے اسی راستے کو اپنائیں تو حقیقی رہنما اور عظیم و بزرگ الہی شخصیت اور اپنے بڑے مربی کو تلاش کرنے لگے ، تاکہ وہ معاشرے کو صحیح راستے پر لائیں اور جس طرح سے پیغمبر (ص) چاہتے تھے اسی طرح عدل و انصاف سے آراستہ حکومت قائم کریں، اور ان لوگوں نے اس مقدس مقصد کے لئے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ نے بھی خداوند عالم کے حکم کے مطابق " جب عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کے لئے زمینہ فراہم ہو جائے تو فوراً حکومت قائم کرو " ان کی بیعت کو قبول کر لیا، لیکن معاشرے میں اس قدر اختلاف و انحراف پھیل چکا تھا کہ جس کے خاتمہ کے لئے سرکشوں اور مخالفوں سے جنگ و جدال کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔

یہی وجہ ہے کہ اس عظیم و کریم ، سخی اور بہادر اور کامل الایمان شخص کی خلافت کے زمانے میں صرف داخلی جنگیں ہوئیں، ناکثین (معاہدہ توڑنے والے) کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی اور مارقین ( دین سے خارج ہونے والے) کو جڑ سے ختم کرنے کے بعد جنگ کا خاتمہ ہوا ، اور بالآخر کچھ اندرونی دشمنوں ( خوارج نہروان) کے بچ جانے کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ باقی رہنے والے ظالم و بدبخت شخص کے ہاتھوں خدا کے گھر میں جام شہادت نوش فرمایا ، جس طرح سے خدا کے گھر میں آنکھیں کھولی تھیں ۔

اور اپنی بابرکت و باعظمت زندگی کو دو مقدس عبادت گاہوں ( کعبہ اور محراب کوفہ) کے درمیان بسر کیا۔

اس کتاب کے بارے میں :

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی پوری زندگی کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ولادت سے بعثت تک،

۲۔ بعثت سے ہجرت تک،

۳۔ ہجرت سے پیغمبر اسلام (ص) کی رحلت تک،

۴۔ رحلت پیغمبر (ص) سے خلافت تک،

۵۔ خلافت سے شہادت تک،

کتاب کی تقسیم بندی اسی طریقہ پر ہوگی ان پانچ حصوں میں امام علیہ السلام کی عام زندگی ، مستند اور آسان طریقے سے بیان ہوئی ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کتاب میں مبالغہ گوئی اور بے جا ظن و گمان سے دور رہیں اور شروع سے ہی یہی کوشش تھی کہ اصل منابع کی طرف رجوع کریں نہ اتنا طولانی فاصلہ ہو کہ آدمی تھک جائے اور نہ اتنا زیادہ ہی مختصر ہو کہ مقصد ختم ہو جائے بلکہ اس کے منابع و مآخذ کو اس مقدار تک بیان کر دینا کہ پڑھنے والوں کی زبان پر شکوہ نہ آئے اور ان کے لئے یہ کافی ہو۔

جب مؤلف "فروغ ابدیت " ( پیغمبر اسلام (ص) کی مکمل سوانح حیات) کی طباعت و نشر سے فارغ ہوا تو اس وقت ارادہ کیا کہ شیعوں کے پہلے رہبر و پیشوا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قابل افتخار زندگی کو اسی کتاب کے طرز پر تحریر کروں اور خداوند عالم کا شکر کہ اس نے اس کام کے لئے توفیق بھی دیدی اور حضرت کی زندگی کا چار حصہ کتاب کی شکل میں منظر عام پر آگیا، لیکن انقلاب اسلامی کی سیاسی فضا میں چند مذہبوں کے ایجاد نے مؤلف کی فکر کو اس آفت کے دفاع کی طرف متوجہ کر دیا خصوصاً مارکسیزم سے دفاع کی طرف ، اور ان ہی چیزوں نے مؤلف کو متقیوں اور پرہیز گاروں کے رہبر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کچھ لکھنے سے روک دیا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ خدانے توفیق دی کہ امام علیہ السلام کی زندگی کے پانچویں اور چھٹے حصے کو تحریر کروں جو آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ حساس اور پر آشوب دور تھا اور اس طرح سے مؤلف نے امام علیہ السلام کی پوری زندگی کو تحلیلی اور مستند اور بہترین اور اس زمانے کے طریقوں کے اعتبار سے مکمل کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔

دو باتیں :

یہاں پر دو باتوں کا تذکرہ ضروری ہے ،

یہ کتاب، جیسا کہ بیان ہوا ہے امام علیہ السلام کی عام اور ذاتی زندگی کا مجموعہ ہے اور آپ کی زندگی کے دوسرے

حصے مثلاً علم وفضل، تقویٰ و پرہیز گاری، فضائل و مناقب، خطبے اور تقریریں، خطوط و نصیحتیں اور کلمات قصار (موعظہ)، احتجاجات اور مناظرے، آپ کے اصحاب اور ساتھی اور ان کے حالات، معجزے اور کرامتیں، فیصلے اور تعجب خیز قضاوتیں وغیرہ جیسی بحثوں کو اس کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ یہ تمام عنوانات خود ایک الگ موضوع ہیں جس پر الگ الگ کتابیں درکار ہیں۔

مؤلف کتاب " فروغ ولایت " اپنی تمام تر عاجزی کے ساتھ معترف ہے کہ وہ امام علیہ السلام کی نورانی زندگی کا ایک ادنیٰ سا پہلو بھی پیش کرنے سے قاصر رہا ہے لیکن اس بات پر مفتخر ہے کہ وہ حضرت یوسف کے خریداروں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے اگرچہ اس مختصر سے بہانے، کہ اس زمانے کے یوسف کی نظر رحمت کا بھی حقدار نہ ہوسکے، لیکن کیا کرے :  
ماکل مایتمنی المرء یدرکہ  
تجری الریاح بما لا تشتھی السفن

### جعفر سبحانی

قم، مؤسسہ امام صادق -

۱۵ رجب ۱۴۱۰ھ

۲۲ بہمن ۱۳۶۸ ش

## فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### پہلا باب

بعثت پیغمبرؐ سے پہلے حضرت علی - کی زندگی

عظیم افراد اور ان کے دوست اور دشمن

کائنات کی اہم اور بزرگ شخصیتوں کے سلسلے میں کئی طرح کے پہلو نظر آتے ہیں کبھی بالکل مختلف اور کبھی بالکل برعکس، کبھی ان کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ دوستی کے آگے وہ کچھ نہیں دیکھتے اور پروانہ کے مانند اپنی ساری زندگی ان پر نثار و قربان کر دیتے ہیں اور اس دوستی کی وجہ سے بدترین مصیبت اور مشکلات، سختی اور شکنجے کو بھی برداشت کرتے ہیں اور اسی کے برعکس ان کے دشمن بھی ایسے ہوتے ہیں جو شیطان صفت، کینہ و بغض اور حسد میں ہمیشہ جلتے رہتے ہیں اور کبھی بھی عداوت و دشمنی سے باز نہیں آتے کہ صلح و آشتی کی راہ ہموار ہوسکے، ان افراد کی دوستی اور دشمنی کبھی کبھی اس قدر حد سے تجاوز کر جاتی ہے جس کی انتہا نہیں ہوتی اور وقت اور مقام کا بھی خیال نہیں رکھتی اور پھر بہت دنوں تک اور مختلف جگہوں پر یہ سلسلہ قائم رہتا ہے اور یہ عداوت و دشمنی انسان کے باعظمت اور محترم و باکمال ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

کائنات کی عظیم اور بزرگ شخصیتوں کے درمیان مولائے کائنات حضرت علی - کے علاوہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں نظریے قائم ہوئے ہوں۔

آپ سے محبت اور دشمنی کرنے میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ کے چاہنے والوں کی بھی تعداد بہت ہے اور آپ کے دشمنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، عظیم شخصیتوں اور انسانوں کے درمیان فقط جناب حضرت عیسیٰ مسیح کی طرح ہیں جو مولائے کائنات حضرت علی - کی طرح ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ سے دوستی اور دشمنی کرنے والے دو متضاد دھڑے نظر آتے ہیں، اس طرح دونوں آسمانوی پیشواؤں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔

حضرت عیسیٰ دنیا کے تمام عیسائیوں کے گمان و خیال میں وہی خدا نے مجسم ہیں جس نے اپنے بندوں اور چاہنے والوں کو اپنے باپ حضرت آدم سے ورثہ میں ملے ہوئے گناہوں سے نجات دلانے کے لئے زمین پر آئے اور آخر کار سولی پر چڑھا دیئے گئے وہ عام عیسائیوں کی نگاہ میں الوہیت کے علاوہ کوئی اور شخصیت کے مالک نہ تھے۔

ان کے مقابلے میں یہودی ان کے بالکل برخلاف ہیں انہوں نے حضرت پر الزام و اتہام لگایا ہے اور جھوٹ کی نسبت دی ہے اور ایسی ناروا تہمتیں لگائیں کہ جس کا تذکرہ باعث شرم ہے اور آپ کی مقدس و پاکیزہ ماں کی طرف غلط نسبتیں دی ہیں۔

بالکل ایسے ہی اور بھی کچھ افراد ہیں جو مولائے کائنات حضرت علی - کے بارے میں متضاد فکر رکھتے ہیں ایک گروہ کم ظرف اور تنگ نظریے اور دوسرا کچھ زیادہ ہی الفت و محبت کی وجہ سے خدا کے مطیع و فرمانبردار کو مقام الوہیت تک پہنچا دیا ہے اور جو کرامتیں اور معجزات حضرت کی پوری زندگی میں ظاہر ہوئے اس کی وجہ سے وہ خدا مان بیٹھے ہیں افسوس کہ اس گروہ نے اپنے کو اس مقدس نام "علوی" سے منسوب کر رکھا ہے اور آج بھی اس نظریہ پر چلنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے افراد کثرت سے موجود ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ شیعیت کی تبلیغ کرنے والوں نے آج تک اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا تاکہ حضرت علی - کے حقیقی چہرے کو ان کے سامنے ظاہر کریں اور ان لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں جس راستے پر خود حضرت علی - افتخار کر رہے ہیں اس گروہ کے مقابلے میں، ایک اور گروہ جس نے خلافت ظاہری کے ابتدائی دنوں سے ہی امام - سے بغض و عداوت اپنے دل میں بٹھا رکھی اور پھر کچھ مدت کے بعد خوارج اور نواصب نامی گروہ کے شکل میں ابھر کر سامنے آگئے، پیغمبر اسلام (ص) حضرت علی - کے زمانہ حکومت میں ان دونوں گروہوں کے ظہور کے سلسلے میں بخوبی آگاہ تھے اسی وجہ سے آپ نے حضرت علی - سے ایک موقع پر فرمایا تھا:

"بَلِّغْ فَيْكَ اِنَّهٗنِ مُجَبَّ عَلٰی وَ مُبْغَضٍ قَالٍ" (۱)

تمہارے ماننے والوں میں سے دو گروہ ہلاک ہوں گے ایک وہ گروہ جو تمہارے بارے میں غلو کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو تم سے دشمنی و عداوت رکھے گا۔

حضرت علی - اور حضرت عیسیٰ - کے درمیان ایک اور بھی مشابہت پائی جاتی ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر ان دو شخصیتوں کی ولادت ہوئی ہے۔

حضرت عیسیٰ - کی ولادت مقدس، سرزمین بیت اللحم (بیت المقدس کے علاوہ ہے) پر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام پیغمبروں سے آپ ایک جہت سے برتر و افضل ہیں، اور مولائے کائنات حضرت علی - کی ولادت مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین خانہ کعبہ کے اندر معجزاتی طور پر ہوئی، اور آپ نے خدا کے گھر (مسجد کوفہ) میں جام شہادت نوش کیا اور حسن مطلع کے مقابلے میں حسن ختام سے بہرہ مند ہوئے جو حقیقت میں بے مثال ہے اور کتنی عمدہ بات ہے کہ آپ کے متعلق کہا جائے "نازم بہ حسن مطلع و حسن ختام او" (یعنی ہم اس حسن مطلع اور حسن ختام پر افتخار کرتے ہیں اور نازاں ہیں)

حضرت علی - کی شخصیت کے تین پہلو:

ماہرین نفسیات کی نظر میں ہر انسان کی شخصیت کے نکھار میں تین اہم عوامل ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک شخصیت سازی میں مؤثر ہوتا ہے گویا انسان کی روح اور صفات اور فکر کرنے کا طریقہ مثلث کی طرح ہے اور یہ تینوں پہلو ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور وہ تینوں عامل یہ ہیں۔

۱۔ وراثت -

۲۔ تعلیم و تربیت۔

۳۔ محیط زندگی۔

انسان کے اچھے اور برے صفات اور اس کی عظیم و پست خصلتیں ان تینوں عامل کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں اور رشد و نمو کرتی ہیں۔

وراثت کے عوامل کے سلسلے میں مختصر وضاحت: ہماری اولادیں ہم سے صرف ظاہری صفات مثلاً شکل و صورت ہی بطور میراث نہیں لیتیں بلکہ ماں باپ کے باطنی صفات اور روحانی کیفیت بھی بطور میراث اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔

تعلیم و تربیت اور اور محیط زندگی، جو انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، بہترین تربیت جسے خداوند عالم نے انسان کے ہاتھوں میں دیا ہے یا مثالی تربیت جسے بچہ ماں باپ سے بطور میراث حاصل کرتا ہے اس کی بہت عظمت و منزلت ہے، ایک استاد بچے کی تقدیر یا اس کے درسی رجحان کو بدل سکتا ہے اور اسی طرح گناہوں سے آلودہ انسانوں کو پاک و پاکیزہ، اور پاک و پاکیزہ افراد کو گناہوں کے دلدل میں ڈال

سکتا ہے یہ دونوں صورتیں انسان کی شخصیت کو اتنا واضح و روشن کرتی ہیں کہ جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ان تینوں امور پر انسان کا ارادہ غالب ہے -

(۱) نہج البلاغہ، کلمات قصار نمبر ۱۷۷، فیک کے بجائے فی ہے۔

حضرت علی - کی خاندانی شخصیت :

حضرت علی - کی ولادت جناب ابوطالب کے صلب سے ہوئی... حضرت ابوطالب - بطحاء (مکہ) کے بزرگ اور بنی ہاشم کے رئیس تھے۔ آپ کا پورا وجود مہربانی و عطوفت، جانبازی اور فداکاری اور جود و سخا میں آئین توحید کا آئینہ دار تھا۔ جس دن پیغمبر اسلام ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہوا اس وقت آپ صرف آٹھ سال کے تھے اور اس دن سے ۴۲ سال تک آپ نے پیغمبر اسلام (ص) کی حفاظت، سفر ہو یا حضر، کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی تھی اور بے مثال عشق و محبت سے پیغمبر اسلام کے مقدس ہدف، جو کہ وحدانیت پروردگار تھا، میں جم کر فداکاری کی اور یہ حقیقت آپ کے بہت سے اشعار "دیوان ابوطالب" سے واضح ہوتی ہیں مثلاً:

"إِلْعَلُّمُ خَيْرًا النَّاسَ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ كَمُوسَىٰ وَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ" (۱)

پاک و پاکیزہ اور نیک طینت والے یہ جان لیں کہ محمدؐ، موسیٰ اور عیسیٰ ؑ کی طرح پیغمبر ہینا اور دوسری جگہ فرماتے ہیں:

"أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا رَسُولًا كَمُوسَىٰ خَطًّا فِي أَوَّلِ الْكُنُوبِ" (۲)

کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ محمدؐ موسیٰ کی طرح آسمانی ربر اور رسول ہیں، اور ان کی پیغمبری کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں درج ہے۔

ایک ایسی قربانی، کہ جس میں تمام بنی ہاشم ایک سوکھی اور تپتی ہوئی غار میں قید ہو گئے اور یہ چیز مقصد سے عشق و محبت کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا گہرا معنویت سے تعلق ہو، رشتہ کی الفت و محبت اور تمام مادی عوامل اس طرح کی ایثار و قربانی کے روح انسان کے اندر پیدا نہیں کر سکتیں۔

حضرت ابو طالب کے ایمان کی دلیل اپنے بھتیجے کے آئین و قوانین پر اس قدر زیادہ ہے جس نے محققین کی نظروں کو اپنی طرف جذب کر لیا ہے۔ مگر افسوس کہ ایک گروہ نے تعصب کی بنیاد پر ابوطالب پر شک کیا اور دوسرے گروہ نے تو بہت ہی زیادہ جسارت کی ہے اور آپ کو غیر مومن تک کہہ ڈالا ہے۔ حالانکہ وہ دلیلیں جو حضرت ابو طالب کے لئے تاریخ و حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اگر اس میں سے تھوڑا بہت کسی اور کے متعلق تحریر ہوتا تو اس کے ایمان و اسلام کے متعلق ذرہ برابر بھی شک و تردید نہ کرتے۔ مگر انسان نہیں جانتا کہ اتنی دلیلوں کے باوجود بعض انسانوں کا دل روشن نہ ہوسکا (اور وہ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہیں)

(۱)، (۲) مجمع البیان، ج ۴، ص ۳۷۔

حضرت علی - کی ماں کی شخصیت :

آپ کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد، جناب ہاشم کی بیٹی ہیں۔ آپ وہ پہلی خاتون ہیں جو پیغمبر پر ایمان سے پہلے آئین ابراہیمی پر عمل پیرا ہوئیں۔ وہ وہی پاکیزہ و مقدس خاتون بینجو دردزہ کی شدت کے وقت مسجد الحرام کی طرف آئیں اور دیوار کعبہ کے قریب جا کر کہا:

پروردگارا: ہم تجھ پر اور پیغمبروں پر اور آسمانی کتابوں پر جو تیری طرف سے نازل ہوئی ہیں اور اپنے جد ابراہیم کے آئین پر جنہوں نے اس گھر کو بنا یا ہے ایمان کامل رکھتی ہوں۔  
پروردگارا: جس نے اس گھر کو تعمیر کیا اس کی عظمت اور اس مولود کے حق کا واسطہ جو میرے رحم میں ہے اس بچہ

کی ولادت کو مجھ پر آسان کر دے۔

ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ فاطمہ بنت اسد معجزاتی طریقہ سے خدا کے گھر میں داخل ہو گئیں اور مولائے کائنات کی ولادت ہوئی۔ (۱)

اس عظیم فضیلت کو مذہب شیعہ کے معتبر محدثین اور مورخین اور علم انساب کے معتبر دانشوروں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اہلسنت کے اکثر دانشوروں نے اس حقیقت کو صراحت سے بیان کیا ہے اور اس کو ایک بے مثال فضیلت کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ (۲)

حاکم نیشاپوری کہتے ہیں :

خانہ کعبہ میں علیؑ کی ولادت کی خبر حدیث تواتر کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے۔ (۳)

(۱) کشف الغمہ ، ج ۱ ص ۹۰

(۲) جیسے مروج الذہب، ج ۲ ص ۳۴۹، بشرح الشفاء ، ج ۱ ص ۱۰۱

(۳) مستدرک حاکم ، ج ۳ ص ۴۸۳

مشہور مفسر آلوسی بغدادی لکھتے ہیں :

کعبہ میں علیؑ کی ولادت کی خبر دنیا کے تمام مذہبوں کے درمیان مشہور و معروف ہے اور آج تک کسی کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ (۱)

پیغمبر اسلامؐ کی آغوش میں:

اگر امام علیہ السلام کی عمر کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آپ کی زندگی کا ابتدائی دور پیغمبر اسلامؐ کی بعثت سے پہلے کا دور ہوگا۔ اس وقت امام علیہ السلام کی عمر دس سال سے زیادہ نہیں تھی۔ کیونکہ جب علیؑ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پیغمبر اسلام کی عمر ۳۰ سال سے زیادہ نہ تھی۔ اور پیغمبر اسلام چالیس سال کی عمر میں رسالت کے لئے مبعوث ہوئے۔ (۲)

امام علیہ السلام کی زندگی کے حساس ترین واقعات اسی دور میں رونما ہوئے یعنی حضرت علیؑ کی شخصیت پیغمبر کے توسط سے ابھری، عمر کا یہ حصہ ہر انسان کے لئے اس کی زندگی کا سب سے حساس اور کامیاب و اہم حصہ ہوتا ہے ایک بچے کی شخصیت اس عمر میں ایک سفید کاغذ کے مانند ہوتی ہے اور وہ ہر شکل کو قبول کرنے اور اس پر نقش ہونے کے لئے آمادہ ہوتا ہے۔ اس کی عمر کا یہ حصہ پرورش کرنے والوں اور تربیت کرنے والوں کے لئے سنہرا موقع ہوتا ہے تاکہ ان کی بہترین تربیت کریں اور اسے انسانی اور اخلاقی اصولوں سے روشناس کرائیں اور بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کا طور طریقہ اسے سکھائیں۔

پیغمبر عظیم الشان نے اسی عظیم مقصد کے لئے حضرت علیؑ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کی تربیت کی ذمہ داری خود لے رکھی تھی، جس وقت حضرت علیؑ کی والدہ نو مولود بچے کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو پیغمبر اسلام نے والہانہ عشق و محبت کے ساتھ اس بچے کو دیکھا اور کہا اے چچی علیؑ کیجھولے کو میرے بستر کے قریب رکھ دیجئے، اس جہت سے امام علیؑ علیہ السلام کی زندگی کا آغاز

(۱) شرح قصیدہ عبدالباقی آفندی ص ۱۵

(۲) بعض لوگوں نے مثلاً ابن خشاب نے اپنی کتاب موالید الانامہ میں علیؑ کی کل عمر ۶۵ سال اور بعثت پیغمبر سے پہلے ۱۲ سال لکھی ہے۔ تفصیل کے لئے کتاب کشف الغمہ تالیف مشہور مورخ علی بن عیسیٰ اربلی (متوفی ۵۶۹۳ھ) ص ۶۵ پر دیکھ سکتے ہیں۔

پیغمبر اکرم کے لطف خاص سے ہوا، پیغمبر صرف سوتے وقت حضرت علیؑ کے گہوارہ کو جھولا تے ہی نہیں تھے بلکہ آپ کے بدن کو دھوتے بھی تھے اور انہیں دودھ بھی پلاتے تھے، اور جب علیؑ علیہ السلام بیدار ہوتے تو خلوص و الفت کے ساتھ ان سے بات کرتے تھے اور کبھی کبھی انہیں سینے سے لگا کر کہتے تھے "یہ میرا بھائی ہے اور مستقبل میں میرا ولی و ناصر اور میرا وصی اور میرا امام ہوگا"

پیغمبر اسلام ﷺ حضرت علی کو اتنا عزیز رکھتے تھے کہ کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہوتے تھے اور جب بھی مکہ سے باہر عبادت خدا کے لئے جاتے تھے تو حضرت علی علیہ السلام کو چھوٹے بھائی یا عزیز ترین فرزند کی طرح اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ (۱)

اس حفاظت و مراقبت کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کا دوسرا پہلو جو کہ تربیت ہے آپ کے ذریعے ہو اور پیغمبر کے علاوہ کوئی شخص بھی ان کی تربیت میں شامل نہ ہو۔  
حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے خطبے میں پیغمبر اسلام کی خدمات کو سراہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:  
وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ وَضَعْنِي فِي حَجْرِهِ وَأَنَا وَلَدِيضُمَّنُ إِلَى صَدْرِهِ وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَائِهِ وَيَمَسِّنِي جَسَدَهُ وَيُثِمِّنُ عَرَفَهُ وَكَانَ يَمَضُّ الشَّيْءَ ثُمَّ يَلْقُمُنِيهِ. (۲)

(۱) كشف الغم، ج ۱، ص ۹۰۔  
(۲) نهج البلاغه عبده، ج ۲ ص ۱۸۲، خطبہ قاصعہ۔

پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے جب خدا نے چاہا کہ اس کے دین کا عظیم ولی سردار انبیاء پیغمبر اسلام ﷺ کے گھر میں پرورش پائے اور رسول اسلام کے زیر نظر اس کی تربیت ہو تو پیغمبر اسلام کو اس کی طرف متوجہ کیا۔  
اسلام کے مشہور مورخین لکھتے ہیں:

مکہ میں سخت قحط پڑا، پیغمبر کے چچا ابو طالب اپنے اہل و عیال کے ساتھ اخراجات کے متعلق بہت پریشان ہوئے، پیغمبر اکرم (ص) اپنے دوسرے چچا عباس جو ابو طالب سے زیادہ امیر اور دولت مند تھے، سے گفتگو کی اور دونوں کے درمیان یہ طے پا یا کہ ہر ایک حضرت ابو طالب کے لڑکوں میں سے ایک ایک کو اپنے گھر لے جائے تاکہ اس قحط کے زمانے میں ابو طالب کی پریشانیوں میں کچھ کمی واقع ہو چنانچہ جناب عباس، جعفر کو اور پیغمبر اسلام ﷺ حضرت علی - کو اپنے گھر لے گئے۔ (۱)

اب جبکہ حضرت علی - مکمل طور پر پیغمبر کے اختیار میں تھے حضرت علی نے انسانی اور اخلاقی فضیلتوں کے گلستان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا یا اور پیغمبر اسلام کی سر پرستی میں کمال کے بلند ترین درجے پر فائز ہوئے، امام علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اس زمانے اور پیغمبر کی تربیت کی طرف اشارہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں:  
"وَلَقَدْ كُنْتُ أَتْبِعُهُ الْفَصِيلُ أُمَّهَ يَرْفَعُ لِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عِلْمًا وَ يَأْمُرُنِي بِالْإِقْتِدَائِ بِه" (۲)  
میں اونٹ کے اس بچہ کی طرح جو اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، پیغمبر کی طرف گیا، آپ روزانہ مجھے اپنے اخلاقِ حسنہ کا ایک پہلو سکھاتے تھے اور حکم دیتے کہ ان کی پیروی کروں۔

حضرت علی علیہ السلام غار حرا میں پیغمبر اسلام (ص) رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے تک سال میں ایک مہینہ غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے تھے اور جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا تھا آپ پہاڑ سے نیچے اترتے تھے اور سیدھے

(۱) سیرة ابن ہشام، ج ۱ ص ۲۳۶۔  
(۲) نهج البلاغه عبده، ج ۲ ص ۱۸۲۔

مسجد الحرام کی طرف جاتے تھے اور سات مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے پھر اپنے گھر واپس آتے تھے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام حضرت علی - سے اس قدر محبت کرتے تھے تو کیا اس عجیب و غریب جگہ پر عبادت و دعا کے لئے حضرت علی - کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے یا انہیں اتنی مدت تک چھوڑ کر جاتے تھے؟  
تمام قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن سے پیغمبر اسلام حضرت علی - کو اپنے گھر لے گئے اس دن سے ایک دن کے لئے بھی انہیں اپنے سے جدا نہیں کیا۔

مورخین لکھتے ہیں :

حضرت علی - ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے اور جب بھی پیغمبر شہر سے باہر جاتے اور بیابان اور پہاڑ کی طرف جاتے تو حضرت علی - کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ (۱)

ابن ابی الحد یکہتے ہیں :

حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب جبرئیل پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے اور انہیں رسالت کے عہدے پر فائز کیا اس وقت علی - پیغمبر (ص) کے ہمراہ تھے اور وہ دن انہی دنوں میں سے تھا جن دنوں پیغمبر اسلام غار حرا میں عبادتوں کے لئے جایا کرتے تھے -

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں :

وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِزُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحْرًا فَرَاَهُ وَ لَأَيُّرَاهُ غَيْرِي... (۲)

"پیغمبر ہر سال غار حرا میں عبادت کے لئے جاتے تھے اور میرے علاوہ کسی نے انہیں نہیں دیکھا" اس جملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولائے کائنات غار حرا میں پیغمبر اسلام کے ہمراہ، رسالت کے بعد بھی تھے لیکن گذشتہ قرآن سے مولائے کائنات کا پیغمبر اسلام کے ساتھ غار حرا میں ہونا غا لباً رسالت سے پہلے ہے اور خودیہ جملہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر اسلامؐ کی رسالت سے پہلے کا ہے -

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱۳ ص ۲۰۸

(۲) نہج البلاغہ، خطبہ ۱۸۷ (قاصعہ)

حضرت علی علیہ السلام کی طہارت و پاکیزگی اور پیغمبر اسلام کے ہاتھوں ان کی پرورش کا ہونا اس بات کا سبب بنا کہ اسی بچپن کے زمانے میں حساس دل اور چشم بصیرت اور اپنی بہترین سماعتوں کے ذریعے ایسی چیزیں دیکھیں اور ایسی آوازیں سنیں کہ جن کا سننا یا دیکھنا عام آدمی کے لئے ممکن نہیں ہے -

چنانچہ امام علیہ السلام خود اس سلسلے میں فرماتے ہیں :

"أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرَّسَالَةِ وَأَشْمُ رِيحَ النَّبُوءَةِ" (۱)

ہم نے بچپن کے زمانے میں غار حرا میں پیغمبر اسلامؐ کے ساتھ وحی اور رسالت کے نور کو دیکھا جو پیغمبر پر چمک رہا تھا اور پاک و پاکیزہ نبوت کی خوشبو سے اپنے مشام کو معطر کیا -

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

امیر المؤمنین (ع) نے پیغمبر اسلامؐ کی رسالت سے پہلے نور رسالت اور وحی کے فرشتے کی آواز کو سنا تھا اس عظیم موقع پر جب کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا : اگر میں خاتم الانبیاء نہ ہوتا تو تم میں پیغمبری کی تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں اور تم میرے بعد پیغمبر ہوتے لیکن تم میرے بعد میرے وصی اور وارث اور تمام وصیوں کے سردار اور متقیوں کے پیشوا ہو۔ (۲)

امیر المؤمنین علیہ السلام اس غیبی آواز کے متعلق جس کو آپ نے بچپن میں سنا تھا ارشاد فرماتے ہیں : جس وقت پیغمبر پر وحی نازل ہوئی اسی وقت میرے کانوں سے کسی کے نالہ و فریاد کی آواز ٹکرائی میں نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہؐ یہ نالہ و فریاد کیسا ہے ؟

آپ نے فرمایا : یہ شیطان کی نالہ و فریاد ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ میری بعثت کے بعد زمین والوں کے درمیان جو اس کی اطاعت و پرستش ہوتی اس سے یہ نا امید ہو گیا ہے پھر پیغمبر اسلامؐ علی - کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں :

"إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَى مَا أَرَى ، أَلَا أَنْتَ لَسْتَ بِنَبِيِّ ۖ وَلَكِنَّكَ وَزِيرٌ" (۱)

اے علی! جس چیز کو میں نے سنا اور دیکھا تم نے بھی اسے دیکھا اور سنا مگر یہ کہ تم پیغمبر نہیں ہو بلکہ تم میرے وزیر اور مددگار ہو -

(۱) قبل اس کے کہ پیغمبر اسلامؐ خدا کی طرف سے رسالت کے منصب پر فائز ہوں وحی اور غیبی آوازوں کو سنا جیسا کہ روایات میں ذکر ہے . شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ، ج ۱۳ ص ۱۹۷

(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱۳ ص ۳۱۰

## فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### دوسرا باب

بعثت پیغمبرؐ کے بعد اور ہجرت سے پہلے حضرت علی - کی زندگی

پہلی فصل :

پہلا مسلمان

حضرت علی - کی زندگی کا دوسرا دور بعثت کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا ہے . اس وقت آپ کی عمر ۱۳ سال سے زیادہ نہیں تھی حضرت علی - اس پوری مدت میں پیغمبر اسلام کے ہمراہ تھے اور تمام ذمہ داریوں کو تحمل کئے ہوئے تھے ، اس زمانے کی بہترین اور حساس ترین چیز ایک ایسی قابل افتخار شئی ہے جو امام کو نصیب ہوئی اور پوری تاریخ میں یہ سعادت و افتخار مولائے کائنات کے علاوہ کسی کو نصیب نہ ہوا .

آپ کی زندگی کا پہلا افتخار اس عمر میں سب سے پہلے اسلام کا قبول کرنا ہے ، بلکہ بہترین لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اپنی دیرینہ آرزو یعنی اسلام کا اظہار اور اعلان کرنا تھا . (۱)

اسلام کے قبول کرنے میں سبقت کرنا اور قوانین توحید کا ماننا ان امور میں سے ہے جس پر قرآن نے بھروسہ کیا ہے ، اور جن لوگوں نے اسلام کے قبول کرنے میں سبقت کی ہے صریحاً ان کا اعلان کیا ہے "اور وہ لوگ خدا کی مرضی اور اس کی رحمت قبول کر نے میں بھی سبقت کرتے ہیں" . (۲)

قرآن کریم نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والوں پر اس حد تک خاص توجہ دی ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے بھی پہلے ایمان لائے اور اپنے جان و مال کو خدا کی راہ میں قربان کیا ہے ، ان لوگوں پر جو فتح مکہ کی کامیابی کے بعد ایمان لائے بینا اور جہاد کیا برتری اور فضیلت دی ہے . (۳)

یہ بات واضح ہے کہ آٹھویں ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اور پیغمبر نے بعثت کے اٹھارہ سال بعد بت پرستوں کے مضبوط قلعے اور حصار کو بے نقاب کر دیا ، فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے ایمان کی فضیلت و برتری کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اس زمانے میں ایمان لائے جب کہ اسلام کی حکومت شبہ جزیرہ پر نہیں پہنچی

(۱) اس بات کی وضاحت آخر میں ہوگی .

(۲) خدا فرماتا ہے: "والسابقون السابقون اولئک المقربون" سورۃ واقعہ، آیت ۱۰ و ۱۱ .

(۳) "لا یستوی منکم ... " سورۃ حدید، آیت ۱۰ .

تھی ، اور ابھی بھی بت پرستوں کا مرکز ایک محکم قلعہ کی طرح باقی تھا اور مسلمانوں کی جان و مال کا بہت زیادہ خطرہ تھا، اگرچہ مسلمان، مکہ سے پیغمبر اسلامؐ کی ہجرت کی وجہ سے ، اور گروہ اوس و خزرج اور وہ قبیلے جو مدینے کے آس پاس تھے ایک طاقتور گروہ سمجھے جاتے تھے اور بہت سی لڑائیوں میں کامیاب بھی ہوئے تھے لیکن خطرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے تھے .

اس وقت جب کہ اسلام کا قبول کرنا اور جان و مال کا خرچ کرنا اہمیت رکھتا ہو ، قطعی طور پر ابتدائی زمانے میں ایمان کا ظاہر کرنا اور قبول اسلام کا اعلان کرنا جب صرف قریش اور دشمنوں کی بی طاقت و قوت تھی ایسے مقام پر اس کی اہمیت و فضیلت اور بڑھ جاتی ہے اس بنا پر مکہ میں پیغمبرؐ کے صحابیوں کے درمیان اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کرنا ایک ایسا افتخار ہے جس کے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں ہے .

عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دن خیاب ، جس نے اوائل اسلام میں بہت زیادہ زحمات برداشت کی تھی ، سے پوچھا کہ مشرکین مکہ کا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا تھا ؟

اس نے اپنے بدن سے پیراہن کو جدا کر کے اپنی جلی ہوئی پشت اور زخموں کے نشان خلیفہ کو دکھایا اور کہا . اکثر و بیشتر مجھے لوہے کی زرہ پہنا کر گھنٹوں مکہ کے تیز اور جلانے والے سورج کے سامنے ڈال دیتے تھے اور کبھی کبھی آگ جلاتے تھے اور مجھے آگ پر لے جا کر بیٹھاتے تھے یہاں تک کہ آگ بجھ جاتی تھی . (۱)



جی ہاں مسلم و عظیم فضیلت اور معنوی برتری ان افراد سے مخصوص ہے جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں ہر طرح کے ظلم و ستم کو برداشت اور صمیم قلب کے ساتھ اسے قبول کیا۔

علی - سے پہلے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا  
اکثر محدثین و مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام دوشنبہ کو منصب رسالت پر فائز ہوئے اور اس کے دوسرے دن (سہ شنبہ) حضرت علی - ایمان لائے (۲) تمام لوگوں سے پہلے اسلام قبول کرنے میں حضرت علی - نے سبقت کی، اور پیغمبر نے اس کی تصریح کرتے ہوئے صحابہ کے مجمع عام میں فرمایا:

(۱) اسد الغابہ، ج ۲ ص ۹۹  
(۲) "بعث النبی یوم الاثنين و اسلم علی یوم الثلاثاء"، مستدرک حاکم، ج ۲ ص ۱۱۲، الاستیعاب، ج ۳ ص ۳۲

قیامت کے دن سب سے پہلے جو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا جس نے اسلام لانے میں تم سب پر سبقت حاصل کی ہے وہ علی ابن ابی طالب - ہے۔ (۱)  
پیغمبر اسلام (ص)، حضرت امیر المؤمنین اور بزرگان دین سے منقول حدیثیں اور روایتیں مولانے کائنات کے اسلام قبول کرنے میں سبقت سے متعلق اس قدر زیادہ ہیں کہ سب کو اس کتاب میں نقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ (۲)  
اس سلسلے میں امام - کا صرف ایک قول اور ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں امیر المؤمنین - فرماتے ہیں:  
أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولِ اللَّهِ وَأَنَا الصَّدِيقُ الْأَكْبَرُ لِأَيُّهَا بَعْدِي الْكَاذِبُ مُفْتَرِي وَلَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ وَأَنَا أَوْلَى مَنْ صَلَّى مَعَهُ - (۳)  
میں خدا کا بندہ، پیغمبر کا بھائی اور صدیق اکبر ہوں۔ میرے بعد یہ دعویٰ صرف جھوٹا شخص ہی کرے گا، تمام لوگوں سے سات سال پہلے میں نے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھی اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھی۔

امام علی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

اس وقت اسلام صرف پیغمبر اور خدیجہ کے گھر میں تھا اور میں اس گھر کا تیسرا فرد تھا۔ (۴)

ایک اور مقام پر امام - سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْلَى مَنْ أَنَابَ وَسَمِعَ وَأَجَابَ لَمْ يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (۵)

پروردگارا، میں پہلا وہ شخص ہوں جو تیری طرف آیا اور تیرے پیغام کو سنا اور تیرے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا اور مجھ سے پہلے پیغمبر کے علاوہ کسی نے نماز نہیں پڑھی۔

(۱) "اولکم واردأ علی الحوض اولکم اسلاما علی بن ابیطالب"، مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۳۶  
(۲) مرحوم علامہ امینی نے اس سلسلے کی تمام روایتوں اور حدیثوں کے متن اور مورخین کے اقوال کو غدیر کی تیسری جلد ص ۱۹۱ سے ۲۱۳ پر نقل کیا ہے۔  
(۳) تاریخ طبری، ج ۲، ص ۲۱۳، سنن ابن ماجہ، ج ۱، ص ۵۷۔  
(۴) نہج البلاغہ، عہدہ، خطبہ ۱۸۷۔  
(۵) نہج البلاغہ، خطبہ ۱۲۷

عفیف کندی کا بیان :

عفیف کندی کہتے ہیں: ایک دن میں کپڑا اور عطر خریدنے کے لئے مکہ گیا اور مسجد الحرام میں عباس بن عبدالمطلب کے بغل میں جا کر بیٹھ گیا، جب سورج اوج پر پہنچا تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آسمان کی طرف دیکھا پھر کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک نوجوان آیا اور اس کے داپنے طرف کھڑا ہوا پھر ایک عورت آئی اور مسجد میں داخل ہوئی اور ان دونوں کے پیچھے آکر کھڑی ہو گئی پھر وہ تینوں نماز و عبادت میں مشغول

ہو گئے ، میں اس منظر کو دیکھ کر بہت متعجب ہوا کہ مکہ کے بت پرستوں سے ان لوگوں نے اپنے کو دور کر رکھا ہے اور مکہ کے خدانوں کے علاوہ دوسرے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ میں حیرت میں تھا ، میں عباس کی طرف مخاطب ہوا اور ان سے کہا ۔ "أمر عظیم" ، عباس نے بھی اسی جملے کو دہرایا اور فرمایا ۔ کیا تم ان تینوں کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ۔ سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوا اور دونوں آدمیوں سے آگے کھڑا ہوا وہ میرا بھتیجا محمد بن عبد اللہ ہے اور دوسرا شخص جو مسجد میں داخل ہوا وہ میرا دوسرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے اور وہ خاتون محمد کی بیوی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے تمام قوانین خداوند عالم کی طرف سے اس پر نازل ہوئے ہیں ، اور اس وقت کائنات میں ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی اس دین الہی کا پیرو نہیں ہے۔ (۱)

ممکن ہے یہاں پر سوال کیا جائے کہ اگر حضرت علی - پہلے وہ شخص ہیں جو بعثت پیغمبرؐ کے بعد ان پر ایمان لائے تو بعثت سے پہلے حضرت علی - کی وضعیت کیا تھی؟

اس سوال کا جواب بحث کے شروع میں بیان کیا گیا ہے جس سے واضح اور روشن ہوتا ہے کہ یہاں پر ایمان سے مراد، اپنے دیرینہ ایمان کا اظہار کرنا ہے جو بعثت سے پہلے حضرت علی کے دل میں موجزن تھا، اور ایک لمحہ کے لئے بھی حضرت علی - سے دور نہ ہوا ، کیونکہ پیغمبر کی مسلسل تربیت و مراقبت کی وجہ سے حضرت علی - کے روح و دل کی گہرائیوں میں ایمان رچ بس گیا تھا اور ان کا مکمل وجود ایمان و اخلاص سے مملو تھا ۔

(۱) تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۱۲ کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۲۲ . استیعاب ج ۳ ص ۳۳۰ و...

ان دنوں جب کہ پیغمبر مقام رسالت پر فائز نہ ہوئے تھے ، حضرت علی - پر لازم تھا کہ رسول اسلام کے منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد پیغمبر سے اپنے رشتے کو اور مستحکم کرتے اور اپنے دیرینہ ایمان اور اقرار رسالت کو ظاہر اور اعلان کرتے ، قرآن مجید میں ایمان و اسلام کا استعمال اپنے دیرینہ عقیدہ کے اظہار کے متعلق ہوا ہے ۔ مثلاً خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ اسلام لائو جناب ابراہیم کہتے ہیں ، میں سارے جہان کے پروردگار پر ایمان لایا۔ قرآن مجید نے پیغمبر کے جملے کو نقل کیا ہے ، پیغمبر خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: وَأَمْرٌ أَنْ أَسْلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (مومن ۶۶) اور مجھے تو یہ حکم ہو چکا ہے کہ اپنے بارے میں سارے جہان کے پالنے والے کا فرمانبردار بنوں ، حقیقتاً ان موارد اور ان سے مشابہت رکھنے والے تمام موارد میں اسلام سے مراد ، خدا کے سامنے اپنی سپردگی کا اظہار کرنا اور اپنے ایمان کو ظاہر کرنا ہے ، جو انسان کے دل میں موجود تھا، اور اصلاً اسلام کے اظہار کا مطلب ایمان کا حاصل کرنا یا ایمان لانا نہیں ہے ، کیونکہ پیغمبر اسلام اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بلکہ بعثت سے پہلے موحد اور خدا کی بارگاہ میں اپنے کو تسلیم کرنے والے تھے اس بنا پر ثابت ہے کہ ایمان کے دو معنی ہیں ،

۱۔ اپنے باطنی ایمان کا اظہار کرنا جو پہلے سے ہی انسان کے قلب و روح میں موجود تھا، حضرت علی کا بعثت کے دوسرے دن ایمان لانے کا مقصد اور ہدف بھی یہی تھا اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا ۔

۲۔ ایمان کا قبول کرنا اور ابتدائی گروہ کا اسلام لانا پیغمبر کے بہت سے صحابیوں اور دوستوں کا ایمان تھا (جو پہلے والے معنی کے برعکس ہے)۔

اسحاق سے مامون کا مناظرہ :

مامون نے اپنی خلافت کے زمانے میں چاہے سیاسی مصلحت کی بنیاد پر یا اپنے عقیدے کی بنیاد پر، مولائے کائنات کی برتری کا اقرار کیا اور اپنے کو شیعہ ظاہر کیا ۔ ایک دن ایک علمی گروہ جس میں اس کے زمانے کے (۴۰) چالیس دانشمند اور خود اسحاق بھی انہیں کے ہمراہ تھے ، کی طرف متوجہ ہوا اور کہا:

جس دن پیغمبر خداؐ رسالت پر مبعوث ہوئے اس دن بہترین عمل کیا تھا؟

اسحاق نے جواب دیا ، خدا اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان لانا ۔

مامون نے دوبارہ پوچھا ، کیا اسلام قبول کرنے میں اپنے حریفوں کے درمیان سبقت حاصل کرنا بہترین عمل نہ تھا ؟ اسحاق نے کہا ، کیونکہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ، اور اس آیت میں سبقت سے مراد وہی اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنا ہے

مامون نے پھر سوال کیا ، کیا علی - سے پہلے کسی نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی ہے ؟ یا علی - وہ پہلے شخص ہیں جو پیغمبر پر ایمان لائے ہیں ؟

اسحاق نے جواب دیا ، علی ہی وہ ہیں جو سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لائے لیکن جس دن وہ ایمان لائے ، بچے تھے اور بچے کے اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن ابو بکر اگر چہ وہ بعد میں ایمان لائے اور جس دن خدا پرستوں کی صف میں کھڑے ہوئے وہ بالغ و عاقل تھے لہذا اس عمر میں ان کا ایمان اور عقیدہ قابل قبول ہے۔  
مامون نے پوچھا ، علی کس طرح ایمان لائے؟ کیا پیغمبر نے انہیں اسلام کی دعوت دی یا خدا کی طرف سے ان پر الہام ہوا کہ وہ آئینا اور توحید اور اسلام کو قبول کریں؟

یہ بات کہنا بالکل صحیح نہیں ہے کہ حضرت علی کا اسلام لانا خدا وند عالم کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا، کیونکہ اگر ہم یہ فرض کر لیں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ علی کا ایمان پیغمبر کے ایمان سے زیادہ افضل ہو جائے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ علی کا پیغمبر سے وابستہ ہونا جبرئیل کے توسط اور ان کی رہنمائی سے تھا نہ یہ کہ خدا کی طرف سے ان پر الہام ہوا تھا۔

بہر حال اگر حضرت علی کا ایمان لانا پیغمبر کی دعوت کی وجہ سے تھا تو کیا پیغمبر نے خود ایمان کی دعوت دی تھی یا خدا کا حکم تھا؟ یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہوگا کہ پیغمبر خدا نے حضرت علی کو بغیر خدا کی اجازت کے اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو اسلام کی دعوت ، خدا کے حکم سے دی تھی۔

کیا خدا وند عالم اپنے پیغمبر کو حکم دے گا کہ وہ غیر مستعد (آمادہ) بچے کو جس کا ایمان لانا اور نہ لانا برابر ہو اسلام کی دعوت دے؟ (نہیں) بلکہ یہ ثابت ہے کہ امام - بچپن میں ہی شعور و ادراک کی اس بلندی پر فائز تھے کہ ان کا ایمان بزرگوں کے ایمان کے برابر تھا۔ (۱)

یہاں مناسب تھا کہ مامون اس کے متعلق دوسرا بھی جواب دیتا کیونکہ یہ جواب ان لوگوں کے لئے مناسب ہے جن کی معلومات بحث و لایت و امامت میں بہت زیادہ ہو اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیائے الہی کا کبھی بھی ایک عام آدمی سے مقابلہ نہیں کرنا چاہئے اور نہ ان کے بچپن کے دور کو عام بچوں کے بچپن کی طرح سمجھنا چاہئے اور نہ ہی ان کے فہم و ادراک کو عام بچوں کے فہم و ادراک کے برابر سمجھنا چاہیے ، پیغمبروں کے درمیان بعض ایسے بھی پیغمبر تھے جو بچپن میں ہی فہم و کمال اور حقایق کے درک کرنے میں منزل کمال پر پہنچے تھے ، اور اسی بچپن کے زمانے میں ان کے اندر یہ لیاقت موجود تھی کہ پروردگار عالم نے حکمت آمیز سخن اور بلند معارف الہیہ ان کو سکھایا ، قرآن مجید میں جناب یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا ہے :

يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَاٰتَيْنَا هٗ الْحِكْمَ صَبِيًّا (مریم ۱۲) اے یحییٰ کتاب (توریت) مضبوطی کے ساتھ لو اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں اپنی بارگاہ سے حکمت عطا کی جب کہ وہ بچے تھے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں حکمت سے مراد نبوت ہے اور بعض لوگوں کا احتمال یہ ہے کہ حکمت سے مراد معارف الہی ہے۔ بہر حال جو بھی مراد ہو لیکن آیت کے مفہوم سے واضح ہے کہ انبیاء اور اولیاء الہی ایک خاص استعداد اور فوق العادہ قابلیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ، اور ان کا بچپن دوسروں کے بچپن سے الگ ہوتا ہے ، حضرت عیسیٰ - . اپنی ولادت کے دن ہی خدا کے حکم سے لوگوں سے گفتگو کی اور کہا : بے شک میں خدا کا بندہ ہوں ، مجھ کو اسی نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی بنایا۔ (۲)

معصومین علیہم السلام کے حالات زندگی میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے بچپن کے زمانے

(۱) عقد الفرید، ج ۳، ص ۴۳۔ اسحاق کے بعد جاحظ نے کتاب العثمانیہ میں اشکال کیا ہے اور ابو جعفر اسکافی نے کتاب نقض العثمانیہ میں اس اعتراض کا تفصیلی جواب دیا ہے اور ان تمام بحثوں کو ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح ج ۱۳ ص ۲۱۸ سے ص ۲۹۵ پر لکھا ہے۔

(۲) سورہ مریم، آیت ۳۰

میں عقلی ، فلسفی اور فقہی بحثوں کے مشکل سے مشکل مسئلوں کا جواب دیا ہے۔ (۱)  
جی ہاں نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے کاموں سے قیاس نہ کریں۔ اور اپنے بچوں کے فہم و ادراک کو پیغمبروں اور اولیاء الہی کے بچپن کے زمانے سے قیاس نہ کریں۔ (۲)

(۱) بطور مثال وہ مشکل سوالات جو ابوحنیفہ نے امام موسیٰ کاظم سے اور یحییٰ ابن اکثم نے امام جواد - سے کیے تھے۔ اور

جو جوابات ان لوگوں نے سنا وہ آج بھی حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔  
 (۲) امیر المومنین - فرماتے ہیں: لَا يُقَاسُ بِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْ بَدِهِ الْأُمَّةُ أَحَدٌ. اس امت کے کسی بھی فرد کو پیغمبر اسلام کے فرزندوں اور خاندان سے موازنہ نہ کرو۔ نہج البلاغہ، خطبہ دوم

فروع و لایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### دوسری فصل

حضرت علی - کے فضائل و کمالات بیان کرنے پر پابندی

تاریخ انسانیت میں بہت ہی کم شخصیتیں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام جیسی ہونگی جن کے دوست اور دشمن دونوں مل کر ان کے فضائل و کمالات کو چھپائے ہوں گے اس کے باوجود ان کے فضائل و کمالات سے عالم پُر ہے۔ دشمن نے ان سے عداوت و دشمنی کو اپنے دل میں بٹھا رکھا، اور حسد و کینہ کی وجہ سے ان کے بلند و با فضیلت مقامات اور کمالات کو لوگوں سے چھپایا، اور دوست نے جوانہیندل و جان سے چاہتا اور محبت کرتا ہے وہ دشمنوں کے شکنجے اور جان کے خوف کی وجہ سے ان کے فضائل و کمالات کو چھپایا، ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ اپنے لبوں کو جنیش نہ دیں اور ان سے محبت و الفت کا اظہار نہ کریں اور ان کے متعلق اصلاً گفتگو نہ کریں۔ خاندان بنی امیہ کے افراد ہمیشہ اس بات پر کوشاں رہتے تھے کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو علی - اور ان کے خاندان کے فضائل کو مٹادیا جائے۔

بس اتنا کہنا ہی کافی تھا کہ یہ علی - کا چاہنے والا ہے بنی امیہ کے حکومتی سپاہیوں میں سے دو آدمی گواہی دیتے تھے کہ یہ علی - کا چاہنے والا ہے اور فوراً ہی اس کا نام حکو مت میں کام کرنے والوں کی فہرست سے حذف کر دیا جاتا تھا، اور بیت المال سے اس کا وظیفہ بند کر دیا جاتا تھا، معاویہ اپنے گورنروں اور حاکموں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے: اگر کسی شخص کے لئے معلوم ہو جائے کہ وہ علی - اور ان کے خاندان سے محبت رکھنے والا ہے تو اس کا نام کام کرنے والوں کی فہرست سے خارج کر دو، اور اس کا وظیفہ ختم کر دو اور اسے تمام سہو لتوں سے محروم کر دو۔ (۱) پھر معاویہ اپنے دوسرے حکم نامہ میں سختی اور تاکید سے حکم دیتا ہے کہ: جو بھی علی - اور ان کے

(۱) أَنْظُرُوا لِي مِنْ قَامَتِ عَلَيْهِ الْبَيْتَةُ اِنَّهٗ يَحِبُّ عَلِيًّا وَاَهْلَ بَيْتِهِ فَاَحْوِهٖ مِنْ اَلدِّيَّانِ وَاَسْقُوهُ اِعْطَانَهُ وِرْزَقَهُ،

خاندان سے دوستی کا دم بھرتا ہے اس کے ناک اور کان کو کاٹ ڈالو اور ان کے گھر کو ویران کر دو۔ (۱) اس فرمان کے نتیجے میں، عراق کی عوام خصوصاً اہل کوفہ اس قدر ڈرے اور سہمے کہ شیعوں میں سے کوئی بھی ایک شخص معاویہ کے جاسوسوں کی وجہ سے اپنے راز کو اپنے دوستوں تک سے بیان نہیں کر سکتا تھا مگر یہ کہ پہلے قسم لے لیتا تھا کہ اس کے راز کو فاش نہ کرنا۔ (۲) اسکافی اپنی کتاب نقض عثمانیہ میں لکھتے ہیں:

بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت، مولائے کائنات کے فضل و کمالات کے متعلق بہت زیادہ حساس تھی اور ان کے فضائل کو روکنے اور مشہور نہ ہونے کے لئے اس نے اپنے فقہاء و محدثین اور قاضیوں کو اپنے پاس بلایا اور بہت سختی سے منع کیا کہ اپنی اپنی کتابوں میں علی - کے فضائل و کمالات کو نقل نہ کریں، اس وجہ سے بہت سے محدثین مجبور تھے کہ امام کے فضائل و کمالات کو اشارے اور کنایہ کے طور پر نقل کریں اور یہ کہیں کہ قریش کے فلاں آدمی نے ایسا کیا ہے۔ معاویہ نے تیسری مرتبہ سرزمین اسلامی پر پھیلے ہوئے اپنے سیاسی نمائندوں کو خط لکھا کہ علی کے شیعوں کی گواہی کسی بھی مسئلے میں قبول نہ کریں۔

لیکن اس کا یہ حکم بہت زیادہ مفید ثابت نہ ہوا جو علی و خاندان کے فضائل کو منتشر ہونے سے روک پاتا، اس وجہ سے معاویہ نے چوتھی مرتبہ اپنے گورنر کو لکھا کہ جو لوگ عثمان کے فضائل و مناقب کو نقل کریں ان کا احترام کرو اور ان کا نام اور پتہ میرے پاس روانہ کرو تا کہ ان کی عظیم خدمات کا صلہ انہیں دیا جا سکے۔

یہ ایک ایسی خوشخبری تھی جو اس بات کا سبب بنی کہ تمام شہروں میں عثمان کے جعلی فضائل و مناقب گڑھے جانے لگے اور یہ فضائل نقل کرنے والے عثمان کے فضائل کے متعلق حدیثیں لکھ لکھ کر مالدار بننے لگے، اور یہ سلسلہ بڑی تیزی سے چلتا رہا۔ یہاں تک کہ خود معاویہ اس سے اساس اور جھوٹے فضائل کے مشہور ہونے کی وجہ سے بہت ناراض ہوا اور اس مرتبہ حکم دیا کہ عثمان کے فضائل بیان نہ کیئے جائیں۔ اور خلیفہ اول اور دوم اور دوسرے صحابہ کے فضائل بیان کئے جائیں اور اگر کوئی محدث ابو تراب کی

(۱) من اتہتموہ بموالات ہولاء فنکلوایہ واہد موادارہ  
(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۱ ص ۴۰۴

فضیلت مینکوئی حدیث نقل کرے تو فوراً اسی سے مشابہ ایک فضیلت پیغمبر کے دوسرے صحابیوں کے بارے میں گڑھ دیا جائے اور اسے لوگوں کے درمیان بیان کیا جائے کیونکہ یہ کام شیعوں کی دلیلوں کو بے اثر کرنے کیلئے بہت مؤثر ہے (۱) مروان بن حکم ان لوگوں میں سے تھا جس کا یہ کہنا تھا کہ علی نے عثمان کا جو دفاع کیا تھا ایسا دفاع کسی نے نہیں کیا۔ اس کے باوجود ہمیشہ امام۔ پر لعنت و ملامت کرتا تھا۔ جب اس پر اعتراض کیا گیا کہ تم علی کے بارے میں جب ایسا عقیدہ رکھتے ہو تو پھر کیوں انہیں برا بھلا کہتے ہو تو اس نے جواب دیا: میری حکومت صرف علی کو برا بھلا کہنے اور ان پر لعنت کرنے کی وجہ سے ہی محکم اور مستحکم ہوگی، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت علی کی پاکیزگی اور طہارت اور عظمت و جلالت کے قائل تھے لیکن اپنے مقام و منصب کی بقا کے لئے حضرت علی اور ان کے بچوں کو برا بھلا کہتے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں:

میرے باپ مدینہ کے حاکم اور مشہور خطیب اور بہت بہادر تھے، اور نماز جمعہ کا خطبہ بہت ہی فصیح و بلیغ انداز سے دیتے تھے، لیکن حکومت معاویہ کے فرمان کی وجہ سے مجبور تھے کہ خطبہ جمعہ کے درمیان علی۔ اور ان کے خاندان پر لعنت کریں، لیکن جب گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تو اچانک ان کی زبان لکنت کرنے لگتی اور ان کے چہرہ کارنگ تبدیل ہونے لگتا اور خطبہ سے فصاحت و بلاغت ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنے باپ سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا جو کچھ میں علی۔ کے بارے میں جانتا ہوں اگر دوسرے بھی وہی جانتے تو کوئی بھی میری پیروی نہیں کرتا اور میں علی کے تمام فضائل و کمالات اور معرفت کے بعد بھی انہیں برا بھلا کہتا ہوں، کیونکہ آل مروان کی حکومت کو بچانے کیلئے میں مجبور ہوں کہ ایسا کروں (۲)

بنی امیہ کی اولاد کادل علی کی دشمنی سے لبریز تھا، جب کچھ حقیقت پسند افراد نے معاویہ کو نصیحت کی کہ اس کام سے باز آجائے تو معاویہ نے کہا کہ میناس مشن کو اس حد تک جاری رکھوں گا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ فکر لئے ہوئے بڑے ہو جائیں اور ہمارے بزرگ اسی حالت میں بوڑھے ہو جائیں۔

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۵  
(۲) شرح نہج البلاغہ ج ۱۳ ص ۲۲۱۔

حضرت علی۔ کو ساٹھ سال تک منبروں، نشستوں میں و عظ و نصیحت اور خطباء کے ذریعے، اور درس و تدریس کے ذریعے، خطباء اور محدثین کے درمیان معاویہ کے حکم سے برا بھلا کہا جاتا رہا اور یہ سلسلہ اس قدر مفید و مؤثر ہوا کہ کہتے ہیں کہ ایک دن حجاج نے کسی مرد سے غصہ میں بات کی اور وہ شخص قبیلہ "بنی ازد" کا رہنے والا تھا، اس نے حجاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے امیر! مجھ سے اس انداز سے بات نہ کرو، ہم بافضیلت لوگوں میں سے ہیں۔ حجاج نے اس کے فضائل کے متعلق سوال کیا اس نے جواب دیا کہ ہمارے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سے تعلقات بڑھائے تو سب سے پہلے ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ ابو تراب کو دوست رکھتا ہے یا نہیں!؟

اگر وہ تھوڑا بہت بھی ان کا چاہنے والا ہوتا ہے تو ہرگز ہم اس سے تعلقات و رابطہ برقرار نہیں کرتے۔ علی۔ اور ان کے خاندان سے ہماری دشمنی اس حد تک ہے کہ ہمارے قبیلے میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس کا نام حسن یا حسین ہو اور کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ملے گی جس کا نام فاطمہ ہو۔ اگر ہمارے قبیلے کے کسی بھی شخص سے یہ کہا

جائے کہ علی سے کنارہ کشی اختیار کرو تو فوراً اس کے بچوں سے بھی دوری اختیار کر لیتا ہے۔ (۱)

خاندان بنی امیہ کے لوگوں نے مولائے کائنات حضرت علی کے فضائل کو پوشیدہ رکھا اور ان کے مناقب سے انکار کیا اور اتنا برا بھلا کہا کہ بزرگوں اور جوانوں کے دلوں میں رسوخ کر گیا اور لوگ حضرت علی کو برا کہنا ایک مستحب عمل سمجھنے لگے۔ اور بعض لوگوں نے اسے اپنا اخلاقی فریضہ سمجھا۔ جب عمر بن عبد العزیز نے چاہا کہ اسلامی معاشرے کے دامن پر لگے اس بد نما داغ کو پاک کرے، تو بنی امیہ کی روٹیوں پر پلنے والے کچھ لوگوں نے نالہ و فریاد بلند کرنا شروع کر دیا کہ خلیفہ، اسلامی سنت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔

ان تمام چیزوں کے باوجود اسلامی تاریخ کے اوراق آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ بنی امیہ کے بد خصالوں نے جو نقشہ کھینچا تھا ان کی آرزوئیں خاک میں مل گئیں اور ان کی مسلسل کوششوں نے توقع کے خلاف نتیجہ دیا اور فضائل و مناقب امام (ع) اموی خطیبوں کے چھپانے کے باوجود سورج کی طرح چمکا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت علی کی محبت کو بیدار کیا بلکہ یہ سبب بنا کہ لوگ

(۱) فرحة الغری، مولف؛ مرحوم سیدابن طازوس طبع نجف، ص ۱۴-۱۳۔

حضرت علی - کے بارے میں بہت زیادہ تلاش و جستجو کریں اور امام - کی شخصیت پر سیاست کی عینک اتار کر قضاوت کریں، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر کا پوتا عامر جو خاندان علی کا دشمن تھا اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ علی کو برا کہنے سے باز آجائے کیونکہ بنی امیہ نے ساٹھ سال تک منبروں سے علی پر سب و شتم کیا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا بلکہ حضرت علی کی شخصیت اور بھی اجاگر ہوتی گئی اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور بھی بڑھتی گئی۔ (۱)

پہلا مددگار

مولائے کائنات کے فضائل کا چھپانا اور ان کے مسلم حقائق کے بارے میں منصفانہ تحلیل تحلیل نہ کرنا صرف بنی امیہ کے زمانے سے مخصوص نہیں تھا بلکہ بشریت کے اس نمونہء کامل ہمیشہ بتک کی متعصب مؤرخین نے مولائے کائنات حضرت علی کے خاندان اور ان کے حق پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کیا ہے۔ اور آج بھی جب کہ اسلام آنے ہوئے چودہ صدیاں گزر گئیں وہ لوگ جو اپنے کو نئی نسل کا رہبر اور روشنفکر تصور کرتے ہیں اپنے زہریلے قلم کے ذریعے اموی مقاصد کی مدد کرتے ہیں اور مولائے کائنات کے فضائل و مناقب پر پردہ ڈالتے ہیں جس کی ایک واضح مثال یہ ہے:

غار حرا میں پہلی مرتبہ پیغمبر ﷺ کے قلب پر وحی الہی کا نزول ہوا اور پیغمبر ﷺ منصب رسالت و نبوت پر فائز ہوئے، وحی کے فرشتے نے اگرچہ آپ کو مقام رسالت سے آگاہ کر دیا لیکن اعلان رسالت کا وقت معین نہیں کیا، لہذا پیغمبر ﷺ تین سال تک عمومی اعلان سے گریز کیا اور جب بھی راستے میں شانستہ اور معتبر افراد سے ملاقات ہوتی یا خصوصی ملاقات ہوتی تو ان کو اس نئے قوانین الہی سے روشناس کراتے اور چند گروہ کو اس نئے قانون الہی کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ وحی کا فرشتہ نازل ہوا اور خداوند عالم کی طرف سے حکم دیا کہ اے پیغمبر اپنی رسالت کا اعلان اپنے رشتے داروں اور دوستوں کے ذریعے شروع کریں:-

(وَنَزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخُفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) (۲)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱۳، ص ۳۲۱

(۲) سورہ شعراء، آیت ۲۱۶-۲۱۴

اور اے رسول! تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو (عذاب خدا سے) ڈراؤ اور جو مومنین تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے سامنے اپنا بازو جھکاؤ (تواضع کرو) پس اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو تم (صاف صاف) کہہ دو کہ میں تمہارے کرتوتوں سے بری الذمہ ہوں۔

پیغمبر ﷺ کی عمومی دعوت کا اعلان رشتہ داروں سے شروع ہونے کی علت یہ ہے کہ جب تک نمائندہ الہی کے قریبی اور نزدیکی رشتہ دار ایمان نہ لائیں اور اس کی پیروی نہ کریں اس وقت تک غیر افراد اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے قریبی افراد اس کے تمام حالات و اسرار اور تمام کمالات و معایب سے آگاہ ہوتے ہیں، لہذا اعزہ و احباب کا ان کی رسالت پر ایمان لانا ان کی صداقت کی نشانی شمار ہوگا اور رشتہ داروں کا پیروی و اطاعت سے اعراض کرنا ان

کی صداقت سے منہ پھیرنا ہے۔

اسی لئے پیغمبر ﷺ اسلام نے حضرت علیؑ - کو حکم دیا کہ بنی ہاشم کے ۴۵ بزرگوں کو دعوت پر مدعو کریں اور ان کے کھانے کیلئے گوشت اور دودھ کا انتظام کریں، تمام مہمان اپنے معین وقت پر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں نے کھانا کھایا، پیغمبر کے چچا ابولہب نے ایک حقیر اور پست جملہ سے، بنے ہوئے ماحول کو خراب کر دیا اور لوگ منتشر ہو گئے اور بغیر کسی نتیجہ کے دعوت ختم ہو گئی اور لوگ کھانا کھا کر پیغمبر کے گھر سے نکل گئے۔

پیغمبر نے پھر دوسرے دن اسی طرح کی دعوت کا اہتمام کرنے اور ابو لہب کے علاوہ تمام لوگوں کو دعوت دینے کا ارادہ کیا اور پھر حضرت علیؑ نے پیغمبر کے حکم سے گوشت اور دودھ کھانے کے لئے آمادہ کیا اور بنی ہاشم کی مشہور و معروف شخصیتوں کو کھانے اور پیغمبر کی گفتگو سنانے کے لئے دعوت دی، تمام مہمان اپنے معین وقت پر حاضر ہوئے اور کھانے وغیرہ کی فراغت کے بعد پیغمبر نے اپنی گفتگو کا آغاز یوں کیا :

"خدا کی قسم میں لوگوں کو راہ راست پر لانے میں غلط بیانی سے کام نہ لوں گا میں (بر فرض محال) اگر دوسروں سے غلط بیانی سے کام لوں تو بھی تم سے غلط نہیں کہوں گا اگر دوسروں کو دھوکہ دوں تو تمہیں دھوکا نہیں دوں گا، خدا کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں میں تمہاری طرف اور تمام عالم کی ہدایت کے لئے اسی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ہاں، آگاہ ہو جاؤ، جس طرح تم سو جاتے ہو ویسے ہی مر جاؤ گے اور جس طرح سو کر اٹھتے ہو ویسے ہی زندہ کئے جاؤ گے، اچھے اعمال انجام دینے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا اور برے اعمال انجام دینے والے اپنے عمل کا نتیجہ پائیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کے لئے جنت ہمیشگی کا گھر ہے اور برے کام کرنے والوں کے لئے جہنم آمادہ ہے۔

کوئی بھی شخص اپنے اہل و عیال کے لئے مجھ سے اچھی چیز نہیں لایا ہے میں تمہاری دنیا و آخرت کے لئے بھلائی لے کر آیا ہوں میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی طرف دعوت دوں تم میں سے کون ہے جو اس راہ میں میری مدد کرے تاکہ وہ میرا بھائی، وصی اور تمہارے درمیان میرا نما نندہ ہو؟"

آپ نے یہ جملہ کہا اور تھوڑی دیر خاموش رہے تاکہ دیکھیں کہ حاضرین میں سے کون ہمیشہ نصرت و مدد کرنے کے لئے آمادہ ہوتا ہے مگر اس وقت خاموشی نے ان پر حکومت کر رکھی تھی اور سب کے سب اپنے سروں کو جھکائے فکروں میں غرق تھے۔

یکایک حضرت علیؑ جن کی عمر پندرہ سال سے زیادہ نہ تھی، اس خاموشی کے ماحول کو شکست دے کر اٹھے اور پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا: اے پیغمبر خدا، میں آپ کی اس راہ میں نصرت و مدد کروں گا پھر اپنے ہاتھوں کو پیغمبر اسلام کی طرف بڑھایا تاکہ اپنے عہد پیمان کی وفاداری کا ثبوت پیش کریں۔

پیغمبر نے حکم دیا کہ اے علیؑ بیٹھ جاؤ اور پھر اپنے سوال کو ان لوگوں کے سامنے دہرایا، پھر علیؑ - اٹھے اور نصرت پیغمبر کا اعلان کیا، اس مرتبہ بھی پیغمبر نے حکم دیا کہ علیؑ بیٹھ جاؤ، تیسری مرتبہ پھر مثل سابق علیؑ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ اٹھا اور صرف علیؑ نے اٹھ کر پیغمبر کی نصرت اور محافظت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو علیؑ کے ہاتھ میں دیا اور حضرت علیؑ کے بارے میں بزرگان بنی ہاشم کی بزم میں اپنے تاریخی کلام کا آغاز اس طرح سے کیا۔

"اے میرے رشتہ دارو اور دوستو، جان لو کہ علیؑ میرا بھائی میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین و خلیفہ ہے" سیرہ حلبی کی نقل کی بنا پر رسول اکرم نے اس جملے کے علاوہ دو اور باتیناس کے ساتھ بیان کینکے: "وہ میرا وزیر اور میرا بھائی ہے۔"

اس طریقے سے پر خاتم النبیین کے توسط سے اسلام کے سب سے پہلے وصی کا تعین، اعلان رسالت کے آغاز پر اس وقت ہوا جب بہت ہی کم لوگ اس قانون الہی کے پیرو تھے، پیغمبر اسلام نے ایک ہی موقع پر اپنی نبوت اور حضرت علیؑ - کی امامت کا اعلان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نبوت و امامت دو ایسے مقام ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں اور امامت تکمیل نبوت و رسالت ہے۔

اس تاریخی واقعہ کے مدارک:

شیعہ اور غیر شیعہ محدثین اور مفسرین نے اس تاریخی واقعہ کو بغیر کسی کمی و زیادتی کے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے (۱) اور امام کے اہم فضائل و مناقب میں شمار کیا ہے ابلسنت کے صرف ایک مشہور مورخ ابن تیمیہ دمشقی نے جو اہلبیت علیہم السلام کے بارے میں ہر حدیث سے انکار کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اس سند کو رد کیا ہے اور اس سند کو جعلی قرار دیا ہے۔

انہوں نے نہ صرف اس حدیث کو جعلی اور بے اساس قرار دیا ہے بلکہ امام کے خاندان کے سلسلے میں خاص نظریہ



رکھنے کی وجہ سے اکثر ان حدیثوں کو جو خاندان رسالت کے فضائل و مناقب میں بیان ہوئیں ہیں اگر چہ وہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہوں جعلی اور بے اساس قرار دیا ہے۔

تاریخ "الکامل" پر حاشیہ لگانے والے نے اپنے استاد کہ جن کا نام پوشیدہ رکھا ہے، سے نقل کیا ہے کہ میرے استاد نے بھی اس حدیث کو جعلی قرار دیا ہے (شاید ان کا استاد بھی ابن تیمیہ کی فکروں پر چلنے والا تھا، یا یہ کہ اس سند کو خلفاء ثلاثہ کی خدمت کے مخالف جانا ہے اس لئی جعلی قرار دیا ہے)، پھر وہ خود عجیب انداز سے اس حدیث کے مفہوم کی توجیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: اسلام میں امام - کا وصی ہونا، بعد میں ابوبکر کی خلافت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس دن علی - کے علاوہ کوئی مسلمان نہ تھا جو پیغمبر کا وصی ہوتا۔

ایسے افراد سے بحث و مباحثہ کرنا فضول ہے۔ ہمارا اعتراض ان لوگوں ہے جنہوں نے اس حدیث کو اپنی بعض کتابوں میں تفصیل سے اور بعض کتابوں میں مختصر اور مجمل طریقے سے ذکر کیا ہے، یعنی ایک طرح سے حقیقت بیان کرنے سے چشم پوشی کی ہے، یا ہمارا اعتراض ان افراد پر ہے جن لوگوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے پہلے ایڈیشن میں شامل کیا لیکن اسکے بعد کے ایڈیشن میں کسی دبانو اور خوف و ہراس سے

#### (۱) تفسیر سورہ شعراء آیت نمبر ۲۱۴ کی طرف رجوع کریں

حذف کر دیا ہے۔ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ کے انتقال کے بعد امام کے حقوق و فضائل کو پوشیدہ اور چھپا یا گیا ہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے -  
اب یہاں پر ہم اس بات کی تشریح کر رہے ہیں -

تاریخی حقائق کا کتمان:

محمد بن جریر طبری جو تاریخ اسلام کا ایک عظیم مؤرخ ہے، اس نے اپنی تاریخ طبری میں اس تاریخی فضیلت کو معتبر سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے (۱) لیکن جب اپنی تفسیر (۲) میں آیت "وَنَذَرُ عَشِيرَتَكَ الْفَرَبِينَ" پر پہنچتا ہے تو اس سند کو توڑ مروڑ کر مجمل اور مبہم نقل کرتا ہے جس کی وجہ تعصب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

اس کے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبرؐ نے دعوت ختم ہونے کے بعد حاضرین کو مخاطب کر کے پوچھا تھا:

"فأیکم یوازرنی علیٰ ان یكون أخی و وصیّی و خلیفتی؟"

لیکن طبری نے اس سوال کو اس طرح نقل کیا ہے۔

"فأیکم یوازرنی علیٰ ان یكون أخی و کذا و کذا؟!"

تعجب کی بات نہیں ہے کہ دو کلمہ وصی و خلیفتی کو تبدیل کر کے مبہم اور مجمل الفاظ کو اس کی جگہ پر ذکر کرنا سوائے تعصب اور خلیفہ کے مقام و منزلت کو گھٹانے کے کچھ نہیں ہے۔

اس نے نہ صرف پیغمبر (ص) کے سوال میں تحریف کیا ہے، بلکہ حدیث کا دوسرا حصہ جو پیغمبر اسلام (ص) نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ "ان ہذا اخی و وصیّی و خلیفتی" بھی بدل ڈالا ہے، اور دو ایسے الفاظ جو مولائے کائنات امیر المومنین کی بلا فصل خلافت پر واضح دلیل تھے کو ایسے لفظوں یعنی

(۱) اس تاریخی فضیلت کو ان کتابوں نے نقل کیا ہے، تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۱۶، تفسیر طبری ج ۱۹ ص ۷۴، کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۲۴، شرح شفای قاضی عیاض ج ۳ ص ۳۷، سیرۃ حلبی ج ۱ ص ۳۲۱ و ... اس حدیث کو تاریخ و تفسیر لکھنے والوں نے دوسرے طریقے سے بھی نقل کیا ہے جن کو ہم یہاں نقل کرنے سے پرہیز کر رہے ہیں۔  
(۲) تفسیر طبری، ج ۱۹، ص ۷۴

کذا و کذا سے بدل دیا ہے جو غیر معروف اور غیر مشہور ہیں۔

ابن کثیر شامی جس کی تاریخ کی اساس تاریخ طبری ہے، لیکن جب اس سند تک پہنچتا ہے تو تاریخ طبری کو چھوڑ کر طبری کی تفسیر کی روش کی پیروی کی اور وہ بھی مبہم اور مجمل طریقے سے - ان تمام چیزوں سے بدتر و ہ تر حریف ہے جسے اس زمانے کے روشن فکر اور مصر کے مشہور مورخ ڈاکٹر محمد حسنین ہیکل نے اپنی کتاب "حیات محمد" میں کیا ہے اور خود اپنی کتاب کے معتبر ہونے پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔



کیونکہ اولاً انہوں نے پیغمبر اسلام ﷺ کے دو حساس جملے کو جو دعوت کے آخر میں پیغمبر نے بعنوان سوال فرمایا تھا اس کو نقل کیا ہے لیکن اس دوسرے جملے کو جو پیغمبر ﷺ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تو میرا بھائی، وصی اور میرا خلیفہ ہے کو بالکل حذف کر دیا اور اس کا تذکرہ تک نہیں کیا۔

ثانیاً اپنی کتاب کے دوسرے اور تیسرے ایڈیشن میں اپنا تعصب کچھ اور بھی دکھایا اور اس حدیث کے پہلے حصے کو بھی حذف کر دیا۔ گویا متعصب افراد نے انہیں اس پہلے جملے کو نقل کرنے پر ہی بہت ملامت کی، اور اس کٹر بیونت کی وجہ سے ناقدین تاریخ کو تنقید کا موقع دیا، اور اپنی کتاب کے اعتبار کو گرا دیا۔

#### اسکافی کا بیان

اسکافی نے اپنی مشہور و معروف کتاب میناس تاریخی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت علی نے اپنے باپ، چچا اور بنی ہاشم کی بزرگ شخصیتوں کے سامنے پیغمبر ﷺ سے عہد و پیمان باندھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور پیغمبر ﷺ نے انہیں اپنا بھائی، وصی اور خلیفہ قرار دیا۔ اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں :

"وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ امام بچپن میں ہی صاحب ایمان تھے، اور یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب بچہ اچھے اور برے مینٹمیز نہیں کر پاتا، اس تاریخی فضیلت کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟! کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) کثیر تعداد میں موجود افراد کے کھانے کا انتظام ایک بچے کے حوالے کریں؟ یا ایک چھوٹے بچے کو حکم دیں کہ بزرگان کو کھانے پر مدعو کرے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ پیغمبر ایک نابالغ بچے کو راز نبوت بتائیں اور اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میندیں اور اسے اپنا بھائی، وصی اور اپنا خلیفہ لوگوں کے لئے معین کریں؟!

بالکل نہیں! بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی اس دن جسمانی قوت اور فکری لحاظ سے اس حد پر پہنچ چکے تھے کہ ان کے اندر ان تمام کاموں کی صلاحیت موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس بچے نے کبھی بھی دوسرے بچوں سے انسیت نہ رکھی اور نہ ان کے گروہ میں شامل ہوئے اور نہ ہی ان کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہوئے، بلکہ جس وقت سے پیغمبر اسلام (ص) کے ساتھ نصرت و مدد اور فداکاری کا پیمان باندھا تو اپنے کئے ہوئے وعدے پر قائم و مستحکم رہے اور ہمیشہ اپنی گفتار کو پیغمبر ﷺ کے کردار میں ڈھالتے رہے اور پوری زندگی پیغمبر (ص) کے مونس و ہمدرد رہے۔

وہ نہ صرف اس موقع پر پہلے شخص تھے جو سب سے پہلے پیغمبر اسلام (ص) کی رسالت پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، بلکہ اس وقت بھی جب کہ قریش کے سرداروں نے پیغمبر ﷺ سے کہا کہ اگر آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں اور آپ کا رابطہ خدا سے ہے تو کوئی معجزہ دکھائیں (یعنی حکم دیں کہ خرما کا درخت یہاں سے اکھڑ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے) تو اس وقت بھی علی وہ واحد شخص تھے جو تمام لوگوں کے انکار کرنے کے باوجود اپنے ایمان کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا۔ (۱)

امیر المومنین علیہ السلام نے قریش کے سرداروں کے معجزہ طلبی کے واقعے کو اپنے ایک خطبہ میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام (ص) نے ان لوگوں سے کہا: اگر خدا ایسا کرے تو کیا خدا کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا: ہاں یا رسول اللہ۔

اس وقت پیغمبر ﷺ نے دعا کی اور خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا اور درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر پیغمبر (ص) کے سامنے بڑے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ معجزہ طلب کرنے والے سرداروں نے کفر و عناد و عداوت کی راہ اختیار کی اور تصدیق کرنے کے بجائے پیغمبر (ص) کو جادوگر کے خطاب سے نوازا، اور میں پیغمبر (ص) کے پاس کھڑا تھا، میں نے ان کی طرف رخ کر کے کہا: اے پیغمبر! میں وہ پہلا شخص ہوں جو آپ کی رسالت پر ایمان لایا، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ درخت نے اس کام کو خدا کے حکم سے انجام دیا ہے تاکہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرے اور آپ کے قول کو سچا کر دکھائے۔ اس وقت میرا یہ اعتراف کرنا اور تصدیق کرنا ان لوگوں پر گراں گزرا، ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری تصدیق علی کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ (۲)

(۱) النقص علی العثمانيين ص ۲۵۲، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۳ ص ۲۴۴ و ۲۴۵، میں تذکرہ کیا ہے۔  
(۲) نہج البلاغہ عبدہ، خطبہ ۲۳۸ (قاصعہ)

## فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### تیسری فصل

#### بے مثال فداکاری

ہر انسان کے اعمال و کردار کا پتہ اس کے فکر اور عقیدے سے ہوتا ہے، اور قربانی اور فداکاری اہل ایمان کی علامت ہے۔ اگر انسان کا ایمان کسی چیز پر اس منزل تک پہنچ جائے کہ اسے اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز رکھے تو حقیقت میں اس چیز پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور اپنی ہستی اور تمام کوششوں کو اس پر قربان کرے گا قرآن مجید نے اس حقیقت کو اس انداز سے بیان کیا ہے:

(رَبَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَانَبُوا مَوَالِيَهُمْ وَنَفْسَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (۱)  
 "سچے مومن تو بس وہی ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اس میں سے کسی طرح کا شک و شبہ نہ کیا اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ (دعوائے ایمان میں) سچے ہیں" بعثت کے ابتدائی ایام میں مسلمانوں نے بہت زیادہ شکنجے اور ظلم و بربریت کو اپنی کامیابی کی راہ میں برداشت کیا تھا جس چیز نے دشمنوں کو خدا کی وحدانیت کے اقرار سے روک رکھا تھا وہی بیہودہ خاندانی عقائد اور اپنے خداؤں پر فخر و مباہات اور قوم پرستی پر تکبر و غرور اور ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے والوں سے کینہ و عداوت تھیں یہ تمام موانع مکہ اور اطرافیان مکہ میں اسلام کے نشر و اشاعت میں اس وقت تک رہے جب تک پیغمبر (ص) نے مکہ فتح کر نہ لیا تھا اور صرف اسلام کی قدرت کاملہ سے ہی یہ تمام موانع ختم ہوئے۔

مسلمانوں پر قریش کی زیادتی سبب بنی کہ ان میں سے کچھ لوگ حبشہ اور کچھ لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، اور پیغمبر اسلامؐ اور حضرت علیؑ جنہیں خاندان بنی ہاشم خصوصاً حضرت ابوطالب کی مکمل حمایت حاصل تھی لیکن جعفر بن ابی طالب مجبور ہوئے کہ بعثت کے پانچویں سال چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کریں اور ہجرت کے ساتویں سال (فتح خیبر کے سال) تک وہیں پر رہیں۔

### (۱) سورہ حجرات، آیت ۱۵

بعثت کا دسواں سال پیغمبر اسلام (ص) کے لئے بہت سخت تھا، جب آپ کے حامی اور پشت پناہ اور مربی اور عظیم چچا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ کے چچا جناب ابوطالب کی وفات کو چند دن نہ گزرے تھے کہ آپ کی عظیم و مہربان بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جس نے اپنی پوری زندگی اور جان و مال کو پیغمبر کے عظیم ہدف پر قربان کرنے پر کبھی دریغ نہیں کیا، پیغمبر اسلام (ص) ان دو باعظمت حامیوں کی رحلت کی وجہ سے مکہ کے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعثت کے تیرہویں سال تمام قریش کے سرداروں نے ایک میٹنگ میں یہ طے کیا کہ توحید کی آواز کو ختم کرنے کے لئے پیغمبر (ص) کو زندان میں ڈال دیا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر کسی دوسرے ملک میں قید کر دیا جائے تاکہ یہ آواز توحید ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جائے، قرآن مجید نے ان کے ان تینوں ارادوں کا تذکرہ کیا ہے۔

ارشاد قدرت ہے:

(وَذُيْمَكْرُ بَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُنْبِتُوا وَ يَتْلُوكَ وَ يُخْرَجُوكَ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) (۱)

اور (اے رسول وہ وقت یاد کرو) جب کفار تم سے فریب کر رہے تھے تاکہ تم کو قید کر لیں یا تم کو مار ڈالیں یا تمہیں (گھر سے) باہر نکال دیں وہ تو یہ تدبیر کر رہے تھے اور خدا بھی (ان کے خلاف) تدبیر کر رہا تھا اور خدا تو سب تدبیر کرنے

والوں سے بہتر ہے۔

قریش کے سرداروں نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کو چنا جائے اور پھر یہ منتخب افراد نصف شب میں یکبارگی محمدؐ کے گھر پر حملہ کریں اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اس طرح سے مشرکین بھی ان کی تبلیغ اور دعوت حق سے سکون پا جائیں گے اور ان کا خون پورے عرب کے قبیلوں میں پھیل جائے گا۔ اور بنی ہاشم کا خاندان ان تمام قبیلوں سے جو اس خون کے بہانے میں شامل تھے جنگ و جدال نہیں کر سکتے، فرشتہ وحی نے پیغمبر (ص) کو مشرکوں کے اس برے ارادے سے باخبر کیا اور حکم خدا کو ان تک پہنچایا کہ جتنی جلدی ممکن ہو مکہ کو چھوڑ کر یثرب چلے جائیں۔

ہجرت کی رات آگئی، مکہ اور پیغمبر اسلام (ص) کا گھر رات کے اندھیروں میں چھپ گیا، قریش کے

### (۱) سورہ انفال، آیت ۳۰

مسلح سپاہیوں نے چاروں طرف سے پیغمبر (ص) کے گھر کا محاصرہ کر لیا اس وقت پیغمبر (ص) کے لئے ضروری تھا کہ گھر کو چھوڑ کر نکل جائیں اور اس طرح سے جائیں کہ لوگ یہی سمجھیں کہ پیغمبر گھر میں موجود ہیں اور اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کام کے لئے ایک ایسے بہادر اور جانباز شخص کی ضرورت تھی جو آپ کے بستر پر سوئے اور پیغمبر کی سبز چادر کو اس طرح اوڑھ کر سوئے کہ جو لوگ قتل کرنے کے ارادے سے آئیں وہ یہ سمجھیں کہ پیغمبر ابھی تک گھر میں موجود ہیں اور ان کی نگاہیں صرف پیغمبر کے گھر پر رہے اور گلی کوچوں اور مکہ سے باہر آنے جانے والوں پر پابندی نہ لگائیں، لیکن ایسا کون ہے جو اپنی جان کو نچھاور کرے اور پیغمبر کے بستر پر سو جائے؟ یہ بہادر شخص وہی ہے جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا اور ابتدائے بعثت سے ہی اس شمع حقیقی کا پروانہ کی طرح محافظ رہا، جی ہاں یہ عظیم المرتبت انسان حضرت علی کے علاوہ کوئی اور نہ تھا اور یہ افتخار بھی اسی کے حصہ میں آیا، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: مشرکین قریش مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ ایک بارگی مل جل کر میرے گھر پر حملہ کرینا اور مجھے بستر پر ہی قتل کر دیں۔ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مکہ سے ہجرت کر جاؤں۔ اس لئے ضروری ہے کہ آج کی شب تم میرے بستر پر سبز چادر کو اوڑھ کر سو جاؤ تاکہ وہ لوگ یہ تصور کریں کہ مینا بھی گھر میں موجود ہوں اور اپنے بستر پر سو رہا ہونا اور یہ لوگ میرا پیچھا نہ کریں۔ حضرت علی پیغمبر کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ابتداء شب سے پیغمبر اسلام کے بستر پر سو گئے۔

چالیس آدمی ننگی تلواریں لئے ہوئے رات بھر پیغمبر (ص) کے گھر کا محاصرہ کئے رہے اور دروازے کے جھروکوں سے گھر کے اندر نگاہیں جمائے تھے اور گھر کے حالات کا سرسری طور پر جائزہ لے رہے تھے، ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خود پیغمبر اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ یہ جلاصفت انسان مکمل طریقے سے گھر کے حالات پر قبضہ جمائے تھے اور کوئی چیز بھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھی۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ دشمنوں کے اتنے سخت پہروں کے باوجود پیغمبر کس طرح سے اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ بہت سے مؤرخین کا نظریہ ہے کہ پیغمبر اکرم جب گھر سے نکلے تو سورہ یسن کی تلاوت کر رہے تھے۔ (۱)

### (۱) یہاں سورہ یسن کی آٹھویں اور نویں آیتیں مراد ہیں۔

اور محاصرین کی صفوں کو توڑتے ہوئے ان کے درمیان سے اس طرح نکلے کہ کسی کو بھی احساس تک نہ ہوا۔ یہ بات قابل انکار نہیں ہے کہ مشیت الہی جب بھی چاہے پیغمبر کو بطور اعجاز اور غیر عادی طریقے سے نجات دے، کوئی بھی چیز اس سے منع نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ بہت زیادہ قرینے اس بات کی حکایت کرتے ہیں کہ خدا اپنے پیغمبر کو معجزے کے ذریعے سے نجات نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اگر ایسا ہو تا تو ضروری نہیں تھا کہ حضرت علی پیغمبر کے بستر پر سوتے اور خود پیغمبر غار ثور میں جاتے اور پھر بہت زیادہ زحمت و مشقت کے ساتھ مدینے کا راستہ طے کرتے۔

بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر اپنے گھر سے نکلے اس وقت تمام دشمن سو رہے تھے اور پیغمبر ان کی



الحديد کہتا ہے کہ مفسرین نے اس آیت کے نزول کو حضرت علی کے بارے میں نقل کیا ہے (مراجعہ کریں ج ۱۳ ص ۲۶۲)

سمرہ بن جندب، بنی امیہ کے زمانے کا بدترین مجرم صرف چار لاکھ درہم کی خاطر اس بات پر راضی ہو گیا کہ اس آیت کے نزول کو حضرت علی - کی شان میں بیان نہ کر کے لوگوں کے سامنے اس سے انکار کر دے اور مجمع عام میں یہ اعلان کر دے کہ یہ آیت عبد الرحمن بن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اس آیت کو علی کے بارے میں نازل ہونے سے انکار کیا، بلکہ ایک دوسری آیت جو منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس کو حضرت علی سے مخصوص کر دیا (۱) کہ یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے وہ آیت یہ ہے:

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدَى الْخُسَامِ) (۲)

اے رسول: بعض لوگ (منافقین سے ایسے بھی ہیں) جن کی (چکنی چپڑی) باتیں (اس ذرا سی) دنیوی زندگی میں تمہیں بہت بہاتی ہیں اور وہ اپنی دلی محبت پر خدا کو گواہ مقرر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ (تمہارے) دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔

اس طرح سے حقیقت پر پردہ ڈالنا اور تحریف کرنا ایسے مجرم سے کوئی بعید نہیں ہے۔ وہ عراق میں ابن زیاد کی حکومت کے وقت بصرہ کا گورنر تھا، اور خاندان اہلبیت سے بغض و عداوت رکھنے کی وجہ سے ۸ ہزار آدمیوں کو صرف اس جرم میں قتل کر ڈالا تھا کہ وہ علی کی ولایت و دوستی پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب ابن زیاد نے اس سے باز پرس کی کہ تم نے کیوں اور کس بنیاد پر اتنے لوگوں کو قتل کر ڈالا، کیا تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ ان میں سے بہت سے افراد بے گناہ بھی تھے، اس نے بہت ہی تمکنت سے جواب دیا "لو قتلت مثلہم ما خشیت" میں اس سے دو برابر قتل کرنے میں بھی کوئی جھجھک محسوس نہیں کرتا۔ (۳)

سمرہ کے شرمناک کارناموں کا تذکرہ یہاں پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے پیغمبر اسلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا آپ نے فرمایا: جب بھی اپنے کھجور کے پیڑ کی شاخیں صحیح کرنے کے لئے

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۷۳

(۲) سورہ بقرہ، آیت ۲۰۴

(۳) تاریخ طبری ج ۲ سن ۵۰، بصری کے واقعات

کسی کے گھر میں داخل ہو تو ضروری ہے کہ صاحب خانہ سے اجازت لے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا یہاں تک کہ پیغمبر اس درخت کو بہت زیادہ قیمت دیکر خریدنا چاہ رہے تھے پھر بھی اس نے پیغمبر کے ہاتھ نہیں بیجا اور کہا کہ اپنے درخت کی دیکھ بھال کے لئے کبھی بھی اجازت نہیں لے گا۔

اس کی ان تمام باتوں کو سن کر پیغمبر نے صاحب خانہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر دور پھینک دو۔ اور سمرہ سے کہا: "انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار" یعنی تو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اسلام نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچائے، جی ہاں، یہ چند روزہ تحریف سادہ مزاج انسانوں پر بہت کم اثر انداز ہوئی، لیکن کچھ ہی زمانہ گذرا تھا کہ تعصب کی چادریں ہٹتی گئیں اور تاریخ اسلام کے محققین نے شک و شبہات کے پردے کو چاک کر کے حقیقت کو واضح و روشن کر دیا ہے اور محدثین و مفسرین قرآن نے ثابت کر دیا کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ تاریخی واقعہ اس بات پر شائبہ ہے کہ شام کے لوگوں پر اموی حکومت کی تبلیغ کا اثر اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی بات سنتے تو اس طرح یقین کر لیتے گویالوح محفوظ سے بیان ہو رہی ہے، جب شام کے افراد سمرہ بن جندب جیسے کی باتوں کی تصدیق کرتے تھے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ تاریخ اسلام سے نا آشنا تھے، کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت عبدالرحمن پیدا بھی نہ ہوا تھا اور اگر پیدا ہو بھی گیا تھا تو کم از کم حجاز کی زمین پر قدم نہ رکھا تھا اور پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا کہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوتی۔

ناروا تعصب

حضرت علی کی فداکاری، اس رات جب کہ پیغمبر کے گھر کو قریش کے جلا دونے محاصرہ کیا تھا ایسی چیز نہیں ہے جس سے انکار کیا جاسکے یا اسے معمولی سمجھا جائے۔

خداوند عالم نے اس تاریخی واقعے کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لئے قرآن مجید کے سورہ بقرہ آیت ۲۰۷ میناس کا تذکرہ کیا

ہے اور بزرگ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے لیکن حضرت علیؑ سے بغض و عداوت اور کینہ رکھنے والوں نے پوری کوشش و طاقت سے اس بات کی کوشش کی کہ اس بزرگ اور عظیم تاریخی فضیلت کی اس طرح سے تفسیر کی جائے کہ حضرت علیؑ کی عظیم و بے مثال قربانی کی کوئی فضیلت باقی نہ رہے۔

جاحظ، اہلسنت کا ایک مشہور و معروف دانشمند لکھتا ہے :

علیؑ کا پیغمبر کے بستر پر سونا برگز اطاعت اور بزرگ فضیلت شمار نہیں ہوسکتی، کیونکہ پیغمبر نے انہیں اطمینان دلایا تھا اگر میرے بستر پر سوجاؤ گے تو تمہیں کوئی تکلیف و نقصان نہیں پہنچے گا۔ (۱)  
اس کے بعد ابن تیمیہ دمشقی (۲) نے اس میں کچھ اور اضافہ کیا ہے کہ علیؑ - کسی اور طریقے سے جانتے تھے کہ میں قتل نہیں ہوسکتا، کیونکہ پیغمبر نے ان سے کہا تھا کہ کل مکہ کے ایک معین مقام پر اعلان کرنا کہ جس کی بھی امانت محمدؐ کے پاس ہے اگر اپنی امانت واپس لے جائے۔ علیؑ اس ماموریت کو جو پیغمبر نے انہیں دیا تھا، سے خوب واقف تھے کہ اگر پیغمبر کے بستر پر سوؤں گا تو مجھے کوئی بھی ضرر نہیں پہنچے گا اور میری جان صحیح و سالم بچ جائے گی۔

(۱) العثمانیہ، ص ۵۰

(۲) ابن تیمیہ علمائے اسلام سے مخالفت رکھتا تھا اور ایک خاص عقیدہ، شفاعت، قبروں کی زیارت و... کے متعلق رکھتا تھا اس لئے علمائے وقت نے اسے چھوڑ دیا تھا اور آخر کار شام کے زندان میں ۷۲۸ ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔

جواب

اس سے پہلے کہ اس موضوع کے متعلق بحث کریں ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ جاحظ اور ابن تیمیہ اور ان دونوں کے ماننے والوں نے جو خاندان اہلبیت سے عداوت رکھنے میں مشہور ہیں، علیؑ کی اس فضیلت سے انکار کرنے کی وجہ سے غیر شعوری طور پر بڑی فضیلت کو حضرت علیؑ کے لئے ثابت کیا ہے، کیونکہ حضرت علیؑ پیغمبر کی طرف سے مامور تھے کہ ان کے بستر پر سوجائیں، ایمان کے اعتبار سے یہ بات دو حالتوں سے خارج نہیں ہے، ایمان کا ایمان پیغمبر کی صداقت پر ایک حد تک تھا یا وہ بغیر چون و چرا پیغمبر کی ہر بات پر ایمان رکھتے تھے۔ پہلی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علیؑ کو اپنی جان و سلامتی کے باقی رہنے کا قطعی طور پر علم تھا کیونکہ جو شخص ایمان و عقیدے کے اعتبار سے ایک عام مرتبہ پرفائز ہو، برگز پیغمبر کی گفتار سے یقین و اعتماد حاصل نہیں کرسکتا، اور اگر ان کے بستر پر سوجائے تو بہت زیادہ ہی فکر مند اور مضطرب رہے گا۔ لیکن اگر حضرت علیؑ - ایمان کے اعتبار سے عالی ترین مرتبہ پر فائز تھے اور پیغمبر کی گفتگو کی سچائی کے دل و دماغ پر سورج کی روشنی کی طرح واضح و روشن تھی تو ایسی صورت میں حضرت علیؑ کے لئے بہت بڑی فضیلت کو ثابت کیا ہے۔ کیونکہ جب بھی کسی شخص کا ایمان اس بلندی پر پہنچ جائے کہ جو کچھ بھی پیغمبر سے سنے اسے صحیح اور سچا مانے کہ وہ اس کے لئے روز روشن کی طرح ہو اور اگر پیغمبر اس سے کہیں کہ میرے بستر پر سوجاؤ تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا تو وہ بستر پر اتنے اطمینان اور آرام سے سوئے کہ اسے ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی خطرہ محسوس نہیں ہوتا ایسی فضیلت کی کوئی بھی چیز برابری نہیں کرسکتی۔

آئیے اب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں

ابھی تک ہماری بحث اس بات پر تھی کہ پیغمبر نے حضرت علیؑ سے کہا کہ تم قتل نہ ہو گے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ بات ایسی نہیں ہے جیسا کہ جاحظ اور ابن تیمیہ کے ماننے والوں نے گمان کیا ہے اور تمام مؤرخین نے اس واقعہ کو اس طرح نقل نہیں کیا ہے جیسا کہ ان دونوں نے لکھا ہے:

طبقات کبریٰ (۱) کے مؤلف نے واقعہ ہجرت کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اور جاحظ کے اس جملے کو (کہ پیغمبر نے علیؑ سے کہا کہ میرے بستر پر سوجاؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا) برگز تحریر نہیں کیا ہے۔  
نہ صرف یہ بلکہ مغربی نویں صدی کا مشہور مؤرخ (۲) اس نے اپنی مشہور کتاب "امناع الاسماع" میں بھی کاتب و اقدی کی طرح اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اور اس بات سے انکار کیا ہے کہ پیغمبر نے علیؑ سے کہا "کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا"

جی ہاں۔ انہی افراد کے درمیان ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرت ج ۱ ص ۴۸۳ پر اور طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری ج ۲ ص ۹۹ پر اس کا تذکرہ کیا ہے اور اسی طرح ابن اثیر نے اپنی کتاب تاریخ کامل ج ۲ ص ۳۸۲ پر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مؤرخین نے اسے نقل کیا ہے ان تمام مؤرخین نے سیرہ

(۱) محمد بن سعد جو کاتب واقفی کے نام سے مشہور ہے ۱۶۸ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۲۳۰ ہجرت میں دنیا سے رخصت ہوئے ان کی کتاب طبقات جامع ترین اور سب سے اہم کتاب ہے جو سیرت پیغمبر پر لکھی گئی ہے ج ۱ ص ۲۲۸ پر رجوع کرسکتے ہیں  
(۲) تقی الدین احمد بن علی مقریزی (وفات ۸۴۵ ہجری)

ابن ہشام یا تاریخ طبری سے نقل کیا ہے۔

اس بناء پر عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ پیغمبر نے یہ بات کہی ہے، اور اگر مان لیں کہ پیغمبر نے یہ بات کہی بھی ہے تو کسی بھی صورت سے یہ معلوم نہیں کہ ان دونوں باتوں کو (نقصان نہ پہنچنا اور لوگوں کی امانت واپس کرنا) اسی رات میں پہلی مرتبہ کہا ہو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس واقعے کو علماء اور شیعہ مورخین اور بعض سیرت لکھنے والے اہلسنت نے دوسرے طریقے سے نقل کیا ہے، جس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں:

شیعوں کے مشہور و معروف دانشمند مرحوم شیخ طوسی اپنی کتاب "امالی" میں ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، جو کہ پیغمبر کی سلامتی اور نجات پر ختم ہوتا ہے، لکھتے ہیں:

شب ہجرت گزر گئی۔ اور علی اس مقام سے آگاہ تھے جہاں پیغمبر نے پناہ لی تھی۔ اور پیغمبر کے سفر پر جانے کے مقدمات کو فراہم کرنے کے لئے ضروری تھا کہ رات مینان سے ملاقات کریں۔ (۱)

پیغمبر نے تین رات غار ثور میں قیام کیا، ایک رات حضرت علی، بند بن ابی ہالہ غار ثور میں پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، پیغمبر نے حضرت علی کو چند چیزوں کا حکم دیا:

۱۔ دو اونٹ ہمارے اور ہمارے ہمسفر کے لئے مہیا کرو (اس وقت ابوبکر نے کہا: میں نے پہلے ہی سے دو اونٹ اس کام کے لئے مہیا کر لئے ہیں، پیغمبر (ص) نے فرمایا: میں اس وقت تمہارے ان دونوں اونٹوں کو قبول کروں گا جب تم ان دونوں کی قیمت مجھ سے لے لو، پھر علی کو حکم دیا کہ ان اونٹوں کی قیمت ادا کر دو۔

۲۔ میں قریش کا امانتدار ہوں اور ابھی لوگوں کی امانتیں میرے پاس گھر میں موجود ہیں، کل مکہ کے فلان مقام پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اعلان کرو کہ جس کی امانت محمدؐ کے پاس ہے وہ آئے اور اپنی امانت لے جائے۔

۳۔ امانتیں واپس کرنے کے بعد تم بھی ہجرت کے لئے تیار رہو، اور جب بھی تمہارے پاس میرا خط پہنچے تو میری بیٹی فاطمہ اور اپنی ماں فاطمہ بنت اسد اور زبیر بن عبدالمطلب کی بیٹی فاطمہ کو اپنے ہمراہ لے آؤ۔

(۱) اعیان الشیعہ ج ۱ ص ۲۳۷

پھر فرمایا: اب تمہارے لئے جو بھی خطرہ یا مشکلات تھیں وہ دور ہو گئیں بینا اور تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ (۱)

یہ جملہ بھی اسی جملے کی طرح ہے جسے ابن ہشام نے سیرہ ہشام میں اور طبری نے تاریخ طبری میں نقل کیا ہے، لہذا اگر پیغمبر نے حضرت علی کو امان دیا ہے تو وہ بعد میں آئے والی رات کے لئے تھا نہ کہ ہجرت کی رات تھی، اور اگر حضرت علی کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کی امانتوں کو ادا کر دو تو وہ دوسری یا تیسری رات تھی نہ لیلۃ المیبت تھا۔

اگرچہ اہلسنت کے بعض مؤرخین نے واقعہ کو اس طرح نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے شب ہجرت ہی حضرت علی کو امان دیا تھا اور اسی رات امانتوں کے ادا کرنے کا حکم دیا تھا مگر یہ قول توجیہ کے لائق ہے کیونکہ انہوں نے صرف اصل واقعہ کو نقل کیا ہے وقت اور جگہ اور امانتوں کے واپس کرنے کو وہ بیان نہیں کرنا مقصود نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے دقیق طور پر ہر محل کا ذکر کرتے۔

حلبی اپنی کتاب "سیرہ حلبیہ" میں لکھتا ہے:

جس وقت پیغمبر غار ثور میں قیام فرما تھے تو انہی راتوں میں سے کسی ایک رات حضرت علی، پیغمبر کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوئے، پیغمبر نے اس رات حضرت علی کو حکم دیا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر دو اور پیغمبر کے قرضوں کو ادا کر دو۔ (۲)

در المنثور میں ہے کہ علی نے شب ہجرت کے بعد پیغمبر سے ملاقات کی تھی۔ (۳)

- (۱) پیغمبر کی عبارت یہ ہے:  
 "انہم لن یصلوا الیک من الآن یشیء تکربہ"  
 (۲) سیرۃ حلبی، ج ۲، ص ۳۶-۳۷  
 (۳) سیرۃ حلبی، ج ۲، ص ۳۶-۳۷

امام - کی فداکاری پر دو معتبر گواہ

تاریخ کی دو چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت علی کا عمل، ہجرت کی شب، فداکاری کے علاوہ کچھ اور نہ تھا اور حضرت علی صدق دل سے خدا کی راہ میں قتل اور شہادت کے لئے آمادہ تھے ملاحظہ کیجئے۔  
 ۱۔ اس تاریخی واقعہ کی مناسبت سے جو امام علیہ السلام نے اشعار کہے ہیں اور سیوطی نے ان تمام اشعار کو اپنی تفسیر (۱) میں نقل کیا ہے جو آپ کی جانبازی اور فداکاری پر واضح دلیل ہے۔

وقیت بنفسی خیر من وطأ الحصی  
 و من طاف بالبيت العتیق وبالجر  
 محمد لما خاف أن یمکروا بہ  
 فوقہ ربی ذو الجلال من المکر  
 و بت اراعہم متی ینشرونی  
 و قد وطنت نفسی علی القتل والأسر

میں نے اپنی جان کو روئے زمین کی بہترین اور سب سے نیک شخصیت جس نے خدا کے گھر اور حجر اسماعیل کا طواف کیا ہے اسی کے لئے سپر (ڈھال) قرار دیا ہے۔  
 وہ عظیم شخص محمدؐ ہیں اور میں نے یہ کام اس وقت انجام دیا جب کفار ان کو قتل کرنے کے لئے آمادہ تھے لیکن میرے خدا نے انہیں دشمنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا۔  
 میں ان کے بستر پر بڑے ہی آرام سے سویا اور دشمن کے حملہ کا منتظر تھا اور خود کومرنے یا قید ہونے کے لئے آمادہ کر رکھا تھا۔

۲۔ شیعہ اور سنی مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ خداوند عالم نے اس رات اپنے دو بزرگ فرشتوں، جبرئیل و میکائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں تم میں سے ایک کے لئے موت اور دوسرے کے لئے حیات مقرر کروں تو تم میں سے کون ہے جو موت کو قبول کرے اور اپنی زندگی کو دوسرے کے حوالے کر دے؟ اس وقت دونوں فرشتوں میں سے کسی نے بھی موت کو قبول نہیں کیا اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ فداکاری کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر خدا نے ان دونوں فرشتوں سے کہا: زمین پر جاؤ اور دیکھو کہ علی نے کس طرح سے موت کو اپنے لئے خریدا ہے اور خود کو پیغمبر پر فدا کر دیا ہے، جاؤ علی - کوشمنوں کے شر سے محفوظ رکھو۔ (۲)  
 اگرچہ بعض لوگوں نے طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے اس عظیم فضیلت پر پردہ ڈالا ہے، مگر ابتدائے اسلام میں حضرت علی کا یہ عمل دوست اور دشمن سب کی نظر میں ایک بہت بڑی اور فداکاری شمار کی جاتی تھی۔  
 چھ آدمیوں پر مشتمل شوریٰ جو عمر کے حکم سے خلیفہ معین کرنے کے لئے بنائی گئی تھی، حضرت علی -

- (۱) الدر المنثور، ج ۳، ص ۱۸۰  
 (۲) بحار الانوار ج ۱۹ ص ۳۹، احیاء العلوم غزالی

نے اپنی اس عظیم فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے شرکائے شوریٰ پر اعتراض کیا اور کہا: میں تم سب کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور تھا جو غار ثور میں پیغمبر کے لئے کھانا لے گیا؟



کیا میرے علاوہ کوئی ان کے بستر پر سویا؟ اور خود کو اس بلا میں ان کی سپر قرار دیا؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا: خدا کی قسم تمہارے علاوہ کوئی نہ تھا۔ (۱)

مرحوم سیدین طاوؤس نے حضرت علی - کی اس عظیم فداکاری کے بارے میں بہترین تحلیل کرتے ہیں اور انہیں اسماعیل کی طرح فداکار اور باپ کے سامنے راضی بہ رضا رہنے سے قیاس کرتے ہوئے حضرت علی کے ایثار کو عظیم ثابت کیا ہے۔ (۲)

(۱) خصال صدوق ج ۲ ص ۱۲۳، احتجاج طبرسی ص ۷۴  
 (۲) رجوع کریں اقبال ص ۵۹۳، بحار الانوار ج ۱۹ ص ۹۸

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

تیسرا باب

بعد ہجرت اور پیغمبرؐ سے پہلے حضرت علی - کی زندگی

پہلی فصل

اس زمانے پر ایک نظر

پیغمبر اسلام کی ہجرت کے بعد حضرت علی کامکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا آپ کی زندگی کا تیسرا حصہ ہے۔ اور اس فصل کے تمام صفحات حضرت علی کی زندگی کے اہم ترین اور تعجب خیز حالات پر مشتمل ہیں، اور امام علیہ السلام کی زندگی کے مہم اور حساس امور زندگی کے اس دور سے وابستہ ہیں جسے ہم دو مرحلوں میں خلاصہ کر رہے ہیں:

۱۔ میدان جنگ میں آپ کی فداکاری اور جانبازی

پیغمبر اسلام نے مدینے کی اپنی پوری زندگی میں مشرکوں، یہودیوں اور فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ ۲۷ غزوات میں لڑیں۔ مسلمانوں کی تاریخ لکھنے والوں کی نظر میں جن لوگوں نے ان غزوات کے حالات اور شجاعتوں کا تذکرہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ یعنی وہ جنگ جس میں پیغمبر اسلامؐ نے اسلامی لشکر کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، اور خود سپاہیوں کے ہمراہ میدان جنگ گئے اور انہی کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ غزوات کے علاوہ ۵۵ "سریہ" بھی آپ کے حکم سے انجام پائیں۔ (۱)

سریہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں اسلامی فوج کے کچھ سپاہی و جانباز دشمنوں کو شکست دینے اور ان سے لڑنے کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے اور لشکر کی سپہ سالاری اسلامی فوج کے اہم شخص کے ہاتھوں مینتھی، حضرت امیر علیہ السلام نے پیغمبر کے غزوات میں سے ۲۶ غزروں میں شرکت کی اور صرف "جنگ تبوک" میں پیغمبر اسلام کے حکم سے مدینہ میں رہے اور جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ کیونکہ یہ خوف تھا کہ مدینے کے منافقین پیغمبر کی عدم موجودگی میں مدینہ پر حملہ کر دینا اور مدینہ میں اسلامی امور کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ جن سریوں کی باگ ڈور امام کے ہاتھوں میں تھی ان کی تعداد معین نہیں ہے مگر پھر بھی ہم ان کی تفصیلات اس حصے میں بیان کریں گے۔

(۱) واقفی نے اپنی کتاب مغازی، ج ۱، ص ۲ میں پیغمبر کی سریہ کی تعداد اس سے کم لکھی ہے۔

کتابت وحی اور بہت سی تاریخی اور سیاسی سندوں کا منظم کرنا اور تبلیغی اور دعوتی خطوط لکھنا حضرت علی علیہ السلام کا عظیم اور حساس ترین کارنامہ تھا۔

امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کی تمام آیتوں کو چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینے میں یا پیغمبر کی زندگی میں نازل ہوئی ہوں بہت ہی عمدہ طریقے سے انھیں لکھا، اور اسی وجہ سے کاتب وحی اور محافظ قرآن مشہور ہوئے، اسی طرح سیاسی و تاریخی اسناد کے منظم کرنے اور تبلیغی خطوط لکھنے، جو آج بھی تاریخ اور سیرت کی بہت سی کتابوں میں موجود ہیں، حضرت علی سب سے پہلے کاتب مشہور ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کا تاریخی صلح نامہ پیغمبر اکرم ﷺ کے املاء پر مولائے کائنات حضرت علی کے ہاتھوں سے لکھا گیا۔

امام علیہ السلام کی علمی اور قلمی خدمات صرف اسی پر منحصر نہیں تھیں بلکہ پیغمبر اکرم ﷺ کے آثار اور سنتوں کی بہت زیادہ حفاظت بھی کی ہے اور مختلف اوقات میں پیغمبر کی حدیثوں کو جو احکام، فرائض، آداب، سنت، حادثات و واقعات اور غیب کی خبروں پر مشتمل تھیں تحریر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے پیغمبر سے جو کچھ بھی سنا اسے چھ کتابوں میں لکھ کر اپنی یادگار چھوڑی۔ اور امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ تمام کتابیں آپ کے بیٹوں کے پاس عظیم میراث کے طور پر پہنچیں اور امیر المومنین - کے بعد دوسرے رہبروں نے مناظرے وغیرہ کے وقت ان کتابوں کو بعنوان دلیل پیش کیا۔ زرارہ جو امام جعفر صادق - کے اہم ترین شاگرد تھے انھوں نے ان کتابوں میں سے چند کتابوں کو آپ کے پاس دیکھا اور خصوصیتوں کو نقل کیا ہے۔ (۱)

(۱) تہذیب الاحکام شیخ طوسی ج ۲ ص ۲۰۹ طبع نجف، فہرست نجاشی ص ۲۵۵، طبع ہندوستان، مؤلف نے ان چھ کتابوں کے متعلق "بررسی مسند احمد" کے مقدمہ میں تفصیل سے بحث کی ہے۔

امام - نے کس طرح ہجرت کی

پیغمبر (ص) کی ہجرت کے بعد امام علیہ السلام پیغمبر کے خط کے منتظر تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابو واقد لیثی حضرت کا خط لیکر مکہ پہنچا اور حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا۔ پیغمبر نے جو کچھ بھی ہجرت کی تیسری شب غار ثور میں زبانی حضرت علی سے کہا تھا اس خط مینان چیزوں کی تاکید کی اور حکم دیا کہ خاندان رسالت کی عورتوں کو لے کر روانہ ہو جائیں اور غریب و ناتوان افراد جو ہجرت کی طرف مائل ہیں ان کی مدد کریں۔

امام علیہ السلام لوگوں کی امانت ادا کرنے کے سلسلے میں پیغمبر کے حکم پر پورے طور پر عمل کر چکے تھے اور اب صرف ایک کام باقی تھا اور وہ یہ کہ خود اور خاندان رسالت کی عورتوں کو مدینہ لے جانے کا اسباب فراہم کریں۔ لہذا مومنین کا وہ گروہ جو ہجرت کے لئے آمادہ تھا اسے حکم دیا کہ خاموشی سے مکہ سے باہر نکل جائیں اور چند کیلو میٹر دور "ذو طوی" مقام پر قیام کریں تاکہ امام کا قافلہ وہاں پہنچ جائے، حضرت علی - نے مومنین کو خاموشی سے جانے کا حکم دیا تھا مگر خود دن کے اجالے میں سفر کے لئے آمادہ ہوئے اور عورتوں کو ام ایمن کی بیٹی ایمن کے ذریعے عماریوں پر سوار کرایا اور ابو واقد سے کہا اونٹوں کو آہستہ آہستہ لے جاؤ کیونکہ عورتیں تیز تیز جانے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔

ابن شہر آشوب لکھتے ہیں :

جب عباس حضرت علی کے اس ارادے سے باخبر ہوئے کہ وہ دن کے اجالے میں دشمنوں کے سامنے سے مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو فوراً حضرت علی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ محمد ﷺ پوشیدہ طور سے مکہ سے گئے تو قریش ان کو تلاش کرنے کے لئے پورے مکہ اور اطراف مکہ میں ڈھونڈتے رہے تو تم کس طرح سے دشمنوں کے سامنے عورتوں کے ہمراہ مکہ سے باہر نکلو گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ دشمن تمہیں مکہ سے باہر نہیں جانے دیں گے؟

علی علیہ السلام نے اپنے چچا کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: کل رات جب میں نے غار ثور میں پیغمبر سے ملاقات کی اور پیغمبر نے حکم دیا کہ ہاشمی عورتوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرنا تو اسی وقت مجھے خوشخبری بھی دی کہ اب مجھے

کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں اپنے پروردگار پر اعتماد اور احمد مصطفیٰؐ کے قول پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کا اور میرا راستہ ایک ہی ہے اسی لئے میں دن کے اجالے اور دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے سے مکہ سے ہجرت کروں گا۔

پھر، امام علیہ السلام نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ (۱)  
 امام نے نہ صرف اپنے چچا کو ایسا جواب دیا، بلکہ جب لیٹی نے اونٹوں کی ذمہ داری اپنے سر لی اور قافلے کو جلدی جلدی لے جانے لگا تاکہ دشمنوں کے سامنے سے جلدی سے دور ہو جائے تو امام نے اُسے اونٹوں کو تیز تیز لے جانے سے منع کیا اور فرمایا: پیغمبر نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اس سفر میں تمہیں کوئی تکلیف واذیت نہیں پہنچے گی پھر اونٹوں کو لے جانے کی ذمہ داری خود لے لی اور یہ رجز پڑھا۔  
 تمام امور کی باگ ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے لہذا ہر طرح کی بدگمانی کو اپنے سے دور کرو کیونکہ اس جہان کا پیدا کرنے والا ہر اہم حاجت کے لئے کافی ہے۔ (۲)

(۱) امام علیہ السلام کے اشعار یہ ہیں:

ان ابن أمانة النبي محمداً  
 رجل صدوق قال عن جبرئيل  
 ارخ الزمام و لا تخف عن عانق  
 فالله يرديهم عن التكيل  
 انى برى و اتق و باحمد  
 و سبيله متلاحق بسبيلي

(۲) امالی شیخ طوسی ص ۲۹۹، بحار الانوار ج ۱۹ ص ۶۵ اور رجز کی عبارت یہ ہے:  
 ليس الا الله فارفع ظنك ايكفيك رب الناس ما ابتمكا

قریش نے حضرت علی - کا تعاقب کیا

امام کا قافلہ سرزمین "ضجنان" پہنچنے والا تھا کہ سات نقاب پوش سوار سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیئے جو اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی کے ساتھ قافلے کی طرف دوڑائے ہوئے تھے۔ امام نے عورتوں کو ہر طرح کی مشکلات سے بچانے اور ان کی حفاظت کے لئے واقف اور ایمن کو حکم دیا کہ فوراً اونٹوں کو بٹھاد اور ان کے پیروں کو باندھ دو۔ پھر عورتوں کو اونٹوں سے اتارنے میں مدد فرمائی، جیسے ہی یہ کام ختم ہوا تمام نقاب پوش سوار برہنہ تلواریں لئے ہوئے قافلے کے قریب آگئے اور چونکہ وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے اس لئے اس طرح برا و ناسزا کہنا شروع کر دیا: کیاتم یہ سوچتے ہو کہ ان عورتوں کے ساتھ ہمارے سامنے فرار کر سکتے ہو؟ بس اس سفر سے باز آ جاؤ!

حضرت علی علیہ السلام نے کہا: اگر واپس نہ گیتو کیا کرو گے؟

انہوں نے کہا: زبردستی تم کو اس سفر سے روکیں گے یا تمہارے سر قلم کر دینگے۔

اتنا کہنے کے بعد وہ لوگ اونٹوں کی طرف بڑھے تاکہ ان کو واپس لے جائیں اس وقت حضرت علی نے اپنی تلوار نکال کر ان کو اس کام سے روکا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی برہنہ تلوار حضرت علی کی طرف بڑھائی۔ ابوطالب کے لال نے اس کی تلوار کے وار کو روکا اور غصے کی حالت میں تھے ان پر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے "جناح" نامی شخص پر وار کیا۔ قریب تھا کہ تلوار اس کے شانے کو کاٹتی کہ اچانک اس کا گھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا اور امام کی تلوار گھوڑے کی پشت پر جالگی، اس وقت حضرت علی نے ان سب کو متوجہ کرتے ہوئے باآواز بلند کہا:

"میں عازم مدینہ ہوں اور رسول خدا کی ملاقات کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، جو شخص بھی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے اور ان کا خون بہائے وہ میرے ساتھ یامیرے نزدیک آئے۔"  
 اتنا کہنے کے بعد آپ نے ایمن اور ابوواقد کو حکم دیا کہ فوراً اٹھ کر اونٹوں کے پیر کھول دینا اور چلنے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔

دشمنوں نے یہ احساس کر لیا کہ حضرت علی جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص عنقریب مرنے ہی والا تھا، لہذا اپنے ارادے سے باز آگئے اور مکہ کے راستے کی

طرف چل پڑے۔ امام نے بھی اپنے سفر کو مدینے کی طرف جاری رکھا۔ آپ نے کوہ ضجنان کے نزدیک ایک دن اور ایک رات قیام کیا تاکہ وہ لوگ جو ہجرت کے لئے آمادہ تھے وہ بھی آجائیں۔ تمام افراد میں سے جو حضرت علی اور ان کے ہمراہیوں سے ملحق ہوئے ان میں ایک ام ایمن تھیں جو ایک پاکدامن عورت تھیں جنہوں نے آخر عمر تک خاندان رسالت کو نہیں چھوڑا۔

تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت علی نے یہ پورا راستہ پیدل چل کر تمام کیا، اور ہر منزل پر خدا کا ذکر کرتے رہے اور پورے سفر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نماز پڑھی۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ درج ذیل آیت ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (۱)  
 (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ بَدَاً بَاطِلًا) (۲)  
 جو لوگ اٹھتے، بیٹھتے، کروٹ لیتے (الغرض ہر حال میں) خدا کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ مینغور و فکر کرتے ہیں اور (بے ساختہ) کہہ اٹھتے ہیں کہ خداوند! تونے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔

جب حضرت علی، اور ان کے ہمراہی مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اکرم (ص) ان کے دیدار کے لئے فوراً گئے جس وقت پیغمبر اسلام کی نگاہ حضرت علی پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پیر ورم کر گئے بیناوران سے خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ آپ نے فوراً حضرت علی کو گلے سے لگایا اور فرط محبت سے آپ کی چشم مبارک سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہو گئے۔ (۳)

- (۱) امالی شیخ طوسی ص ۳۰۳۔ ۳۰۱  
 (۲) سورہ آل عمران، آیت ۱۹۱  
 (۳) اعلام الوری ص ۱۹۲، تاریخ کامل ج ۲ ص ۷۵

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

#### دوسری فصل

#### دو بڑی فضیلتیں

اگر اجتماعی مسئلوں کے ہر مسئلے پر شک کریں یا ان کو ثابت کرنے کے لئے تحقیق، دلیل اور برہان کے محتاج رہیں تو ایسی صورت میں اجتماعی اتحاد و ہمبستگی اور منافع وغیرہ کے سلسلے میں شک و تردید میں نہینالجبہیں گے۔ اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نااتفاقی اور اختلاف مفید چیز ہے اور اتحاد و اتفاق برا اور نقصان دہ ہے۔ کیونکہ اتفاق کی وجہ سے سب سے کم فائدہ جو معاشرے کو پہنچے گا وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی اور بکھری ہوئی فوجیں آپس میں مل جائیں گی، اور عظیم فوج کے سائے میں معاشرے میں مختلف طریقوں سے بڑے بڑے تحولات پیدا ہونگے۔ وہ پانی جو بڑی بڑی ندیوں کے کنارے چھوٹی چھوٹی نہروں کی طرح بہتا ہوا نظر آتا ہے وہ چھوٹے دریاؤں سے ملنے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے جس کے اندر نہ اتنی صلاحیت ہے کہ بجلی پیدا کرسکے اور نہ اتنی مقدار ہی میں ہے کہ اس سے کھیتی کی جاسکے، لیکن جب یہ چھوٹی چھوٹی نہریں ایک جگہ جاکر مل جاتی ہیں تو ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور اب یہ دریا ہزاروں کیلو واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اور اس کے پانی سے ہزاروں ایکٹر زمین سیراب کر کے کھیتی کی جاتی ہے۔

غرض ز انجمن و اجتماع و جمع قواست  
 چرا کہ قطرہ چو شدمتصل بہ ہم دریا است

اجتماع اور انجمن اور جمع ہونے کا مقصد طاقت ہے، کیونکہ اگر پانی کا ایک قطرہ دریاسے مل جائے تو وہ بھی دریا بن جاتا ہے۔

ز قطرہ ہیچ نیایدولی چو دریا گشت  
ہر آنچہ نفع تصور کنی در آن آنجا است  
قطرہ سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، لیکن اگر یہی قطرہ دریابن گیا تو تم جتنا بھی فائدہ سوچ سکتے ہو تمہیں ملے گا۔

ز قطرہ ماہی پیدا نمی شود ہرگز  
محیط گشت، از آن نہنگ خواہد خاست  
قطرہ میں کبھی بھی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، مگر جب یہی قطرہ دریا بن گیا تو اس میں نہنگ مچھلی زندہ رہ سکتی ہے۔

ز گند می نتوان پخت نان و قوت نمود  
چو گشت خرمن و خروار وقت برگ و نواست  
ایک گیہوں سے روٹی نہیں پکائی جاسکتی اور زندگی بسر نہیں ہو سکتی جب وہ کھلیہان میں گیاتو ایک ذخیرہ بن گیا ہے

ز فرد فرد محال است کارہای بزرگ  
ولی ز جمع توان خواستہ ہرچہ خوابی خواست  
ایک بڑا کام الگ الگ مردوں سے انجام پانا بہت محال ہے، لیکن اگر یہی تمام لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو جو بھی کرنا چاہیں انجام دے سکتے ہیں۔

بلی چو مورچگان را وفاق دست دہد  
بہ قول شیخ، بڑ بر ژیان اسیر و فنا است  
اگر چیونٹیوں کی طرح اتحاد و اتفاق کا دامن ہاتھ میں رہے تو شیخ کے بقول زندگی فنا و برباد ہے۔  
اپنے مقصد میں کامیابی کے لئے نہ صرف مادی چیزوں کو طلب کرے بلکہ ضروری ہے کہ لوگوں کی فکری اور معنوی قدرت و طاقت سے اجتماعی مشکلوں کا حل تلاش کرے، اور صحیح لائحہ عمل بنانے میں مدد طلب کرے، اور ایک دوسرے سے مشورہ اور تبادلہ نظر کے نئے نئے راستے ہموار کرے اور بزرگ و سنگین پہاڑ جیسی مشکلوں سے ہوشیار رہے۔  
یہی وجہ ہے کہ آئین اسلام کے اصلی اور بیش قیمتی برناموں میں تبادلہ خیالات اور مشورے کی اجتماعی امور میں بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور قرآن مجید نے جن لوگوں کو حق پسند اور حق شناس جیسے ناموں سے تعبیر کیا ہے ان کے تمام کام مشورے اور تبادلہ خیالات سے انجام پاتے ہیں۔  
(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَفَعَلُوا الصَّلَاةَ وَرَبُّهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) (۱)  
اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ان کے کل کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے (راہ خدا میں) خرچ کرتے ہیں۔

(۱) سورہ شوریٰ آیت ۳۸

اتحاد اور اخوت

آئین اسلام کا ایک اہم اور اجتماعی اصول "اخوت و برادری" ہے۔ پیغمبر اسلام (ص) مختلف صورتوں سے اخوت و برادری کو عام کرنے میں بہت زیادہ کوشاں رہے ہیں۔  
مہاجرین کے مدینہ پہنچنے کے بعد پہلی مرتبہ اخوت و برادری کا رشتہ انصار کے دو گروہ یعنی اوس و خزرج کے درمیان پیغمبر اسلام کے ذریعے قائم ہوا۔

یہ دو قبیلے جو مدینہ ہی کے رہنے والے تھے اور عرصہ دراز سے آپس میں جنگ و جدال کرتے تھے ، رسول اسلام ﷺ کی کوششوں کے نتیجے میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور ارادہ کر لیا کہ ہم لوگ پرانی باتوں کو کبھی نہیں دہرائیں گے۔ اس اخوت و برادری کا بَدف و مقصد یہ تھا کہ اوس و خزرج جو اسلام کے دو اہم گروہ مشرکوں کے مقابلے میں تھے وہ آپس میں ظلم و بربریت، لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے باز آجائیں اور پرانی دشمنی کی جگہ صلح و صفا کو یاد رکھیں۔

دوسری مرتبہ پیغمبر نے اپنے صحابیوں اور دوستوں کو چاہے مہاجرین سے ہوں یا انصار میں سے ، حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنالیں اور دوسرے کے بھائی بن جائیں ، کتنی عمدہ بات ہے کہ دو مہاجر ایک دوسرے کے بھائی یا ایک مہاجر میں سے اور ایک انصار میں سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور بھائی چارگی کے عنوان سے ایک دوسرے کے ہاتھ مینا پناہتہ دیا اور اس طرح سے ایک سیاسی اور معنوی قدرت و طاقت ابھر کر ان کے سامنے آگئی۔ اسلامی مؤرخین و محدثین لکھتے ہیں:

ایک دن پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے دوستوں سے فرمایا: "تَأْخُوا فِي اللَّهِ اخْوِينَ اخْوِينَ" یعنی خدا کی راہ میں آپس میں دو دو آدمی بھائی بن جاؤ۔

تاریخ نے اس موقع پر ان افراد کا نام ذکر کیا ہے جن لوگوں نے اس دن پیغمبر کے حکم سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ اخوت کو قائم کیا مثلاً ابوبکر اور عمر ، عثمان اور عبدالرحمن بن عوف، طلحہ اور زبیر، ابی ابن کعب اور ابن مسعود، عمار اور ابو حذیفہ، سلمان اور ابو الدرداء وغیرہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنے اور ان افراد کی بھائی چارگی کو پیغمبر نے تائید کیا۔ یہ برادری اور بھائی چارگی جو چند افراد کے درمیان قائم ہوئی اس برادری اور اسلامی برادری کے علاوہ ہے جسے قرآن کریم نے اسلامی معاشرے میں معیار و میزان قرار دیا ہے اور تمام مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی کہا ہے۔

حضرت علی - پیغمبر ﷺ کے بھائی تھے :

رسول اسلام (ص) نے جتنے افراد بھی مسجد نبوی میں حاضر تھے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، صرف علی ان کے درمیان تنہا بچے جن کے لئے بھائی کا انتخاب نہیں کیا، اس وقت حضرت علی آنکھوں میں آنسوؤں کا سوغات لئے ہوئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے اور کہا آپ نے اپنے تمام دوستوں کے لئے ایک ایک بھائی کا انتخاب کر دیا لیکن میرے لئے کسی کو بھائی نہیں بنایا۔

اس وقت پیغمبر اکرم نے اپنا تاریخی کلام جو حضرت علی کی پیغمبر سے قربت و منزلت اور نسبت اور آپ کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَالَّذِي بَعَّثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَخْرُثُكَ إِلَّا لِنَفْسِي أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ" (۱)

تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ وہ خدا جس نے ہمیں حق پر مبعوث کیا ہے میں نے تمہاری برادری کے سلسلے میں خود تاخیر سے کام لیا ہے تاکہ تمہیں اپنا بھائی قرار دوں، ایسی بھائی چارگی جو دونوں جہان (دنیا و آخرت) میں باقی رہے۔

رسول اسلام ﷺ کا یہ کلام حضرت علی - کی عظمت اور پیغمبر اسلام سے نسبت کو معنوی و پاکیزگی اور دین کے اہداف میں خلوص کو بخوبی واضح و روشن کرتا ہے۔ خود اہلسنت کے دانشمندیوں میں سے

(۱) مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۴، استیعاب، ج ۳، ص ۳۵

الریاض النضرۃ کے مؤلف نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ (۱)

یہاں پر آیت مبالغہ (۲) کی تفسیر کا مبنی سمجھ مینا ہے تمام علمائے تفسیر کا اتفاق ہے کہ "أَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ" سے مراد علی بن ابی طالب ہیں جسے قرآن نے "نفس پیامبر" کے خطاب سے یاد کیا ہے۔ اس لئے کہ فکری اور روحی جاذبیت نہ یہ کہ صرف دو فکروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے بلکہ کبھی کبھی دو انسان کو ایک ہی شخص بتاتی ہے۔

اس لئے کہ ہر موجود اپنے ہم جنس کو جذب اور اپنے مخالف کو دفع کرتی ہے، اور یہ عالم اجسام اور اجرام زمین و آسمان سے مخصوص نہیں بلکہ عظیم و بزرگ شخصیتیں جذب اور دفع کا مظہر ہیں۔ ایک گروہ کو جذب اور دوسرے گروہ کو دفع کرتی ہیں۔ اس طریقے کی کشش اور گریز سنخیت یا روح کے متضاد ہونے کی وجہ سے ہے اور یہی سنخیت اور تضاد ہے جو ایک گروہ کو اپنے قریب کرتی ہے اور دوسرے گروہ کو اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ اس مسئلہ کو اسلامی فلسفہ نے

اس طرح تعبیر کیا ہے "السرخية علة الانضمام" یعنی سنخیت اور مشابہت اجتماع اور انضمام کا سرچشمہ ہے۔

امام - کی ایک اور فضیلت

جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو پیغمبر کے صحابیوں نے مسجد کے اطراف میں اپنے اپنے لئے گھر بنائے اور ہر گھر کا ایک دروازہ مسجد کی طرف کھلا رکھا۔ پیغمبر اسلام نے بحکم خدا فرمایا: تمام دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں اسے بند کر دیا جائے سوائے علی بن ابی طالب کے دروازے کے، یہ بات رسول اسلامؐ کے بہت سے صحابیوں پر ناگوار گذری۔ لہذا پیغمبر اسلام منبر پر تشریف لائے اور فرمایا: خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمام دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں انہیں بند کر دوں سوائے حضرت علی کے دروازے کے، اور خود میں نے اپنی طرف سے دروازہ بند کرنے یا کھولنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ میناس مسئلے میں خدا کے حکم کا پابند ہوں۔ (۳)

(۱) الریاض النضرة ج ۲ ص ۱۶ مؤلف محب الدین طبری

(۲) سورہ آل عمران ۶۱

(۳) مسند احمد ج ۳ ص ۳۴۹، مستدرک حاکم ج ۳ ص ۱۲۵، الریاض النضرة ج ۳ ص ۱۹۲

اس دن رسول خدا کے تمام صحابیوں نے اس واقعہ کو حضرت علی - کی ایک بہت بڑی فضیلت سمجھا یہاں تک کہ بہت زمانے کے بعد خلیفہ دوم نے کہا کہ، کاش وہ تین فضیلتیں جو علی کو نصیب ہوئیں وہ مجھے بھی نصیب ہوتیں، اور وہ تین فضیلتیں یہ ہیں:

۱۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کا عقد علی - سے کیا۔

۲۔ تمام دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے وہ بند ہو گئے صرف علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا۔

۳۔ جنگ خیبر میں پیغمبر نے علم کو علی - کے ہاتھوں میں دیا۔ (۱)

حضرت علی اور لوگوں کے درمیان جو فرق ہے وہ اسی لئے کہ آپ کا مسجد سے کسی وقت بھی رابطہ منقطع نہیں ہوا، وہ خدا کے گھر میں پیدا ہوئے اور کعبہ میں آنکھ کھولی اس بنا پر پہلے ہی دن سے مسجد آپ کا گھر تھا اور یہ تمام فضیلتیں کسی دوسرے کے لئے نہ تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی ہمیشہ اور ہر حالت میں مسجد کے احکام کی رعایت کرتے تھے لیکن دوسرے افراد بہت کم مسجد کے آداب و احکام کی رعایت کرتے تھے۔

(۱) مسند احمد، ج ۲، ص ۲۶

فروع ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

تیسری فصل

جنگ بدر کا بے نظیر بہادر

ضمضم نامی شخص کی دلسوز آواز، جس نے اپنے اونٹ کا کان کاٹ ڈالا، اس کی ناک کو شگافتہ کر ڈالا، کوہان کو موڑے، اونٹ کو الٹا کئے ہوئے تھا، نے قریش کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے اپنے پیراہن کو آگے سے پیچھے تک پہاڑ دیا اور اونٹ کی پیٹھ پر سوار جس کے کان اور دماغ سے خون ٹپک رہا تھا، کھڑا ہوا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اے لوگو جس اونٹ کے ناف میں مشک ہے محمدؐ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان

تمام اونٹوں کو سر زمین بدر کا تاوان قرار دیں، میری مدد کو پہنچو میری مدد کرو۔ اس کے مسلسل چیخنے اور استغاثہ کرنے کی وجہ سے قریش کے تمام بہادر اور نوجوان گھر، کارخانہ اور دوکانوں سے نکل کر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ زخمی اونٹ کی حالت اور ضمیمہ کی آہ و بکا نے ان لوگوں کی عقلوں کو حیرت میں ڈال دیا اور لوگوں کو احساس کے حوالے کر دیا، اکثر لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ شہر مکہ کو کاروان قریش سے نجات دینے کے لئے "بدر" کی طرف چلے جائیں۔

پیغمبر اسلام (ص) اس سے بلند و بالا تھے کہ کسی کے مال و دولت پر نگاہ کرتے اور کسی گروہ کے مال و متاع کو بغیر کسی سبب کے تاوان قرار دیتے، تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے اس طرح کا ارادہ بنالیا تھا؟ رسول اسلام (ص) کا مقصد اس کام سے فقط دو چیز تھا۔

۱۔ قریش کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ان کے تجارت کرنے کا طریقہ، اسلام کے ہاتھوں میں قرار دیا گیا ہے اور اگر وہ لوگ اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لئے مانع ہوں اور بیان آزادی کو مسلمانوں سے چھین لیتے تو ان کے حیات کی رگوں کو اسلامی طاقتوں کے ذریعہ کاٹ دیا جائے گا۔ کیونکہ بولنے والا جتنا بھی قوی ہو اور چاہے جتنا بھی خلوص و استقامت دکھائے لیکن اگر آزادی بیان و تبلیغ سے استوار نہ ہو تو شائستہ طور پر اپنے وظیفے کو انجام نہیں دے سکتا۔ مکہ میں قریش، اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور آئین الہی کی طرف لوگوں کے متوجہ ہونے میں سب سے زیادہ مانع تھے۔ ان لوگوں نے تمام قبیلے والوں کو اجازت دیدیا کہ حج کے زمانے میں مکہ آئیں لیکن اسلام اور مسلمانوں کے عظیم المرتبت رببر کو مکہ اور اطراف مکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، یہاں تک کہ اگر ان کو پکڑ لیتے تو قتل کر دیتے۔ اس وقت جب لوگ حج کے زمانے میں حجاز کے تمام شہروں سے خانہ کعبہ کے اطراف جمع ہو رہے تھے، قوانین اسلام و توحید کے پیغام کو پہنچانے کا بہترین وقت تھا۔

۲۔ مسلمانوں کے بعض گروہ جو کسی بھی وجہ سے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت نہیں کر سکے تھے وہ ہمیشہ قریش کے عذاب میں مبتلا تھے۔ وہ اپنا مال و متاع اور جو لوگ ہجرت کر گئے تھے ان کے مال و متاع کو آج تک حاصل نہ کر سکے تھے اور قریش کی طرف سے ہمیشہ ڈرائے اور دھمکانے جاتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کاروان قریش سے تجارت کے سامانوں کا تاوان لینے کے لئے قدم اٹھایا اور ارادہ کیا کہ سختی سے ان کی تنبیہ کی جائے جنہوں نے مسلمانوں سے ہر طرح کی آزادی کو چھین لیا تھا اور مسلسل انہیں اذیت و تکلیف دیتے رہتے تھے اور ان کے اسباب کی پرواہ تک نہ کرتے تھے۔

اسی وجہ سے پیغمبر ماہ رمضان ۲ھ میں ۳۱۳/ آدمیوں کے ہمراہ کاروان قریش کے مال و سامان سے تاوان لینے کے لئے مدینہ سے باہر آئے اور بدر کے کنویں کے پاس ٹھہر گئے، قریش کا تجارتی لشکر شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا اور راستے میں اسے "بدر" نامی دیہات سے ہو کر گذرنا تھا۔

ابو سفیان جو اس قافلے کا سرپرست تھا، پیغمبر کے ارادے سے باخبر ہو گیا اور اس خبر کو قریش کے سرداروں کے پاس ضمیمہ کے ذریعے بھیج دیا اور اسے قریش کے سرداروں کے پاس اپنا پیغام بھیجوانے کے لئے اجیر کر لیا تاکہ لوگ قافلے کی مدد کرنے جلد سے جلد آجائیں۔ ضمیمہ نے جو ماحول بنایا وہ باعث ہوا کہ قریش کے تمام بہادر نوجوان اور جنگجو، قافلے کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور جنگ کے ذریعے اس کام کا خاتمہ کر دیں۔

قریش نے ایسے نو سو سپاہیوں کا لشکر تیار کیا جو جنگ کے امور میں پختہ دلیری سے لڑنے والے بہترین اسلحوں کے ساتھ "بدر" کی طرف روانہ ہوئے لیکن مقصد پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ابوسفیان کے دوسرے ایچی نے اس خبر سے آگاہ کیا کہ قافلے نے اپنا راستہ بدل دیا ہے اور ایک دوسرے راستے سے مسلمانوں سے بچ کر نکل گیا اور اپنے کو محفوظ کر لیا ہے، لیکن ان لوگوں نے اسلام کو، جو ابھی شباب کی منزل پر پہنچا تھا سرکوبی کے لئے اپنے ہدف کی طرف سفر جاری رکھا اور ۱۷ رمضان ۲ھ کی صبح کو ایک پہاڑ کے پیچھے سے بدر کے میدان میں وارد ہوئے۔

مسلمان بدر کے شمالی طرف سے گذرنے والے درہ کی ڈھلان "العدوة الدنيا" (۱) کو پناہ گاہ بنائے ہوئے قافلہ کے گذر نے کا انتظار کر رہے تھے۔ کہ اچانک یہ خبر پہنچی کہ قریش کا لشکر اپنے تجارتی سامان کی حفاظت کے لئے مکہ سے روانہ ہو چکا ہے اور العدوة القصویٰ (۲) درہ کی بلندی سے نیچے اتر رہا ہے۔

پیغمبر اسلام کا انصار سے عہد و پیمانہ، دفاعی تھانہ کہ جنگی، انہوں نے عقبہ میں پیغمبر کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اگر دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا تو وہ پیغمبر اکرم (ص) کا دفاع کریں گے نہ یہ کہ ان کے ساتھ مدینہ کے باہر دشمنوں سے لڑینگے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے سپاہیوں کی ایک میٹنگ جو کچھ جوانان انصار اور کچھ مہاجرین کے نوجوانوں پر مشتمل تھی بلائی اور اس میں لوگوں کا نظریہ جاننا چاہا۔ اس میٹنگ میں جو نظریات وجود میں آئے وہ یہ تھے کہ کچھ لوگوں نے شجاعت و بہادری کی بات کی اور کچھ لوگوں نے بزدلی اور عاجزی و بے چارگی کی باتیں کیں۔



سب سے پہلے ابوبکر اٹھے اور کہا:  
 قریش کے بزرگان اور نوجوان نے اس قافلے سے مقابلے کے لئے شرکت کی ہے، اور قریش آج تک کسی بھی قانون پر  
 ایمان نہیں لائے اور ایک لمحہ کے لئے بھی ذلیل و سوا نہیں ہوئے ہیں اور ہم لوگ مکمل تیاری کے ساتھ یہاں نہیں آئے  
 ہیں (۳) یعنی مصلحت یہ ہے کہ یہاں سے مدینہ واپس چلے جائیں۔  
 عمر بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے دوست کی بات کی مزید وضاحت کی۔  
 اسی وقت مقداد اٹھے اور انہوں نے کہا:  
 خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو موسیٰ سے کہیں: "اے موسیٰ تم اپنے خدا کے ساتھ جاؤ جہاد کرو اور ہم  
 لوگ یہاں بیٹھے ہیں" بلکہ ہم اس کے برعکس کہتے ہیں کہ آپ پروردگار کے زیر سایہ جہاد کیجئے ہم بھی آپ کے ہمراہ  
 جہاد کریں گے۔

(۱)، (۲) سورہ انفال، آیت ۴۲  
 (۳) مغازی واقعی ج ۱ ص ۴۸

طبری لکھتا ہے کہ جس وقت مقداد اٹھے اور چاہا کہ گفتگو کریں تو پیغمبر اکرم کے چہرے سے غیض و غضب (جو عمر  
 و ابوبکر کی باتیں سن کر ہوا تھا) کے آثار نمودار تھے۔ لیکن جب مقداد کی گفتگو اور مدد کرنے کی خوشخبری سنا تو آپ کا  
 چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ (۱)  
 سعد معاذ بھی اٹھے اور کہا کہ جب بھی تم اس دریا (بحر احمر کی طرف اشارہ) کی طرف قدم بڑھاؤ گے ہم بھی تمہارے  
 پیچھے پیچھے اپنے قدم بڑھائیں گے، اور جہاں پر بھی تم مصلحت سمجھنا ہمیں راستہ دیدینا، اس موقع پر خوشی اور مسرت  
 کے آثار پیغمبر کے چہرہ اقدس پر آشکار ہوئے اور خوشخبری کے طور پر ان سے کہا: میں قریش کے قتل عام کی وجہ  
 سے مضطرب ہوں۔ پھر اسلام کی فوج پیغمبر کی سپہ سالاری میں وہاں سے روانہ ہو گئی اور دریائے بدر کے کنارے  
 مستقر ہوئی۔

(۱) تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۴۰، عبد اللہ بن مسعود سے نقل ہوا ہے۔

حقیقت کو چھپانا:

طبری اور مفریزی جیسے مؤرخین نے کوشش کی ہے کہ حقیقت کے چہرے کو تعصب کے پردے سے چھپادیں اور شیخین  
 کی پیغمبر کے ساتھ ہوئی گفتگو کو جس طرح سے کہ واقعی نے مغازی میں نقل کیا ہے اس طرح نقل نہ کریں، لہذا کہتے  
 ہیں کہ ابوبکر نے اٹھ کر بہترین گفتگو کی اور اسی طرح سے عمر نے بھی اٹھ کر اچھی باتیں کیں۔  
 لیکن ضروری ہے کہ یہاں پرانہ دو تاریخ لکھنے والوں سے سوال کیا جائے کہ جب ان دونوں نے اس میٹنگ میناچی اچھی  
 باتیں کہی تھیں تو پھر تم لوگوں نے ان کی اصل گفتگو کو نقل کرنے سے کیونکر ریز کیا؟ جب کہ تم لوگوں نے مقداد اور سعد  
 کی گفتگو کو تمام جزئیات کے ساتھ نقل کیا ہے؟ تو اگر ان لوگوں نے بھی اچھی گفتگو اور عمدہ بات کہی تھی تو کیوں پیغمبر  
 کا چہرہ ان کی باتیں سن کر رنجیدہ ہو گیا جیسا کہ خود طبری نے اس چیز کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے؟  
 لہذا ضروری ہے کہ حضرت علی - کی شخصیت و عظمت کے بارے میں اس جنگ کے حوالے سے تحقیق و جستجو کیا  
 جائے۔

حق و باطل کا مقابلہ

مسلمان اور قریش دونوں گروہوں نے جنگ کے لئے صف بندی شروع کر دی، اور چند چھوٹے چھوٹے حادثوں نے آتش  
 جنگ کو شعلہ ور کر دیا، ابتدا میں ایک ایک شخص لڑنے کو آمادہ ہوا تین افراد بنام عتبہ پدر بندہ (ابوسفیان کی بیوی کا باپ)  
 اور اس کا بڑا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید میدان جنگ میں آکر کھڑے ہو گئے اور اپنا مقابل طلب کیا۔ سب سے پہلے

انصار میں سے تین آدمی ان سے لڑنے کے لئے میدان جنگ میں آئے اور اپنا تعارف کرایا، لیکن مکہ کے بہادروں نے ان سے جنگ کرنے سے پرہیز کیا اور آواز دی "يَا مُحَمَّدُ اُخْرُجْ اِلَيْنَا اِكْفَايْ نَا مِنْ قَوْمِنَا" یعنی اے محمد! جو لوگ ہماری قوم اور ہمارے شایان شان بینانہیں ہمارے ساتھ جنگ کے لئے بھیجو۔

رسول خدا نے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اور حمزہ اور علی کو حکم دیا کہ اٹھ کر دشمن کا جواب دیں، اسلام کے تین عظیم سپہ سالار چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا تعارف کرایا اور رعبہ تینوں افراد سے لڑنے کے لئے تیار ہو گیا اور کہا کہ یہ سب کے سب ہمارے شایان شان ہیں۔

یہاں پر بعض مؤرخین مثلاً واقدی لکھتا ہے :

جس وقت انصار کے تین بہادر میدان جنگ میں جانے کے لئے تیار ہوئے تو خود پیغمبر نے انہیں جنگ کرنے سے روکا، کیونکہ پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ میں انصار شرکت کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام افراد کو اس بات سے بھی باخبر کر دیا کہ انہیں توحید میری نگاہ میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے اپنے عزیز ترین اور نزدیک ترین افراد کو بھی اس جنگ میں شریک کیا اسی وجہ سے بنی ہاشم کی طرف رخ کر کے کہا کہ اٹھو اور باطل کے ساتھ جنگ کرو کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو خاموش کر دیں۔ (۱)

بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہر سپاہی اپنے ہم سن و سال اور اپنے مقابل سے لڑنے گیا اور اس میں سب سے جوان فرد حضرت علی، ولید (جو معاویہ کا ماموں تھا) سے لڑے اور ان سے کچھ

#### (۱) مغازی واقدی ج ۱ ص ۶۲

بڑے حمزہ جنہوں نے عتبہ (معاویہ کا نانا) سے اور عبیدہ جو ان دونوں سے بوڑھے تھے شبیبہ سے جنگ کرنا شروع کر دی۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ شبیبہ، حمزہ کا مقابل اور عتبہ، عبیدہ کا مقابل تھا۔ (۱) اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نظریوں میں کونسا نظریہ صحیح ہے ان دونوں کی تحقیق و جستجو کے بعد حقیقت واضح ہو جائے گی۔

۱۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ علی - اور حمزہ نے اپنے حریف و مقابل کو فوراً ہی زمین پر گرا دیا۔ لیکن عبیدہ اور ان کے مقابل کے درمیان بہت دیر تک زور آزمائی ہوتی رہی اور ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو مجروح کر دیا اور کسی نے بھی ایک دوسرے پر غلبہ حاصل نہیں کیا۔ علی - اور حمزہ اپنے رقیبوں کو قتل کرنے کے بعد عبیدہ کی مدد کی لئے دوڑے اور ان کے مقابل کو قتل کر دیا۔

۲۔ امیر المومنین علیہ السلام معاویہ کو خط لکھتے ہوئے اسے یاد دلاتے ہیں کہ "وَ عِنْدِي السَّيْفُ الَّذِي اَعْضَضْتَهُ بِجَدِّكَ وَ خَالِكَ وَ اَخِيكَ فِي مَقَامِ وَاَجِدُ" (۲) یعنی وہ تلوار جسے مینے ایک دن تیرے نانا (عتبہ، بندہ کا باپ بند معاویہ کی ماں) اور تیرے ماموں (ولید بن عتبہ) اور تیرے بھائی (حنظله) کے سر پر چلائی تھی اب بھی میرے پاس موجود ہے یعنی ابھی اسی قدرت پر باقی ہوں۔

ایک اور مقام پر حضرت امیر فرماتے ہیں کہ "قَدْ عَرَفْتِ مَوَاقِعَ نَصَالِهَا فِي اَخِيكَ وَ خَالِكَ وَ جَدِّكَ وَمَا بِي مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ" (۳) یعنی تو اے معاویہ! مجھے تلوار سے ڈراتا ہے؟ جب کہ میری تلوار جو تیرے بھائی، ماموں، اور نانا کے سر پر پڑی تھی تو اس سے خوب باخبر ہے اور تو یہ بھی جانتا کہ مینے ان سب کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا تھا۔

امام علیہ السلام کے ان دونوں خطوں سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت علی نے معاویہ کے جد کو قتل کیا تھا اور دوسری طرف یہ بھی جانتے ہیں کہ حمزہ اور حضرت علی دونوں نے اپنے مد مقابل کو بغیر کسی تاخیر کے ہلاک کر ڈالا تھا، لہذا اگر حمزہ کی جنگ عتبہ (معاویہ کا جد) سے ہوتی تو حضرت امیر علیہ السلام یہ کبھی نہیں فرماتے کہ "اے معاویہ تیرے جد میری ہی تلوار کے وار سے ہلاک ہوئے ہیں" ایسی صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ شبیبہ اور حمزہ ایک ساتھ لڑے اور عتبہ، عبیدہ کے مقابلے میں تھا اور حضرت علی اور حمزہ اپنے اپنے حریفوں کو قتل کرنے کے بعد اس کی طرف گئے اور اسے قتل کر دیا۔

(۱) سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۶۲۵

(۲) نہج البلاغہ نامہ ۶۴

### چوتھی فصل حضرت علی - رسول اسلام ﷺ کے داماد ہیں

حکم الہی اور سنت حسنہ پر عمل پیرا ہونے کے لئے حضرت علی کے لئے ضروری تھا کہ جوانی کے بحران سے نکلنے کے لئے اپنی زندگی کی کشتی کو سکون و آرام دیں، مگر حضرت علی جیسی شخصیت کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کو وقتی آرام و آسائش کے لئے اپنی شریک حیات بنائیں اور اپنی زندگی کے بقیہ ایام کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ لہذا ایسی شریک حیات چاہتے ہیں جو ایمان، تقویٰ، علم اور بصیرت، نجابت و اصالت مینان کی کفو اور ان کی ہم پلہ ہو۔ اور ایسی شریک حیات سوائے پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کی تمام خصوصیات سے بچپن سے لے کر اس وقت تک آپ واقف تھے، کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔

حضرت زہرا سے شادی کے خواہشمند افراد

حضرت علی سے پہلے بہت سے دوسرے افراد مثلاً ابوبکر، عمر نے حضرت زہرا کے ساتھ شادی کے لئے پیغمبر کو رشتہ دیا تھا اور دونوں نے پیغمبر سے ایک ہی جواب سنا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ میں زہرا کی شادی کے سلسلے میں وحی کا منتظر ہوں۔

ان دونوں نے جو حضرت زہرا سے شادی کے سلسلے میں ناامید ہو چکے تھے رئیس قبیلہ اوس، سعد معاذ کے ساتھ گفتگو کی اور آپس میں سمجھ لیا کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی بھی زہرا کا کفو نہیں بن سکتا، اور پیغمبر کی نظر انتخاب بھی علی کے علاوہ کسی پر نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ لوگ ایک ساتھ حضرت علی کی تلاش میں نکلے اور بالآخر انہیں انصار کے ایک باغ میں پایا۔ آپ اپنے اونٹ کے ساتھ کجھور کے درختوں کی سینچائی میں مصروف تھے، ان لوگوں نے علی - کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: قریش کے شرفا نے پیغمبر کی بیٹی سے شادی کے لئے رشتہ دیا تو پیغمبر نے ان کے جواب میں کہا کہ زہرا کی شادی کے سلسلے میں میں حکم خدا کا منتظر ہوں ہمیں امید ہے کہ اگر تم نے (اپنے تمام فضائل کی وجہ سے) فاطمہ سے شادی کی درخواست ضرور قبول ہو جائے گی اور اگر تمہاری مالی حالت اچھی نہیں ہے تو ہم سب تمہاری مدد کریں گے۔

اس گفتگو کو سنتے ہی حضرت علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے اور کہا: میری بھی یہی آرزو ہے کہ میں پیغمبر کی بیٹی سے شادی کروں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ کام چھوڑ کر پیغمبر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اس وقت پیغمبر ام سلمہ کے پاس تھے۔ جس وقت آپ نے دروازے پر دستک دی۔ پیغمبر نے فوراً ام سلمہ سے کہا جاؤ اور دروازہ کھولو، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جسے خدا اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے۔

ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس شخص کو دیکھنے کے لئے میرا دل بے چین ہو گیا کہ جس شخص کی پیغمبر نے ستائش کی ہے۔ میناٹھی کہ دروازہ کھولو۔ عنقریب تھا کہ میرے پیر لڑکھڑا جاتے۔ مینے دروازہ کھولا حضرت علی داخل ہوئے اور پیغمبر کے پاس بیٹھ گئے، لیکن پیغمبر کی عظمت و جلالت کی وجہ سے حیا مانع بن رہی تھی کہ پیغمبر سے گفتگو کریں، اس لئے سر کو جھکائے بیٹھے تھے یہاں تک کہ پیغمبر نے خاموشی کو ختم کیا اور کہا: شاید کسی کام سے آئے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا: ہماری رشتہ داری و محبت خاندان رسالت سے ہمیشہ ثابت و پائدار رہی اور ہمیشہ دین و جہاد کے ذریعے اسلام کو ترقی کے راستے پر لگاتے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے لئے روشن و واضح ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا: جو کچھ تم نے کہا تم اس سے بلند و بالا ہو۔ حضرت علی نے کہا: کیا آپ میری شادی فاطمہ سے کر سکتے ہیں۔ (۱) حضرت علی نے اپنا پیغام دیتے وقت تقویٰ اور اپنے گنرے ہوئے روشن سابقہ اور اسلام پر اعتماد کیا، اور اس طرح سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ معیار فضیلت یہ چیزیں ہیں نہ کہ خوبصورتی، دولت اور منصب وغیرہ۔

پیغمبر اسلام نے شوہر کے انتخاب میں عورت کو آزاد رکھا ہے اور حضرت علی کے جواب میں فرمایا: تم سے پہلے کچھ لوگ اور بھی میری بیٹی سے شادی کی درخواست لے کر آئے تھے، مینے ان کی درخواست کو اپنی بیٹی کے سامنے پیش کیا لیکن اس کے چہرے پر ان لوگوں کے لئے عدم رضایت کو بہت شدت سے محسوس کیا۔ اب میں تمہاری درخواست کو اس کے سامنے پیش کروں گا پھر جو بھی نتیجہ ہوگا تمہیں مطلع کروں گا۔ پیغمبر اسلام جناب فاطمہ زہرا کے گھر آئے آپ ان کی تعظیم کے لئے اٹھیں، آپ کے

(۱) حضرت علی، شادی کے پیغام کے وقت ایک سنت پر عمل کر رہے تھے، جب کہ ان پر بہت زیادہ حیا طاری تھی۔ آپ بذات خود اور بغیر کسی واسطے کے پیغام دے رہے تھے، اور یہ روحی شجاعت و بہادری، عفاف کے ہمراہ لائق تقدیر ہے۔

کاندھے سے ردا اٹھایا اور آپ کے پیر سے جوتے اتارے اور پائے اقدس کو دھلایا پھر وضو کر کے آپ کے پاس بیٹھ گئیں۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی سے اس طرح گفتگو شروع کی:

چچا ابوطالب کا نور نظر علی وہ ہے جس کی فضیلت و مرتبہ اسلام کی نظر میں ہم پر واضح و روشن ہے۔ میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ خدا کی بہترین مخلوق سے تمہارا عقد کروں اور اس وقت وہ تم سے شادی کی درخواست لے کر آیا ہے اس بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ جناب فاطمہ زہرا نے مکمل خاموشی اختیار کر لی، لیکن اپنے چہرے کو پیغمبر کے سامنے سے نہیں ہٹایا اور ہلکی سی ناراضگی کے آثار بھی چہرے پر رونما نہ ہوئے۔ رسول اسلام اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا:

"اللَّهُ أَكْبَرُ سَكُوتُهَا إِفْرَارٌ" یعنی خدا بہت بڑا ہے۔ میری بیٹی کی خاموشی اس کی رضایت کی دلیل ہے۔ (۱)

## (۱) کشف الغمہ ج ۱ ص ۵۰

روحی، فکری اور اخلاقی اعتبار سے برابر ہونا

یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے آئین میں مرد مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا کفو اور ہم پلہ ہے۔ اور ہر مسلمان عورت جو ایک مسلمان مرد کے عقد میں آتی ہے اپنے برابر و کفوسے عقد باندھتی ہے لیکن اگر روحی و فکری اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سی عورتیں بعض مردوں کے ہم شان و ہم رتبہ نہیں ہیں اس کے برعکس بعض مرد بعض عورتوں کے برابر و ہم رتبہ نہیں ہیں۔

شریف و مومن اور متدین مسلمان جو انسانیت کے بلند و بالا مراتب اور اخلاق و علم و دانش کے وسیع مراتب پر فائز ہیں انہیں چاہئے کہ ایسی عورتوں کو اپنی شریک حیات بنائیں جو روحی و اخلاقی اعتبار سے ان کے ہم مرتبہ اور ان سے مشابہ ہوں۔

یہ امر پاکدامن اور پرہیزگار عورتوں، جو فضائل اخلاقی اور اعلیٰ ترین علم و اندیشہ سے مالا مال ہیں، کے لئے بھی ہے۔ شادی کا سب سے اہم مقصد، پوری زندگی میں سکون و اطمینان کا ہونا ہے اور یہ چیز بغیر اس کے ممکن نہیں ہے اور جب تک اخلاقی مشابہت اور روحی ہم آہنگی پوری زندگی پر سایہ فگن نہیں ہوتیں شادی عبث اور بیکار ہوجاتی ہے۔ اس حقیقت کے بیان کرنے کے بعد خدا کے اس کلام کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے جو اس نے اپنے پیغمبر سے فرمایا تھا:

"لَوْ لَمْ اَخْلُقْ عَلِيًّا لَمَا كَانَ لِفاطِمَةَ اِنْتِكَ كُفُو عَلِيٍّ وَجِهَ الْاَرْضِ" (۱)

اگر مینے علی کو پیدا نہ کیا ہوتا تو روئے زمین پر ہرگز تمہاری بیٹی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ بطور مسلم اس برابری اور کفوسے مراد مقام و مرتبے میں برابری ہے۔

## (۱) بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۹۰

شادی کے اخراجات:

حضرت علی کے پاس مال دنیا میں صرف تلوار اور زرہ تھی جس کے ذریعے آپ راہ خدا میں جہاد کرتے تھے اور ایک اونٹ تھا کہ جس کے ذریعے سے مدینہ کے باغوں میں کام کر کے خود کو انصار کی مہمانی سے بے نیاز کرتے تھے۔ منگنی اور عقد وغیرہ کے بعد وہ وقت بھی آ پہنچا کہ حضرت علی اپنی شریک زندگی کے لئے کچھ سامان آمادہ کرینا اور اپنی نئی زندگی کو پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ شروع کریں۔ پیغمبر نے قبول کر لیا کہ حضرت علی اپنی زرہ کو بیچ دیں اور

اس کی قیمت سے فاطمہ کی مہر کے عنوان سے پیغمبر کو کچھ ادا کریں۔ زرہ چار سو درہم میں فروخت ہوئی۔ پیغمبر نے اس میں کچھ درہم بلال کو دیا تاکہ زہرا کے لئے عطر خریدیں اور اس میں سے کچھ درہم عمار یاسر اور اپنے کچھ دوستوں کو دیا تاکہ علی و فاطمہ کے گھر کے لئے کچھ ضروری سامان خریدیں۔ حضرت زہرا کے جہیز کو دیکھ کر اسلام کی عظیم خاتون کی زندگی کے حالات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ پیغمبر کے بھیجے ہوئے افراد بازار سے واپس آگئے اور جو کچھ بھی سامان انہوں نے حضرت زہرا کے لئے آمادہ کیا تھا وہ یہ ہیں:

حضرت زہرا کا جہیز :

- ۱۔ پیراہن ۷ درہم کا۔
- ۲۔ روسری ۱ درہم کا۔
- ۳۔ کالی چادر، جو پورے بدن کو چھپا نہیں سکتی تھی۔
- ۴۔ ایک عربی تخت، جو لکڑی اور کھجور کی چھال سے بنا تھا۔
- ۵۔ دو مصری کتان سے بنی ہوئی توشک جس میں ایک ریشمی اور دوسری کھجور کی چھال سے بنی تھی۔
- ۶۔ چار مسندیں، دو ریشم اور دو کھجور کی چھال سے بنی ہوئیں۔
- ۷۔ پردہ۔
- ۸۔ ہجری چٹائی۔
- ۹۔ چکی۔
- ۱۰۔ بڑا طشت۔
- ۱۱۔ چمڑے کی مشک۔
- ۱۲۔ دودھ کے لئے لکڑی کا پیالہ۔
- ۱۳۔ پانی کے لئے چمڑے کے کچھ برتن۔
- ۱۴۔ لوٹا۔
- ۱۵۔ پینٹل کا بڑا برتن (لگن)
- ۱۶۔ چند پیالے۔
- ۱۷۔ چاندی کے بازو بند۔

پیغمبر کے دوستوں نے جو کچھ بھی بازار سے خریدا تھا پیغمبر کے حوالے کیا اور پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کے گھر کا سامان دیکھ کر فرمایا: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لِقَوْمِ جُلِّ أُنْتَيْبِهِمُ الْخَرْفَ" یعنی خداوند! جو لوگ زیادہ تر مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی کو مبارک قرار دے۔ (۱)

(۱) بحار الانوار ج ۳ ص ۹۴، کشف الغمہ، ج ۱، ص ۳۵۹، کشف الغمہ کے مطابق حضرت زہرا کے گھر کے تمام سامان کل ۶۳ درہم میں خریدے گئے تھے۔

حضرت زہرا (سلام اللہ علیہا) کا مہر :

پیغمبر اسلام (ص) کا بیٹی کی مہر پانچ سو درہم تھا اور ہر درہم ایک مثقال چاندی کے برابر تھا (ہر مثقال ۱۸ چنے کے برابر ہوتا ہے)۔

پیغمبر اسلام کی عظیم المرتبت بیٹی کا عقد بہت زیادہ سادگی اور بغیر کسی کمی کے ہوا عقوبتوں سے زیادہ گزر گیا پیغمبر کی عورتوں نے حضرت علی سے کہا: اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ حضرت علی نے ان لوگوں کو جواب دیا: لے جاؤں گا۔ ام ایمن پیغمبر کی خدمت حاضر ہوئیں اور کہا اگر خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ فاطمہ کے مراسم ازدواج کو دیکھ کر خوش ہوجاتیں۔

پیغمبر نے جب خدیجہ کا نام سنا تو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور کہا: اس نے میری اس وقت تصدیق کی تھی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا۔ اور خدا کے دین کو دوام بخشنے کے لئے میری مدد کی اور اپنے مال کے ذریعے اسلام کے

بھیلانے میں مدد کی۔ (۱)

ام ایمن نے کہا: فاطمہ کو ان کے شوہر کے گھر بھیج کر ہم سب کو خوشحال کیجئے۔  
رسول اکرم نے حکم دیا کہ ایک کمرہ کو زہرا کے زفاف کے لئے آمادہ کرو اور انہیں آج کی رات اچھے لباس سے آراستہ کرو۔ (۲)

جب دلہن کی رخصتی کا وقت قریب آیا تو پیغمبر نے حضرت زہرا کو اپنے پاس بلایا۔ زہرا پیغمبر کے پاس آئیں، جب کہ ان کے چہرے پر شرم و حیا کا پسینہ تھا اور بہت زیادہ شرم کی وجہ سے پیر لڑکھڑا رہے تھے اور ممکن تھا کہ زمین پر گرجائیں۔ اس موقع پر پیغمبر نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا:

"أَقَالِكَ اللَّهُ الْعُنْتَرَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"

خدا تمہیں دونوں جہان کی لغزش سے محفوظ رکھے، پھر زہرا کے چہرے سے حجاب ہٹایا اور ان کے ہاتھ کو علی کے ہاتھ میں دیا اور مبارکباد پیش کر کے فرمایا:

"بَارِكْ لَكَ فِي ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ يَا عَلِيُّ نِعْمَتِ الزُّوجَةِ فَاطِمَةُ"

پھر فاطمہ کی طرف رخ کر کے کہا: "نِعْمَ الْبِعْلُ عَلِيُّ"

پھر دونوں کو اپنے گھر جانے کے لئے کہا اور بزرگ شخصیت مثلاً سلمان کو حکم دیا کہ جناب زہرا کے اونٹ کی مہار پکڑیں اور اس طرح اپنی باعظمت بیٹی کی جلالت کا اعلان کیا۔

(۱) بحار الانوار ج ۳ ص ۱۳۰

(۲) بحار الانوار ج ۳ ص ۵۹

جس وقت دولہا و دولہن جملہ عروسی میں گئے تو دونوں شرم و حیا سے زمین کی طرف نگاہ کئے ہوئے تھے، پیغمبر ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور ایک برتن میں پانی لیا اور تبرک کے طور پر اپنی بیٹی کے سر اور بدن پر چھڑکا، پھر دونوں کے حق میں اس طرح سے دعا کی:

"اللَّهُمَّ بَدِّئْ ابْنَتِي وَ أَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَيَّ اللَّهُمَّ وَ بَدِّئْ أَخِي وَ أَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَيَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وَلِيًّا وَ ... (۱)

(۱) بحار الانوار ج ۳ ص ۹۶

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### پانچویں فصل

جنگ احد مینامیر المومنین - کی جاں نثاری

جنگ بدر مینشکست کی وجہ سے قریش کے دل بہت زیادہ افسردہ اور مرجھائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اس مادی اور معنوی شکست کی تلافی کے لئے ارادہ کیا کہ اپنے قتل ہونے والوں کا انتقام لیں۔ اور اکثر عرب کے قبیلوں کے بہادر و جانباز اور جنگجو قسم کے افراد کا ایک منظم لشکر تیار کر کے مدینہ کی طرف روانہ کریں۔ لہذا عمرو عاص او ربعض دوسرے افراد کو مامور کیا گیا کہ کنانہ او رثقیف قبیلے کے افراد کو اپنا بنائیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں ان سے مدد طلب کریں۔ ان لوگوں نے کافی محنت و مشقت کر کے تین ہزار جنگ جو افراد کو مسلمانوں سے مقابلے کے لئے آمادہ کر لیا۔

اسلام کے اطلاعاتی دستہ نے پیغمبر اسلام کو قریش کے ارادے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے وہاں سے روانہ ہونے سے آگاہ کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے دشمنوں سے مقابلے کے لئے جانبازوں کی ایک کمیٹی بنائی جس میں سے اکثریت کا کہنا یہ تھا کہ اسلام کا لشکر مدینے سے نکل جائے اور شہر کے باہر جاکر دشمنوں سے مقابلہ کرے۔ پیغمبر اسلام تھماڑ جمعہ کی ادائیگی کے بعد ایک ہزار کا لشکر لے کر مدینہ سے کوہ احد کی طرف نکل پڑے۔

۷ شوال ۳ھ کی صبح کودونوں لشکر صف بستہ ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہو گئے، اسلام کی فوج نے ایسی جگہ کومورچہ بنایا کہ ایک طرف یعنی پیچھے سے طبیعی طور پر ایک محافظ کوہ احد تھا لیکن کوہ احد کے بیچ میں اچھی خاصی جگہ کٹی ہوئی تھی اور احتمال یہ تھا کہ دشمن کی فوج کوہ کو چھوڑ کر اسی کٹی ہوئی جگہ اور مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے کی طرف سے حملہ کرے، لہذا پیغمبر نے اس خطرے کو ختم کرنے کے لئے عبداللہ جبیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ اسی پہاڑی پر بھیج دیا تاکہ اگر دشمن اس راستے سے داخل ہو تو اس کا مقابلہ کریں۔ اور حکم دیا کہ ایک لمحہ کے لئے بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے اور دشمن بھاگنے بھی لگیں جب بھی اپنی جگہ چھوڑ کر نہ جائیں۔

پیغمبر نے علم کو مصعب کے حوالے کیا کیونکہ وہ قبیلہ بنی عبد الدار کے تھے اور قریش کے پرچمدار بھی اسی قبیلے کے رہنے والے تھے۔

جنگ شروع ہو گئی اور مسلمانوں کے جانباز اور بہادروں کی وجہ سے قریش کی فوج بہت زیادہ نقصان اٹھانے کے بعد بھاگنے لگی، پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تیر اندازوں نے یہ خیال کیا کہ اب اس پہاڑی پر رکنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مال غنیمت لوٹنے کے لئے مورچہ کو چھوڑ کر میدان میں آگئے، خالد بن ولید جو جنگ کرنے میں بہت ماہر و بہادر تھا جنگ کے پہلے ہی سے وہ جانتا تھا کہ اس پہاڑی کا دبانہ کامیابی کی کلید ہے، اس نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی کہ اس کے پشت پر جائے اور وہاں سے اسلام کے لشکر پر حملہ کرے، مگر محافظت کرنے والے تیر اندازوں نے اسے روکا اور یہ پیچھے ہٹ گیا، اس مرتبہ جب خالد نے اس جگہ کو محافظوں سے خالی پایا تو ایک زبردست اور غافل گیر حملہ کرتے ہوئے فوج اسلام کی پشت سے ظاہر ہوا، اور غیر مسلح اور غفلت زدہ مسلمانوں پر پیچھے کی جانب سے حملہ کر دیا، مسلمانوں کے درمیان عجیب کھلبلی مچ گئی اور قریش کی بھاگتی ہوئی فوج اسی راستے سے دوبارہ میدان جنگ میں آئی، اور اسی دور ان اسلامی فوج کے پرچم دار مصعب بن عمیر دشمن کے ایک سپاہی کے ہاتھوں قتل کر دینے گئے اور چونکہ مصعب کا چہرا چھپا ہوا تھا، ان کے قاتل نے یہ سوچا کہ یہ پیغمبر ہیں۔ لہذا چیخنے لگا "أَلَا قَدْ قُتِلَ مُحَمَّدًا" (اے لوگو! آگاہ ہوجاؤ محمد قتل ہو گئے) پیغمبر کے قتل کی خبر مسلمانوں کے درمیان پھیل گئی۔ اور ان کی اکثریت میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی اور میدان میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی باقی نہ بچا۔

اسلام کا بزرگ سیرت نگار، ابن ہشام اس طرح رقمطراز ہے:

انس بن مالک کا چچا انس بن نصر کہتا ہے: جس وقت اسلام کی فوج ذہبی دباؤ کا شکار ہوئی اور پیغمبر کے قتل کی خبر چاروں طرف پھیل گئی تو اکثر مسلمان اپنی جان بچانے کی فکر کرنے لگے اور ہر شخص ادھر ادھر چھپنے لگا۔ انس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ انصار و مہاجر کا ایک گروہ جس میں عمر بن خطاب، طلحہ اور عبید اللہ بھی تھے ایک کنارے پر بیٹھا اپنی نجات کی فکر کر رہا ہے۔ میں نے اعتراض کے انداز میں ان سے کہا: کیونہیں بیٹھے ہو؟

ان لوگوں نے مجھے جواب دیا: پیغمبر قتل ہو گئے ہیں اور اب جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر پیغمبر قتل ہو گئے تو کیا زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم لوگ اٹھو اور جس راہ میں وہ قتل ہوئے ہیں تم بھی شہید ہو جاؤ۔ اور اگر محمد قتل کر دینے گئے تو محمد کا خدا زندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری باتوں کا ان پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا، میں نے اسلحہ اٹھایا اور جنگ میں مشغول ہو گیا۔ (۱)

ابن ہشام کہتے ہیں:

انس کو اس جنگ میں ستر زخم لگے اور اس کی لاش کو اس کی بہن کے علاوہ کوئی پہچان نہ سکا، مسلمانوں کے بعض گروہ اس قدر افسردہ تھے کہ انہوں نے خود ایک بہانہ تلاش کیا کہ عبد اللہ بن ابی منافق کا ساتھ کس طرح سے دیں تاکہ ابوسفیان سے ان کے لئے امان نامہ لیں۔ اور مسلمانوں کے بعض گروہ نے پہاڑی پر پناہ لی۔ (۲)

ابن ابی الحدید لکھتے ہیں:

بغداد میں ۶۰۸ھ میں ایک شخص واقفی کی کتاب "مغازی" کو ایک بزرگ دانشمند محمد بن معد علوی سے پڑھتا تھا۔ ایک دن میں نے بھی اس درس میں شرکت کی۔ اور جس وقت گفتگو یہاں پہنچی کہ محمد بن مسلمہ جو صریحاً نقل کرتا ہے کہ احد کے دن خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسلمان پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے اور پیغمبر ان کا نام لے کر پکار رہے تھے کہ "اَلِیَّ یَا فُلَان" (اے فلاں میری طرف آؤ) لیکن کسی نے بھی پیغمبر کی آواز پر لبیک نہ کہا۔ استاد نے مجھ سے

کہا فلاں سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے بعد مقام و منصب کو حاصل کیا اور راوی نے خوف و ڈر کی وجہ سے ان کا نام لکھنے سے پرہیز کیا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ صریحی طور پر ان سب کا نام لکھے۔ (۳)

(۱)، (۲) سیرۃ ابن ہشام ج ۳ ص ۸۴-۸۳  
(۳) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۵ ص ۲۳

جانثاری مقصد و ہدف پر ایمان کی علامت ہے

جانثاری اور جانبازی، مقصد و ہدف پر ایمان کی علامت و نشانی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کی جانثاری کا اندازہ اس کے ہدف پر ایمان و اعتقاد کے ذریعے لگایا جاسکتا ہے، اور حقیقت میں بلندترین اور صحیح کسوٹی ایک شخص کے عقیدے کا اندازہ کرنے کے لئے، اس کے گزرے ہوئے حالات کو دیکھ کر لگایا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو اپنی آیتوں میں اس طرح سے بیان کیا ہے:

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ تَمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَابُوْا بِمٰوَالِهِمْ وَنَفْسِهِمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِيْكَ بِمِ الصّٰدِقُوْنَ) (۱)

(سچے مومن) تو بس وہی ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ کیا اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ (دعوائے ایمان میں) سچے ہیں۔

جنگ احد، مومن اور غیر مومن کی پہچان کے لئے بہترین کسوٹی تھی اور ایک عمدہ پیمانہ تھا بہت سے ان افراد کے لئے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ مسلمانوں کے بعض گروہ کا اس جنگ سے بھاگنا اتنا پر اثر تھا کہ مسلمانوں کی عورتیں جو اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں آئی تھیں اور کبھی کبھی زخمیوں کی خبر گیری کرتی تھیں اور پیاسے جانبازوں کو پانی سے سیراب کرتی تھیں اس بات پر مجبور ہو گئیں کہ پیغمبر کا دفاع کریں۔

جب نسبیہ نامی عورت نے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ میں تلوار لے کر رسول اسلام (ص) کا دشمنوں سے دفاع کیا جس وقت پیغمبر نے اس عورت کی جانثاری کو بھاگنے والوں کے مقابلے میں مشاہدہ کیا تو آپ نے اس بہادر عورت کے بارے میں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا: "مَقَامٌ نَسِيْبَةٌ بِنْتِ كَعْبِ خَيْرٍ مِنْ مَقَامِ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ" (کعب کی بیٹی نسبیہ کا مقام و مرتبہ فلاں فلاں سے بہتر ہے)

ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ راوی نے پیغمبر کے ساتھ خیانت کی ہے کیونکہ جن لوگوں کا نام پیغمبر نے صریحی طور پر ذکر کیا تھا اسے بیان نہیں کیا۔ (۲)

انہی افراد کے مقابلے میں تاریخ ایک ایسے جانباز کا اعتراف کرتی ہے جو اسلام کی پوری تاریخ میں فداکاری اور جانثاری کا نمونہ ہے، اور جنگ احد میں مسلمانوں کی دوبارہ کامیابی اسی جانثار کی قربانیوں کا

(۱) سورہ حجرات آیت ۱۵  
(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۴ ص ۲۶۶

نتیجہ تھی۔ یہ عظیم المرتبت جانثار، یہ حقیقی فداکار مولائے متقیان حضرت امیر المومنین کی ذات گرامی ہے۔ جنگ کی ابتدا میں قریش کے بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پرچم اٹھانے والے ۹ افراد ایک کے بعد ایک مولائے کائنات کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں شدید رعب بیٹھ گیا اور ان کے اندر ٹھہر نے اور مقابلے کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہی۔ (۱)

امام - کی جانثاری پر ایک نظر:

معاصر مصری مؤرخین جنہوں نے اسلامی واقعات کا تجزیہ کیا ہے حضرت علی کے حق کو جیسا کہ آپ کے شایان شان تھا یا کم از کم جیسا کہ تاریخ نے لکھا ہے ادانہیں کیا ہے، اور امیر المومنین کی جانثاری کو دوسرے کے حق میں قرار دیا ہے اس بنا پر ضروری ہے کہ مختصر طور پر حضرت امیر کی جانثاریوں کو انہی کے مأخذ سے بیان کروں۔



۱۔ ابن اثیر نے اپنی تاریخ (۲) میں لکھا ہے:

پیغمبر چاروں طرف سے قریش کے لشکر میں گھر گئے تھے، ہر گروہ جب بھی پیغمبر پر حملہ کرتا تو حضرت علی پیغمبر کے حکم سے جب کچھ قتل ہوجاتے تھے تو باقی راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ ایسا جنگ احد میں کئی مرتبہ ہوا۔ اس جانثاری کی بنیاد پر جبرئیل امین نازل ہوئے اور حضرت علی کے ایثار کو پیغمبر کے سامنے سراہا اور کہا: یہ ایک بلند ترین جانثاری ہے جس کو انہوں نے کر دکھایا ہے۔ رسول خدا نے جبرئیل امین کی تصدیق کی اور کہا: "میں علی سے ہوناور علی مجھ سے ہیں"

کچھ ہی دیر کے بعد میدان میں ایک آواز سنائی دی جس کا مفہوم یہ تھا:

لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ

وَلَا قِتْنِي إِلَّا عَلِي

ذو الفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی - کے جیسا کوئی جوان نہیں۔

ابن ابی الحدید اس واقعہ کی مزید شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وہ گروہ جس نے پیغمبر پر حملہ کیا تاکہ ان کو قتل کردینا میں پچاس آدمی تھے اور علی نے جو کہ باپداد

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۴ ص ۲۵۰

(۲) تاریخ کامل جلد ۲ ص ۱۰۷

جنگ کر رہے تھے ان لوگوں کو متفرق کردیا۔

پھر جبرئیل امین کے نازل ہونے کے بارے میں کہتے ہیں:

اس مطلب کے علاوہ جو کہ تاریخ کے اعتبار سے مسلم ہے میں نے محمد بن اسحاق کی کتاب "غزوات" کے بعض نسخوں میں جبرئیل امین کے نزول کے متعلق دیکھا ہے کہ یہاں تک ایک دن اپنے استاد عبدالوہاب سکینہ سے اس واقعہ کی صحت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا صحیح ہے، میں نے ان سے کہا پھر کیوں اس صحیح روایت کو صحاح ستہ کے مؤلفین نے نہیں لکھا؟ انہوں نے جواب مینکھا: بہت سی صحیح روایتیں موجود ہیں جس کے لکھنے میں صحاح ستہ کے مؤلفین سے غفلت ہوئی ہے۔ (۱)

۲۔ حضرت امیر المومنین نے "رأس اليهود" کے متعلق اپنے اصحاب کے بعض گروہ کے سامنے جو تفصیلی تقریر فرمائی اس میں اپنی جانثاری کے بارے میں اشارہ کیا ہے:

جس وقت قریش کے لشکر نے طوفان کی طرح ہم پر حملہ کیا تو انصار اور مہاجرین اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن میننے ستر زخم کھانے کے باوجود بھی حضرت کا دفاع کیا۔

پھر آپ نے قبا کو اتار اور زخم کے نشانات جو باقی تھے اس پر ہاتھ لگا کر دکھایا، یہاں تک کہ بنا بر نقل، "خصال شیخ صدوق" حضرت علی نے پیغمبر کے دفاع کرنے میں انتہائی جانفشانی و جانثاری کی کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی اور پیغمبر نے اپنی تلوار، ذو الفقار کو حضرت علی کے حوالے کیا تاکہ اس کے ذریعے سے راہ خدا میں جہاد کرتے رہیں۔ (۲)

۳۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں:

جب پیغمبر کے اکثر صحابی و سپاہی میدان سے بھاگ گئے تو دشمنوں نے پیغمبر پر اور بڑھ چڑھ کر حملہ کرنا شروع کردیا۔ بنی کنانہ قبیلہ کا ایک گروہ اور بنی عبد مناف قبیلے کا گروہ جن کے درمیان چار نامی پہلوان موجود تھے پیغمبر کی طرف حملہ آور ہوئے۔ اس وقت علی - پیغمبر کی چاروں طرف سے پروانہ کی طرح حفاظت کر رہے تھے، اور دشمن کو نزدیک آنے سے روک رہے تھے، ایک گروہ جس کی تعداد پچاس آدمیوں سے بھی

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۴ ص ۲۱۵

(۲) خصال شیخ صدوق ج ۲ ص ۱۵

زیادہ تھی انہوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور صرف حضرت علی کا شعلہ ور حملہ تھا جس نے اس گروہ کو منتشر کردیا، لیکن وہ پھر دوبارہ آگئے اور پھر سے حملہ شروع کردیا اور اس حملے میں وہ چار نامی پہلوان اور دس دوسرے افراد جن کا نام تاریخ نے بیان نہیں کیا ہے قتل ہو گئے۔ جبرئیل نے حضرت علی کی اس جانثاری پر پیغمبر کو

مبارک باد دی اور پیغمبر نے فرمایا: علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔  
 ۴۔ اس پہلے کی جنگوں میں لشکر کی علمبرداری کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط رکھی گئی اور پرچم کو بہادر اور دلیر افراد کے ہاتھ میں دیا گیا۔ علمبردار کے بہادر ہونے کی وجہ سے جنگوں میں بہادری و شجاعت بڑھ گئی اور سپاہیوں کو ذہنی خلفشار سے بچانے کے لئے کچھ لوگوں کو لشکر کا علمبردار معین کیا گیا تاکہ اگر ایک مارا جائے تو دوسرا اس کی جگہ پر پرچم کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔

قریش، مسلمانوں کی بہادری اور جانثاریوں سے جنگ بدر میں باخبر تھے، اسی وجہ سے اپنے بہت زیادہ سپاہیوں کو لشکر کا علمبردار بنایا تھا۔ قریش کا سب سے پہلا علمبردار طلحہ بن طلحہ تھا وہ پہلا شخص تھا جو حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے قتل کے بعد قریش کے پرچم کو افراد درج ذیل نے سنبھالا اور تمام کے تمام حضرت علی - کے ہاتھوں مارے گئے۔ سعید بن طلحہ، عثمان بن طلحہ، شافع بن طلحہ، حارث بن ابی طلحہ، عزیز بن عثمان، عبد اللہ بن جمیلہ، ارطاة بن شراحیل، صواب۔

ان لوگوں کے مارے جانے کی وجہ سے قریش کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی، اس طرح سے مسلمانوں نے حضرت علی کی جانثاری کی وجہ سے جنگ فتح کر لی۔ (۱)  
 علامہ شیخ مفید اپنی کتاب "ارشاد" میں امام جعفر صادق - سے نقل کرتے ہیں کہ قریش کے علمبرداروں کی تعداد ۹ آدمیوں پر مشتمل تھی اور تمام کے تمام یکے بعد دیگرے حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے۔  
 ابن ہشام نے اپنی کتاب "سیرئہ" میں ان افراد کے علاوہ اور بھی نام ذکر کئے ہیں جو حضرت علی کے پہلے ہی حملہ میں قتل ہو گئے تھے۔ (۲)

(۱) تفسیر قمی ص ۱۰۳، ارشاد مفید ۱۱۵، بحار الانوار ج ۲۰ ص ۱۵  
 (۲) سیرئہ ابن ہشام ج ۱ ص ۸۴، ۸۱

### چھٹیں فصل اسلام کی شرک پر کامیابی

عرب کے بت پرستوں کی فوج چیونٹی اور ٹڈی کی طرح ایک گہرے خندق کے کنارے آکر رک گئی جسے مسلمانوں نے چھ دن میں کھودی تھی۔ ان لوگوں نے سوچا پچھلی مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی احد کے جنگل میں مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے لیکن اس مرتبہ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ بہر حال وہ لوگ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ شہر مدینہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ مدینہ کے نزدیک ایک گہری اور خطرناک خندق دیکھ کر وہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے، دشمن کی فوج کے سپاہیوں کی تعداد دس ہزار سے زیادہ تھی جب کہ اسلام کے مجاہدوں کی تعداد تین ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ (۱)  
 تقریباً ایک مہینے تک مدینہ کا محاصرہ کئے رہے اور قریش کے سپاہی ہر لمحہ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح سے خندق کو پار کر جائیں۔ دشمن کے سپاہی خندق کے سپاہیوں سے مقابلے کے لئے جنہونے تھوڑے سے فاصلے پر اپنے دفاع کے لئے مورچہ بنایا تھا روبرو ہونے اور دونوں طرف سے تیر چلنے کا سلسلہ شب و روز جاری رہا اور کسی نے بھی ایک دوسرے پر کامیابی حاصل نہ کی۔

دشمن کی فوج کا اس حالت پر باقی رہنا بہت دشوار اور مشکل تھا، چونکہ ٹھنڈی ہوا اور غذا کی کمی انہیں موت کی دعوت دے رہی تھی اور عنقریب تھا کہ جنگ کا خیال ان کے دماغوں سے نکل جائے اور سستی اور تھکن ان کی روح میں رخنہ پیدا کر دے۔ اس وجہ سے فوج کے بزرگوں کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا مگر یہ کہ کسی بھی صورت سے ان کے بہادروں دلیر سپاہی خندق کو پار کر جائیں۔ فوج قریش کے چھ پہلوان و بہادر اپنے گھوڑے کودوڑاتے ہوئے خندق کے پاس گئے اور دھاوا بول دیا اور بہت ہی احتیاط سے خندق پار کر کے میدان میں داخل ہو گئے، ان چھ پہلوانوں میں عرب کا نامی گرامی پہلوان عمرو بن عبدود بھی تھا جو شبہ جزیرہ کا قوی اور بہادر جنگجو مشہور تھا، لوگ اسے ایک ہزار بہادروں پر بہاری سمجھتے تھے اور وہ اندر سے لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھا اور مسلمانوں کی صفوں کے سامنے شیر کی طرح غرایا اور تیز تیز چلا کر کہا کہ بہشت کا

دعویٰ کرنے والے کہانہیں؟ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے جہنم واصل کر دے یا میں اس کو جنت میں بھیج دوں؟

اس کے کلمات موت کی آواز تھے اور اس کے مسلسل نعروں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح ڈر بیٹھ گیا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کے کان بند ہو گئے ہوں اور زبانیں گنگ ہو گئی ہوں۔ (۱) ایک مرتبہ پھر عرب کے بوڑھے پہلوان نے اپنے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں کی صفوں کے درمیان پہنچ گیا اور ٹہلنے لگا اور پھر اپنا مقابل مانگنے لگا۔

جتنی مرتبہ بھی اس عرب کے نامی پہلوان کی آواز جنگ کے لئے بلند ہوتی تھی فقط ایک ہی جوان اٹھتا تھا اور پیغمبر سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتا، مگر ہر بار پیغمبر اسے منع کر دیتے تھے اور وہ جوان حضرت علی تھے۔ پیغمبر ان کی درخواست پر فرماتے تم بیٹھ جاؤ یہ عمرو ہے۔

عمرو نے تیسری مرتبہ پھر آواز دی اور کہا میری آواز چبختے چبختے بیٹھ گئی، کیا تمہارے درمیان کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میدان جنگ میں قدم رکھے؟ اس مرتبہ بھی حضرت علی نے پیغمبر سے بہت اصرار کیا کہ جنگ میں جانے کی اجازت دیدیں۔ پیغمبر نے فرمایا: یہ لڑنے والا عمرو ہے، حضرت علی خاموش ہو گئے بالآخر پیغمبر نے حضرت علی کی درخواست کو قبول کر لیا۔ پھر اپنی تلوار انہیں عطا کی اور اپنا عمامہ ان کے سر پر باندھا اور ان کے حق میں دعا کی (۲) اور کہا: خداوند! علی - کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگار! جنگ بدر میں عبیدہ اور جنگ احد میں شیر خدا حمزہ کو تو نے مجھ سے لے لیا، خدایا! علی کو مشکلات سے دور رکھ۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی: (رب لاتذرنی فرداً و انت خیر الوارثین) (۳) پھر اس تاریخی جملے کو بیان فرمایا: "برزّ الايمان كلاً الى الشرك كلاً" یعنی ایمان و شرک کے دو مظہر ایک دوسرے کے روبرو ہوئے ہیں۔ (۴)

- (۱) واقدی نے اپنی کتاب مغازی میناس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ "کان علی رؤسہم الطیر" گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے تھے۔ مغازی ج ۲ ص ۴۸  
(۲) تاریخ الخمیس ج ۱ ص ۸۶  
(۳) سورہ انبیاء آیت ۸۹  
(۴) کنز الفوائد ص ۱۳۷

حضرت علی مکمل ایمان کے مظہر اور عمرو شرک و کفر کا کامل مظہر تھا۔ شاید پیغمبر کے اس جملے سے مقصد یہ ہو کہ ایمان اور شرک کا فاصلہ کم ہو گیا ہے اور اس جنگ میں ایمان کی شکست شرک کی موقعیت کو پوری دنیا مینا جاگر کر دے گی۔

امام - تاخیر کے جبران کے لئے بہت تیزی سے میدان کی طرف روانہ ہوئے اور عمرو کے پڑھے ہوئے رجز کے وزن اور قافیہ پر رجز پڑھنا شروع کیا جس کا مفہوم یہ تھا: جلدی نہ کر اے بہادر میں تجھے جواب دینے کے لئے آیا ہوں۔ حضرت علی لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں مغفر (لوہے کی ٹوپی) کے درمیان چمک رہی تھیں، عمرو حضرت علی کو پہچاننے کے بعد ان سے مقابلہ کرنے سے کترانے لگا اور کہا تمہارے باپ ہمارے دوستوں میں سے تھے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے بیٹے کے خون کو بہاؤں۔

ابن ابی الحدید کہتے ہیں :

جب میرے استاد ابو الخیر نے تاریخ کے اس حصے کا درس دیا تو اس طرح بیان کیا : عمرو نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اور بہت ہی قریب سے حضرت علی کی شجاعت و بہادری کو دیکھا تھا اسی وجہ اس نے بہانہ بنایا او ریہت خوفزدہ تھا کہ کس طرح سے ایسے بہادر سے مقابلہ کرے۔

حضرت علی نے اس سے کہا: تو میری فکر نہ کر۔ میں چاہے قتل ہو جاؤں چاہے فتح حاصل کر لوں، خوش نصیب رہوں گا اور میری جگہ جنت میں ہے لیکن ہر حالت میں جہنم تیرا انتظار کر رہا ہے اس وقت عمرو نے ہنس کر کہا: اے میرے بھتیجے یہ تقسیم عادلانہ نہیں ہے جنت اور جہنم دونوں تمہارا مال ہے۔ (۱)

اس وقت حضرت علی نے اسے وہ نذر یاد دلائی جس کو جو اس نے خدا سے کیا تھا کہ اگر قریش کا کوئی شخص اس سے دو چیزوں کا تقاضا کرے تو وہ ایک چیز کو قبول کر لے گا۔ عمرو نے کہا: بالکل ایسا ہی ہے حضرت علی نے کہا: میری پہلی درخواست یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے۔ عرب کے نامی پہلوان نے کہا: یہ درخواست مجھ سے نہ کرو مجھے تمہارے دین کی ضرورت نہیں ہے، پھر علی نے کہا: جا اور جنگ کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دے اور اپنے گھر کی طرف چلا جا۔ اور پیغمبر کے قتل کو دوسروں کے حوالہ کر دے کیونکہ اگر وہ

#### (۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۴۸

کامیاب ہو گیا تو قریش کے لئے باعث افتخار ہو گا اور اگر قتل ہو گیا تو تیری آرزو بغیر جنگ کے پوری ہو جائے گی۔ عمرو نے جواب میں کہا: قریش کی عورتیں اس طرح گفتگو نہیں کرتیں، کس طرح واپس جاؤں، جب کہ محمدؐ میرے قبضے میں ہیں اور اب وہ وقت پہنچ چکا ہے کہ جو میں نے نذر کی تھی اس پر عمل کروں؟ کیونکہ میں نے جنگ بدر کے بعد نذر کی تھی کہ اپنے سر پر نیل اس وقت تک نہیں رکھوں گا جب تک محمد سے اپنے بزرگوں کا انتقام نہ لے لوں گا۔

حضرت علی نے اس سے کہا: اب تو جنگ کے لئے آمادہ ہو جا! تاکہ پڑی ہوئی گتھی کو شمشیر کے ذریعے سلجھائیں۔ اس وقت بوڑھا پہلوان سخت غصے کی وجہ سے جلتے ہوئے لوہے کی طرح سرخ ہو گیا اور جب حضرت علی کو پیادہ دیکھا تو خود گھوڑے سے اتر آیا گھوڑے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا اور ان کی طرف بڑھا اور اپنی تلوار سے حضرت علی پر حملہ کر دیا اور پوری قوت سے حضرت کے سر پر مارا، حضرت علی نے اس کی ضربت کو اپنی سپر کے ذریعے روکا لیکن سپر دو ٹکڑے ہو گئی اور خود بھی ٹوٹ گئی اور آپ کا سر زخمی ہو گیا اسی لمحے امام نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک کاری ضرب لگائی اور اسے زمین پر گرادیا۔ تلوار کے چلنے کی آواز اور میدان میں گردو غبار کی وجہ سے دونوں طرف کے سپاہی اس منظر کو نزدیک سے نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن اچانک جب حضرت علی کی تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو مسلمان خوش ہو کر چیخنے لگے اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت علی نے عرب کے پہلوان پر غلبہ پالیا ہے۔ اور مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ کر دیا ہے۔

اس نامی و مشہور پہلوان کے قتل ہونے کی وجہ سے، پانچ اور نامی پہلوان، عکرمہ، ببیرہ، نوفل، ضرار اور مرد اس، جنہوں نے عمرو کے ساتھ خندق پار کیا تھا اور حضرت علی اور عمرو کی جنگ کے نتیجے کے منتظر تھے، وہاں سے بھاگ گئے۔ ان میں سے چار پہلوان خندق سے پار ہو گئے تاکہ قریش کو عمرو کے مرنے کی خبر سنائیں، مگر نوفل بھاگتے وقت اپنے گھوڑے سے خندق میں گر گیا اور حضرت علی جو ان سب کا پیچھا کر رہے تھے خندق میں گئے اور اس کو ایک ہی حملے میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ (۱)

اس نامی پہلوان کی موت کی وجہ سے شعلہ جنگ ہو گیا اور عرب کے ہر قبیلے والے اپنے اپنے قبیلے کی طرف واپس جانے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دس ہزار کا لشکر ٹھنڈک اور بھوک کی وجہ سے اپنے گھروں کی طرف چلا گیا اور اسلام کی اساس و بنیاد جسے عرب کے نامی اور قوی دشمن نے دھمکی دی تھی حضرت کی جانثاری کی وجہ سے محفوظ ہو گئی۔

#### (۱) تاریخ الخمیس ج ۱ ص ۴۸۷

اس جانثاری کی اہمیت

جو لوگ اس جنگ کے جزئیات اور مسلمانوں کی ابتر حالت اور قریش کے نامی پہلوان کی دھمکیوں کے خوف و ہراس سے مکمل باخبر نہیں ہیں وہ اس جانثاری اور قربانی کی واقعی حقیقت کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن ایک محقق جس نے تاریخ اسلام کے اس باب کا دقیق مطالعہ کیا ہے اور بہترین روش اور طریقے سے اس کا تجزیہ و تحلیل کیا ہے اس واقعے کی اہمیت پوشیدہ نہیں ہے۔

اس حقیقت کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر حضرت علی میدان جنگ میں دشمن سے مقابلے کے لئے نہ جاتے تو پھر کسی بھی مسلمان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ عمرو کے مقابلے میں جاتا، اور ایک فوج کے لئے سب سے بڑی ذلت و رسوائی کی بات یہ ہے کہ دشمن مقابلے کے لئے بلائے اور کوئی نہ جائے اور سپاہیوں پر خوف چھا جائے۔ حتیٰ اگر دشمن جنگ کرنے سے باز آجاتا اور محاصرہ کو ختم کر کے اپنے گھر واپس چلا جاتا۔ تب بھی اس ذلت کا داغ تاریخ اسلام کی پیشانی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہتا۔

اگر حضرت علی اس جنگ میں شرکت نہ کرتے یا شہید ہو جاتے تو قریب تھا کہ کوہ "سلع" میں پیغمبر کے پاس رہنے والے سپاہی جو عمرو کی للکار سے بید کے درختوں کی طرح لرز رہے تھے، میدان چھوڑ کر چلے جاتے اور کوہ سلع سے اوپر جاتے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتے، جیسا کہ جنگ احد اور حنین میں ہوا اور تاریخ کے صفحات پر آج بھی درج ہے کہ سب کے سب فرار ہو گئے علاوہ چند افراد کے، جنہوں نے پیغمبر کی جان بچائی اور سب کے سب جان بچا کر بھاگ گئے اور پیغمبر کو میدان میں تنہا چھوڑ دیا۔

اگر امام علیہ السلام اس مقابلے میں (معاذ اللہ) ہار جاتے تو نہ صرف یہ کہ جتنے بھی سپاہی کوہ "سلع" کے دامن میں اسلام کے زیر پرچم اور پیغمبر کے پاس کھڑے تھے بھاگ جاتے بلکہ وہ تمام سپاہی جو پوری خندق کے کنارے حفاظت اور مورچہ سنبھالنے کے لئے کھڑے تھے وہ مورچے کو چھوڑ دیتے اور ادھر ادھر بھاگ جاتے۔

اگر حضرت علی علیہ السلام نے قریش کے پہلوانوں کا مقابلہ کر کے ان کو بڑھنے سے روکا نہ ہوتا یا اس راہ میں قتل ہو جاتے تو دشمن بڑی آسانی سے خندق کو پار کر جاتا اور پھر دشمن کی فوج اسلام کی فوج کی طرف بڑھتی اور پورے میدان میں بڑھ بڑھ کر حملہ کرتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ انہیں توحیدی پر شرک کامیاب ہو جاتا اور اسلام خطرے میں پڑ جاتا، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پیغمبر اسلام نے، الہام اور وحی الہی سے حضرت علی کی جانثاری کو اس طرح سراہتے ہیں:

"صَرِيهٌ عَلِيٌّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ النَّقْلَيْنِ" (۱)

اس ضربت کی عظمت و رفعت جو علی نے خندق میں دشمن پر ماری تھی دونوں جہان کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اس بیان کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر یہ جانثاری واقع نہ ہوتی تو قانون شرک پوری دنیا پر چھا جاتا اور پھر کوئی بھی ایسی شمع باقی نہ رہتی جس کے اردگرد ثقلین طواف کرتا۔ اور اس کی نورانیت کے زیر سایہ خدا کی عبادت و پرستش کرتا۔ ہم یہاں پر بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ امام نے اپنی بے نظیر اور عظیم فداکاری کی وجہ سے اس دنیا کے مسلمانوں اور توحید کے متوالوں کو رہنما منت قرار دیا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اسلام و ایمان، امام کی فداکاری و جانثاری کے صدقے میں آج تک باقی ہے۔

جی ہاں، حضرت علی کی فداکاری و جانثاری کے علاوہ آپ کی سخاوت و فیاضی کا یہ عالم تھا کہ عمرو بن عبدود کو قتل کرنے کے بعد اس کی قیمتی زرہ اور لباس کو اس کی لاش کے پاس چھوڑ کر میدان سے واپس آگئے، جب کہ عمرو نے اس کام کی وجہ سے آپ کی ملامت و سرزنش کی، لیکن امام علیہ السلام نے اس کی ملامت و سرزنش پر کوئی توجہ نہ دی۔ اور جب اس کی بہن اس کی لاش کے سراہنے پہنچی تو اس نے کہا کہ ہرگز میں تم پر گریہ نہ کرونگی کیونکہ تو کسی کریم و شریف کے ہاتھوں قتل ہوا ہے (۲) جس نے تیرے قیمتی لباس اور قیمتی اسلحوں تک کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔

(۱) مستدرک حاکم ج ۳ ص ۳۲، بحار الانوار ج ۲۰ ص ۲۱۶

(۲) مستدرک حاکم ج ۳ ص ۳۲، بحار الانوار ج ۲۰ ص ۳۳

## ساتویں فصل

### جنگ خیبر اور اس کے تین اہم امتیازات

کس طرح سے دشمن کی زبان حضرت علی کی عظمت و افتخار کو بیان کرنے لگی اور وہ نشست جو آپ کو برا و ناسزا کہنے کے لئے تیار کی گئی تھی مدح و ستائش میں تبدیل ہو گئی؟  
امام حسن مجتبیٰ - کی شہادت کے بعد معاویہ کو فرصت ملی کہ خود اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کی خلافت کے لئے زمین ہموار کرے اور بزرگ صحابیوں اور رسول کے دوستوں سے جو مکہ اور مدینہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، یزید کی بیعت لے، تاکہ اس کا بیٹا خلیفۃ المسلمین اور پیغمبر کا جانشین معین ہو جائے۔

اسی مقصد کے لئے معاویہ سرزمین شام سے خدا کے گھر کی زیارت کے لئے روانہ ہوا اور اپنے قیام کے دوران حجاز کے دینی مراکز اور رسول خداؐ کے دوستوں سے ملاقاتیں کیں اور جب کعبہ کے طواف سے فارغ ہوا تو "دار الندوہ" جس میں جاہلیت کے زمانے میں قریش کے بزرگ افراد جمع ہوتے تھے، میں تھوڑی دیر آرام کیا اور سعد و قاص اور دوسری اسلامی شخصیتوں سے ملاقات کی جن کی مرضی کے بغیر اس زمانے میں یزید کی خلافت و جانشینی ممکن نہ تھی۔  
وہ اس تخت پر بیٹھا جو دار الندوہ میں اسی کے لئے رکھا گیا تھا اور سعد و قاص کو بھی اپنے ساتھ بیٹھایا۔ اس نے جلسہ کے ماحول کو دیکھا اور امیر المومنین کو برا اور ناسزا کہنے لگا یہ برا کام، اور وہ بھی خدا کے گھر کے پاس، اور وہ بھی اس صحابی پیغمبر کے سامنے جس نے حضرت امیر کی جانثار یوناور قربانیوں کو بہت نزدیک سے دیکھا تھا اور جس کے فضائل و کمالات سے مکمل آگاہ تھا ایسی حرکت کرنا آسان کام نہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ ہی دنوں پہلے کعبہ کے سامنے کعبے کے اندر اور باہر بہت سے باطل خدا پناہ لئے ہوئے تھے اور حضرت علی کے ہاتھوں ہی وہ ہمیشہ کے لئے سرنگوں ہوئے تھے اور اس نے پیغمبر کے حکم سے پیغمبر کے کاندھوں پر قدم رکھا تھا اور ان بتونکو جس کی خود معاویہ اور اس کے باپ دادا بہت زمانے تک عبادت کیا کرتے تھے اسے عزت کے منارے سے ذلت کے گڑھے میں گرایا اور سب کو توڑ ڈالا تھا۔ (۱)

### (۱) مستدرک حاکم ج ۲ ص ۳۶۷، تاریخ الخمیس ج ۲ ص ۹۵

معاویہ چاہتا تھا کہ توحید اور وحدانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے راہ توحید کے بزرگ جانثار، کہ جس کی قربانیوں اور فداکاریوں کے صدقے میں توحید کے درخت نے لوگوں کے دلوں میں وحدانیت کی بنیاد رکھی اور اس کے اثرات مرتب ہو گئے، ایسی شخصیت پر تنقید کرے اور اسے برا اور ناسزا کہے،  
سعد و قاص باطنی طور پر امام کے دشمنوں میں سے تھا اور آپ کے معنوی مقامات اور ظاہری افتخارات سے حسد کرتا تھا۔ جس دن عثمان مصریوں کے ہجوم کی وجہ سے قتل ہوئے سب لوگوں نے تہ دل سے امیر المومنین کو خلافت اور زعامت کے لئے انتخاب کیا۔ سوائے چند افراد کے جنہوں نے آپ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ سعد و قاص بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ جب عمار نے اسے حضرت علی کی بیعت کے لئے دعوت دی تو اس نے بہت خراب جواب دیا۔ عمار نے اس واقعے کو امام کی خدمت میں عرض کیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: حسد نے اس کو میری بیعت اور میرا ساتھ دینے سے روک دیا ہے۔  
سعد، امام علیہ السلام کا اتنا سخت مخالف تھا کہ ایک دن خلیفہ دوم نے شورائے خلافت تشکیل دینے کا حکم دیا اور شوری کے چھ آدمیوں کا خود انتخاب کیا اور سعد و قاص اور عبد الرحمن بن عوف، سعد کا چچا زاد بھائی اور عثمان کا بہنوئی، کو شوری کے عہدہ داروں میں قرار دیا۔ شوری کے علاوہ دوسرے افراد نے بڑی باریک بینی سے کہا کہ عمر، شوری تشکیل دیکر کہ جس میں سعد و عبد الرحمن جیسے افراد بھی شامل ہیں، چاہتا ہے کہ تیسری مرتبہ خلافت کو حضرت علی کے ہاتھوں سے چھین لے اور آخر میں نتیجہ بھی یہی ہوا کہ جس کی پیشنگوئی ہوئی تھی۔

سعد نے، امام علیہ السلام سے عداوت و دشمنی رکھنے کے باوجود جب دیکھا کہ معاویہ، علی - کو برے اور نازیبا الفاظ سے یاد کر رہا ہے تو تلملا اٹھا اور معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

مجھے اپنے تخت پر بٹھا کر میرے سامنے علی کو برا کہتا ہے؟ خدا کی قسم اگر ان تین فضیلتوں میں سے جو علی کے پاس تھیں ایک بھی فضیلت میرے پاس ہوتی تو اس سے بہتر ہوتی کہ وہ ساری چیزیں جن پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں میری ملکیت میں ہوتیں۔

۱۔ جس دن پیغمبر نے مدینے میں اسے اپنا جانشین بنایا اور خود جنگ تبوک پر چلے گئے اور علی سے اس طرح فرمایا:

تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہی ہے جیسے بارون کو موسیٰ سے تھی سوائے اس کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔  
۲۔ جس دن نصارائے نجران کے ساتھ مقابلہ تھا تو پیغمبر نے علی، فاطمہ، حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور کہا: پروردگارا یہی میرے اہلبیت ہیں۔

۳۔ جس دن مسلمانوں نے یہودیوں کے اہم ترین قلعہ خیبر کے بعض حصوں کو فتح کیا تھا لیکن قلعہ "قموص" جو سب سے بڑا قلعہ اور یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا آٹھ دن تک اسلامی فوج کے محاصرے میں تھا اور اسلام کے مجاہدین میں اسے فتح کرنے اور کھولنے کی صلاحیت نہ تھی، اور رسول اسلام کے سر میں اتنا شدید درد تھا کہ وہ بہ نفس نفیس جنگ میں حاضر نہیں ہوسکتے تھے تاکہ فوج کی سپہ سالاری اپنے ہاتھوں میں لیتے، روزانہ آپ عَلم کو لیتے اور فوج کے بزرگوں کو دیتے تھے اور وہ سب کے سب بغیر نتیجہ کے واپس آجاتے تھے۔ ایک دن عَلم کو ابوبکر کے ہاتھ میندیا پھر دوسرے دن عمر کو دیا لیکن دونوں کسی شجاعت کا مظاہرہ کئے بغیر رسول خدا کی خدمت میں واپس آگئے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اس طرح کی ناکامی پیغمبر خدا کے لئے بہت سخت تھی، لہذا آپ نے فرمایا:  
"کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو ہرگز جنگ کرنے سے فرار نہیں کرے گا اور دشمن کو اپنی پیٹھ نہیں دکھائے گا اور اس کو خدا اور رسول خدا دوست رکھتے ہونگے اور خداوند عالم اس قلعہ کو اس کے ہاتھوں سے فتح کرائے گا"  
جب پیغمبر کی بات کو حضرت علی سے نقل کیا گیا تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا "اللَّهُمَّ لِمَا مَنَعْتَ وَ لِمَا مَنَعْتَ لِمَا أَعْطَيْتَ" یعنی پروردگارا، جو کچھ عطا کرے گا اسے کوئی لینے والا نہیں ہے اور جو کچھ تو نہیں دے گا اس کا دینے والا کوئی نہ ہوگا۔

(سعد کا بیان ہے) جب سورج نکلا تو اصحاب پیغمبرؐ آپ کے خیمے کے اطراف میں جمع ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ یہ افتخار رسول کے کس صحابی کو نصیب ہوتا ہے جب پیغمبر خیمے سے باہر آئے سب سر اٹھا اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگے میں (سعد) پیغمبر کے بغل میں کھڑا تھا کہ شاید اس افتخار کا مصداق میں بن جاؤں، اور شیخین سب سے زیادہ خواہشمند تھے کہ یہ افتخار ان کو نصیب ہو جائے۔ اسی اثناء میں پیغمبر نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے حضرت سے کہا: وہ آشوب چشم کی وجہ سے آرام کر رہے ہیں۔ پیغمبر کے حکم سے سلمہ بن اکوع حضرت علی کے خیمے میں گئے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر پیغمبر کی خدمت میں لائے۔ پیغمبر نے ان کے حق میں دعا کی اور آپ کی دعا ان کے حق میں مستجاب ہوئی اس وقت پیغمبر نے اپنی زرہ حضرت علی کو پہنایا، دو الفقار ان کی کمر میں باندھا اور علم ان کے ہاتھوں میں دیا اور فرمایا کہ جنگ کرنے سے پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا، اور اگر یہ قبول نہ کریں تو ان تک یہ پیغام دینا کہ اگر وہ چاہیں تو اسلام کے پرچم تلے جز یہ دیں اور اسلحہ اتار کر آزادانہ زندگی بسر کریں۔ اور اپنے مذہب پر باقی رہیں۔ اور اگر کسی چیز کو قبول نہ کریں تو پھر ان سے جنگ کرنا، اور جان لو کہ جب بھی خداوند عالم تمہارے ذریعے کسی کی راہنمائی کرے اس سے بہتر یہ ہے کہ سرخ بالوں والے اونٹ تمہارا مال ہوں اور رانہیں خدا کی راہ میں خرچ کر دو۔ (۱)  
سعد بن وقاص نے ان واقعات کو جن کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے مختصر طور پر بیان کیا اور احتجاج کے طور پر معاویہ کی مجلس ترک کر دی۔

(۱) صحیح بخاری ج ۵ ص ۲۳۔ ۲۲، صحیح مسلم ج ۷ ص ۱۲۰، تاریخ الخمیس ج ۲ ص ۹۵، قاموس الرجال ج ۴ ص ۳۱۴ منقول از مروج الذهب۔

خیبر میں اسلام کی تابناک کامیابی

اس مرتبہ بھی مسلمانوں نے حضرت امیر المومنین کی جانثاریوں کے طفیل عظیم الشان کامیابی و فتح حاصل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام کو "فاتح خیبر" کہتے ہیں۔ جب امام ایک گروہ کے ساتھ جو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا قلعہ کے پاس پہنچے تو آپ نے علم کو زمین (پتھر) میں نصب کر دیا، اس وقت قلعہ میں موجود تمام سپاہی باہر چلے گئے۔ مرحب کا بھائی حارث نعرہ لگاتا ہوا حضرت علی کی طرف دوڑا اس کا نعرہ اتنا شدید تھا کہ جو سپاہی حضرت علی کے ہمراہ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور حارث نے بھوکے شیر کی طرح حضرت علی پر حملہ کیا لیکن کچھ ہی دیر گزری ہو گی کہ اس کا بے جان جسم زمین پر گر پڑا۔  
بھائی کی موت نے مرحب کو بہت زیادہ متاثر کیا، وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لئے حضرت علی کے سامنے میدان میں



آیا، وہ اسلحوں سے لیس تھا۔ لوہے کی بہترین زرہ اور پتھر کا خود اپنے سر پر رکھے تھا اور ایک اور خود اس کے اوپر سے پہن رکھا تھا، دونوں طرف سے رجز پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسلام و یہودی کے دو بہادروں کی تلوار اور نیزے کی آواز نے دیکھنے والوں کے دلوں میں عجیب وحشت ڈال رکھی تھی اچانک اسلام کے جانباز کی برق شرر بار تلوار مرحب کے سر سے داخل ہوئی اور اس کو دو ٹکڑے کرتے ہوئے زمین پر گرا دیا۔ یہودی بہادر کا جو مرحب کے پیچھے کھڑے تھا وہ بھاگ گیا اور وہ گروہ جو حضرت علی سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا ان لوگوں نے فرداً فرداً جنگ کیا اور سب کے سب ذلت کے ساتھ قتل ہو گئے۔

اب وہ وقت آپہنچا کہ امام قلعہ میں داخل ہوں مگر بند دروازہ امام اور سپاہیوں کے لئے مانع ہوا۔ غیبی طاقت سے آپ نے باب خبیر کو اپنی جگہ سے اکھاڑا اور سپاہیوں کے داخل ہونے کے لئے راستہ ہموار کر دیا اور اس طرح سے فساد و بربریت کے آخری گھر کو اجاڑ دیا اور مسلمانوں کو اس شریر اور خطرناک عناصر جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے دل میں رکھتے یا رکھے ہیں آسودہ کر دیا۔ (۱)

(۱) محدثین اور سیرت لکھنے والوں نے فتح خبیر کی خصوصیات اور امام کے قلعہ میں داخل ہونے اور اس واقعہ کے دوسرے حادثات کو بہت تفصیل سے لکھا ہے دلچسپی اور تفصیلات کے خواہشمند افراد ان کتابوں کی طرح مراجعہ کریں جو سیرت پیغمبر پر لکھی گئی ہیں۔

امیر المؤمنین - کی رسول اکرم ﷺ سے نسبت

ابھی ہم نے حضرت علی کی تین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جو سعد بن وقاص نے معاویہ کے سامنے بیان کی تھی کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، اس لئے بہتر ہے کہ باقی ان دو فضیلتوں کو بھی بطور خلاصہ بیان کر دیں۔

تمام افتخارات میں سے ایک افتخار امام کے لئے یہ بھی ہے کہ تمام جنگوں میں آپ پیغمبر کے ساتھ ساتھ اور ہمیشہ لشکر کے علمبردار رہے سوائے جنگ تبوک کے، کیونکہ آپ پیغمبر کے حکم سے مدینہ میں موجود تھے اور پیغمبر اسلام منافقوں کے ارادے سے باخبر تھے کہ میرے مدینے سے نکلنے کے بعد یہ لوگ مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت علی سے فرمایا: تم میرے اہلبیت اور رشتہ داروں اور گروہ مہاجرین کے سرپرست ہو۔ اور میرے اور تمہارے علاوہ اس کام کے لئے کوئی دوسرا لیاقت نہیں رکھتا۔

حضرت علی کے مدینے میں قیام کی وجہ سے منافقوں کے ارادوں پر پانی پھر گیا، لہذا منافقوں نے ہر جگہ یہ افواہ اڑا دی کہ پیغمبر اور حضرت علی کے درمیان کشیدگی ہے اور حضرت علی نے راستے کی دوری اور شدید گرمی کی وجہ سے خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے دوری اختیار کر لی ہے۔

ابھی پیغمبر مدینے سے زیادہ دور نہیں ہوئے تھے کہ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی، امام علی - ان کی تہمت کا جواب دینے کے لئے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور حضرت سے پورا ماجرا بیان کیا۔ پیغمبر نے اپنے اس تاریخی جملے (کہ جس کی سعد بن وقاص نے خواہش کی تھی کہ کاش اس کے بارے میں کہا جاتا) سے حضرت کو تسلی دی اور فرمایا:

"اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی"

کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی؟ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (۱)

اس حدیث، جسے دانشمندیوں کی اصطلاح میں، حدیث "منزلت" کہتے ہیں، نے تمام وہ منصب جو ہارون کے پاس تھے حضرت علی کے لئے ثابت کر دیا سوائے نبوت کے کیونکہ نبوت کا باب ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔

یہ حدیث اسلام کی متواتر حدیثوں میں سے ایک ہے جسے محدثین اور مؤرخین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے:-

حضرت علی کی تیسری عظیم فضیلت جسے سعد بن وقاص نے بیان کیا ہے وہ پیغمبر کا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، ان لوگوں نے پیغمبر سے مسیحیت کے باطل عقیدوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن مقابلہ کے لئے اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا۔

مقابلہ کا وقت آیا پیغمبر نے اپنے اعزاء میں سے صرف چار آدمیوں کا انتخاب کیا تاکہ اس تاریخی واقعے میں شرکت کریں



اور یہ چار افراد سوائے حضرت علی اور آپ کی بیٹی فاطمہ اور حسن و حسین کے کوئی اور نہ تھا۔ کیونکہ تمام مسلمانوں کے درمیان ان سے زیادہ کوئی پاک و پاکیزہ اور ایمان میں محکم نہینتھا۔ پیغمبر اسلام میدان مباحلہ میں عجب شان سے آئے اپنی آغوش میں امام حسین کو لئے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سے امام حسن کی انگلیاں پکڑے تھے اور فاطمہ اور حضرت علی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے ہمرابیوں سے کہا میں جب بھی دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔

(۱) سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۵۲۰، بحار الانوار ج ۲۱ ص ۲۰۷، مرحوم شرف الدین نے اپنی کتاب "المراجعات" میں اس حدیث کے تمام ماخذ کو ذکر کیا ہے۔

پیغمبر کا نورانی چہرہ اور چار افراد کا چہرہ جن مینتین آپ کے شجرہ مقدس کی شاخیں تھیں، نے ایسا ولولہ پیدا کر دیا کہ نجران کے عیسائی مہبوت ہو گئے عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بددعا کر دیں تو یہ بیابان بھڑکتے ہوئے جہنم میں تبدیل ہو جائے اور یہ عذاب وادی نجران تک پہنچ جائے لہذا انہوں نے مباحلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔  
عائشہ کہتی ہیں:

مباحلہ کے دن پیغمبرؐ اپنے چار ہمرابیوں کو اپنی کالی عبا کے دامن میں چھپایا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی:  
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)

زمخشری کہتے ہیں:

مباحلہ کا واقعہ اور اس آیت کا مفہوم یہ دونوں اصحاب کساء کی فضیلت پر بہت بڑے گواہ ہیں اور مذہب اسلام کی حقانیت پر ایک اہم سند اور زندہ مثال شمار ہوتے ہیں۔ (۱)

(۱) کشف ج ۱ ص ۲۸۲-۲۸۳، تفسیر امام رازی ج ۲ ص ۴۷۱-۴۷۲

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### اٹھویں فصل

دشمنوں کے ساتھ انصاف سے پیش آنا

پیغمبر اسلامؐ فرماتے ہیں: "علی - احکام خداوندی کے جاری کرنے میں بہت زیادہ غور و فکر اور سختی سے عمل کرتے تھے اور ہرگز ان کی زندگی میں چاپلوسی اور خوشامدی کا دخل نہیں تھا"

جو لوگ اپنی زندگی میں پاکیزہ مقصد کی تلاش میں رہتے بنوہ دن رات اس کی تلاش و جستجو کرتے رہتے ہیں، اور ان چیزوں کے مقابلے میں جو ان کے ہدف کی مخالف ہوں ان سے بے توجہ بھی نہیں رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہدف تک پہنچنے میں جو راستہ طے کرتے ہیں اس میں بعض محبت و الفت کرنے والے ملتے ہیں تو بعض عداوت و دشمنی کرتے ہیں۔ پاک دل اور روشن ضمیر ان کی عدالت پختہ گیری پر فریفتہ ہوئے ہیں لیکن غافل اور غیر متدین افراد ان کی سختی اور عدالت سے ناراض ہوتے ہیں۔

وہ لوگ جو اچھے اور برے کام انجام دیتے ہیں اور مسلمان اور غیر مسلمان کو ایک ہی صف میں رکھتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی کی مخالفت مول لیں ایسے لوگ کبھی مذہبی اور بامقصد نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ تمام طبقوں کے ساتھ اتحاد

و دوستی، منافقت اور دو رخی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے علاقہ کے حاکم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تمام طبقے کے لوگ اس سے راضی ہیں۔ امام نے فرمایا: لگتا ہے کہ وہ شخص عادل نہیں ہے کیونکہ تمام لوگوں کا راضی ہونا اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ وہ منافق اور صحیح فیصلہ کرنے والا نہیں ہے ورنہ تمام لوگ اس سے راضی نہ ہوتے۔

امیر المومنین علیہ السلام ان لوگوں میں سے ان ہیں جو صلح و آشتی کرنے والوں سے مہر و محبت اور پاکیزہ و صاف دلوں کو بلندی عطا کرتے تھے اور اسی کے مقابلے میں غیظ و غضب کی آگ میں جلنے والوں اور قانون توڑنے والوں کو انہیں کے سینے میں ڈال دیا کرتے تھے۔

امام عدالت کی رعایت اور اصول و قوانین پر سختی سے عمل کرنا صرف آپ کی حکومت کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے اگرچہ بہت سے مؤرخین اور مقررین جب امام کی پاکیزگی اور عدالت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو اکثر آپ کی حکومت کے دوران رونما ہونے والے واقعات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ کی حکومت کے زمانے میں یہ عظیم انسانی فضیلت بہت زیادہ رائج تھی، مگر امام کا عدالت و انصاف اور قوانین پر سختی سے عمل پیرا ہونا رسول اسلام کے زمانے سے ہی ہر خاص و عام کی زبان پر تھا، اس بنا پر وہ لوگ جو امام کی عدالت و انصاف کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ گاہے بہ گاہے پیغمبر سے حضرت علی کی شکایت کرتے تھے اور ہمیشہ پیغمبر اس کے برعکس کہتے تھے اور کہتے تھے علی قانون الہی کے اجراء میں کسی کی رعایت نہیں کرتا۔

زمانہ پیغمبر میں آپ سے متعلق چند واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم یہاں بطور مثال دو واقعات کو نقل کر رہے ہیں:

۱- ۱۰ھ میں جب پیغمبر اسلام نے خانہ خدا کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی کو مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ "یمن" بھیج دیا۔ پیغمبر نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ جب یمن سے واپس آئیں تو وہ کپڑے جسے نجران کے عیسائیوں نے مبادلہ کے دن دینے کا وعدہ کیا تھا اسے اپنے ہمراہ لائیں اور اسے آپ کے پاس پہنچا دیں، آپ کو ماموریت انجام دینے کے بعد معلوم ہوا کہ پیغمبر خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اس لئے آپ نے راستے کو بدل دیا اور مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ نے مکہ کے راستے کو بہت تیزی کے ساتھ طے کیا، تاکہ جلد سے جلد پیغمبر کے پاس پہنچ جائیں۔ اسی وجہ سے ان تمام کپڑوں کو اپنے لشکر کے ایک سپہ سالار کے حوالے کر دیا اور اپنے سپاہیوں سے الگ ہو گئے اور مکہ سے نزدیک پیغمبر کے پاس پہنچ گئے۔ پیغمبر اپنے بھائی کے دیدار سے بہت زیادہ خوشحال ہوئے اور جب احرام کے لباس میں دیکھا تو آپ سے احرام کی نیت کے متعلق حضرت علی نے جواب دیا: مینے احرام پہنتے وقت کہا تھا خدایا میں اسی نیت پر احرام باندھ رہا ہوں جس نیت پر پیغمبر نے احرام باندھا ہے۔

حضرت علی نے اپنے یمن اور نجران کے سفر اور وہ کپڑے جو لے کر آئے تھے، سے پیغمبر کو مطلع کیا اور پھر پیغمبر کے حکم سے اپنے سپاہیوں کے پاس واپس چلے گئے تاکہ دوبارہ ان کے ساتھ مکہ واپس جائیں۔

جب امام اپنے سپاہیوں کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جانشین سپہ سالار نے تمام کپڑوں کو سپاہیوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور تمام سپاہیوں نے ان کپڑوں کو احرام بنا کر پہن لیا ہے۔ حضرت علی اپنے سپہ سالار کے اس عمل پر بہت سخت ناراض ہوئے اور اس سے کہا: ان کپڑوں کو رسول خدا کے سپرد کرنے سے پہلے تم نے کیوں سپاہیوں میں تقسیم کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے سپاہیوں نے بہت اصرار کیا کہ میں کپڑے کو ان لوگوں کے درمیان بطور امانت تقسیم کر دوں اور حج کی ادائیگی کے بعد سب سے واپس لے لوں۔

حضرت علی نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ تمہیں یہ اختیار نہیں تھا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ تمام تقسیم ہوئے کپڑوں کو جمع کرو، تاکہ مکہ میں پیغمبر کے سپرد کریں۔ (۱)

وہ گروہ جنہیں عدالت و انصاف اور منظم و مرتب رہنے سے تکلیف ہوتی ہے وہ ہمیشہ تمام امور کو اپنے اعتبار سے جاری کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے اور حضرت علی کے نظم و ضبط اور سخت گیری کی شکایت کی، لیکن وہ لوگ اس نکتہ سے بے خبر تھے کہ اس طرح سے قانون شکنی اور بے جا خلاف ورزی ایک بڑی قانون شکنی اور خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔

حضرت علی کی نظر میں ایک گناہگار شخص (خصوصاً وہ گناہگار جو اپنی لغزشوں کو بہت چھوٹا تصور کرے) اس سوار کی طرح ہے جو ایک سرکش اور بے لگام گھوڑے پر سوار ہو۔ تو یقیناً وہ گھوڑا اپنے سوار کو گڑھوں اور پتھروں پر گرا دے گا۔ (۲)

امام علیہ السلام کا مقصد اس تشبیہ سے یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ چاہے جتنا ہی چھوٹا کیونکہ ہوا اگر اس کو نظر انداز کر دیا

جائے تو دوسرے گناہوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے اور جب تک انسان کو گناہ کا مرتکب نہیں کر دیتا اور آگ میں نہیں ڈال دیتا اس سے دوری اختیار نہیں کر پاتا۔ اسی وجہ سے انسان کے لئے ضروری ہے کہ شروع سے ہی اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اور اسلامی اصول و قوانین کی معمولی مخالفت سے پرہیز کرے۔ پیغمبر اسلام ﷺ نے جو حضرت علی کے تمام کام اور ان کی عدالت سے مکمل طور پر باخبر تھے، اپنے کسی ایک صحابی کو بلایا اور اس سے کہا کہ شکایت کرنے والوں کے پاس جاؤ اور میرے اس پیغام کو ان تک پہنچا دو۔

(۱) بحار الانوار ج ۲۱ ص ۳۸۵  
(۲) اَلَا وَ اِنَّ الْخَطَايَا حَيْلُ شَمْسٍ حَمَلٌ عَلَيَّهَا اَبْلَهَا وَ خَلَعَتْ لِجَمْهَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِنَّ فِى النَّارِ نِهْجِ الْبِلَاغِ خُطْبَه ۱۴ .

" علی کی برائی کرنے سے باز آجاؤ کیونکہ وہ خدا کے احکام کو جاری کرنے میں بہت سخت ہے اور اس کی زندگی میں ہرگز چالپوسی اور خوشامد نہیں پائی جاتی۔  
۲۔ خالد بن ولید قریش کا ایک بہادر سردار تھا۔ اس نے ۷ھ میں مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگا۔ مگر اس کے پہلے کہ وہ قوانین الہی پر عمل پیرا ہوتا، اسلام کی نو بنیاد حکومت کو گرانے کے لئے قریش کی طرف سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں شریک رہا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے جنگ احد میں مسلمانوں پر رات میں چھپ کر حملہ کیا اور ان کی فوج کی پشت سے میدان جنگ میں وارد ہوا۔ اور اسلام کے مجاہدوں پر حملہ کیا۔ اس شخص نے اسلام لانے کے بعد بھی حضرت علی سے عداوت و دشمنی کو فراموش نہیں کیا اور امام کی قدرت و طاقت و بہادری سے ہمیشہ حسد کرتا رہا۔ پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد خلیفہ وقت سے حضرت علی کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن کسی علت کی بنا پر کامیاب نہ ہوسکا۔ (۱)  
احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند میں تحریر کرتے ہیں:

پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو اسی گروہ کے ساتھ کہ جس میں خالد بھی موجود تھا یمن بھیجا، اسلام کی فوج سے یمن کے ایک مقام پر قبیلہ بنی زید سے جنگ ہوئی اور دشمنوں پر کامیابی حاصل کر لی اور کچھ مال غنیمت ہاتھ لگا۔ امام نے عدالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مال غنیمت تقسیم کر دیا اور یہ روش خالد بن ولید کی رضایت کے برخلاف تھی۔ اس نے پیغمبر اسلام اور حضرت علی کے درمیان سوء تقابل پیدا کرنے کے لئے خط لکھا اور اسے بریدہ کے حوالے کیا تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو پیغمبر تک پہنچا دے۔  
بریدہ کہتا ہے:

میں بہت تیزی کے ساتھ مدینہ پہنچا اور اس نامہ کو پیغمبر ﷺ کے حوالے کیا، حضرت نے اس نامہ کو اپنے کسی ایک صحابی کو دیا تاکہ وہ پڑھے اور جب وہ نامہ پڑھ چکا تو مینے اچانک پیغمبر کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار دیکھا۔ بریدہ کہتا ہے کہ میں اس طرح کا خط لاکر بہت شرمندہ ہوا اور عذر خواہی کے لئے کہا کہ خالد کے حکم

(۱) اس واقعہ کی تشریح زندگانی امیر المومنین کے چوتھے حصے میں آئی ہے جو حصہ مخصوص ہے امام کی زندگی کے حالات پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد سے۔

سے میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اس کے حکم کی پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں خاموش ہو گیا تو کچھ دیر کے لئے سکوت طاری رہا۔ اچانک پیغمبر ﷺ نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا:

علی - کے بارے میں بری باتیں نہ کہو " فَإِنَّهُ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ هُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي " (وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے بعد تمہارے ولی و حاکم ہیں)

بریدہ کہتا ہے کہ میں اپنے کئے پر بہت نادم تھا چنانچہ رسول خدا سے استغفار کی درخواست کی۔ پیغمبر نے کہا جب تک علی نہ آئیں اور اس کے لئے رضایت نہ دیں میں تیرے لئے استغفار نہیں کروں گا۔ اچانک حضرت علی پہنچے اور میں نے ان سے درخواست کی کہ پیغمبر سے میری سفارش کر دیں کہ وہ میرے لئے استغفار کریں۔ (۱)  
اس روداد کی وجہ سے بریدہ نے اپنی دوستی کو خالد سے ختم کر لیا اور صدق دل سے حضرت علی سے محبت کرنے لگا اور پیغمبر کی رحلت کے بعد اس نے ابوبکر کی بیعت بھی نہ کی اور ان بارہ آدمیوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ابوبکر

کے اس عمل پر اعتراض کیا اور انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ (۲)

(۱) اسد الغابہ ج ۱ ص ۱۷۶، والدرجات الرفیعیہ ص ۴۰۱  
(۲) رجال مامقانی ج ۱ ص ۱۹۹ منقول از احتجاج .

## نویں فصل

پیغمبر اسلام ﷺ کا مخصوص نمائندہ و سفیر

"حضرت علی نے خدا کے حکم سے سورہ برائت اور وہ مخصوص حکم جو بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے تھا حج کے موقع پر تمام عرب قبیلے کے سامنے پڑھا، اور اس کام کے لئے پیغمبر کی جگہ اور جانشینی کا منصب حاصل کیا" تاریخ اسلام اس بات کی حکایت کرتی ہے کہ جس دن پیغمبر ﷺ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اسی دن اپنی رسالت کے اعلان کے بعد فوراً علی کی خلافت و جانشینی کا اعلان کیا۔

پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کے تیس سالہ دور میں کبھی کنایہ کے طور پر تو کبھی اشارے کے ذریعے اور کبھی واضح طور پر امت کی رہبری اور حکومت کے لئے حضرت علی کی لیاقت و شائستگی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور جن لوگوں کے متعلق ذرہ برابر بھی یہ احتمال پایا جاتا تھا کہ وہ پیغمبر کے بعد حضرت علی کی مخالفت کریں گے ان کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔

تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب قبیلہ بنی عامر کے رئیس نے پیغمبر سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے قوانین کا بہت سختی سے دفاع کروں گا بشرطیکہ آپ اپنے بعد حکومت کی ذمہ داری مجھے سونپ دیں تو پیغمبر نے اس کے جواب میں فرمایا: "الامر الی اللہ یضعہ حیث شائ" (۱)

یعنی یہ خدا کے اختیار میں ہے وہ جس شخص کو بھی اس کام کے لئے منتخب کرے وہی میرا جانشین ہوگا۔ جس وقت حاکم یمامہ نے بھی قبیلہ بنی عامر کے رئیس کی طرح سے پیغمبر سے خواہش ظاہر کی، اس وقت بھی پیغمبر کو بہت برالگا اور آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ سے مارا۔ (۲)

اس کے علاوہ بھی پیغمبر اسلام نے متعدد مقامات پر مختلف عبارتوں کے ذریعے حضرت علی کو اپنی جانشینی کے عنوان سے پہنچوایا ہے اور اس طرح امت کو متنبہ و متوجہ کیا ہے کہ خدا نے حضرت علی کو ہمارا وصی اور خلیفہ منتخب کیا ہے اور اس کام میں پیغمبر کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ نمونہ کے طور پر چند موارد یہاں پر ذکر کر رہے ہیں:

(۱) تاریخ طبری ج ۸ ص ۸۴، تاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۶۵  
(۲) طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۶۲

۱۔ آغاز بعثت میں، جب خدا نے پیغمبر کو حکم دیا کہ اپنے اعزا و احباب اور رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینتو آپ نے اسی جلسہ میں حضرت علی کو اپنے بعد اپنا وصی و خلیفہ قرار دیا۔

۲۔ جب پیغمبر اسلام جنگ تبوک کے لئے روانہ ہوئے تو اپنے سے حضرت علی کی نسبت کو بیان کیا یعنی وہ نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے تھی وہی نسبت میرے اور علی کے درمیان ہے اور جتنے منصب ہارون کے پاس تھے سوائے نبوت کے، وہ سب منصب علی کے پاس بھی ہیں۔

۳۔ بریدہ اور دوسری اسلامی شخصیتوں سے کہا کہ علی میرے بعد سب سے بہترین حاکم ہے۔

۴۔ غدیر خم کے میدان میں اور ۸۰ ہزار (یا اس سے زیادہ) کے مجمع میں حضرت علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے لوگوں کو پہنچوایا اور لوگوں کو اس مسئلے سے آگاہ کیا۔

اس کے علاوہ اکثر مقامات پر پیغمبر نے سیاسی کاموں کو حضرت علی کے سپرد کر دیا اور اس طرح سے اسلامی معاشرہ کے ذہنوں کو حضرت علی کی حکومت کی طرف مائل کیا۔ مثال کے طور پر درج ذیل واقعہ کا تجزیہ کرتے ہیں۔

۲۰ سال سے زیادہ عرصہ گزر ا ہوا کہ شرک اور دوگانہ پرستی کے بارے میں اسلام کا نظریہ حجاز کی سرزمین اور

عرب کے مشرک قبیلوں تک پہنچ گیا تھا اور بتوں اور بت پرستوں کے بارے میں ان میں سے اکثر اسلامی نظریئے سے واقف ہو گئے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ بت پرستی بزرگوں کے باطل عمل کی پیروی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ان کے باطل خدا اتنے ذلیل و خوار ہیں کہ صرف دوسروں کے امور انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے ضرر کو بھی اپنے سے دور نہیں کر سکتے اور نہ خود کو ہی نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اس طرح کے عاجز و مجبور خدا تعریف و خضوع کے لائق نہیں ہیں۔

دوسرا گروہ جس نے صدق دل اور بیدار ضمیر کے ساتھ پیغمبر کے کلام کو سنا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں کافی مستحکم تبدیلیاں پیدا کر لی تھیں، اور بت پرستی چھوڑ کر خدا کی وحدانیت کو قبول کر لیا تھا خصوصاً جس وقت پیغمبر نے مکہ فتح کیا اور مذہبی مقرین کو موقع مل گیا کہ وہ آزادی سے اسلام کی تبلیغ و نشر و اشاعت کریں تو کچھ لوگوں نے بتوں کو توڑ ڈالا اور رتوحید کی آواز حجاز کے اکثر مقامات پر گونج اٹھی۔

لیکن متعصب اور بیوقوف لوگ جنہیں اپنی دیرینہ عادتوں کے ختم کرنے میں بہت دشواری تھی وہ کشمکش کے عالم میں تھے اور اپنی بری عادتوں سے باز نہ آنے اور خرافات و بدبختی کی پیروی کرتے رہے۔ اب وہ وقت آگیا تھا کہ پیغمبر اسلام ہر طرح کی بت پرستی اور غیر انسانی کاموں کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے ختم کر دیں۔ اور طاقت کے ذریعے بت پرستی کو جو معاشرے کو برباد اور اجتماعی و اخلاقی اعتبار سے فاسد کر رہے ہیں اور حریم انسانیت کے لئے کل بھی نقصان دہ تھے (اور آج بھی ہیں) اسے جڑ سے اکھاڑ دیں اور خدا اور اس کے رسول سے بیزاری و دوری کو منیٰ کے میدان میں قریبان کے دن اس عظیم و بزرگ اجتماع میں جس میں حجاز کے تمام افراد جمع ہوتے ہیں اعلان کریں۔ اور خود پیغمبر یا کوئی اور سورہ برائت کے پہلے حصے کو جس میں خدا اور پیغمبر کی مشرکوں سے بیزاری کا تذکرہ ہے۔ اس بڑے مجمع میں پڑھے اور بلند ترین آواز سے حجاز کے بت پرستوں میں اعلان کرے کہ چار مہینے کے اندر اپنی وضعیت کو معین کریں کہ اگر مذہب توحید کو قبول کر لیں تو مسلمانوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے اور دوسروں کی طرح یہ لوگ بھی اسلام کے مادی اور معنوی چیزوں سے بہرہ مند ہو ئیں گے۔ لیکن اگر اپنی دشمنی اور ہٹ دھرمی پر باقی رہے تو چار مہینہ گزرنے کے بعد جنگ کے لئے آمادہ رہیں اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جہاں بھی گرفتار ہوئے قتل کر دیئے جائیں گے۔

سورہ برائت اس وقت نازل ہوا جب پیغمبر نے حج میں نہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا کیوں کہ گذشتہ سال جو فتح مکہ کا سال تھا مراسم حج میں شرکت کیا تھا اور ارادہ کیا تھا کہ آئندہ سال کہ جسے بعد میں "حجۃ الوداع" کہا جائے گا اس حج میں شرکت کریں۔ اس لئے ضروری تھا کہ کسی کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لئے منتخب کریں۔ سب سے پہلے آپ نے ابوبکر کو بلایا اور سورہ برائت کے ابتدائی کچھ حصے کی تعلیم دی اور انہیں چالیس آدمیوں کے ساتھ مکہ روانہ کیا تاکہ عید قریبان کے دن لوگوں کے سامنے ان آیتوں کو پڑھیں۔

ابوبکر ابھی مکہ کے راستے ہی میں تھے کہ اچانک وحی الہی کا نازل ہوئی اور پیغمبر کو حکم ہوا کہ اس پیغام کو خود یا جو آپ سے ہو وہ لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ ان دو کے علاوہ کوئی اور اس پیغام کے پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ (۱)

(۱) "لَا يُؤَدِّبُهَا عَنكَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِّنْكَ" اور بعض روایتوں میں اس طرح ہے "او رجل من اہل بیتک" سیرۃ ابن ہشام ج ۴ ص ۴۵ وغیرہ

اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شخص جو وحی کے اعتبار سے پیغمبر کے اہلبیت میں سے ہے اور اتنی شانستگی و لیاقت رکھتا ہے وہ کون ہے؟

تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ پیغمبر اسلامؐ نے حضرت علیؑ کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور ابوبکر سے راستے میں ملاقات کرو اور ان سے آیات برائت کو لے لو اور ان سے کہہ دو کہ اس کام کی انجام دہی کے لئے وحی الہی نے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ ان آیتوں کو یا خود یا ان کے اہلبیت کی ایک فرد لوگوں کو پڑھ کر سنائے، اس وجہ سے یہ ذمہ دار مجھے سونپی گئی ہے۔

حضرت علیؑ، پیغمبرؐ کے اونٹ پر سوار ہو کر جابر اور آپ کے دوسرے صحابیوں کے ہمراہ مکہ کے لئے روانہ ہو گئے اور حضرت کے پیغام کو ابوبکر تک پہنچایا، انہوں نے بھی (سورہ برائت کی) آیتوں کو حضرت علیؑ کے سپرد کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو جمرہ عقبہ کے اوپر کھڑے ہو کر بلند آواز

سے سورہ برائت کی تیرہ آیتوں کی تلاوت کی، اور چار مہینے کی مہلت جو پیغمبر نے دی تھی بلند آواز سے تمام شرکت کرنے والوں کے گوش گزار کیا۔ تمام مشرکین سمجھ گئے کہ صرف چار مہینے کی مہلت ہے جس میں ہمیں اسلامی حکومت کے ساتھ اپنے رابطے کو واضح کرنا ہے۔ قرآن کی آیتیں اور پیغمبر اسلام ﷺ کے پیغام نے مشرکین کی فکروں پر عجیب اثر ڈالا اور ابھی چار مہینے بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ مشرکین نے جوق در جوق مذہب توحید کو قبول کر لیا اور ابھی دسویں ہجری بھی تمام نہ ہوئی تھی کہ پورے حجاز سے شرک کا خاتمہ ہو گیا۔

بے جا تعصب

جب ابوبکر اپنی معزولی سے باخبر ہوئے تو ناراضگی کے عالم میں مدینہ واپس آگئے اور گلہ و شکوہ کرنے لگے اور پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کر کہا: مجھے آپ نے اس کام (آیات الہی کے پہنچانے اور قطعنامہ کے پڑھنے) کے لئے لائق و شائستہ جانا، مگر زیادہ دیر نہ گزری کہ آپ نے مجھے اس مقام و منزلت سے دور کر دیا، کیا اس کے لئے خدا کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے؟

پیغمبر نے شفقت بھرے انداز سے فرمایا کہ وحی الہی کا نمائندہ آیا اور اس نے کہا: میرے یا وہ شخص جو مجھ سے ہے کے علاوہ کوئی اور اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ (۱)

بعض متعصب مؤرخین جو حضرت علی کے فضائل کے تجزیہ و تحلیل میں بہت زیادہ منحرف ہوئے ہیں، ابوبکر کے اس مقام سے معزول ہونے اور اسی مقام پر حضرت علی کے منصوب ہونے کی اس طرح سے توجیہ کی ہے کہ ابوبکر شفقت و مہربانی کے مظہر اور حضرت علی بہادری و شجاعت کے مظہر تھے اور الہی پیغام کے پہنچانے اور قطعنامہ کے پڑھنے میں بہادر دل اور قدرت مند روح کی ضرورت تھی اور یہ صفات حضرت علی کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ یہ توجیہ: ایک بے جا تعصب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پیغمبر نے اس عزل و نصب کی علت کی دوسرے انداز سے تفسیر کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کام کے لئے میرے اور وہ شخص جو مجھ سے ہے کے علاوہ کوئی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میناس واقعہ کا دوسرے طریقے سے تجزیہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی چاہتا تھا کہ کسی عہد و پیمانہ کو توڑ دے تو اس نقض (عہد و پیمانہ کے توڑنے) کو خود وہ شخص یا اسی کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک شخص انجام دیتا ہے ورنہ عہد و پیمانہ خود اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے اسی وجہ سے حضرت علی اس کام کے لئے منتخب ہوئے۔

اس توجیہ کا باطل ہونا واضح ہے کیونکہ پیغمبر اسلام کا حضرت علی کے بھیجنے کا اصلی مقصد آیتوں کی تلاوت اور قطعنامہ کا پہنچانا اور عہد و پیمانہ کا توڑنا نہیں تھا بلکہ سورہ توبہ کی چوتھی آیت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد و پیمانہ پر مکمل عمل کیا ہے ان کا احترام کرو اور عہد و پیمانہ کی مدت تک اس کو پورا کرو۔ (2)

اس بنا پر اگر عہد کا توڑنا بھی عہد توڑنے والوں کے بہ نسبت اس کام میں شامل تھا تو مکمل طور پر جزئی حیثیت رکھتا ہے جب کہ اصلی ہدف یہ تھا کہ بت پرستی ایک غیر قانونی امر اور ایک ایسا گناہ جو قابل معاف نہیں ہے، اعلان ہو۔ اگر ہم چاہیں کہ اس واقعہ کا غیر جانبدارانہ فیصلہ کریں تو ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کا حکم الہی سے یہ ارادہ تھا کہ اپنی زندگی میں ہی حضرت علی کو سیاسی مسائل اور حکومت اسلامی سے مربوط مسئلوں میں آزاد رکھیں۔ تاکہ تمام مسلمان آگاہ ہو جائیں اور خورشید رسالت کے غروب ہونے کے بعد سیاسی اور حکومتی امور میں حضرت علی کی طرف رجوع کریں اور جان جائیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد ان تمام امور میں حضرت علی سے زیادہ شائستہ کوئی نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا کی طرف سے تنہا وہ شخص جو مشرکین مکہ سے امان میں رہنے کے لئے منصوب ہوا وہ حضرت علی تھے، کیونکہ یہ چیز حکومتی امور سے متعلق ہے۔ مگر (ہاں) جن مشرکوں سے تم نے عہد و پیمانہ کیا تھا پھر ان لوگوں نے بھی کچھ تم سے (وفائے عہد میں) کمی نہیں کی۔ اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو تو ان کے عہد و پیمانہ کو جتنی مدت کے واسطے مقرر کیا ہے پورا کر دو خدا پر بیزاروں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔

(۱) روح المعانی ج ۱۰ تفسیر سورہ توبہ ص ۴۵

(2) "الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقضوکم شیئاً و لم یظاہروا علیکم احداً فاتموا الیہم عہدکم ان اللہ یحب المتقین"

### دسویں فصل

#### مسلمانوں کے لئے آئندہ کا لائحہ عمل

دین اسلام کی تحریک کی مخالفت فریش والوں سے بلکہ تمام بت پرستوں کے ساتھ شبہ جزیرہ سے شروع ہوئی۔ وہ لوگ اس آسمانی مشعل کو خاموش کرنے کے لئے مختلف قسم کے مکرو فریب اور سازشیں کرتے رہے، لیکن جتنا بھی کوشش کرتے تھے ناکام ہی رہتے، ان سب کی آخری خواہش یہ تھی کہ رسالت مآب کے بعد اس تحریک کی بنیادوں کو ڈھادیں۔ اور انہیں کی طرح وہ لوگ جو پیغمبر سے پہلے زندگی بسر کر رہے تھے ان کو بھی ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیں۔ (۱) قرآن مجید نے اپنی بہت سی آیتوں میں ان کی سازشوں اور کھیلے جانے والے کھیلوں کو بیان کیا ہے بت پرستوں کی فکروں کو جو انہوں نے پیغمبر کی موت کے سلسلے میں کیا تھا اسے اس آیت میں بیان کیا ہے ارشاد قدرت ہے:

(ام تَأْمُرُكُمْ أَهْلَ مَدِينَةٍ بِدِينِ الْكُفْرِ أَمْ يَأْمُرُكُمْ بِدِينِ الْكُفْرِ طَاغُوتٍ) (۲)

کیا تم کو (یہ لوگ کہتے ہیں کہ (یہ) شاعر ہیں (اور) ہم تو اس کے بارے میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں تو تم کہہ دو کہ (اچھا) تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ (باتیں) بتاتی ہیں یا یہ لوگ سرکش ہی ہیں؟

اس وقت ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ دشمنوں کی تمام سازشیں ایک کے بعد ایک کس طرح ناکام ہو گئیں اور دشمن کے اندر اتنی صلاحیت نہ رہی کہ پھیلنے ہوئے اسلام کو روک سکے، بلکہ اس وقت ہمیں اس مسئلہ کی طرف توجہ کرنا ہے کہ پیغمبر کے بعد کس طرح سے اس اسلام کو دوام عطا ہو؟ اس طرح سے کہ پیغمبر کے بعد اسلام کی یہ تحریک رک نہ جائے یا گزشتہ کی طرح عقب ماندگی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہاں پر دو صورتیں ہیں اور ہم دونوں صورتوں کے متعلق بحث کریں گے:

(۱) ورقہ ابن نوفل کی طرح، کہ جس نے عیسائیوں کی بعض کتابوں کا مطالعہ کیا اور بت پرستی کے مذہب کو چھوڑ کر خود عیسائی بن گیا۔

(۲) سورہ طور، آیت ۳۲۔ ۳۰

۱۔ امت اسلامیہ کے ہر فرد کی فکر و عقل اس مرحلہ تک پہنچ جائے کہ پیغمبر اسلام کے بعد بھی اسلام کی نئی بنیاد کی تحریک کی اسی طرح رہبری کریں جیسے عہد رسالت میں کیا ہے، اور اسے ہر طرح کی مشکلات سے بچائیں اور امت او ر بعد میں آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم (سیدھے راستے) کی طرف ہدایت کریں۔ پیغمبر اسلام کے بعد امت کی رہبری کا دارومدار ایسے افراد نے اپنے ذمہ لے لیا تھا کہ افسوس اکثر افراد اس کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت یہاں اس سلسلے میں بحث نہیں کرنا ہے لیکن اتنی بات ضرور کہنا ہے کہ تمام طبیعتوں اور ایک امت کے دل کو گہرائیوں سے بدلنا ایک دن، دو دن یا ایک سال، یا دس سال کا کام نہیں ہے اور انقلاب لانے والا کہ جس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اپنی تحریک کو ہر زمانے کے لئے پایداری اور دوام بخش دے وہ مختصر سی مدت میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔

انقلاب کا ہمیشہ باقی رہنا اور لوگوں کے دلوں میں اس طرح رچ بس جانا، انقلاب لانے والے کے مرنے کے بعد بھی اس کی تحریک ایک قدم بھی پیچھے نہ رہے اور پرانے رسم و رواج اور آداب و اخلاق دو بارہ واپس نہ آجائیں اور اس تحریک کو چلانے کے لئے ایسے اہم افراد یا شخص کی ضرورت ہے جو اس تحریک کی باگ ڈور سنبھالے اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرے اور معاشرے میں مسلسل تبلیغ کر کے غیر مطلوب چیزوں سے لوگوں کو دور رکھے تاکہ ایک نسل گزر جائے اور نئی نسل ابتداء سے اسلامی اخلاق و آداب کی عادت کر لے اور آنے والی نسلوں تک برقرار رکھے۔ تمام آسمانی تحریکوں کے درمیان اسلامی تحریک کی ایک الگ خصوصیت ہے اور اس تحریک کو بقا اور دوام بخشنے



کے لئے ایسے اہم افراد کی ضرورت تھی۔ کیونکہ مذہب اسلام ایسے افراد کے درمیان آیا جو پوری دنیا میں سب سے پست تھے اور اجتماعی اور اخلاقی نظام کے اعتبار اور انسانیت کے ہر طرح کی ثقافت سے محروم تھے، مذہبی چیزوں میں حج کے علاوہ جسے اپنے بزرگوں سے میراث میں پایا تھا کسی اور چیز سے آشنا نہ تھے۔ جناب موسیٰ و عیسیٰ کی تعلیمات نے ان پر کوئی اثر نہ کیا تھا، حجاز کے اکثر لوگ اس کی خبر نہیں رکھتے تھے، جب کہ جاہلیت کے عقائد اور رسومات ان کے دلوں میں مکمل طریقے سے رسوخ کرچکے تھے اور روح و دل سے انہیں چاہتے تھے۔

ممکن ہے کہ ہر طرح کی مذہبی طبیعت ایسی ملتوں کے درمیان بہت جلد اپنا اثر پیدا کر لے مگر اس کے باقی رکھنے اور اسے دوام و پائنداری بخشنے کے لئے ان کے درمیان بہت زیادہ تلاش و کوشش کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو ہر طرح کے انحرافات اور پستی سے بچائے۔

جنگ احد اور حنین کے رقت آمیز اور دل بلا دینے والے واقعات اور مناظر کہ جس میں تحریک کو بڑھاوا دینے والے عین جنگ کے وقت پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور انہیں میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دیا تھا یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ پیغمبر کے صحابی ایمان و عقل کی اس منزل پر نہ تھے کہ پیغمبر تمام امور کی ذمہ داری ان کے سپرد کرتے اور دشمن کے اس آخری حربہ کو جس میں وہ پیغمبر کی موت کے امیدوار تھے اسے ختم کرتے۔

جی ہاں۔ اگر امت کی رہبری کو خود امت کے سپرد کرتے تب بھی صاحب رسالت کے نظریات کو حاصل نہیں کرسکتے تھے بلکہ ضروری تھا کہ کوئی اور فکر کی جائے کہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔

۲۔ تحریک کی بقا و پائنداری کے لئے بہترین راستہ تو یہ تھا کہ خداوند عالم کی طرف سے ایک شائستہ شخص، جو تحریک کے اصول و فروع پر عقیدہ و ایمان میں پیغمبر کی طرح ہو تاکہ امت کی رہبری کے لئے اس شخص کا انتخاب ہوتا، تاکہ مستحکم ایمان اور وسیع علم جو کہ خطا و لغزش سے پاک ہو اس امت کی رہبری کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اور ہمیشہ کے لئے اسے دوام بخشتا۔

یہ وہی بات ہے جس کے صحیح و محکم کا مذہب تشیع ادعا کرتا ہے اور اکثر تاریخیں اس بات پر گواہ ہیں کہ پیغمبر اسلام نے "حجۃ الوداع" کی واپسی پر ۱۸ ذی الحجہ ۱۰ھ کو اس اہم مشکل کی گرہ کو کھول دیا تھا اور خدا کی طرف سے اپنا وصی و جانشین معین کر کے اسلام کی بقا و استمرار کا انتظام کر دیا تھا۔

امامت کے بارے میں دو نظریے

شیعہ دانشمندوں کی نظر میں خلافت ایک الہی منصب ہے جو خداوند عالم کی طرف سے امت اسلامی کے شائستہ اور عقلمند شخص کو دیا جاتا ہے۔ امام اور نبی کے درمیان واضح اور روشن فرق یہ ہے کہ پیغمبر شریعت لے کر آتا ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، جب کہ امام اگرچہ ان چیزوں کا حقدار نہیں ہے لیکن حکومت کی باگ ڈور سنبھالنے کے علاوہ دین کی ان چیزوں کا بیان اور تشریح کرنے والا ہوتا ہے جو پیغمبر وقت کی کمی یا حالات کے صحیح نہ ہونے کی بنا پر اسے بیان نہیں کر پاتا، اور ان تمام چیزوں کے بیان کو اپنے وصیوں کے ذمہ کر دیتا ہے۔ اس بنا پر شیعوں کی نظر میں خلیفہ صرف حاکم وقت اور اسلام کا ذمہ دار، قوانین کا جاری کرنے والا اور لوگوں کے حقوق کا محافظ اور ملک کی سرحدوں کا نگہبان ہی نہیں ہوتا، بلکہ مذہبی مسائل اور مبہم نکات کا واضح اور روشن کرنے والا ہوتا ہے اور ان احکام و قوانین کو مکمل کرنے والا ہوتا ہے جو کسی وجہ سے دین کی بنیاد رکھنے والا بیان نہیں کر پاتا ہے۔

لیکن خلافت، اہلسنت کے دانشمندوں کی نظر میں ایک عام اور مشہور منصب ہے اور اس مقام کا مقصد صرف ظاہری چیزوں اور مسلمانوں کی مادیات کی حفاظت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خلیفہ وقت عمومی رائے مشوروں سے سیاسی اقتصادی اور قضائی امور کو چلانے کے لئے منتخب ہوتا ہے اور وہ سنون و احکامات جو پیغمبر کے زمانے میں بطور اجمال تشریح ہوئے ہیں اور پیغمبر کسی علت کی بنا پر اسے بیان نہ کرسکے ہوں، اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری علماء اور اسلامی دانشمندوں پر ہے کہ اس طرح کی مشکلات کو اجتہاد کے ذریعے حل کریں۔

حقیقت خلافت کے بارے میں اس مختلف نظریہ کی وجہ سے دو مختلف گروہ مسلمانوں کے درمیان وجود میں آگئے اور وہ بھی دو حصوں میں بٹ گئے اور آج تک یہ اختلاف باقی ہے۔

پہلے نظریہ کے مطابق امام، پیغمبر کے بعض امور میں شریک اور اس کے برابر ہے اور جو شرائط پیغمبر کے لئے لازم ہیں وہی شرائط امام کے لئے بھی ضروری ہیں۔ ان شرائط کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں:

۱۔ پیغمبر کے لئے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو یعنی اپنی پوری عمر میں گناہ کے قریب نہ جائے اور دین کے حقائق و احکام بیان کرنے، لوگوں کے اسلامی و مذہبی سوالوں کے جوابات دینے میں خطا کا مرتکب نہ ہو۔ امام کو بھی ایسا ہی ہونا



چاہئے اور دونوں کے لئے ایک ہی دلیل ہے۔

۲۔ پیغمبر، شریعت کو سب سے زیادہ اور بہتر طور پر جانتا ہو۔ اور مذہب کی کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو۔ اور امام بھی جو کہ شریعت کی ان چیزوں کو مکمل کرنے اور بیان کرنے والا ہے جو پیغمبر کے زمانے میں بیان نہیں ہوئی ہیں، ضروری ہے کہ دین کے احکام و مسائل کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔

۳۔ نبوت ایک انتصابی مقام ہے نہ انتخابی، اور پیغمبر کے لئے ضروری ہے کہ خدا اس کی معرفی کرے اور اسی کی طرف سے مقام نبوت پر منصوب ہو کیونکہ تنہا اسی کی ذات ہے جو معصوم کو غیر معصوم سے جدا کرتا ہے اور صرف خدا ان لوگوں کو پہچانتا ہے جو غیبی عنایتوں کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے ہیں اور دین کی تمام جزئیات سے واقف و آگاہ ہیں۔

یہ تینوں شرطیں جس طرح سے پیغمبر کے لئے معتبر ہیں اسی طرح امام اور اس کے جانشین کے لئے معتبر ہیں۔ لیکن دوسرے نظریہ کے مطابق، نبوت کی کوئی بھی شرط امامت کے لئے ضروری نہیں ہے نہ معصوم ہونا ضروری ہے نہ عادل ہونا اور نہ ہی عالم ہونا ضروری ہے نہ شریعت پر مکمل دسترسی ضروری ہے نہ انتصاب ہونا، اور نہ عالم غیب سے رابطہ ہونا ضروری ہے بلکہ بس اتنا کافی ہے کہ اپنے ہوش و حواس اور تمام مسلمانوں کے مشورے سے اسلام کی شان و شوکت کی حفاظت کرے اور قانون کے نفاذ کے لئے امنیت کو جزا قرار دے، اور جہاد کے ذریعے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرے۔

ابھی ہم اس مسئلہ کو (کہ کیا مقام امامت ایک انتصابی مقام ہے یا ایک انتخابی مقام اور کیا پیغمبر کے لئے ضروری تھا کہ وہ خود کسی کو اپنا جانشین معین کریں یا امامت کے حوالے کر دیں) ایک اجتماعی طریقے سے حل کرتے ہیں۔ اور قارئین محترم کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اجتماعی اور فرہنگی حالات خصوصاً پیغمبر کے زمانے کے سیاسی حالات سبب بنے کہ خود پیغمبر اپنی زندگی میں جانشینی کی مشکلات کو حل کریں اور اس کے انتخاب کو امت کے حوالے نہ کریں۔

اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہب اسلام، جہانی مذہب اور آخری دین ہے اور جب تک رسول خدا زندہ رہے امت کی رہبری کو اپنے ذمے لئے رہے اور آپ کی وفات (شہادت) کے بعد ضروری ہے کہ امت کی رہبری امت کے بہترین فرد کے ذمے ہو، ایسی صورت میں پیغمبر کے بعد رہبری، کیا ایک مقام تنصیصی (نص یا قرآنی دلیل) ہے یا مقام انتخابی؟ یہاں پر دو نظریے ہیں:

شیعوں کا نظریہ ہے کہ مقام رہبری، مقام تنصیصی (نص) ہے اور ضروری ہے کہ پیغمبر کا جانشین خدا کی طرف سے معین ہو۔ جب کہ اہلسنت کا نظریہ ہے کہ یہ مقام انتخابی ہے اور امت کے لئے ضروری ہے کہ پیغمبر کے بعد ملک و امت کے نظام کو چلانے کے لئے کسی شخص کو منتخب کریں، اور ہر گروہ نے اپنے نظریوں پر دلیلیں پیش کی ہیں جو عقاید کی کتابوں میں ہیں یہاں پر جو چیز بیان کرنے کی ضرورت ہے وہ پیغمبر کے زمانے میں حاکم کے حالات کا تجزیہ و تحلیل کرنا ہے تاکہ دونوں نظریوں میں سے ایک نظریہ کو ثابت کر سکیں۔

پیغمبر اسلام کے زمانے میں اسلام کی داخلی اور خارجی سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر کا جانشین خدا کے ذریعے خود پیغمبر کے ہاتھوں معین ہو۔ کیونکہ اسلامی معاشرہ کو ہمیشہ ایک خطرناک مثلث یعنی روم، ایران، اور منافقین کی طرف سے جنگ، فساد اور اختلاف کا خطرہ لاحق تھا، اسی طرح امت کے لئے مصلحت اسی میں تھی کہ پیغمبر سیاسی رہبر معین کر کے تمام امتیوں کو خارجی دشمن کے مقابلے میں ایک ہی صف میں لاکر کھڑا کر دیں۔ اور دشمن کے نفوذ اور اس کے تسلط کو (جس کی اختلاف باطنی بھی مدد کرتا) ختم کر دیں اب ہم اس مطلب کی وضاحت کر رہے ہیں۔

اس خطرناک مثلث کا ایک حصہ بادشاہ روم تھا۔ یہ ایک عظیم طاقت شہ جزیرہ کے شمال میں واقع تھی جس کی طرف سے پیغمبر اسلام ہمیشہ اور زندگی کے آخری لمحے تک فکر مند ہے۔ سب سے پہلی لڑائی مسلمانوں کی روم کے عیسائی فوج کے ساتھ ۸ھ میں فلسطین میں ہوئی۔ اس جنگ میں اسلام کے تین عظیم سپہ سالار یعنی جعفر طیار، زید بن حارثہ اور عبد اللہ بن رواحہ شہید ہو گئے اور اسلامی فوج کی بہت بڑی شکست ہوئی۔

کافروں کی فوج کے مقابلے سے اسلام کی فوج کے پیچھے ہٹنے سے قیصر کی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے اور ہر لمحہ یہ خطرہ بنا رہا کہ کہیں نئی اسلامی حکومت کے مرکز پر حملہ نہ ہو جائے۔

اسی وجہ سے پیغمبر ۹ھ میں بہت زیادہ فوج کے ساتھ شام کے اطراف کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ہر طرح کی فوجی لڑائی میں خود رہبری کریں۔ اس سفر میں اسلامی فوج نے زحمت و رنج برداشت کر کے اپنی دیرینہ حیثیت کو پالیا اور اپنی سیاسی زندگی کو دوبارہ زندہ کیا۔ لیکن اس کھوئی ہوئی کامیابی پر پیغمبر مطمئن نہیں ہوئے اور اپنی بیماری سے چند دن پہلے فوج اسلام کو اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں دے کر حکم دیا کہ شام کے اطراف میں جائیں اور جنگ میں شرکت

کریں۔

اس مثلث کا دوسرا خطرناک حصہ ایران کا بادشاہ تھا یہ سبھی جانتے ہیں کہ ایران کے خسرو نے شدید غصہ کے عالم میں پیغمبر کے خط کو پھاڑا تھا۔ اور پیغمبر کے سفیر کو ذلیل و خوار کر کے اپنے محل اور ملک سے نکال دیا، صرف یہی نہیں بلکہ یمن کے گورنر کو نامہ لکھا تھا کہ پیغمبر کو گرفتار کر لے۔ اور اگر وہ گرفتاری نہ دیں تو انہیں قتل کر دے۔ خسرو پرویز، اگرچہ پیغمبر کے زمانے میں ہی مر گیا تھا لیکن یمن کو آزاد کرنے کا مسئلہ (جو مدتوں تک ایران کے زیر نظر تھا) خسرو ایران کی نظروں سے پوشیدہ نہ تھا۔ اور غرور و تکبر نے ایران کے سیاست دانوں کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ اس طرح کی قدرت (پیغمبر اسلام) کو برداشت کر سکیں۔

اور اس مثلث کا تیسرا خطرہ گروہ منافقین کی طرف سے تھا جو ہمیشہ ستون پنجم (مدد و طاقت) کی طرح مسلمانوں کے خلاف سازش میں لگے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہ جنگ تبوک میں جاتے وقت راستے میں پیغمبر اسلام کو قتل کرنا چاہا۔ منافقین کے بعض گروہ آپس میں یہ کہتے تھے کہ رسول خدا کی موت کے بعد اسلامی تحریک ختم ہو جائے گی اور سب کے سب آسودہ ہو جائیں گے۔ (۱)

پیغمبر کے انتقال کے بعد ابوسفیان نے بے ہودہ قسم کے مکر و حیلے اپنائے اور چاہا کہ حضرت علی کے ساتھ بیعت کر کے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو رو برو کر دے اور اچھے لوگوں کو برائیوں کی طرف راغب کرے۔ لیکن حضرت علی اس کی سازش سے باخبر تھے، چنانچہ اس کو ہوشیار کرتے ہوئے کہا: خدا کی قسم! فتنہ و فساد برپا کرنے کے علاوہ تیرا کوئی اور مقصد نہیں ہے اور صرف آج ہی تو نہیں چاہتا کہ فتنہ و فساد برپا کرے بلکہ تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ فتنہ و فساد ہوتا رہے، جا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ (۲)

منافقوں کی تخریب کاری (فتنہ و فساد) اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران، نساء، مائدہ، انفال، توبہ، عنکبوت، احزاب، محمد، فتح، مجادلہ، حدید، منافقون اور رحشر میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

کیا ایسے سخت دشمنوں کے بعد جو اسلام کے کمین میں بیٹھے تھے صحیح تھا کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد نو بنیاد اسلامی معاشرے کے لئے دینی و سیاسی رہبر وغیرہ کو معین نہ کرتے؟ اجتماعی محاسبہ کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر پر ضروری تھا کہ رہبر کا تعین کرنا اور تاکہ اپنے بعد ہونے والے تمام اختلاف کو روک دینا اور

(۱) سورہ طور، آیت ۳۲۔ ۳۰

(۲) کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۲۲۰، العقد الفرید ج ۲ ص ۲۴۹

ایک محکم دفاعی طاقت کو وجود میں لا کر وحدت اسلامی کی بنیاد کو محفوظ کریں، اور ہر ناگوار حادثہ رونما ہونے سے پہلے اور یہ کہ رسول اسلام کے انتقال کے بعد ہر گروہ یہ کہے کہ رہبر ہم میں سے ہو یہ سوائے رہبر معین کئے ممکن نہ تھا۔

مذکورہ باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نظریہ بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنے بعد ہونے والے رہبر کو خود معین کریں شاید یہی وجہیں تھیں کہ پیغمبر بعثت کی ابتداء سے آخر عمر تک مسئلہ جانشینی کو ہمیشہ بیان کرتے رہے اور اپنے جانشین کو آغاز رسالت میں بھی اور آخر زمانہ رسالت میں بھی معین کیا، ان دونوں کی توضیح ملاحظہ کیجئے۔

دلیل عقلی، فلسفی اور اجتماعی حالات سے قطع نظر کہ یہ سب کی سب میرے نظریے کی تائید کرتی ہیں، وہ حدیثینا و رورایتیں جو پیغمبر اسلام سے وارد ہوئی ہیں علمائے شیعہ کے نظریہ کی تصدیق کرتی ہیں۔ پیغمبر اکرم نے اپنی رسالت کے زمانے میں کئی دفعہ اپنے جانشین اور وصی کو معین کیا ہے اور امامت کے موضوع کو عمومی رائے اور انتخاب کے ذریعے ہونے والی بحث کو ختم کر دیا ہے۔

پیغمبر نے نہ صرف اپنی آخری عمر میں اپنا جانشین معین کیا تھا، بلکہ آغاز رسالت میں کہ ابھی سو آدمیوں کے علاوہ کوئی ان پر ایمان نہ لایا تھا اپنے وصی و جانشین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔

جس دن خدا نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں اور عمومی دعوت سے پہلے انہیں مذہب توحید قبول کرنے کے لئے بلائیں، تو اس مجمع میں جس میں بنی ہاشم کے ۴۵ سردار موجود تھے، آپ نے فرمایا: "تم میں سے سب سے پہلے جو میری مدد کرے گا وہی میرا بھائی، وصی اور میرا جانشین ہوگا" جس وقت حضرت علی ان کے درمیان سے اٹھے اور ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ اسی وقت پیغمبر نے مجمع کی طرف رخ کر کے کہا: "یہ جوان میرا بھائی، وصی اور جانشین ہے"

مفسرین و محدثین کے درمیان یہ حدیث "یوم الدار" اور حدیث "بدء الدعوة" کے نام سے مشہور ہے۔ پیغمبر نے نہ صرف آغاز رسالت میں بلکہ مختلف مناسبتوں اور سفرو حضر میں حضرت علی کی ولایت و جانشینی کو صراحت سے بیان کیا تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک عظمت و صراحت کے اعتبار سے "حدیث غدیر" کے برابر نہیں ہے اب ہم واقعہ غدیر کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں:

واقعہ غدیر خم پیغمبر اسلام ۱۰ ھ میں وظیفہ حج اور مناسک حج کی تعلیم کے لئے مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور اس مرتبہ یہ حج پیغمبر اسلام کا آخری حج تھا اسی وجہ سے اسے "حجۃ الوداع" کہتے ہیں۔ وہ افراد جو پیغمبر کے ہمراہ حج کرنا چاہتے تھے یا حج کی تعلیمات سے روشناس ہونا چاہتے تھے پیغمبر کے ہمراہ روانہ ہوئے جن کی تعداد تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار تھی۔ حج کے مراسم تمام ہوئے، پیغمبر اسلام مدینے کے لئے روانہ ہوئے جب کہ بہت زیادہ لوگ آپ کی خدا حافظی کے لئے آئے سوائے ان لوگوں کے جو مکہ میں آپ کے ہمراہ ہوئے تھے وہ سب کے سب آپ کے ہمراہ تھے وہ پہلے ہی روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ بے آب و گیاہ جنگل بنام "غدیر خم" پہنچا جو جحفہ (۱) سے تین میل کی دوری پر واقع ہے، وحی کا فرشتہ نازل ہوا اور پیغمبر کو ٹھہر نے کا حکم دیا پیغمبر نے بھی سب کو ٹھہر نے کا حکم دیدیا تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں۔

قافلے والے اس بے آب و گیاہ اور بے موقع، دوپہر کے وقت، تپتے ہوئے صحرا میں اور گرم و تپتی ہوئی زمین پر پیغمبر کے اچانک رک جانے سے متعجب تھے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے: لگتا ہے خدا کی طرف سے کوئی اہم حکم آگیا ہے اور حکم کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ اس سخت حالت میں آگے بڑھنے سے سب کو روک دیں اور خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔

رسول اسلام پر خدا کا یہ فرمان نازل ہوا:

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) (۲)

(۱) جحفہ: رابع سے چند میل دور مدینے کے راستے میں واقع ہے اور حاجیوں کی ایک میقات میں سے ہے۔  
(۲) سورہ مانندہ آیت ۶۷

اے پیغمبر، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو (سمجھ لو کہ) تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا اور (تم ڈرو نہیں) خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آیت کے مفہوم پر غور کیا جائے تو چند نکات سامنے میں آتے ہیں:

۱۔ وہ حکم جسے پہنچانے کے لئے پیغمبر کو حکم دیا گیا وہ اتنا عظیم اور اہم تھا کہ (بر فرض محال) اگر پیغمبر اس کے پہنچانے میں خوف کھاتے اور اسے نہیں پہنچاتے تو گویا آپ نے رسالت الہی کو انجام نہیں دیا بلکہ اس پیغام کے پہنچانے کی وجہ سے آپ کی رسالت مکمل ہوئی۔

دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ "ما انزل الیک" سے مراد برگز قرآن مجید کی تمام آیتیں اور اسلامی احکامات نہیں ہیں کیونکہ اگر پیغمبر، خداوند عالم کے تمام احکامات کو نہ پہنچائیں تو اپنی رسالت کو انجام نہیں دیا ہے تو یہ ایک ایسا واضح اور روشن امر آیت کے نزول کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس حکم سے مراد ایک خاص امر کا پہنچانا ہے تاکہ اس کے پہنچانے سے رسالت مکمل ہو جائے اور اگر یہ حکم نہ پہنچایا جائے تو رسالت عظیم اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتی، اس بنا پر ضروری ہے کہ یہ حکم اسلامی اصول کا ایک اہم پیغام ہو تاکہ دوسرے اصول و فروع سے ارتباط رکھے ہو اور خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کے بعد اہم ترین مسئلہ شمار ہو۔

۲۔ معاشرے کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو یہ احتمال تھا کہ ممکن ہے اس پیغام کو پہنچاتے وقت لوگوں کی طرف سے انہیں ضرر پہنچے لیکن خداوند عالم ان کے ارادے کو قوت و طاقت دینے کے لئے ارشاد فرماتا ہے: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)

اب ہم ان احتمالات کا تجزیہ کریں گے جو ماموریت کے سلسلے میں مفسرین اسلامی نے بیان کئے ہیں کہ کون سا احتمال آیت کے مفہوم سے نزدیک ہے۔

شیعہ محدثین اور اسی طرح اہلسنت کے ۳۰ بزرگ محدثین (۱) نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت غدیر خم

(۱) مرحوم علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر، ج ۱ ص ۱۹۶ تا ۲۰۹ تک ان تیس افراد کے نام و خصوصیات مکمل طریقے سے بیان کئے ہیں۔ جن کے درمیان بہت سے نام مثلاً طبری، ابونعیم اصفہانی، ابن عساکر، ابو اسحاق حموی، جلال الدین سیوطی وغیرہ شامل ہیں اور پیغمبر کے صحابی میں ابن عباس، ابو سعید خدری و براء ابن عازب وغیرہ کے نام پائے جاتے ہیں۔

میں نازل ہوئی ہے جس میں خدا نے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ حضرت علی کو "مومنوں کا مولیٰ" بنائیں۔ پیغمبر کے بعد ولایت و جانشینی عظیم اور اہم موضوعات میں سے ہے اور اس کے پہونچانے سے رسالت کی تکمیل ہوئی ہے نہ یہ کہ امر رسالت میں نقص شمار کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے اجتماعی اور سیاسی حالات کی رو سے اپنے اندر رعب و ڈر محسوس کرتے کیونکہ حضرت علی جیسے شخص کی وصایت اور جانشینی جن کی عمر ۳۳ سے زیادہ نہ تھی، کا اعلان ایسے گروہ کے سامنے جو عمر کے لحاظ سے ان سے بہت بڑے تھے، بہت زیادہ دشوار تھا۔ (۱) اس کے علاوہ اس مجمع میں پیغمبر کے اردگرد بیٹھے لوگوں کے بہت سے رشتہ داروں کا خونمختلف جنگوں میں حضرت علی کے ہاتھوں بہا تھا اور ایسے کینہ توز افراد پر ایسے شخص کی حکومت بہت دشوار مرحلہ تھا، اس کے علاوہ حضرت علی پیغمبر کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور ایسے شخص کو خلافت کے لئے معین کرنا کم ظرفوں کی نگاہ میں، رشتہ دار کو بڑھاوا دینا تھا۔ لیکن ان تمام سخت حالات کے باوجود خداوند عالم کا حکیمانہ ارادہ یہ تھا کہ اس تحریک کو دوام بخشنے کے لئے حضرت علی کو خلافت و جانشینی کے لئے منتخب کیا جائے اور اپنے پیغمبر کی رسالت کو رببر و رہنما کا تعین کر کے پایہ تکمیل تک پہونچایا جائے۔

(۱) خصوصاً ان عربوں پر جو اہم منصبوں کو قبیلے کے بزرگوں کے شایان شان سمجھتے تھے اور نوجوانوں کو اس بہانے سے کہ وہ تجربہ نہیں رکھتے ان کو اس کا اہل نہیں سمجھتے تھے اسی لئے جب پیغمبر نے عتاب بن اسید کو مکہ کا حاکم اور اسامہ بن زید کو فوج کا سپہ سالار بنا کر تبوک بھیجا تو بہت سے اصحاب پیغمبر اور دوستوں نے اعتراض کیا۔

واقعہ غدیر کی تشریح :

۱۸ ذی الحجہ کو غدیر خم کی سرزمین پر دو پہر کا تپتا ہوا سورج چمک رہا تھا اور اکثر مؤرخین نے مجمع جن کی تعداد ۷۰ ہزار سے ۱۲۰ ہزار تک بیان کی ہے اس جگہ پر پیغمبر کے حکم سے ٹہرے ہوئے تھے اور اس روز رونما ہونے والے تاریخی واقعہ کا انتظار کر رہے تھے اور شدید گرمی کی وجہ سے اپنی رداؤں کو دو حصوں میں تہہ کر کے ایک حصے کو سر پر اور دوسرے حصے کو پیر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔

ایسے حساس موقع پر ظہر کی اذان پورے بیابان میں گونج اٹھی اور مؤذن کی تکبیر کی آواز بلند ہوئی، لوگ نماز ظہر ادا کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے اور پیغمبر نے اس عظیم الشان مجمع میں جس کی سرزمین غدیر پر مثال نہیں ملتی نماز ظہر باجماعت ادا کی، پھر لوگوں کے درمیان اس منبر پر جو اونٹ کے کجاووں سے بنایا گیا تھا تشریف لائے اور بلند آواز سے یہ خطبہ پڑھا۔

تمام تعریفیں خدا سے مخصوص ہیں ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر بھروسہ ہے اور برے نفس اور خراب کردار سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے علاوہ گمراہوں کا کوئی ہادی و رہنما نہیں ہے وہ خدا جس نے ہر شخص کی ہدایت کی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد خدا کا بندہ اور اسی کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔

اے لوگو، عنقریب میں تمہارے درمیان سے خدا کی بارگاہ میں واپس چلا جاؤں گا اور میں مسئول ہوں اور تم بھی مسئول ہو میرے بارے میں کیا فکر کرتے ہو؟

پیغمبر کے صحابیوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے خدا کے مذہب کی تبلیغ کی اور ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کی اور

ہمیشہ نصیحت کی اور اس راہ میں بہت زیادہ زحمتیں برداشت کیں خدا آپ کو جزائے خیر دے۔

پیغمبر نے پھر مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا:

کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد خدا کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہے؟ جنت و جہنم اور موت حق ہیں اور قیامت بغیر کسی شک و تردید کے ضرور آئے گی اور خداوند عالم ان لوگوں کو جو قبروں میں دفن ہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟

پیغمبر کے صحابیوں نے کہا: ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔

پھر پیغمبر نے فرمایا: میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں بطور یادگار چھوڑ کر جا رہا ہوں کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرو گے؟ کسی نے پوچھا: ان دو گرانقدر چیز سے کیا مراد ہے؟

پیغمبر اسلام نے فرمایا: نقل اکبر جو خدا کی کتاب ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور نقل اصغر میری عترت اور میرے اہلبیت ہیں میرے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میری یہ دونوں یادگاریں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی۔

اے لوگو، کتاب خدا اور میری عترت پر سبقت نہ لے جانا بلکہ ہمیشہ اس کینقش قدم پر چلنا تاکہ تم محفوظ رہ سکو، اس موقع پر پیغمبر نے حضرت علی کو ہاتھوں پر بلند کیا یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دیکھائی دینے لگی اور سب نے حضرت علی کو پیغمبر کے ہاتھوں پر دیکھا اور انہیں اچھی طرح سے پہچانا اور جان لیا کہ اس اجتماع اور رٹھہرنے کا مسئلہ حضرت علی سے مربوط ہے اور سب کے سب پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ آمادہ ہوئے کہ پیغمبر کی باتوں کو غور سے سنیں۔

پیغمبر نے فرمایا: اے لوگو، تمام مومنین میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟

پیغمبر کے صحابیوں نے جواب دیا خدا اور اس کا پیغمبر بہتر جانتا ہے۔

پیغمبر نے پھر فرمایا: خداوند عالم میرا مولا اور میں تم لوگوں کا مولا ہوں اور ان کے نفسوں سے زیادہ ان پر حق تصرف رکھتا ہوں۔ اے لوگو! جس جس کا میں مولا اور رہبر ہوں علی بھی اس کے مولا اور رہبر ہیں۔

رسول اسلام نے اس آخری جملے کی تین مرتبہ تکرار کی (۱) اور پھر فرمایا:

پروردگارا، تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہو اور تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھتا ہو۔

خدایا علی کے چاہنے والوں کی مدد کر اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر، خدایا علی کو حق کا محور قرار دے۔

پھر فرمایا: دیکھو جو بھی اس بزم میں شریک نہیں ہے ان تک یہ پیغام الہی پہنچا دینا اور دوسروں کو اس واقعہ کی خبر دے دینا۔

ابھی یہ عظیم الشان مجمع اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا کہ وحی کا فرشتہ نازل ہوا اور پیغمبر اسلام کو خوشخبری دی کہ خدا نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو مومنین پر تمام کر دیا۔ (۲)

اس وقت پیغمبر کی تکبیر بلند ہوئی اور فرمایا:

خدا کا شکر کہ اس نے اپنے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا اور میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت سے خوشنود ہوا۔

(۱) احمد بن حنبل نے اپنی کتاب "مسند" میں نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے اس جملے کی چار مرتبہ تکرار کی۔

(۲) الْيَوْمَ كَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا . سورة مائدہ، آیت ۳

پیغمبر اسلام منبر سے اترے اور آپ کے صحابی گروہ در گروہ حضرت علی کو مبارکباد دیتے رہے اور انہیں اپنا مولیٰ اور تمام مومنین زن و مرد کا مولا مانا اس موقع پر رسول خدا کا شاعر حسان بن ثابت اپنی جگہ سے اٹھا اور غدیر کے اس عظیم و تاریخی واقعہ کو اشعار کی شکل میں سجا کر ہمیشہ کے لئے جاویدان بنا دیا یہاں اس مشہور قصیدے کے دو شعر کا ترجمہ پیش کرتے ہیں:

پیغمبر نے حضرت علی سے فرمایا: اٹھو میں نے تمہیں لوگوں کی راہنمائی اور پیشوائی کے لئے منتخب کیا جس شخص کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اے لوگو! تم پر لازم ہے کہ علی کے سچے پیرو اور ان کے حقیقی چاہنے والے بنو۔ (۱)

جو کچھ اب تک بیان کیا گیا وہ اس عظیم تاریخی واقعہ کا خلاصہ تھا جو اہلسنت کے دانشمندیوں نے بیان کیا ہے شیعہ کتابوں

میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مرحوم طبرسی نے اپنی کتاب احتجاج (۲) میں پیغمبر کا ایک تفصیلی خطبہ نقل کیا ہے تفصیل کے خواہشمند قارئین اس کتاب کی طرف رجوع کرسکتے ہیں۔

غدیر کا واقعہ کبھی بھی بھلایا نہیں جاسکتا خداوند عالم کا حکیمانہ ارادہ یہ ہے کہ عظیم تاریخی واقعہ غدیر ہر زمانے اور ہر صدی میں لوگوں کے دلوں میں زندہ اور کتابوں میں بطور سند لکھا رہے، ہر زمانے میں اسلام کے محققین، تفسیر، حدیث، کلام اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے متعلق گفتگو کریں اور مقررین و خطباء اپنی تقریروں، وعظ و نصیحت اور خطابوں میں اس واقعہ کا تذکرہ کریں اور اسے حضرت علی کا ایسا فضائل شمار کریں جو غیر قابل انکار ہو نہ، صرف مقررین اور خطیب بلکہ بہت سارے شعراء اور دیگر افراد نے بھی اس واقعے سے استفادہ کیا ہے اور اپنے ادبی ذوق کو اس واقعہ میں غور و فکر کر کے اور اصحاب ولایت کے ساتھ حسن خلوص سے پیش آکر اپنی فکروں کو جلا بخشی ہے اور عمدہ و عالی ترین قصائد مختلف انداز اور مختلف زبانوں میں کہہ کر اپنی یادگار بنچھوڑی ہیں۔

(۱) فقال له قم يا علي فاني  
رضيتك من بعدي اماماً و بادياً  
فمن كنت مولاه فهذا وليه  
فكونوا له اتباع صدق موالياً  
(۲) احتجاج طبرسی ج ۱ ص ۸۴ - ۷۱ ، طبع نجف

اسی وجہ سے بہت کم ایسا تاریخی واقعہ ہے جو غدیر کے مثل تمام دانشمندیوں کی توجہ کا مرکز بنا ہو بلکہ تمام افراد خصوصاً محدثین، متکلمین، فلسفی، خطیب و شاعر، مؤرخ اور تاریخ لکھنے والے سب ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور سب نے کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں لکھا ہے۔

اس حدیث کے ہمیشہ باقی رہنے کی ایک علت، اس واقعہ کے بارے قرآن مجید کی دو آیتوں کا نازل ہونا ہے (۱) اور جب تک قرآن باقی ہے یہ تاریخی واقعہ بھی باقی رہے گا اور کبھی بھی ذہنوں سے بھلایا نہیں جاسکتا، اسلامی معاشرہ نے شروع سے ہی اسے ایک مذہبی عید شمار کیا ہے اور تمام شیعہ آج بھی اس دن عید مناتے ہیں اور وہ تمام رسومات اور خوشیاں جو دوسری عیدوں میں انجام دیتے ہیں اس عید میں بھی انجام دیتے ہیں۔

تاریخ کی کتابیں دیکھنے سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸ ذی الحجہ کا دن مسلمانوں کے درمیان "عید غدیر" کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں تک کہ ابن خلکان، مستعلی بن المستنصر کے بارے میں کہتا ہے:

۴۸۷ھ میں ۱۸ ذی الحجہ کو غدیر کے دن لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ (۲)

العبيدي المستنصر بالله کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کا انتقال ۴۸۷ھ میں اس وقت ہوا جب ذی الحجہ مہینے کی بارہ راتیں باقی تھیں اور یہ رات ۱۸ ذی الحجہ یعنی شب غدیر تھی۔ (۳)

تنہا ابن خلکان نے ہی اس رات کو غدیر کی رات نہیں کہا ہے بلکہ مسعودی (۴) اور ثعلبی (۵) نے بھی اس رات کو امت اسلامی کی معروف و مشہور رات کہا ہے۔

اس اسلامی عید کی بازگشت خود عید غدیر کے دن ہوتی ہے کیونکہ پیغمبر نے اس دن مہاجرین و انصار، بلکہ اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ علی کے پاس جائیں اور ان کی اس عظیم فضیلت پر انہیں مبارکباد دیں۔

زید بن ارقم کہتے ہیں: مہاجرین میں سب سے پہلے جس نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی وہ ابو بکر، عمر،

(۱) سورہ مائدہ آیت ۳ اور ۶۷  
(۲،۳) وفيات الاعيان ج ۱ ص ۶۰ و ج ۲ ص ۲۲۳  
(۴) التنبيه و الاشراف ص ۸۲۲  
(۵) ثمار القلوب ۵۱۱

عثمان، طلحہ اور زبیر تھے اور بیعت اور مبارکبادی کا یہ سلسلہ مغرب تک چلتا رہا۔ اس تاریخی واقعہ کی اہمیت کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ۱۱۰ صحابیوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے۔ البتہ اس کے

معنی یہ نہیں ہیں کہ اتنے زیادہ گروہوں میں سے صرف اتنی تعداد میں لوگوں نے واقعہ غدیر کو نقل کیا ہے بلکہ صرف اہلسنت کے ۱۱۰ دانشمندانے واضح طور پر نقل کیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ پیغمبر نے اپنے خطبے کو ایک لاکھ کے مجمع میں بیان کیا لیکن ان میں سے بہت زیادہ لوگ حجاز کے نہیں تھے اور ان سے حدیث نقل نہیں ہوئی ہے اور ان میں سے جن گروہوں نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے تاریخ نے اسے اپنے دامن میں جگہ تک نہیں دیا ہے، اور اگر لکھا بھی ہے تو ہم تک نہیں پہنچا ہے۔

دوسری صدی ہجری جو کہ "تابعین" کا زمانہ ہے ۸۹ افراد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس صدی کے بعد جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں سب کے سب اہل سنت کے دانشمند اور علماء ہیں اور اس میں ۳۶۰ افراد نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کی حقانیت اور صحیح ہونے کا اعتراف کیا ہے۔

تیسری صدی میں ۹۲ دانشمندانے، چوتھی صدی میں ۴۳ دانشمندانے، پانچویں صدی میں ۲۴ دانشمندانے، چھٹی صدی میں بیس دانشمندانے، ساتویں صدی میں ۲۱ دانشمندانے، آٹھویں صدی میں ۱۸ دانشمندانے، نویں صدی میں ۱۶ دانشمندانے، دسویں صدی میں ۱۴ دانشمندانے، گیارہویں صدی میں ۱۲ دانشمندانے، بارہویں صدی میں ۱۳ دانشمندانے، تیرہویں صدی میں ۱۲ دانشمندانے اور چودہویں صدی میں ۲۰ دانشمندانے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کچھ محدثین و مؤرخین نے صرف اس حدیث کے نقل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اس کی سند اور اس کے مفاد و مفہوم کے بارے میں مستقل طور پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔

اسلام کے بزرگ مؤرخ طبری نے ایک کتاب بنام "الولایۃ فی طریق حدیث الغدیر" لکھا ہے اور اس حدیث کو ۷۰ سے زیادہ طریقوں سے پیغمبر سے نقل کیا ہے۔

ابن عقده کوفی نے اپنے رسالہ "ولایت" میں اس حدیث کو ۱۰۵ افراد سے نقل کیا ہے۔

ابوبکر محمد بن عمر بغدادی جو جعانی کے نام سے مشہور ہے اس حدیث کو ۲۵ طریقوں سے نقل کیا ہے، جن لوگوں نے اس تاریخی واقعہ کے متعلق مستقل کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد ۲۶ ہے۔

شیعہ دانشمندانے اس اہم اور تاریخی واقعے کے متعلق بہت قیمتی کتابیں لکھی ہیں اور تمام کتابوں میں سب سے جامع اور عمدہ کتاب "الغدیر" ہے جو عالم تشیع کے مشہور و معروف دانشمند علامہ مجاہد مرحوم آیت اللہ امینی کی تحریر کردہ ہے، امام علی - کی حالات زندگی لکھنے والوں نے اس کتاب سے ہمیشہ بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔

## فروع ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### چوتھا باب

پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی وفات کے بعد اور خلافت سے پہلے حضرت علی - کی زندگی

### پہلی فصل

حضرت علی کی پچیس سالہ خاموشی

حضرت علی کی زندگی کے اہم واقعات جو پیغمبر کی زندگی میں رونما ہوئے تھے ان کی تحقیق و جستجو تمام ہوگئی۔ اگرچہ اس حصے میں تفصیلی تحقیق اور مکمل معلومات حاصل نہ ہو سکی اور امام کے بہت سے حالات و واقعات اس زمانے میں جب آپ اس سے رونما ہوئے تھے لیکن اہمیت کے لحاظ سے دوسرے مرحلے میں تھے لہذا بیان نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن وہ عظیم واقعات جو امام کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں یا آپ کے ایمان و عظمت کو واضح و روشن کرتے ہیں ترتیب سے بیان کئے جاچکے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے فضائل و کمالات اور حسن اخلاق سے ایک حد تک آشنا ہوچکے ہیں۔

اب ہم امام علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے حصے کو جو آپ کی زندگی کا چوتھا مرحلہ ہے اس کی تجزیہ کر رہے ہیں۔

حضرت علی کی زندگی کے تین مرحلوں نے آپ کی عمر عزیز کے ۳۳ سال لے لئے، اور امام اس مختصر سی مدت میں



اسلام کے سب سے بڑے شجاع و بہادر اور اسلام کے عظیم الشان رہبر کی حیثیت سے پہچانے گئے۔ اور پوری تاریخ اسلام میں پیغمبر کے بعد کوئی بھی شخص فضیلت، تقویٰ، علم و دانش، خدا کی راہ میں جہاد مکوشش، برادری و مواسات، غریبوں اور یتیموں کی دیکھ بھال وغیرہ میں آپ کے ہم رتبہ نہ تھا۔ اور تمام جگہوں پر خصوصاً حجاز و یمن میں آپ کی شجاعت و بہادری، فداکاری، جانبازی، اور پیغمبر کی مہر و محبت علی کے ساتھ مشہور تھی۔

ان تمام کمالات کے بعد ضروری تھا کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اسلام کا محور اور اسلامی معاشرہ کی باگ ڈور حضرت علی کے ہاتھوں میں ہوتی، لیکن جب تاریخ کے صفحات پر نظر پڑتی ہے تو اس کے برخلاف نظر آتا ہے کیونکہ امام اپنی زندگی کے چوتھے مرحلے میں جو ایک چوتھائی صدی تھی اور وہ شرائط و حالات جو رونما ہوئے تھے اس عمومی جگہ سے اپنے آپ کو کنارے کر کے خاموشی اختیار کر لی تھی نہ کسی جنگ میں شرکت کی نہ کسی عمومی جلسے میں رسمی طور پر تقریر فرمائی۔ تلوار کو نیام میں رکھ لیا تھا اور تنہائی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ خاموشی اور طولانی کنارہ کشی اس شخص کے لئے جو اس کے پہلے ہمیشہ عمومی مجمع میں رہا ہو اور اسلام کی دوسری عظیم شخصیت اور مسلمانوں کے لئے ایک عظیم رکن کی حیثیت سے شمار ہو اس کے لئے یہ سہل و آسان نہ تھا۔ روح بزرگ، حضرت علی سے چاہتی تھی کہ خود اس پر مسلط ہو جائے اور خود کو نئے حالات جو ہر اعتبار سے سابقہ حالات سے مخالف تھے، تطبیق کرے۔

اس خاموشی کے زمانے میں امام چند چیزوں میں مصروف تھے جو درج ذیل ہیں:

- ۱۔ خدا کی عبادت: وہ بھی ایسی عبادت جو حضرت علی کی شخصیت کی شایان شان تھی یہاں تک کہ امام سجاد اپنی تمام عبادت و تہجد کو اپنے دادا کی عبادت کے مقابلے میں بہت ناچیز جانتے ہیں۔
- ۲۔ قرآن کی تفسیر اور آیتوں کی مشکلات کو حل اور شاگردوں کی تربیت کرتے تھے وہ بھی ابن عباس جیسے شاگرد جو امام کے بعد سب سے بڑے مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہوئے۔
- ۳۔ تمام فرقوں اور مذہبوں کے دانشمندیوں کے سوالات کے جوابات دیتے تھے، خصوصاً وہ تمام یہودی اور عیسائی جو پیغمبر کی وفات کے بعد اسلام کے سلسلے میں تحقیق کرنے کے لئے مدینہ آئے تھے۔ ان لوگوں نے ایسے ایسے سوالات کئے تھے کہ جس کا جواب حضرت علی، جو توریث اور انجیل پر مکمل تسلط رکھتے تھے اور جیسا کہ ان کی گفتگو سے بھی واضح تھا، کے علاوہ کوئی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، اگر یہ فاصلہ امام کے ذریعے پڑ نہ ہوتا تو جامعہ اسلامی شدید شکست کھا جاتا، اور جب امام علیہ السلام نے تمام سوالوں کا محکم اور مدلل جواب دیدیا تو وہ خلفاء جو پیغمبر کی جگہ بیٹھے تھے ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور عظیم خوشی کے آثار نظر آئے۔
- ۴۔ بہت زیادہ ایسے نئے مسائل کا حل پیش کرنا جس کا اسلام میں جو نہ تھا اور اس کے متعلق قرآن مجید اور حدیث پیغمبر موجود نہ تھی یہ امام کی زندگی کا ایک حساس پہلو ہے اور اگر صحابیوں کے درمیان حضرت علی جیسی شخصیت موجود نہ ہوتی۔ جو پیغمبر اسلام کی تصدیق کے مطابق امت کی سب سے دانا اور قضاوت و فیصلہ کرنے میں سب سے اہم شخصیت تھی تو صدر اسلام کے بہت سے ایسے مسائل بغیر جواب کے رہ جاتے اور بہت سی گتھیاں نہ سلجھتیں۔
- یہی نئے نئے رونما ہونے والے حادثات و واقعات ثابت کرتے ہیں کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد ایک آگاہ اور معصوم، مثل پیغمبر کے لوگوں کے درمیان موجود ہو جو اسلام کے تمام اصول و فروغ پر کافی تسلط رکھتا ہو اور اس کا علم و کمال امت کو غیر شرعی اور بے جا عمل اور وبم و گمان سے دور کر دے اور یہ تمام عظیم خصوصیتیں پیغمبر کے تمام دوستوں صحابیوں کی تصدیق کی بنیاد پر حضرت علی کے علاوہ کسی اور میں نہ تھیں،
- امام کے کچھ فیصلے اور قرآن مجید کی آیتوں سے ان کو ثابت کرنا وغیرہ حدیث و تاریخ کی کتابوں میں تحریر ہیں (۱)
- ۵۔ جب خلافت پر بیٹھنے والے سیاسی مسائل یا مشکلات کی وجہ سے مجبور و لاچار ہوئے تو ان کی نگاہ میں تنہا امام۔ مورد اعتماد تھے جو ان کے سروں پر منڈلاتی ہوئی مشکلات کو حل کرتے اور ان کی راہ ہموار کر تے ان میں سے بعض مشورے نہج البلاغہ اور تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں،
- ۶۔ پاک ضمیر اور پاکیزہ روح رکھنے والوں کی تربیت تاکہ وہ امام کی رہبری اور معنوی تصرف کے زیر نظر معنوی کمالات کی بلندیوں کو فتح کر سکیں اور وہ چیزیں جسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ دل کی نورانی آنکھوں اور باطنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔

۷۔ بہت زیادہ بیوہ اور یتیموں کی زندگی کے روز مرہ کے امور کے لئے کوشش و تلاش کرنا یہاں تک کہ امام نے خود اپنے ہاتھوں سے باغ لگایا اور آب پاشی کے لئے نہریں نکال کر اسے خدا کی راہ میں وقف کر دیا۔

یہ تمام فعالیت اور امور کا انجام دینا امام کا وہ کارمانہ تھا جو آپ نے ۱۰ سالہ دور میں انجام دیا تھا، لیکن یہ بات نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ اسلام کے بڑے بڑے تاریخ دانوں نے امام کی زندگی کے ان خدمات کو زیادہ



اہمیت نہیں دی ، اور امام - کی زندگی کے اس دور کی خصوصیات و جزئیات کو صحیح

(۱). محقق عالیقدر جناب شیخ محمد تقی شو ستری نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ فارسی میں بھی ہوا ہے .

طریقے سے نہیں لکھا ہے جب کہ یہی تاریخ داں جب بنی امیہ اور بنی عباس کے سپہ سالاروں کے حالات لکھتے ہیں تو اتنا دقیق اور تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز باقی نہ رہ جائے -

کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ امام کی پچیس سالہ زندگی کے خصوصیات مبہم اور غیر واضح ہوں مگر ظالموں کی تاریخ، جنایت و بدبخت محققین اور معاویہ، مروان اور خلفاء بنی عباس کے بیٹوں کی عیاشی و شرابخوری کی تاریخ بہت ہی دقت و محنت سے لکھی جائے، اور ان محفلوں میں پڑھے جانے والے اشعار وہ باتیں جو خلفاء اور ناچ ورنگ کی محفل منعقد کرنے والوں کے درمیان ہوئیں اور وہ راز و نیاز جو رات کے اندھیرے میں طے ہوئے تھے وہ تاریخ اسلام، کے نام سے اپنی اپنی کتابوں میں لکھیں؟ نہ صرف ان کی زندگیوں کا صرف یہ حصہ لکھا بلکہ ان کے حاشیہ نشینونو کروں ، اور ان کے علاوہ خادموں اور بکریوں، اور زیور و آلات، عورتوں اور محبوبانوں کے آرائش و سنورنے، اور ان کی زندگی کے خصوصیات تک کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا لیکن جب اولیاء خدا اور حق شناس افراد کی بات آتی ہے تو وہی، اگر ان کی جانثاری اور فدا کاری نہ ہوتی تو ہرگز یہ نالائق گروہ خلافت و سرداری کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں نہ دیتے گویا ان کی فکری زنجیروں سے بندھی ہوں۔ اور تاریخ کے ان ابواب سے اتنی تیزی سے گزرنا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد تاریخ کا یہ حصہ ختم ہو جائے -

اسلام کا پہلا ورق جدا ہو گیا

اس فصل کا پہلا ورق اس وقت جدا ہو گیا جب پیغمبر اسلام (ص) کا سر امام - کے سینے پر تھا اور آپ کی روح، خدا کی بارگاہ میں چلی گئی، حضرت علی - اس واقعہ کو اپنے ایک تاریخی (۱) خطبے میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

"پیغمبر کے صحابہ جو آپ کی تاریخی زندگی کے محافظ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے ایک لمحہ کے لئے بھی خدا اور اس کے پیغمبر دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے میں دوری اختیار نہیں کی جب کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ بھاگ گئے اور جنگ سے پیچھے ہٹ گئے، میں نے اپنی جان کو پیغمبر خدا کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہ کیا جب رسول خدا کا انتقال ہوا اس وقت ان کا سر میرے سینے پر تھا، اور میرے ہاتھوں

(۱) نبی البلاغہ عبیدہ خطبہ ۱۹۲. "القد علم المستحفظون من اصحاب محمد"۔

پر ان کی روح بدن سے جدا ہوئی اور میں نے بطور تبرک اپنے ہاتھوں کو چہرے پر ملا، اس وقت ہم نے ان کے بدن کو غسل دیا اور فرشتوں نے ہماری مدد کی، فرشتوں کا ایک گروہ زمین پر آتا تھا تو دوسرا چلا جاتا تھا اور ان کے ہمہ کی آواز جب کہ وہ پیغمبر کے جنازے پر نماز پڑھ رہے تھے میرے کانوں سے ٹکرارہی تھی یہاں تک کہ ہم نے انہیں ان کی قبر میں رکھ دیا۔ پیغمبر کی زندگی میں بھی اور ان کی رحلت کے بعد بھی کوئی مجھ سے زیادہ سزاوار نہیں ہے " پیغمبر کے انتقال کے بعد بعض گروہ نے خاموشی اختیار کر لی اور دوسرا گروہ پوشیدہ طور پر راز و رموز تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔

پیغمبر کی رحلت کے بعد سب سے پہلا واقعہ جس سے مسلمان روبرو ہوئے وہ عمر کی طرف سے پیغمبر کی وفات کو چھٹلانا تھا۔ اس نے پیغمبر کے گھر کے سامنے شور و غوغا کرنا شروع کر دیا اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر کا انتقال ہو گیا ہے ان کو دھمکی دیتا تھا، جب کہ عباس اور ابن مکتوم ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے جس کے مفہوم سے واضح ہو رہا تھا کہ پیغمبر کا انتقال ہو گیا ہے مگر اس کا لوگوں پر کوئی اثر نہ پڑا یہاں تک کہ عمر کا دوست ابوبکر جو مدینہ کے باہر تھا وہ آیا، اور جیسے ہی اس حالات سے باخبر ہوا تو اس نے بھی اسی آیت (۱) کو پڑھا کہ جس کو دوسروں نے اس سے پہلے پڑھا تھا اور عمر کو خاموش کر دیا۔

جس وقت حضرت علی - پیغمبر کو غسل دے رہے تھے اس وقت اصحاب کا ایک گروہ ان کی مدد کر رہا تھا اور غسل و کفن کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور خود پیغمبر کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے آمادہ ہو رہا تھا اور اکثر افراد

سقیفہ بنی ساء میں پیغمبر کے جانشین کا انتخاب کر رہے تھے اگرچہ سقیفہ میں تمام امور کی باگ ڈور انصار کے ہاتھوں میں تھی لیکن جب ابو بکر و عمر اور ابو عبیدہ جو مہاجرین میں سے تھے اس واقعہ سے باخبر ہوئے تو پیغمبر کا جسم اطہر جو غسل کے لئے آمادہ تھا چھوڑ کر سقیفہ میں انصار کے ساتھ شریک ہو گئے، اور لفظی تکرار اور مار پیٹ کے بعد ابو بکر پانچ آدمی کے ووٹ سے رسول خدا (ص) کے خلیفہ منتخب ہوئے، جب کہ مہاجرین میں ان تین آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی اس چیز سے آگاہ نہ تھا۔ (۲)

(۱) سورہ زمر، آیت ۳۰، (انک میت و انہم میتون) تم مرجاؤ گے اور دوسرے بھی مرجائیں گے۔  
(۲) سقیفہ کی تاریخ اور کس طرح ابو بکر ۵۰ - آدمیوں کی رائے سے خلیفہ بنے اگر تفصیل جانتا ہو تو میری کتاب، رببری امت اور پیشوائی در اسلام کا مطالعہ کریں چونکہ ہم نے ان دونوں کتاب میں واقعہ سقیفہ کو تفصیل سے لکھا ہے لہذا یہاں پر مختصر تحریر کیا ہے۔

ایسے پر آشوب ماحول میں امام علی، پیغمبر کے غسل و کفن میں مشغول تھے اور انجمن سقیفہ اپنے کام میں مشغول تھی۔ ابو سفیان جو بہت بڑا سیاسی اور سوجھ بوجھ رکھتا تھا مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لئے حضرت علی کے گھر آیا اور آپ سے کہنے لگا اپنا ہاتھ بڑھائے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں اور آپ کو مسلمانوں کے خلیفہ کے عنوان سے لوگوں کے سامنے روشناس کرائوں، کیونکہ اگر میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو عبد مناف کے فرزندوں میں سے کوئی بھی آپ کی مخالفت کے لئے نہیں اٹھے گا اور آخر میں پورا عرب آپ کو اپنا حاکم و سردار قبول کر لے گا لیکن حضرت علی نے ابو سفیان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی کیونکہ اس کی نیت سے آگاہ تھے آپ نے فرمایا فی الحال میں پیغمبر کی تجویز و تکفین میں مصروف ہوں۔

ابو سفیان کی درخواست کے وقت یا اس کے پہلے عباس نے بھی حضرت علی سے درخواست کی کہ اپنے بھتیجے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کریں لیکن حضرت نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تکبیر کی آواز کانوں سے ٹکرائی حضرت علی نے عباس سے اس کا سبب پوچھا عباس نے کہا

میں نے نہیں کہا تھا کہ دوسرے لوگ بیعت لینے میں تم پر سبقت کر رہے ہیں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اپنا ہاتھ بڑھائو تاکہ تمہاری بیعت کریں؟ لیکن تم حاضر نہ ہوئے اور دوسروں نے تم پر سبقت حاصل کر لی۔

کیا عباس اور ابو سفیان کی درخواست عاقلانہ تھی؟

اگر حضرت علی، عباس کی درخواست قبول کر لیتے اور پیغمبر اسلام کے انتقال کے فوراً بعد بڑی بڑی شخصیتوں کو بیعت کی دعوت دیتے تو یقیناً سقیفہ میں لوگ جمع نہیں ہو سکتے تھے یا اصلاً سقیفہ کا وجود ہی نہ ہوتا، کیونکہ دوسرے افراد کے اندر ہر گز اتنی جرأت نہ تھی کہ خلافت اسلامی جیسے اہم مسئلہ پر ایک گروہ کے مختصر سے مجمع میں تبادلہ خیالات کرتے، اور ایک شخص کو چند آدمیوں کی رائے سے جانشین کے لئے منتخب کر تے۔

بہر حال، پیغمبر اسلام (ص) کی عمومی دعوت اور چند اہم شخصیتوں کا حضرت علی کے ہاتھوں پر خصوصی بیعت کرنا حقیقت سے دور تھا اور تاریخ نے اس بیعت کے سلسلے میں بھی وہی فیصلہ کیا ہے جو ابوبکر کی بیعت کے بارے میں کیا ہے، اس لئے کہ حضرت علی کی جانشینی دو حال سے خالی نہیں تھی یا امام، خدا کی طرف سے ولی و حاکم منصوص تھے یا نہیں تھے؟

پہلی صورت میں - بیعت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور خلافت کے لئے رائے لینا اور اس منصب پر قبضہ کرنے کے لئے کسی کو خلیفہ بنانا خدا کی معین کی ہوئی چیزوں کی توہین کرنا ہے اور خلافت کے موضوع کو جو الہی منصب ہے اور یہ کہ خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے معین ہو اس قانون کی توہین کرتا ہے اور اسے ایک انتخابی مقام و منصب قرار دینا ہے، جب ایک متدین اور حقیقت پسند انسان اپنی شخصیت و منزلت کی حفاظت کے لئے حقیقت اور اصلیت میں تحریف نہیں کرتا، اور حقیقت سے چشم پوشی نہیں کرتا تو کس طرح سے امام معصوم ایسا کر سکتا ہے؟

دوسری صورت میں: خلافت کے لئے حضرت علی کا انتخاب بالکل اسی طرح ہوتا جس طرح سے خلافت کے لئے ابو بکر کا انتخاب ہوا، اور ابو بکر کے جگری دوست خلیفہ دوم (عمر) ابو بکر کے انتخاب کے سلسلے میں بہت دنوں تک یہی کہتے رہے۔

كانت بيعة ابي بكر فلتة وقي الله شرها. (۱)

يعنى ابوبكر كا خلافت كے لئے منتخب ہونا ايک جلد بازى كاكام تھا اور خدانے اس كے شركو روک ديا ،ان تمام چيزوں سے ايم بات يہ كہ ابو سفیان اپنى درخواست ميں ذرہ برابر بهى حسن نيت نہيں ركھتا تھا اور اس كا مقصد صرف يہ تھا كہ مسلمانوں كے درميان اختلاف ،اضطراب اور گروه بندي پيدا كر دے اور عربوں كو پھر سے جاہليت كے اندھيرے ميں ڈال دے اور اسلام كے نئے اور ہرے بھرے درخت كو ہميشہ كے لئے خشك كر دے ۔  
وہ حضرت على - كے گھر آيا اور امام - كى مدح ميں اشعار پڑھا جس كے دو شعر كا ترجمہ يہاں پيش كر رہے ہيں ۔  
اے ہاشم كے بيٹو ، اپنى خاموشى كو ختم كر دو تاكہ لوگ خصوصاً قبيلہ تيم اور قبيلہ عدى كے لوگ تمہارے

(۱) تاريخ طبرى ج ۳ ص ۲، ۵ سيرہ ابن ہشام ج ۴ ص ۸، ۳

مسلم حق كو لالچى نگاہوں سے نہ ديكھيں ۔  
خلافت كا حق تمہيں ہے اور تمہارى طرف آيا ہے اور اس كے لئے حضرت على كے علاوہ كوئى شائستگى ولياقت نہيں ركھتا ہے (۱)  
ليكن حضرت على - كنا بتہ اس ناپاك نيت كى طرف اشارہ كرتے ہوئے فرماتے ہيں : تو ايسى فكر ميں ہے جس كے اہل ہم نہيں ہيں ۔  
طبرى لكھتا ہے :  
على - نے اس كى ملامت كى اور كہا تيرا ہدف فتنہ وفساد كے علاوہ كچھ نہيں ہے تو ہميشہ ، اسلام كے لئے كينہ پرور ثابت ہوا ہے مجھے تيرے وعظ و نصيحت كى ضرورت و حاجت نہيں ہے (۲)  
ابوسفیان ، مسلمانوں كے درميان پيغمبر كى جانشينى كے اختلافى مسئلے سے بخوبى واقف تھا اور اس سلسلے ميں اس نے يہ نظريہ پيش كى ۔  
ميں ايک ايسا طوفان ديكھ رہا ہوں جسے خون كے علاوہ كوئى دوسرى چيز خاموش نہيں كر سكتى (۳)  
ابوسفیان اپنے نظريہ ميں بہت صحيح تھا ، اور اگر خاندان بنى ہاشم كى قربانى اور عفو و در گذر نہ ہوتى تو اس اختلافى طوفان كو قتل و غارت گرى كے علاوہ كوئى دوسرى چيز روک نہيں سكتى تھى ۔

(۱) الد رجاء الر فيعہ ص ۸۷

بنى ہاشم لا تظمغوا الناس فيكم  
ولا سيما تيم ابن مرّة او عدى  
فما الامر الا فيكم و اليكم  
وليس لها الا ابو حسن على

(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج ۲ ص ۵

(۳) انى لارى عجاآة لا يطفوها الا الدم" شرح نہج البلاغہ ج ۲ ص ۴ جوبرى كى كتاب السقيفہ سے ماخوذ۔

بغض و كينہ ركھنے والا گروه

جاہل عرب كے بہت سے قبيلے بدلہ لينے اور بغض و كينہ ركھنے ميں بہت مشہور تھے ، جب ہم تاريخ جاہليت عرب كا مطالعہ كرتے ہيں تو ديكھتے ہيں كہ چھوٹے چھوٹے حادثے ہميشہ بڑے بڑے حادثات ميں تبديل ہوتے تھے ، اس كى صرف وجہ يہ تھى كہ ان كے اندر بدلہ لينے كى فكر كيهى ختم نہيں ہوتى تھى يہ بات صحيح ہے كہ وہ لوگ اسلامى تعليمات كى بناء پر ايک حد تك جاہليت سے دور ہوئے تھے اور ننى زندگى حاصل كر لى تھى ليكن ايسا نہيں تھا كہ ان كے اس طرح كے احساسات مكمل طور پر ختم ہو گئے تھے ، اور كوئى اثر ان كے اندر باقى نہ تھا ، بلکہ اسلام قبول كرنے كے بعد بهى كم و بيش بدلہ لينے كى حس ان كے اندر باقى تھى ۔  
يہ بات بغير كسى دليل كے نہ تھى كہ حباب بن منذرنے جو گروه انصار كا بہادر شخص اور گروه انصار كے لئے خلافت كا

امید وار تھاسقیفہ میں خلیفہ دوم کی طرف رخ کر کے کہا تھا ۔

ہم تمہاری خلافت و جانشینی کے ہر گز مخالف نہیں ہیں اور نہ اس کام پر حسد کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ حکومت کی باگ ڈور ایسے افراد کے ہاتھ میں چلی جائے کہ ہم نے شرک کو مٹانے اور اسلام کو پھیلانے کے لئے اسلامی جنگوں میں ان کے باپ دادا اور ان کے فرزندوں کو قتل کیا ہے کیونکہ مہاجرین کے اعزاء و احباب انصار کے فرزندوں اور نوجوانوں کے ہاتھ قتل ہوئے ہیں۔ چنانچہ اگر انہی افراد کے ہاتھ میں حکومت آجائے تو ہماری حالت یقیناً تبدیل ہو جائے گی۔

ابن ابی الحدید کہتے ہیں:

میں نے کتاب "سقیفہ" تالیف احمد بن عبد العزیز جوہری کو ۶۱۰ھ میں استاد ابن ابی زید رئیس بصرہ سے پڑھی، اور جب بحث حباب بن منذر کی گفتگو تک پہنچی تو میرے استاد نے کہا حباب کی پیشنگوئی بہت عاقلانہ تھی اور جس چیز کا اسے خوف تھا وہ یہ کہ مسلم بن عقبہ مدینہ پر حملہ کرے گا اور اس شہر کو یزید کے حکم سے محاصرہ میں رکھا جائے گا اور بوا بھی یہی بنی امیہ نے جنگ بدر میں قتل ہونے والے اپنے تمام افراد کا بدلہ انصار کے بیٹوں سے لے لیا۔ پھر استاد نے ایک اور مطلب کی یاد دہانی کرتے ہوئے کہا:

جس چیز کی حباب نے پیشنگوئی کی تھی پیغمبر نے بھی اس کی پیشنگوئی کی تھی، آپ بعض عربوں کے بغض و کینہ اور اپنے خاندان کے ساتھ بدلہ لینے کے متعلق خوف زدہ تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے بہت سے رشتہ داروں کو مختلف جنگوں میں بنی ہاشم کے جوانوں نے قتل کیا تھا اور اس سے بھی آگاہ تھے کہ اگر حکومت کی باگ ڈور دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی تو ممکن ہے خاندان رسالت سے بدلہ لینے کی جرأت ان کے اندر پیدا ہو جائے اسی وجہ سے آپ ہمیشہ حضرت علی کے بارے میں سفارش کرتے تھے اور انہیں اپنا وصی اور امت کے حاکم کے عنوان سے پہنچواتے تھے، تاکہ جو مقام و مرتبہ اور منزلت خاندان رسالت کی ہو اس کی وجہ سے علی اور ان کے اہلبیت کا خون محفوظ رہے، لیکن کوئی کیا کرسکتا ہے تقدیر نے تمام چیزوں کو بدل ڈالا اور حکومت دوسروں کے ہاتھوں میں آگئی اور پیغمبر کی پیشنگوئی شرمندہ تعبیر نہ ہوسکی اور جو چیز نہیہونی چاہیئے تھی وہ ہوگئی اور ان کے خاندان کا کتنا پاک و پاکیزہ خون بہا دیا گیا۔ (۱)

اگرچہ رئیس بصرہ کی بات شیعہ نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ شیعہ عقیدہ کے مطابق، پیغمبر نے خدا کے حکم سے حضرت علی کو امت کی رہبری کے لئے منصوب اور معین کیا اور حضرت علی کو منتخب کرنے کی وجہ ان کے اور ان کے اہلبیت کے خون کی حفاظت کرنا مقصود نہیں تھی بلکہ حضرت علی کے اندر وہ خوبیوں تھیں کہ ایسا بابرکت مقام و منزلت ان کے لئے ہوا۔

لیکن بہر حال اس کی تحلیل بالکل صحیح تھی کیونکہ اگر حکومت کی باگ ڈور حضرت علی کے خاندان کے ہاتھوں میں ہوتی تو کبھی بھی کربلا کا خونین واقعہ نہ ہوتا اور امام کے بچے بنی امیہ اور بنی عباس کے جلاوں کے ہاتھ شہید نہ ہوتے اور خاندان رسالت کا پاکیزہ خون مٹھی بھر مسلمان نما افراد کے ہاتھوں نہ بہتا۔

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۵۳

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

بامقصد خاموشی

حقیقت ہے کہ اسلامی معاشرہ اور خاندان رسالت کو عجیب مشکلات سے دوچار کر دیا تھا اور ہر لمحہ اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمانوں کے درمیان خلافت کے موضوع پر جنگ چھڑ جائے اور اسلامی معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے اور عرب قبیلوں کے تازہ مسلمان، جاہلیت اور بت پرستی کے دور کی طرف پلٹ جائیں، اسلامی تحریک، ابھی نئی نئی اور جواں سال تحریک تھی اور ابھی اس تحریک نے لوگوں کے دلوں میں جڑ نہیں پکڑی تھی اور ان میں سے اکثریت نے دل کی

گہرائیوں سے اس تحریک کو قبول نہیں کیا تھا۔

ابھی حضرت علی اور پیغمبر کے بہت سے باوفا اصحاب پیغمبر کے غسل و کفن اور دفن سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ اصحاب کے دو گروہ آپس میں خلافت کے مدعی ہو گئے اور اس راہ میں بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر دیں وہ دو گروہ یہ تھے:

۱۔ انصار، خصوصاً قبیلہ خزرج جو مہاجرین سے پہلے ایک مقام پر جسے سقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں جمع ہو گئے تھے اور چاہا تھا کہ تمام امور کی ذمہ داری سعد بن عبادہ رئیس خزرج کے حوالہ کریں اور اسے پیغمبر کا جانشین منتخب کریں۔ لیکن چونکہ انصار کے قبیلے میں اتحاد و اتفاق نہ تھا اور ابھی بھی پرانے کینے ان کے دلوں میں جڑ پکڑے ہوئے تھے خصوصاً اوس و خزرج کے قبیلے والے اپنے اپنے کینوں کو نہیں بھولے تھے۔ انصار کا گروہ داخلی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے کے مقابلے میں آگیا اور قبیلہ اوس کے لوگ سعد کی پیشوائی میں جو کہ خزرج سے تھا مخالفت کی اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس راہ میں ان کی مدد نہ کی بلکہ خواہش ظاہر کی کہ امت کی باگ ڈور مہاجرین میں سے کسی کے ہاتھ میں ہو۔

۲۔ مہاجرین، اور ان سب کے رئیس ابوبکر اور ان کے ہم فکر ہیں کی تعداد سقیفہ میں بہت کم تھی لیکن اس علت کی بناء پر جس کا اشارہ ہم کر چکے ہیں انہوں نے ابوبکر کے لئے ووٹ جمع کر لیا اور کامیابی کے ساتھ سقیفہ سے باہر آئے اور مسجد تک آئے بہت زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیا۔ اور ابوبکر خلیفہ رسول کے عنوان سے منبر رسول خدا پر بیٹھے اور لوگوں کو بیعت و اطاعت کی دعوت دی۔

تیسرا گروہ اور مسئلہ خلافت

ان دو گروہوں کے مقابلے میں ایک گروہ اور بھی موجود تھا جو روحانی اور معنوی طاقت سے سرشار تھا اور اس گروہ میں حضرت علی جیسی شخصیت اور بنی ہاشم کے افراد اور کچھ اسلام کے سچے ماننے والے موجود تھے جو خلافت کو حضرت علی کا حق سمجھتے تھے اور ان کو دوسرے افراد کے مقابلے میں خلافت و رہبری کے لئے ہر طرح سے لائق و شائستہ جانتے تھے۔

ان لوگوں نے خود مشاہدہ کیا کہ ابھی پیغمبر کا جنازہ دفن بھی نہ ہوا تھا کہ گروہ مہاجرین و انصار خلافت کے مسئلے پر جنگ و جدال کرنے لگے۔

اس گروہ نے اپنی مخالفت کی آواز کو مہاجرین و انصار بلکہ تمام مسلمانوں تک پہنچانے کے لئے یہ اعلان کر دیا کہ ابوبکر کا انتخاب غیر قانونی اور نص پیغمبر اور اصول مشورہ کے خلاف تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ حضرت زہرا کے گھر میں جمع ہوئے اور سقیفہ میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن یہ اجتماع آخر کار ختم ہوا اور خلافت ابوبکر کی مخالفت کرنے والے مجبور ہو کر حضرت زہرا کے گھر سے باہر نکل کر مسجد کی طرف چلے گئے۔

ایسے حالات میں تیسرے گروہ پر بہت اہم ذمہ داری آ پڑی، خصوصاً امام علیہ السلام کے لئے کہ آپ نے خود مشاہدہ کیا کہ خلافت و رہبری اپنے اصلی محور سے خارج ہو گئی۔ جس کے نتیجے میں بہت سے امور اپنے اصلی محور سے خارج ہو جائیں گے اسی وجہ سے امام نے خاموشی اختیار کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ غیر مناسب کام پر خاموش رہنے کی وجہ سے ان کی تائید ہوجاتی، اور امام - جیسی عظیم شخصیت کا ایسی صورت حال میں خاموش رہنے کی وجہ سے ممکن تھا کہ ان لوگوں کے لئے حقانیت کی دلیل بن جاتی اور ان کی خلافت ثابت ہو جاتی، لہذا آپ نے خاموشی ختم کر دی۔ اور اپنا سب سے پہلا وظیفہ انجا دیا یعنی خطبہ کے ذریعے حقانیت کو یاد دلایا اور مسجد نبوی میں جو آپ سے زبردستی بیعت لینا چاہ رہے تھے اس مہاجرین کے گروہ کو مخاطب کر کے کہا:

اے گروہ مہاجر، اس حکومت کو حضرت محمد مصطفیٰ نے جس اساس و بنیاد پر قائم کیا ہے اس سے خارج نہ کرو اور اپنے گھروں میں داخل نہ کرو، خدا کی قسم پیغمبر کا خاندان اس امر کے لئے زیادہ سزوار ہے کیونکہ ان کے خاندان میں ایسے افراد موجود ہیں جو مفہم قرآن اور دین کے اصول و فروع کی مکمل معلومات رکھتے ہیں اور پیغمبر کی سنتوں سے واقف ہیں اور اسلامی معاشرے کو اچھی طرح سے چلا سکتے ہیں اور ظلم و فساد کو روک سکتے ہیں اور مال غنیمت کو برابر برابر تقسیم کرتے ہیں، ایسے افراد کی موجودگی میں یہ منصب دوسروں تک نہیں پہنچ سکتا، ایسا نہ ہو کہ تم خواہشات نفسانی کی پیروی کرو اور صراط مستقیم سے ہٹ کر حقیقت سے دور ہو جاؤ۔ (۱)

اس بیان میں امام علیہ السلام نے خلافت کے لئے اپنی لیاقت و شائستگی کو آسمانی کتابوں کا علم رکھنے اور پیغمبر کی سنتوں اور اپنی روحانی طاقت کو معاشرے کی رہبری کے شایان شان جانا ہے اور اگر پیغمبر سے اپنے رشتہ کی طرف بھی اشارہ کرتے تو مہاجرین کی طرح کا ایک استدلال ہو جاتا کہ انہوں نے پیغمبر کی طرف اپنے کو نسبت دی ہے شیعہ

روایتوں کے مطابق امیر المومنین بنی ہاشم کے گروہ کے ساتھ ابوبکر کے پاس گئے اور خلافت کے لئے اپنے کو سزاوار بتایا اور اپنے ان تمام فضائل و کمالات یعنی علم کتاب و سنت، اسلام قبول کرنے میں سبقت و غیرہ اور جنگ کے میدان میں ثابت قدم اور فصاحت و بلاغت و غیرہ کو بیان کیا اور فرمایا:

(۱) الامامة والسياسة، ج ۱، ص ۱۱

"میں پیغمبر کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے مقام و منصب کا حقدار ہوں، میں ان کا وزیر اور وصی اور اسرار کا گنجینہ اور علوم کے خزانہ کا مخزن ہوں۔ میں ہی صدیق اکبر اور میں ہی فاروق اعظم ہوں میں پہلا وہ شخص ہوں جو ان پر ایمان لایا میں مشرکوں سے جنگ کرنے میں سب سے زیادہ ثابت قدم، کتاب خدا اور پیغمبر کی سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا، دین کے اصول و فروع پر تم سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والا، اور گفتگو کرنے میں تم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور ہر معاملے میں تم سب سے زیادہ مستحکم ہوں۔ تو پھر کیوں اس میراث میں ہمارے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہو۔ (۱)

امیر المومنین علیہ السلام اپنے ایک خطبہ میں خلافت کو اس شخص کا حق جانتے ہیں جو حکومت کو چلانے میں تمام لوگوں سے زیادہ اہلیت رکھتا ہو اور تمام قوانین الہی و غیرہ پر مکمل تسلط رکھتا ہو جیسا کہ آپ فرماتے ہیں:

"اے لوگو، حکومت کی قیادت کے لئے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو تمام الہی قوانین کو جانتا ہو۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ تمام شرائط موجود نہیں ہوں۔ اور خلافت کی تمنا کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنے اس عمل اور فکر سے باز آجا، لیکن اگر وہ اپنی ضد پر باقی رہا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ (۲)

یہ منطقی فقط حضرت علی علیہ السلام ہی کی نہیں ہے بلکہ آپ کے بعض مخالفین کا بھی یہی نظریہ ہے، اور انہوں نے حضرت علی کے لئے خلافت کا اعتراف کیا ہے اور ان کا یقین و ایمان بھی یہی ہے کہ کسی غیر کو ان کے اوپر مقدم کرنا گویا ایک بڑے اور اہم حق کو پامال کرنا ہے۔

جب ابو عبیدہ جراح کو اس بات کی خبر ملی کہ حضرت علی نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی ہے تو امام کی طرف رخ کر کے کہتا ہے:

"امت کی باگ ڈور کو ابوبکر کے حوالے کر دو اور اگر زندہ رہ گئے اور لمبی عمر نصیب ہوئی تو حکومت کی باگ ڈور سنبھالنے کے لئے تم سب سے زیادہ حقدار ہو کیونکہ تمہیں تمام فضائل کا ملکہ حاصل ہے اور مستحکم ایمان اور عالم علم لدنی اور حقیقتوں کا درک کرنا اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنا اور پیغمبر کا بھائی و داماد ہونا

(۱) احتجاج طبرسی ج ۱ ص ۹۵

(۲) نہج البلاغہ عبدہ خطبہ ۱۶۸، "ایہا الناس ان احق الناس بہذا الامر اقوابم علیہ۔۔"

یہ تمام فضائل و کمالات سب پر واضح و آشکار ہیں۔ (۱)

امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے حق خلافت کی واپسی کے لئے صرف متوجہ اور متنبہ کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اکثر مؤرخین کی تحریر کے مطابق اکثر رات میں آپ نے پیغمبر کی بیٹی اور اپنے نور چشم حسنین کے ہمراہ انصار کے سرداروں سے ملاقات کی تاکہ خلافت کو اس کے صحیح مقام پر واپس لائیں۔ لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے قابل اطمینان جواب نہیں دیا۔ اور یہ عذر پیش کیا کہ اگر حضرت علی دوسروں سے پہلے خلافت کی فکر کرتے اور ہم سے بیعت طلب کرتے تو ہم لوگ انہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور کبھی بھی دوسروں کی بیعت نہ کرتے۔

امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا کہ کیا یہ بات درست تھی کہ میں پیغمبر کے جنازے کو بغیر غسل و کفن گھر کے ایک گوشہ میں چھوڑ دیتا اور خلافت کی فکر کر کے لوگوں سے بیعت لیتا؟ پیغمبر اسلام کی بیٹی نے حضرت علی کی بات کی تائید کرتے ہوئے فرمایا: علی اپنے وظیفہ میں دوسروں سے بہت زیادہ آشنا تھے وہ گروہ جس نے علی کے حق کو ان سے چھین لیا ہے خدا اس کا حساب لے گا۔ (۲)

امام علیہ السلام کا اس سلسلے میں یہ پہلا کام تھا جو تجاوز کرنے والے گروہ کے مقابلے میں انجام دیا تھا تاکہ توجہ و تذکر اور گروہ انصار کے بزرگوں کی مدد سے اپنے حق کو غاصبوں سے واپس لے لیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس راہ

میں امام کو کوئی نتیجہ نہ ملا، اور آپ کا حق پامال کر دیا گیا، اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے پر آشوب اور حساس ماحول میں امام کا فریضہ کیا تھا؟ کیا آپ کا فریضہ صرف یہ تھا کہ آپ اپنی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھتے رہیں اور خاموش بیٹھ جائیں یا اس کی حفاظت کے لئے قیام کریں؟

(۱) الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۲  
(۲) الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۲، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج ۲ ص ۴۷ معاویہ کے نامہ سے مأخوذ۔

امام کے لئے صرف ایک راستہ تھا

امام علیہ السلام کا خلافت کے سلسلے میں مسجد پیغمبر میں مہاجرین اور انصار کو متوجہ کرنے کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں پر حقیقت آشکار ہو گئی اور آپ نے تمام مسلمانوں پر حجت تمام کر دیا، لیکن خلیفہ اور ان کے ہم فکر و خیال افراد منصب خلافت پر اپنا قبضہ جمانے رہے اور دھیرے دھیرے ایک طاقت بن کر ابھرنے لگے اور زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں خلافت مستحکم ہونے لگی اور رفتہ رفتہ لوگ اس حکومت کو "اصل حکومت" شمار کرنے لگے اور اسی کے پیرو ہو گئے۔

ایسے حساس ماحول میں جب کہ ہر لمحہ خاندان رسالت کو نقصان اور حکومت وقت کو فائدہ ہو رہا تھا حضرت علی جیسی شخصیت کا فریضہ کیا تھا؟ امام کے سامنے صرف دو راستے تھے ایک یہ کہ خاندان رسالت کے مردوں اور اپنے سچے ماننے والوں اور پیروی کرنے والوں کی مدد سے قیام کرتے اور اپنے حق کو ان لوگوں سے واپس لے لیتے، یا یہ کہ مکمل طور پر خاموشی اختیار کر کے تمام عمومی و اجتماعی امور سے کنارہ کشی کر لیتے اور جتنا ممکن ہو تاپنے اخلاقی و فردی فریضے پر عمل کرتے۔

تمام قرآن و شواہد (جو آئندہ بیان ہوں گے) سے واضح ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اگر ایسے حالات میں قیام کرتے تو اس نئے اسلام اور نئے معاشرہ اسلامی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا لہذا امام علیہ السلام کے لئے ضروری تھا کہ دوسرا راستہ اپناتے۔

پیغمبر اسلام امت کے مرتد ہونے سے خوف زدہ تھے

۱۔ قرآن کریم کی آیتیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں اسلامی معاشرہ کے مستقبل کے لئے بہت فکر مند تھے، اور مسلسل ناخوشگوار واقعات دیکھنے کے بعد اس احتمال نے انہیں زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کہیں کچھ لوگ ہمارے بعد اپنے جاہلیت کے ماحول کو پھر سے اختیار کر لیں اور سنت الہی کو بھول جائیں۔ یہ خیال اس وقت اور محکم ہو گیا جب جنگ احد میں پیغمبر کے مرنے کی خبر پھیلا کر لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور پیغمبر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اکثر مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ اور پہاڑوں اور دوسرے مقامات پر پناہ لے لی اور بعض افراد نے چاہا کہ منافقوں کے سردار (عبد اللہ ابن ابی) سے بات کر کے ابوسفیان سے امان نامہ لے لیں اور ان کا ایمان و عقیدہ اتنا پستی کی طرف آگیا کہ خداوند عالم کے متعلق بدگمانی کرنے لگے اور غلط فکریں کرنے لگے۔

قرآن مجید نے اس راز کا پردہ فاش کر دیا (ارشاد قدرت ہے)

(طَائِفَةٌ قَدْ أَمَّتَهُمْ نَفْسُهُمْ بِظَنُونٍ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ) (۱)

اور ایک گروہ جن کو اس وقت بھی (بھاگنے کی شرم سے) جان کے لالے پڑے تھے خدا کے ساتھ (خواہ مخواہ) زمانہ جاہلیت کی ایسی بدگمانیاں کرنے لگے (اور) کہنے لگے بھلا کیا یہ امر (فتح) کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔

قرآن کریم نے دوسری آیت میں پیغمبر کی رحلت کے بعد صحابہ کے درمیان اختلاف و کشیدگی کی بھی خبر دی ہے ارشاد قدرت ہوتا ہے: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَآبِن مَاتٍ وَ قِيلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) (۲)

اور محمدؐ تو صرف رسول ہیں ان سے پہلے اور بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں پھر کیا اگر محمدؐ اپنی موت سے مرجائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم اللہ سے پاؤں (اپنے کفر کی طرف) پلٹ جاؤ گے اور جو اللہ سے پاؤں پھرے گا (بھی) تو (سمجھ لو) برگز خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑے گا اور عنقریب خدا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔



یہ آیت پیغمبر کے اصحاب کے دو گروہوں میں تقسیم ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے (ایک "عصر جاہلیت کی طرف واپس جانا، دوسرے" ثابت قدم اور شکر گزار ہونا) کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد ممکن ہے مسلمان اختلاف اور گروہوں میں تقسیم ہو جائیں۔

۲۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں موجود افراد کا اگر جائز لیا جائے تو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اس دن کس طرح سے ایک دوسرے کے رازوں کا پردہ فاش ہو رہا تھا۔ اور ایک بار پھر قومی اور خونی تعصب اور جاہلیت کی فکریں پیغمبر کے صحابہ کی زبانی زندہ ہو گئیں تھیں، اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ابھی مکمل طور پر اسلامی تربیت ان کے اندر نفوذ نہیں ہوئی ہے اور اسلام و ایمان صرف ان کے جاہلیت کے چہرے پر پڑا ہے۔ اس تاریخی واقعہ کی تحقیق کرنے کے بعد یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ سقیفہ میں جمع

(۱) سورہ آل عمران آیت ۱۵۳

(۲) سورہ آل عمران آیت ۱۴۴

ہونے کا ہدف اور ان تقریروں اور لڑائیوں کا مقصد ذاتی مفاد کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ خلافت کے لباس کو خود پہن لے جب کہ حق یہ تھا کہ امت کی بہترین فرد اس خلافت کے لباس کو پہنے، اور جو چیز اس مجمع یا انجمن سقیفہ میں بیان نہیں ہوئی تھی وہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت اور مفاد کا تذکرہ اور خلافت کو ایسے شخص کے سپرد کرنا جو اپنی ذہانت و عقلمندی علم و دانش اور بہترین اخلاقی و معنوی روح کے ذریعے اسلام کی کشتی کو نجات کے ساحل تک پہنچاتا تھا۔

ایسے حالات میں جب کہ اسلامی عقیدہ لوگوں کے دلوں میں رسوخ نہیں کیا تھا اور جاہلیت کی رسم و عادت اور پیروی ان کے ذہنوں سے نہیں نکلی تھی اور ہر طرح کی خانہ جنگی، گروہ بندی، معاشرے کو بکھیر دینے اور بہت زیادہ افراد کے بت پرستی اور شرک کی طرف جانے کا امکان تھا۔

۳۔ ان تمام چیزوں سے واضح و روشن حضرت علی علیہ السلام کی وہ گفتگو ہے جو آپ نے سقیفہ کے واقع ہونے سے پہلے کی تھی آپ نے اپنی گفتگو میں اتحاد اسلامی کی اہمیت اور اختلاف و تفرقہ کے برے انجام کی طرف اشارہ کیا ہے مثلاً جب ابوسفیان نے چاہا کہ حضرت علی کو بیعت لینے کے لئے راضی کرے اور اس کے ذریعے اپنے بدترین مقاصد کو عملی جامہ پہنائے تو اس وقت امام نے مجمع کی طرف رخ کر کے فرمایا:

"فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتی سے توڑ دو اور تفرقہ و اختلاف سے پرہیز کرو اور فخر و مباہات، تکبر و غرور کو دل سے نکال دو۔ اگر میں کچھ کہوں تو لوگ کہیں گے کہ حکومت کے لالچی ہیں اور اگر خاموشی سے بیٹھ جاؤں تو لوگ کہتے ہیں کہ موت سے ڈرتے ہیں۔ خدا کی قسم ابوطالب کے بیٹے کے نزدیک موت سے مانوس ہونا ماں کے پستان سے مانوس ہونے سے زیادہ بہتر ہے، اگر علم و آگاہی کے بعد خاموشی اختیار کریں تو گویا ہم بھی انہیں میں سے ہو گئے اور اگر تم بھی ہماری طرح ان چیزوں سے باخبر ہوتے تو تم بھی گہرے کنوینینڈالی ہوئی رسی کی طرح پریشان ولرزات ہوتے۔" (۱)

جس علم و آگاہی کے متعلق آپ گفتگو کر رہے تھے وہ اختلاف و تفرقہ کا وحشتناک نتیجہ تھا آپ جانتے تھے کہ خلافت کے لئے قیام یا خانہ جنگی کا ہونا سلام کے مٹ جانے اور لوگوں کا جاہلیت کے

(۱) نبی البلاغہ خطبہ ۵

عقیدے پر واپس ہو جانے کا باعث تھا۔

۴۔ جس وقت پیغمبر کے انتقال کی خبر نو مسلم قبیلوں کے درمیان منتشر ہوئی اسی وقت ایک گروہ اپنے بزرگوں کے مذہب کی طرف واپس جانے کے لئے تیار ہو گیا اور مرکزی حکومت کی مخالفت کے لئے آمادہ ہو گیا اور جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے جو کام مرکزی حکومت نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو جنگ کے لئے آمادہ تھا ان کو تیار کیا تاکہ دوبارہ مرکزی حکومت کی اطاعت اور اسلامی قوانین سے انکار نہ کیا جاسکے۔ اور اس کے نتیجہ میں دوسرے قبیلے والوں کے ذہنوں سے اپنے اپنے مذہب کی طرف واپس جانے کا خیال ہمیشہ کے لئے نکل جائے گا۔



بعض قبیلوں کے مذہب اسلام سے پھر جانے کے علاوہ، یمامہ میں ایک اور فتنہ برپا ہو گیا اور وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے افراد تھے مثلاً مسیلمہ و سجاح و طلیحہ وغیرہ۔

ایسے حالات میں جب مہاجرین و انصار کے درمیان اتحاد کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اطراف کے قبیلے والے اپنے پرانے مذہب کی طرف جانے پر آمادہ تھے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے نجد، اور یمامہ میں کھڑے ہو گئے، ایسے ماحول میں امام کے لئے مناسب نہیں تھا کہ آپ بھی ایک اور محاذ قائم کرتے اور اپنے حق کے لئے قیام کرتے، امام اس خط میں جو آپ نے مصر کے لوگوں کے نام لکھا تھا اس نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

خدا کی قسم، میننے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ عرب خلافت کو پیغمبر کے خاندان سے لے لیں گے یا ہمیں اس کے لینے سے روک دیں گے مگر ہوا وہی، دیکھتے ہی دیکھتے لوگ فلاں شخص کی بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا یہاں تک کہ میننے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پھرنے والے اسلام سے پھر گئے اور حضرت رسول خدا کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ اسلام میں کوئی رخنہ یا خرابی دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم نے اسلام اور اہل اسلام کی نصرت نہ کی تو (اس کوتاہی کی وجہ سے) میرے سر پر وہ مصیبت آپڑے گی جو تمہاری حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے (کی مصیبت) سے بھی بڑی ہوگی (وہ حکومت) جو حقیقت میں چند دنوں سے زیادہ نہیں ہے اور اس کی ہودوباش اسی طرح نابود ہو جائے گی جس طرح سراب نابود ہو جاتا ہے، یا جیسے بادل چھٹ جاتا ہے، غرض ان بدعتوں (کے بجوم) میں، میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باطل کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ نیست و نابود ہو گیا اور دین کو اطمینان نصیب ہوا اور تباہی سے بچ گیا۔ (۱)

عثمان کی خلافت کے آغاز میں اس شوریٰ نے جو خلافت کے تعیین کے لئے بنائی گئی تھی جب عثمان کے حق میں رائے دیا اس وقت امام علیہ السلام اس شوریٰ کے عہدہ داروں سے مخاطب ہوئے اور کہا:

"تم خوب جانتے ہو کہ میں منصب خلافت کا تم سب سے زیادہ حقدار ہوں لیکن جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق درست رہے گامیں خلافت سے کنارہ کشی کر سکتا ہوں اگرچہ میرے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہے اور اگر میں خاموشی سے کام لوں تو صرف اس بنا پر کہ خدا کے نزدیک میرا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ (۲)

ابن ابی الحدید کہتے ہیں:

جب علی - کو لوگوں نے خلافت سے معزول کر دیا تو آپ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ ایک دن آپ کی محترم و باعظمت بیوی فاطمہ زہرا نے انہیں اپنے حق کو واپس لینے کے لئے قیام و تحریک کی خاطر متوجہ کیا تو اسی وقت مؤذن کی آواز "اشہد ان محمداً رسول اللہ" بلند ہوئی آپ نے حضرت زہرا کی طرف رخ کر کے کہا: کیا تم پسند کرو گی کہ زمین پر سے یہ آواز ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جائے؟ فاطمہ (س) نے کہا: برگز نہیں۔ امام نے فرمایا: یہی بہترین راستہ ہے جسے میں نے اختیار کیا ہے۔ (۳)

اس موضوع کی اہمیت کے مد نظر اس سلسلے میں کچھ مزید بحث کریں گے تاکہ امام کے مسلحانہ قیام کے نتائج کی صحیح سندوں کے ساتھ تحقیق کر سکیں۔

- (۱) نہج البلاغہ عہدہ، نامہ ۶۲  
(۲) نہج البلاغہ عہدہ، خطبہ ۷۱  
(۳) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۱ ص ۱۱۳

اعلیٰ مقصد کی اہمیت

اجتماعی مسئلوں میں بہت کم ہی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو اہمیت اور دقت کے لحاظ سے مدیریت اور رہبری کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ رہبری کے شرائط اتنے زیادہ دقیق اور اہمیت کے حامل ہیں کہ بڑے اجتماع کے درمیان فقط چند ہی لوگ شرائط پر پورے اتریں گے۔

ہر طرح کی رہبری کے دوران، آسمانی رہبروں کے مراتب دوسرے رہبروں سے بہت سنگین اور ان کے فرائض بہت عظیم ہوتے ہیں اور دنیاوی رہبر سماج کے انتخاب کرنے کے بعد ایسے مقام و مرتبہ پر پہنچتے ہیں۔

الہی و معنوی رہبری میں مقصد، مقام و منصب کی حفاظت سے زیادہ بلند و باعظمت ہوتا ہے اور رہبر اس لئے قیام کرتا

ہے کہ مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے اور اگر اس کے سامنے دو راستے ہوں اور مجبور ہو کہ ایک کو چھوڑ دے اور دوسرے کو قبول کرے تو مقصد کے اصول و اساس کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ رہبری کو چھوڑ دے اور مقصد کو اپنے مقام و منصب رہبری سے زیادہ مقدس قرار دے۔

پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی ایسے ہی اہم مسئلہ سے دو چار ہوئے، جب کہ رہبری اور حاکمیت سے ان کا مقصد اس پودے کی دیکھ بھال تھی جو پیغمبر اسلام کے ہاتھوں حجاز کی سر زمین پر لگایا گیا تھا اور ضروری تھا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک تناور اور مضبوط درخت میں تبدیل ہو جائے اور اس کی تمام شاخیں پوری دنیا پر چھا جائیں اور لوگ اس کے سائے میں آرام کریں۔ اور اس کے بابرکت پھلوں سے استفادہ کریں۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد امام علیہ السلام اس بات سے بخوبی آگاہ ہو گئے کہ ہم ایسے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اگر حکومت پر قبضہ کرنے اور اپنے حق و مقام کے لئے اصرار کریں تو ایسے حالات رونما ہوں گے کہ پیغمبر اسلام کی تمام زحمتیں اور جو اس مقدس مقصد میں آپ کا خون بہا ہے بے کار ہو جائے گا۔

پرانے کینے اور بغض و حسد

اسلامی معاشرہ ان دنوں بہت زیادہ مشکلات و اختلافات اور تفرقہ کا شکار تھا کہ ایک چھوٹی سی خانہ جنگی یا معمولی سی خون ریزی مدینہ کے اندر یا باہر ایک زبردست جنگ کا سبب بن جاتی۔ بہت سے قبیلے والے جو مدینہ یا مدینہ سے باہر زندگی بسر کر رہے تھے ان کو حضرت علی سے کوئی محبت و انسیت نہیں تھی بلکہ ان سے بغض اور حسد و کینہ کو اپنے دل میں رکھے تھے کیونکہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے ان قبیلوں کے کفر کے پرچم کو سر نگوں کیا تھا اور ان کے پہلوانوں کو ذلت کے ساتھ زمین پر گرایا تھا۔ اگرچہ ان لوگوں نے بعد میں اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا تھا۔ اور ظاہراً خدا پرستی اور اسلام کی پیروی کر رہے تھے لیکن اسلام کے جانبازوں سے اپنے دل میں بغض و عداوت کو چھپائے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں اگر امام علیہ السلام اپنی قدرت کاملہ سے اپنا حق لینے کے لئے مسلحانہ قیام کرتے تو اس کے نتیجے میں یہ صورتیں پیش آتیں۔

۱۔ اس جنگ میں امام کے بہت سے عزیز اور ساتھی جو آپ کی امامت و رہبری پر جان و دل سے معتقد تھے۔ شہید ہو جاتے۔ البتہ جب بھی ان افراد کی قربانیوں کی وجہ سے حق اپنی جگہ واپس آجاتا تو مقصد کے پیش نظر ان کی جانبازی و فداکاری پر اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ ان افراد کے شہید ہوجانے کے بعد بھی حق، صاحب حق کے پاس واپس نہیں آجاتا۔

۲۔ صرف حضرت علی ہی اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے نہ بچھڑتے، بلکہ بنی ہاشم اور حضرت علی کے سچے پیرو اور دوستوں کے قیام کی وجہ سے پیغمبر کے بہت زیادہ صحابی جو امام کی خلافت پر راضی نہ تھے ان کا ساتھ نہ دیتے اور قتل ہو جاتے اور نتیجتاً مسلمانوں کی قدرت مرکز میں کمزور ہوجاتی، یہ گروہ اگرچہ رہبری کے مسئلے میں امام کے مقابلے میں کھڑا تھا لیکن دوسرے امور میں امام کے مخالف نہیں تھا اور شرک و بت پرستی، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں قدرت مند شمار کیا جاتا تھا۔

۳۔ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، دور دراز میں رہنے والے قبیلے جن کی سرزمین پر اسلام کا پودا ابھی قاعدے سے برا بھرا نہ ہوا تھا وہ اسلام کے مخالفوں اور دشمنوں سے مل جاتے اور ایک طاقت بن کر ابھرتے اور ممکن تھا کہ مخالفوں کی قدرت و طاقت اور مرکز میں صحیح رہبری نہ ہونے کی وجہ سے، توحید کے چراغ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیتے۔

امیر المومنین علیہ السلام نے اس تلخ و دردناک حقیقت کو بہت نزدیک سے محسوس کیا تھا اسی لئے مسلحانہ قیام پر خاموشی کو ترجیح دیا۔ بہتر ہے کہ اس مطلب کو امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنیں۔

عید اللہ بن جنادہ کہتا ہے:

مینعلیٰ کی حکومت کے اوائل میں مکہ سے مدینہ آیا میں نے دیکھا کہ تمام لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور امام کی آمد کے منتظر تھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ علی اپنی تلوار لٹکانے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ تمام لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف تھیں یہاں تک کہ آپ مسند خطابت پر جلوہ افروز ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا۔

"اے لوگو، آگاہ رہو! جب پیغمبر اسلام ہمارے درمیان سے اٹھ گئے تو اس وقت ضروری تھا کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ حکومت کے سلسلے میں نزاع و اختلاف نہ کرتا اور اسے لالچی نگاہوں سے نہ دیکھتا کیونکہ ہم ان کی عترت کے وارث

اور ان کے ولی ہیں لیکن توقع کے خلاف، قریش کے ایک گروہ نے ہمارے حق کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خلافت کو ہم سے چھین لیا اور اس پر قابض ہو گئے، خدا کی قسم، اگر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف کا ڈر نہ ہوتا اور پھر ان کے اسلام سے بت پرستی اور کفر کی طرف پلٹ جانے کا خطرہ نہ ہوتا اور اسلام کے مٹ جانے اور ختم ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو نقشہ کچھ اور رہی ہوتا جس کا تم مشاہدہ کرتے۔ (۱)

کلبی کہتا ہے:

جب علی -، طلحہ وزبیر جیسے لوگوں کو بے وفائی اور عہد شکنی پر متنبہ کرنے کے لئے بصرہ کے لئے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا:

"جس وقت خدا نے اپنے پیغمبر کی روح قبض کیا اس وقت قریش نے اپنے کو محترم سمجھ کر اپنے آپ کو ہم پر مقدم سمجھا اور ہمارے حق کو ہم سے چھین لیا، لیکن میں نے صبر و بردباری کو اس کام سے بہتر سمجھا کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ و اختلاف اور ان کا خون بہہ جائے، کیونکہ لوگوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا اور دینی بیداری ان کے اندر ابھی ابھی سرایت ہوئی تھی۔ اور تھوڑی سی غفلت انہیں خراب کر دیتی اور ایک معمولی شخص بھی انہیں بدل ڈالتا۔ (۲)

ابن ابی الحدید جو حضرت علی سے محبت اور خلفاء سے تعصب رکھتا ہے صحابہ کے بعض گروہ جو حضرت علی سے کینہ و عداوت رکھتے تھے ان کے بارے میں لکھتا ہے:

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۳۰۷

(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۸ ص ۳۰

تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کینہ اور حسد کی آگ فراموش ہو جاتی ہے اور کینوں سے بھرے ہوئے دل سرد ہو جاتے ہیں اور اسی طرح زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک نسل ختم ہو جاتی ہے تو دوسری نسل اس کی جانشین بن جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیرینہ کینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو جاتا ہے، جس دن حضرت علی مسند خلافت پر بیٹھے پیغمبر کو گزرے ہوئے پچیس سال ہو چکے تھے اور امید یہ تھی کہ اس طولانی مدت میں لوگ اپنے دلوں سے کینہ و عداوت کو بھلا بیٹھے ہوں گے لیکن امید کے برخلاف حضرت علی کے مخالفوں کی روح و مزاج بدلے نہیں تھے اور علی - سے کینہ و عداوت جو پیغمبر کے زمانے یا ان کے بعد لئے ہوئے ختم نہیں ہوئے تھے یہاں تک کہ فرزندان قریش، ان کے جوان اور نئی نسلیں جنہوں نے اسلام کے خونین جنگوں، واقعہ کودیکھا بھی نہ تھا اور امام کی شجاعت و بہادری کو جنگ بدر، احد وغیرہ مینقریش کے خلاف مشاہدہ نہیں کیا تھا اپنے بزرگوں کی طرح حضرت علی سے بہت سخت دشمنی و عداوت رکھتے تھے اور ان سے کینے کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔

چنانچہ امام علیہ السلام ایسے حالات میں پیغمبر کے انتقال کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے اور حکومت کی باگ ڈور کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور مخالفین کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی، اور ایسے ایسے حالات رونما ہوئے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام مٹنے اور مسلمان نابود ہونے لگے اور جاہلیت اسلامی ملکوں سے ختم نہ ہوئی۔ (۱)

امام علیہ السلام اپنی ایک تقریر میں اپنے مسلحانہ قیام کے نتیجہ کے ایک گوشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پیغمبر کے انتقال کے بعد میں نے اپنے کام میں بہت غور و فکر کی اور قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اپنے اہلیت کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار و ناصر نہ پایا۔ لہذا ان کی موت پر راضی نہ ہوا اور اس آنکھ کو جس میں خس و خاشاک تھے اسے بند کر لیا اور گلے میں جو بڑی اٹکی تھی اسے نکل گیا اور زہر سے زیادہ تلخ حوادث و واقعات پر صبر کیا۔ (۲)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۱ ص ۱۱۴ خطبہ ۳۱۱

(۲) فَظَرْتُ فَأَدَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَبِلُ بَيْتِي فَضَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ وَ اغْضَبْتُ عَلَى الْقُدَيْ وَ شَرَيْتُ عَلَى الشُّجَى وَ صَبَرْتُ عَلَى الْكُظْمِ وَ عَلَى أَمْرٍ مِنْ طَعْمِ الْعَلَقِ، نَهْجُ الْبَلَاغَةِ عِبْدَهُ، خُطْبَةٌ ۲۶ وَأُورِ خُطْبَةٌ ۲۱۲ فِيهِ بَعْضُ إِسَابِيهِ مَضْمُونٌ بِهِ.

مسلمانوں کا اتحاد

مسلمانوں کا متحد ہونا امام علیہ السلام کی سب سے بڑی خواہش و آرزو تھی آپ بخوبی جانتے تھے کہ اسی اتحاد نے پیغمبر اسلام کے زمانے میں بڑے بڑے سرکشوں کے دلوں پر اپنا رعب بٹھا رکھا تھا اور بڑی بڑی طاقتوں کو ختم کر دیا تھا اور اسلام کا پیغام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا لیکن اگر یہی اتحاد و وحدت مسئلہ رببری کے وقت ختم ہو گیا تو مسلمان بہت سی مصیبتوں اور مشکلات اور اختلاف کا شکار ہو جائیں گے خصوصاً قریش کے بعض گروہ جو اسلام کے دشمن تھے اور بہانہ تلاش کر رہے تھے تاکہ اسلام کے اوپر حملہ کریں۔

مہاجرین کے درمیان بہانہ کی تلاش میں سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، عکرمہ بن ابی جہل وغیرہ تھے جو زمانہ قدیم سے مسلمانوں خصوصاً انصار کے دشمن تھے، لیکن کسی علت کی وجہ سے ظاہراً اسلام لائے اور کفر و بت پرستی کو چھوڑ دیا۔ جب انصار، سقیفہ میں شکست کھانے کے بعد امام کی حمایت میں اٹھے اور لوگوں کو آپ کی پیروی کی دعوت دی تو یہ افراد بہت زیادہ ناراض ہوئے اور اہل خلافت سے کیا کہ انصار سے گروہ خزر ج کو بیعت کے لئے بلائیں اور اگر بیعت کرنے سے انکار کریں تو ان سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں۔

ان تینوں افراد (سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، عکرمہ بن ابوجہل) نے مجمع عام میں تقریریں کیں۔ ابوسفیان بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ ان لوگوں کے مقابلے میں انصار کا ایک خطیب ثابت بن قیس مہاجرین پر تنقید کرنے کے لئے اٹھا اور ان کی تقریروں کا جواب دیا۔

مہاجرین و انصار کے درمیان مدتوں بحث و مباحثہ تقاریر اور اشعار کے ذریعے جنگ چلتی رہی اور طرفین کی تقریر و اشعار کو ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں بیان کیا ہے۔ (۱)

ان حالات کو مد نظر رکھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کیوں امام علیہ السلام نے خاموشی کو مسلحانہ قیام پر ترجیح دی اور کس طرح دور اندیشی اور تدبیر سے اسلام کی کشتی کو طوفان کے تھپیڑوں سے نکال کر ساحل نجات کی طرف رہبری کی۔ اگر مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق سے الفت نہ ہوتی اور برے انجام و اختلاف اور تفرقہ بازی کا ڈر خوف نہ ہوتا تو آپ ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ مقام و منصب رببری آپ کے علاوہ کسی

#### (۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۶ ص ۴۵۔۲۳

دوسرے کے پاس ہوتا۔

واقفہ سقیفہ ہی کے زمانے میں حضرت علی کے ایک محب نے آپ کی شان میں کچھ اشعار کہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے:

"میں نے ہرگز یہ فکر نہیں کیا تھا کہ امت کی رہبری کو بنی ہاشم کے خاندان اور امام ابوالحسن سے چھین لیں گے" کیا حضرت علی سب سے پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی؟ اور کیا قرآن اور سنت پیغمبر کا تم سے زیادہ علم نہیں رکھتے؟ کیا وہ پیغمبر کے سب سے قریبی نہ تھے؟ کیا وہ، وہ شخص نہیں ہیں کہ جبرئیل نے جس کی پیغمبر کو غسل و کفن و دفن دیتے وقت مدد کی؟ (۱)

جب امام اس کے اشعار سے باخبر ہوئے تو آپ نے ایک قاصد بھیجا کہ اس کو جاکر اشعار پڑھنے سے منع کر دے اور آپ نے فرمایا:

"سَلَامَةُ الدِّينِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ غَيْرِهِ"

اسلام کا تمام اختلافات سے محفوظ و سالم رہنا ہمارے لئے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔

جنگ صفین میں بنی اسد کے قبیلے کے ایک شخص نے امام سے پوچھا: کس طرح سے قریش نے آپ کو مقام خلافت سے دور کر دیا؟ حضرت علی اس کے بے موقع سوال سے ناراض ہو گئے، کیونکہ آپ کے سپاہیوں کے بعض گروہ خلفاء کو مانتے تھے اور اس طرح کے مسائل کی وجہ سے سپاہیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا لہذا امام نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا:

اس احترام کا خیال کرتے ہوئے کہ تو پیغمبر پر ایمان لایا اور یہ کہ ہر مسلمان کو سوال کرنے کا حق ہے تمہیں مختصراً اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ امت کی رہبری پر میرا حق تھا اور میرے اور پیغمبر کے درمیان جو رشتہ تھا وہ دوسروں سے بہتر تھا لیکن بعض گروہوں نے اس سے بخل کیا اور بعض گروہ نے اس سے

چشم پوشی کرلی اور میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا خدا ہے اور سب کو اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ (۱)

یہ تمام مطالب جو بیان ہوئے ہیں وہ سب حضرت علی کی خاموشی کی علتیں تھیں آپ نے اسلام کی حفاظت کے لئے اپنے حق کو چھوڑ دیا اور پچیس سال تک خاموشی کی زندگی بسر کرتے رہے اور زہر سے زیادہ تلخ شربت خاموشی پینے سے رہے۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

#### دوسری فصل

خلفائے ثلاثہ کی خلافت اور امیر المومنین - کا طریقہ کار

ابلسنت کے محقق و دانشمند، جنہوں نے نہج البلاغہ شرحیں لکھی ہیں امام کے بیانات کو خلافت کے سلسلے میں اپنی شائستگی کا تجزیہ کیا ہے اور ان تمام چیزوں سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ امام کا مقصد ان بیانون سے خلافت کے متعلق اپنی شائستگی دکھانا ہے بغیر اس کے کہ پیغمبر کی طرف سے ان کی خلافت پر نص وارد ہو۔

دوسرے لفظوں میں، چونکہ حضرت علی پیغمبر کے سب سے قریبی رشتہ دار اور داماد تھے اور علم و دانش کے اعتبار سے سب سے بلند تھے اور عدالت کے اجراء کرنے اور سیاست سے باخبر اور حکومت چلانے میں مہارت وغیرہ کی وجہ سے پیغمبر کے تمام صحابہ سے افضل تھے اس لئے بہتر تھا کہ امت آپ کو خلافت کے لئے منتخب کرتی، لیکن چونکہ امت کے سرداروں نے ان کے علاوہ دوسروں کو منتخب کیا تھا اسی لئے امام نے اس طرح شکوہ کیا ہے: میں خلافت و ولایت کے لئے دوسروں سے زیادہ سزاوار ہوں۔

وہ حق جس کا امام ہمیشہ باتذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس دن سے پیغمبر کا انتقال ہوا ہے اسی دن سے مجھے لوگوں نے اس حق سے محروم کر دیا ہے وہ شرعی حق نہیں تھا جو صاحب شریعت کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا کہ دوسروں کو ان پر مقدم کرنا شریعت کے قوانین کی مخالفت کرنا تھا۔ بلکہ یہ حق ایک فطری حق تھا اور ہر شخص پر لازم تھا کہ بہترین فرد کے ہوتے ہوئے دوسروں کو منتخب نہ کریں اور امت کی باگ ڈور کو امت کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے صاحب بصیرت اور لیاقت رکھنے والے کے سپرد کرے لیکن اگر کوئی گروہ مصلحت کی وجہ سے اس فطری قانون کی پیروی نہ کرے اور اس کام کو اس شخص کے حوالے کر دے جو علم، قدرت اور روحی و جسمی اعتبار سے کم مرتبہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں جو شخص ان تمام امور میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی زبان سے گلہ و شکوہ کرے اور کہے:

"فَوَ اللَّهِ مَا زِلْتُ مَدْفُوعًا عَنْ حَقِّي مُسْتَأْتِرًا عَلَيَّ مُنْذُ أَنْ قَبِضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ بُدَا" (۱)

## (۱) نہج البلاغہ عبدہ خطبہ ۵

خدا کی قسم ، جس دن خدا نے پیغمبر کی روح کو قبض کیا اس دن سے آج تک میں اپنے حق سے محروم رہا ہوں۔  
امام علیہ السلام نے یہ گلہ اس وقت کیا جب طلحہ و زبیر نے آپ سے لڑنے کے لئے پرچم کو بلند کیا تھا اور بصرہ کو اپنا مورچہ بنایا تھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شارحین نہج البلاغہ نے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلافت کے لئے حضرت علی کی شائستگی ، ذاتی تھی ، یہ ان کی خام خیالی ہے اور امام کی باتوں کو ذاتی شائستگی پر حمل نہیں کر سکتے کیونکہ ذاتی شائستگی خلفاء پر آپ کی سخت تنقید کی مجوز نہیں بن سکتی اس لئے کہ  
اولاً: امام نے اپنی تقریر میں بعض موقعوں پر پیغمبر اسلام کی وصیت پر تکیہ کیا ہے ، مثلاً جب آپ خاندان نبوت کا تعارف کراتے ہیں تو فرماتے ہیں:

"ہم موضع سرّہ و ملجأ امرہ و عیبۃ علمہ و مویل حکمہ و کہوف کتبہ و جبال دینہ... لایفاسُ بآلِ محمدِصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بذہ الامۃ احد... ہم أساس الدین و عماد الیقین الیہم یفیئ الغالی و بہم یلحق التالی. و لہم خصائص حق الولاية و فیہم الوصیۃ و الوراثۃ"(۱)

خاندان نبوت پیغمبر کے رازدار اور ان کے فرمان کی پناہ گاہ ، ان کے علم و حکمت کا منبع و مخزن ان کی کتاب کی حفاظت کرنے والے ، اور ان کے مذہب کو مستحکم کرنے والے ہیں، امت میں سے کسی شخص کا بھی قیاس ان سے نہیں کر سکتے۔ وہ دین کی اساس اور ایمان و یقین کے ستون ہیں راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پناہ لینے والے ان سے ملحق ہوتے ہیں اور امامت کی خصوصیات (علوم و معارف اور دوسرے تمام شرائط امامت) ان کے پاس ہیں اور پیغمبر کی وصیت ان کے بارے میں ہے اور یہی لوگ پیغمبر کے وارث ہیں۔  
اس جملے سے کہ پیغمبر کی وصیت ان لوگوں کے بارے میں ہے امام کی مراد کیا ہے؟  
لفظ ولایت پر غور کرنے کے بعد "ولہم خصائص الولاية" واضح ہوتا ہے کہ وصیت سے مراد

## (۱) نہج البلاغہ عبدہ خطبہ ۲

ان لوگوں کے لئے خلافت کی وصیت اور ولایت کی سفارش ہے جو غدیر کے دن اور دوسرے دنوں میں بطور واضح بیان ہوئے ہیں۔

ثانیاً: لیاقت و صلاحیت اور شائستگی ہی صرف حق کو ثابت نہیں کرتی جب تک کہ دوسرے شرائط بھی موجود نہ ہوں۔ مثلاً لوگوں کا انتخاب کرنا جب کہ امام نے اپنے بیان میں اپنے حق کے متعلق کہا ہے اور کہا کہ پیغمبر کے بعد ان کا حق پامال کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اسلام میں رہبری کی مشکلکا حل اگر مشورہ، مذاکرہ، یا عمومی افکار ہو تو ایسی صورت میں وہ شخص (جو گرچہ تمام جہتوں سے دوسروں پر فضیلت و برتری رکھتا ہے) اگر ایسے مقام و منصب کے لئے منتخب نہ ہو تو اپنے کو صاحب حق نہیں کہہ سکتا تاکہ لوگوں کے تجاوز کو ایک قسم کے ظلم و ستم سے تعبیر کرے اور جو اس کی جگہ پر منتخب ہوا ہے اس پر اعتراض کرے۔ جب کہ تمام خطبوں میں امام علیہ السلام کا لہجہ اس کے برخلاف ہے، وہ اپنے کو اس خلافت کا مکمل حقدار سمجھتے تھے اور اس پر تجاوز کرنے کو اپنے اوپر ایک قسم کے ظلم و ستم سے تعبیر کرتے تھے اور قریش کو اپنے حق کا غاصب بتایا، چنانچہ آپ نے فرمایا: بار الہا! قریش کے مقابلے میں اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما، کیونکہ ان لوگوں نے مجھ سے قطع تعلق کیا ہے اور میرے عظیم منصب کو حقیر سمجھا ہے اور ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ خلافت کے سلسلے میں جو کہ میرا حق ہے جنگ کریں۔(۱)

کیا ایسے تند جملوں کو ذاتی شائستگی کے حوالے سے توجیہ کر سکتے ہیں؟ اگر مسئلہ خلافت عمومی افکار اور بزرگ اصحاب سے رجوع کر کے حل کیا جاسکتا تو کس طرح امام علی علیہ السلام فرماتے کہ "وہ لوگ میرے مسلم حق کے بارے میں مجھ سے لڑائی و جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے"؟

جس وقت صفین میں حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: قریش نے آپ کو کس طرح سے مقام خلافت سے دور کر دیا جب کہ آپ ان تمام لوگوں سے افضل و برتر تھے؟

امام اس کے بے وقت سوال سے ناراض ہو گئے لیکن نرمی اور ملایمت سے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا:

(۱) نہج البلاغہ عہدہ، خطبہ ۱۶۷، "اللہم انی استعینک علی قریش..."

"ایک گروہ نے بخل سے کام لیا اور ایک گروہ نے چشم پوشی کی اور ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا خدا ہے اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے" (۱)

واقعہ سقیفہ گزرنے کے بعد ایک دن ابو عبیدہ بن جراح نے امام سے کہا: اے ابوطالب کے بیٹے، تم خلافت کو کتنا محبوب رکھتے ہو اور اس کے حریص ہو۔ امام نے اس کے جواب میں کہا: خدا کی قسم تم ہم سے زیادہ خلافت کے لالچی ہو، جب کہ لیاقت اور شرائط کے اعتبار سے اس سے بہت دور ہو اور میں اس سے بہت نزدیک ہوں میں اپنے حق کو طلب کر رہا ہوں۔ اور تم میرے اور میرے حق کے درمیان مانع ہو رہے ہو۔ اور مجھے میرے حق سے روک رہے ہو" (۲)

یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ خلفاء کی خلافت پر اس طرح کی تنقیدوں کو ذاتی لیاقت و شائستگی سے توجیہ کریں۔ یہ تمام بیانات اور تعبیریں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ امام - خلافت کو اپنا حقیقی حق سمجھتے تھے۔ اور اپنے سے ہر طرح کے انحراف کو حق سے انحراف جانتے تھے، اور ایسا حق نص اور تعیین الہی کے علاوہ کسی کے لئے ثابت نہیں ہے۔

اس طرح کی تعبیروں کو اصلحیت اور اولویت سے بھی تفسیر نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں نے امام کے کلام کی اس طریقے سے تفسیر کی ہے وہ اپنے غلط نظریے کو بھی صحیح سمجھتے ہیں۔

البتہ بعض موقعوں پر امام نے اپنی لیاقت و شائستگی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور مسئلہ نص کو نظر انداز کیا ہے مثلاً آپ فرماتے ہیں:

جب "پیغمبر کی روح قبض ہوئی تو ان کا سر میرے سینے پر تھا میں نے انہیں غسل دیا۔ اور فرشتے میری مدد کر رہے تھے گھر کے اطراف سے نالہ و فریاد کی آوازیں بلند تھیں، فرشتے گروہ بہ گروہ زمین پر آتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ کر واپس چلے جاتے تھے اور میں ان کی آوازوں کو سنتا تھا پس کون شخص مجھ سے پیغمبر کی زندگی اور موت میں ان کی جانشینی و خلافت کے لئے مجھ سے زیادہ شائستہ ہے؟" (۳)

(۱) نہج البلاغہ عہدہ خطبہ ۱۷۵

(۲) نہج البلاغہ عہدہ خطبہ ۱۶۷

(۳) نہج البلاغہ عہدہ خطبہ ۱۹۲

خطبہ شقیفہ جو آپ کا مشہور خطبہ ہے حضرت اپنی لیاقت و شائستگی کو لوگوں کے سامنے یوں پیش کرتے ہیں:

"اما والله لقد تمصصها ابن ابی قحافه و انه ليعلم ان محلى منها محل القطب من الرحي يندحر عنى السيل و لا يرقى الى الطير..." (۱)

خدا کی قسم! ابو قحافہ کے بیٹے نے خلافت کو لباس کی طرح سے اپنے بدن پر پہن لیا ہے جب کہ وہ جانتا ہے کہ خلافت کی چکی میرے اردگرد چل رہی ہے ہمارے کوہسار وجود سے بہت سے علوم کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور کسی کی فکر بھی ہماری کمترین فکر تک نہیں پہنچ سکتی۔

بعض موقعوں پر آپ قرابت و رشتہ داری کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ "و نحن الاعلون نسباً و الاشدون برسول الله نوطاً" (۲) ہمارا نسب سب سے بلند ہے اور رسول خدا سے ہم بہت قریب ہیں۔

البتہ امام علیہ السلام نے جو یہاں پر پیغمبر سے رشتہ داری کو بیان کیا ہے وہ صرف اہل سقیفہ کے مقابلے میں ہے چونکہ ان لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو بیان کیا تھا اسی وجہ سے امام علیہ السلام جب ان کے طریقہ کار سے آگاہ ہوئے تو ان کے طریقہ کار پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا:

"اِحْتَجُّوا بِالشَّجَرَةِ وَ اصْأَعُوا النَّمْرَةَ" (۳)

(انہوں نے شجرہ سے تو استدلال کیا ہے مگر پہل کو ضایع کر دیا ہے مترجم)

- (۱) نہج البلاغہ عہدہ خطبہ ۳  
(۲) نہج البلاغہ عہدہ خطبہ ۱۵۷  
(۳) نہج البلاغہ عہدہ خطبہ ۶۴

### تیسری فصل

#### حضرت علی سے بیعت لینے کا طریقہ

یہ باب تاریخ اسلام کا سب سے دردناک اور تلخ ترین باب ہے جس نے بیدار دلوں کو سخت غم و اندوہ میں مبتلا کر دیا ہے اور ان کے دل سوز غم سے جل رہے ہیں۔ تاریخ کے اس باب کو اہلسنت کے دانشمندیوں نے اپنی کتابوں میں مختصر اور بہت کم لکھا ہے لیکن علمائے شیعہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، شاید قارئین کرام میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں جو خانہ وحی پر تجاوز و زیادتی کرنے والوں کے واقعات کو اہلسنت کے مؤرخین اور محدثین کی زبان سے سننا چاہتے ہوں۔ اسی وجہ سے اس باب میں واقعات کو اہلسنت کے مصادر و مدارک سے تحریر کر رہے ہیں تاکہ شک کی اور دیر میں یقین کرنے والے افراد اس تلخ واقعہ پر یقین کر لیں۔ اس باب میں اس چیز کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں جسے مشہور مؤرخ ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب "الامامة و السياسة" میں نقل کیا ہے ہم اس باب کا تجزیہ اور تحلیل بعد میں کریں گے، تمام مؤرخین اہلسنت اس بات پر متفق ہیں کہ ابھی سقیفہ کی بیعت کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ خلافت کے ماننے والوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی، عباس، زبیر اور تمام بنی ہاشم سے ابوبکر کی بیعت لیں، تاکہ ابوبکر کی خلافت میناتحاد و اتفاق نظر آنے اور ہر قسم کی رکاوٹ اور مخالفت، خلافت کے راستے سے ختم جائے۔

واقعہ سقیفہ کے بعد بنی ہاشم اور رہنماؤں کے بعض گروہ اور امام کے ماننے والے بعنوان اعتراض حضرت فاطمہ زہرا (س) کے گھر میں جمع ہو گئے تھے۔ فاطمہ زہرا (س) کے گھر میں رہنے کی وجہ سے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں ایک خاص اہمیت کا حامل تھا اہل خلافت کے لئے مانع ہو رہا تھا کہ وہ فاطمہ کے گھر پر حملہ کریں اور وہاں پر موجود افراد کو زبردستی مسجد میں لے جا کر ان سے بیعت لیں۔

مگر آخر میں ہوا وہی، انہوں نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی کر ڈالا اور اس گھر کو جو وحی الہی کا مرکز تھا نظر انداز کر دیا۔ خلیفہ نے عمر کو ایک گروہ کے ساتھ بھیجا تاکہ جس طرح بھی ممکن ہو پناہندگان کو فاطمہ کے گھر سے نکال کر سب سے بیعت لے لیں، عمر جن لوگوں کے ساتھ آئے ان میں اسید بن حضیر و سلمہ بن سلمہ و ثابت بن قیس اور محمد بن سلمہ بھی تھے۔ (۱) حضرت فاطمہ (س) کے گھر کی طرف آئے تاکہ پناہ لینے والوں (۱) ابن ابی الحدید نے ان تمام لوگوں کا نام اپنی شرح نہج البلاغہ ج ۲ ص ۵۰ پر لکھا ہے۔

کو خلیفہ کی بیعت کرنے کی دعوت دیں اور اگر ان لوگوں نے اب کی درخواست کا صحیح جواب نہ دیا تو ان کو زبردستی گھر سے نکال کر مسجد کی طرف لے آئیں۔ عمر نے گھر کے سامنے بلند آواز سے کہا کہ تمام پناہ لینے والے جلد سے جلد گھر سے باہر آجائیں لیکن ان کے کہنے کا کوئی اثر نہ ہوا اور لوگ گھر سے باہر نہ نکلے۔

اس وقت عمر نے لکڑی منگوائی تاکہ گھر میں آگ لگا دیں اور گھر کو پناہ لینے والوں پر گرداں لیکن اسی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا تاکہ خلیفہ کو اس کام سے منع کرے اس نے کہا کہ تم کس طرح اس گھر میں آگ لگاؤ گے جب کہ اس گھر میں پیغمبر کی بیٹی موجود ہیں؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا: فاطمہ کا اس گھر میں موجود ہونا میرے کام کے انجام دینے کو روک نہیں سکتا۔

اس وقت حضرت فاطمہ دروازے کے پیچھے آئیں اور کہا:

"میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا کہ جو برے وقت میں تمہاری طرح سے ہوتا تم نے رسول خدا کے جنازے کو ہمارے درمیان چھوڑ دیا اور خود اپنی خواہش سے خلافت کے بارے میں فیصلہ کر لیا کیوں اپنی حکومت کو ہم پر تحمیل کر رہے ہو اور خلافت کو جو کہ ہمارا حق ہے ہمیں واپس نہیں کرتے؟  
ابن قتیبہ لکھتا ہے:

عمر نے اس مرتبہ لوگوں کو گھر سے نہیں نکالا اور اپنے ارادے سے باز آگئے اور پھر خلیفہ کے پاس آئے اور تمام حالات سے آگاہ کیا خلیفہ جانتے تھے کہ پناہ لینے والوں سے مخالفت کی وجہ سے کہ جس میں مہاجرین اور بنی ہاشم کی بزرگ شخصیتیں تھیں ان کی حکومت کی ساکھ مستحکم نہ رہے گی۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنے غلام قنفذ کو حکم دیا کہ جائے اور علی کو مسجد میں لے کر آئے وہ دروازے کے پاس آیا اور علی علیہ السلام کو آواز دی اور کہا: رسول خدا کے خلیفہ کے حکم سے مسجد میں آئیے۔



جب امام نے قنفذ کے منہ سے یہ جملہ سنا، تو کہا: اتنی جلدی رسول خدا پر کیوں جھوٹ کی تہمت لگا رہے ہو؟ پیغمبر نے کب انہیں اپنا جانشین بنایا، کہ وہ رسول خدا کا خلیفہ ہوں؟ غلام ناامید ہو کر واپس چلا گیا اور خلیفہ کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ خلیفہ کی طرف سے بار بار دعوت کے مقابلے میں پناہ لینے والوں کے دفاع اور مقاومت نے خلیفہ کو سخت ناراض اور غصہ میں ڈال دیا۔ بالآخر عمر دوسری مرتبہ اپنے گروہ کے ساتھ فاطمہ (س) کے گھر آئے جب جناب فاطمہ نے حملہ آوروں کی آواز سنی تو دروازے کے پیچھے سے نالہ و فریاد بلند کیا اور کہا:

"اے بابا! پیغمبر خدا، آپ کے مرنے کے بعد خطاب کے بیٹے اور قحافہ کے بیٹے نے کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار کر دیا ہے۔"

حضرت فاطمہ (س) کی نالہ و فریاد جو ابھی اپنے بابا کے سوگ میں بیٹھی تھیں اتنا دردناک تھا کہ عمر کے ساتھ آنے والے افراد زہرا کے گھر پر حملہ کرنے سے باز آگئے اور وہیں سے روتے ہوئے واپس چلی گئے، لیکن عمر اور ایک گروہ جو حضرت علی اور بنی ہاشم سے بیعت لینے کے لئے اصرار کر رہا تھا ان لوگوں کو زور و زبردستی کر کے گھر سے باہر نکالا اور اصرار کیا کہ حتماً ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر بیعت نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ان سب نے کہا: قتل کر دیئے جائیں گے۔

حضرت علی علیہ السلام نے کہا: کس میں جرأت ہے جو خدا کے بندے اور رسول خدا کے بھائی کو قتل کرے؟ حضرت علی نے جب خلیفہ کے نمائندوں کو سختی سے جواب دیاتو وہ لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ گئے۔ امام علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور درد دل کے لئے رسول خدا کی قبر کے پاس گئے اور وہی جملہ جو ہارون نے موسیٰ سے کہا تھا اسے دہرایا اور کہا: اے بھائی! آپ کے مرنے کے بعد اس گروہ نے مجھے مجبور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔ (۱)

(۱) الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۲۰۱۳

خانہ وحی پر حملے کے بارے میں تاریخ کا انصاف

سقیفہ کے بعد کے حوادث تاریخ اسلام اور امیر المومنین (ع) کی زندگی کے دردناکترین اور تلخ ترین حوادث میں سے ہیں اس بارے میں حقیقت بیانی اور صاف گوئی ایک ایسے گروہ کی رنجش کا سبب بنے گا جو ان واقعات کے بیان کرنے میں تعصب سے کام لیتے ہیں اور حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو اور ان کی پاکیزگی و قداست محفوظ رہے، کیونکہ حقیقت کو پوشیدہ اور برعکس بیان

کرنا تاریخ اور آئندہ آنے والی نسل کے ساتھ ایک خیانت ہے اور ہرگز ایک آزاد مؤرخ اس بدترین خیانت کو اپنے لئے نہیں خریدتا اور دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لئے حقیقت کو پوشیدہ نہیں کرتا۔

ابوبکر کے خلیفہ بننے کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ خانہ وحی اور حضرت زہرا (س) کے گھر پر حملہ ہے اس ارادے سے کہ پناہ لینے والے حضرت زہرا (س) کے گھر کو چھوڑ کر بیعت کرنے کے لئے مسجد میں آئیں اس موضوع کی صحیح تشریح اور نتیجہ گیری کے لئے ضروری ہے کہ قابل اطمینان منابع و مأخذ ہوں، چاہے وہ صحیح نتیجہ دیں یا غلط، اور ضروری ہے کہ ان باتوں کا تجزیہ کریں اور پھر اس واقعہ کے نتیجے کے بارے میں انصاف کریں اور وہ تین باتیں یہ ہیں:

۱۔ کیا یہ صحیح ہے کہ خلیفہ کے سپاہیوں نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت فاطمہ (س) کے گھر کو جلا دیں؟ اور اس بارے میں انہوں نے کیا کیا؟

۲۔ کیا یہ صحیح ہے کہ امیر المومنین کو بڑی بے دردی اور اذیت کے ساتھ مسجد لے گئے تاکہ ان سے بیعت لیں؟

۳۔ کیا یہ صحیح ہے کہ پیغمبر کی بیٹی اس حملے میں شدید طور پر زخمی ہوئیں اور آپ کے شکم میں موجود بچہ ساقط ہو گیا؟

اس واقعہ کے تین حساس موضوع پر علمائے اہلسنت کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو

مگر یہ کہ پہلے اجازت لے اور اگر گھر کا مالک مہمان قبول کرنے سے معذور ہو اور عذر خواہی کرے تو اسے قبول کرے اور بغیر اس کے کہ ناراض ہو وہیں سے واپس چلا جائے۔ (۱)  
قرآن مجید نے اس اخلاقی تعلیم کے علاوہ ہر اس گھر کو جس میں خدا کی عبادت ہوتی ہے اور اس کا صبح و شام ذکر ہوتا ہے اسے محترم اور لائق احترام جانا ہے۔

(۱) سورہ نور، آیت ۲۸، ۲۷، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا..."

(فِي بُيُوتِ ذِي اللَّهِ نُ تُرْفَعُ وَيُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوَةِ وَالْأَصَالِ) (۱)

خداوند عالم نے اس گھر کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا ہے کہ جس میں پاک و پاکیزہ افراد صبح و شام خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں ان گھروں کا احترام خدا کی عبادت و پرستش کی وجہ سے ہے کہ جو اس میں انجام دیا جاتا ہے اور یہ ان خدا کے بندوں کی وجہ سے ہے جو اس گھر میں خدا کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں ورنہ اینٹ اور مٹی کبھی بھی نہ احترام کے لائق رہے ہیں اور نہ ہوسکتے ہیں۔

مسلمانوں کے تمام گھروں کے درمیان قرآن مجید نے پیغمبر کے گھر کے بارے میں مسلمانوں کو خصوصی حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ لَأَنْ يُوَدِّنَ لَكُمْ) (۲)

اے صاحبان ایمان! پیغمبر کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کا گھر ان تمام محترم اور باعظمت گھروں میں سے ہے جس میں زہرا او ران کے بچے خدا کی تقدیس (و تسبیح) کرتے تھے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عائشہ یا حفصہ کا گھر پیغمبر کا گھر ہے لیکن آپ کی عظیم المرتبت بیٹی جو دنیا و آخرت کی سب سے عظیم بی بی ہیں ان کا گھر پیغمبر کا گھر نہیں ہے، ان کا گھر یقیناً پیغمبر کا گھر ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ خلیفہ کے ماننے والوں نے پیغمبر کے گھر کا کتنا احترام کیا، خلافت کے ابتدائی حالات کی تحقیق و جستجو کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خلیفہ کے مامور کردہ سپاہیوں نے قرآن مجید کی ان تمام آیتوں کو نظر انداز کر دیا اور پیغمبر کے گھر کی عزت کا کوئی خیال نہ کیا۔ اہلسنت کے بہت سے مؤرخین نے پیغمبر کے گھر پر حملہ کو مبہم اور غیر واضح طریقے سے لکھا ہے اور کچھ نے واضح اور روشن طور پر تحریر کیا ہے۔

(۱) سورہ نور، آیت ۳۶، (بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ بیوت سے مراد وہی مساجد ہیں جب کہ مسجد گھر کے مصادیق میں سے ایک ہے نہ یہ کہ فرد پر منحصر ہے۔

(۲) سورہ احزاب، آیت ۵۳

طبری جو خلفاء سے کے بارے میں بہت متعصب تھا اس نے صرف اتنا لکھا ہے کہ عمر ایک گروہ کے ساتھ زہرا کے گھر کے سامنے آئے اور کہا: خدا کی قسم! اس گھر میں آگ لگا دوں گا مگر یہ کہ اس میں پناہ لینے والے بیعت کرنے کے لئے اس گھر کو چھوڑ دیں۔ (۱)

لیکن ابن قتیبہ دینوری نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ خلیفہ نے صرف یہی جملہ نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ گھر کے چاروں طرف لکڑیاں جمع کرو اور پھر کہا:

اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے یا گھر چھوڑ کر باہر آجانو ورنہ اس گھر میں آگ لگا کر سب کو جلا دیں گے۔

جب عمر سے کہا گیا کہ اس گھر میں پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں تو انہوں نے کہا: ہوا کریں۔ (۲)

عقد الفرید (۳) کے مؤلف نے اپنی کتاب میں کچھ اور اضافے کے ساتھ تحریر کیا ہے وہ کہتا ہے:

"خلیفہ نے عمر کو حکم دیا کہ پناہ لینے والوں کو گھر سے نکال دو اور اگر باہر نہ آئیں تو ان سے جنگ کرنا اسی وجہ سے عمر نے آگ منگوائی تھا کہ گھر کو جلا دیں اس وقت جب فاطمہ کے روبرو ہوئے پیغمبر کی بیٹی نے ان سے کہا: اے خطاب کے بیٹے! کیا تو میرا گھر جلانے آیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ مگر یہ کہ دوسروں کی طرح (علی بھی) خلیفہ کی بیعت کریں"

جب علمائے شیعہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس واقعہ کی تفصیل وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔  
سلیم بن قیس نے اپنی کتاب میں حضرت زہرا کے گھر پر حملہ کو بڑی تفصیل سے لکھ کر حقیقت کو

- (۱) تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۰۲، مطبع دائرۃ المعارف، طبری کی عبارت یہ ہے:  
"أتی عمر بن خطاب منزل علی فقال: لآحرقن علیکم او لتخرجن الی البیعة" ابن ابی الحدید نے اپنی شرح ج ۲ ص ۵۶ میں اس جملے کو جوہری کی کتاب "سقیفہ" سے بھی نقل کیا ہے۔  
(۲) الامامة والسیاسة ج ۲ ص ۱۲، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۳۴، اعلام النساء ج ۳ ص ۱۲۰۵  
(۳) ابن عبد ربہ اندلسی متوفی ۵۴۹ھ عبارت اس طرح ہے:

"بعث الیہم ابوبکر عمر بن خطاب لیخرجہم من بیت فاطمہ و قال لہ ان ابوا فقاتلہم. فاقبل بقیس من النار علی ان یضرم علیہم الدار فلقیہ فاطمہ فقالت یابن الخطاب أجنث لتحرق دارنا؟ قال: نعم أو تدخلوا فیما دخلت فیہ الامۃ" عقد الفرید ج ۲ ص ۲۶۰، تاریخ ابی الفداء ج ۱ ص ۱۵۶، اعلام النساء ج ۳ ص ۱۲۰۷  
واضح کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔

عمر نے آگ جمع کیا پھر دروازے کو دھکے دیا اور گھر میں داخل ہو گئے لیکن حضرت زہرا کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ (۱)

شیعہ بزرگ عالم دین مرحوم سید مرتضیٰ نے اس واقعہ کے سلسلے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے مثلاً آپ نے امام جعفر صادق کی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کیا یہاں تک کہ آپ کا گھر دھوئیں میں چھپ گیا۔ (۲)

اب ہم یہاں پر واقعے کی اصل وجہ کے بارے میں گفتگو کریں گے اور صحیح فیصلے کے ذریعے زندہ ضمیر اور بیدار قلب کو آگاہ کریں گے اور واقعے کی تفصیلات کو اہلسنت کی کتابوں سے پیش کریں گے۔

حضرت علی کو کس طرح مسجد لے گئے

تاریخ اسلام کا یہ باب بھی گذشتہ باب کی طرح بہت تلخ و دردناک ہے کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت علی جیسی شخصیت کو اس انداز سے مسجد لے جائیں گے کہ معاویہ ۴۰ سال کے بعد اس چیز کو بطور طعنہ پیش کرے وہ امیر المومنین کو خط لکھتے ہوئے آپ کے اس دفاع کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے آپ خلفاء کے زمانے میں روبرو ہوئے تھے۔

یہاں تک کہ خلیفہ تمہاری مہار پکڑے ہوئے ایک نافرمان اونٹ کی طرح بیعت کے لئے مسجد کی طرف کھینچتے ہوئے لائے۔ (۳)

امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ کو جواب دیتے ہوئے اشارتاً اصل موضوع کو قبول کرتے ہوئے اسے اپنی مظلومیت بتاتے ہوئے لکھا:

"(اے معاویہ) تو نے لکھا ہے کہ میں ایک نافرمان اونٹ کی طرح بیعت کے لئے مسجد میں لایا گیا۔ خدا کی قسم تو نے چاہا کہ مجھ پر تنقید کرے لیکن حقیقت میں میری تعریف کی ہے تو نے چاہا کہ مجھے رسوا

(۱) اصل سلیم ص ۷۴ طبع نجف اشرف

(۲) واللہ ما باع علی حتی رأی الدخان قد دخل بیتہ" تلخیص الشافی ج ۳ ص ۷۶

(۳) معاویہ کے خط کی عبارت کو ابن ابی الحدید نے اپنی شرح (ج ۱ ص ۱۸۶) میں نقل کیا ہے۔

کرے، لیکن خود تم نے اپنے کو رسوا و ذلیل کیا مسلمان اگر مظلوم ہو تو وہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ (۱)  
صرف ابن ابی الحدید ہی نے امام علیہ السلام پر ہوئی جسارت کو تحریر نہیں کیا ہے بلکہ اس سے پہلے ابن عبد ربہ نے اپنی کتاب عقد الفرید ج ۲ ص ۲۸۵، پر اور ان کے بعد "صبح الاعشی" کے مؤلف نے (ج ۱، ص ۱۲۸) پر بھی نقل کیا ہے۔  
قابل تعجب بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید جب امام علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے اٹھائیسویں خطبہ کی شرح کرتا ہے تو حضرت علی اور معاویہ کے نامہ کو نقل کرتا ہے اور واقعہ کے صحیح ہونے کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں کرتا، لیکن اپنی کتاب کے شروع میں جب وہ ۲۶ ویں خطبہ کی شرح سے فارغ ہوتا ہے تو اصل واقعہ سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا

ہے کہ اس طرح کے مطالب کو صرف شیعوں نے نقل کیا ہے اور ان کے علاوہ کسی نے نقل نہیں کیا ہے۔ (۲)

حضرت زہرا کے ساتھ ناروا سلوک

تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا حضرت علی سے بیعت لیتے وقت پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیتا تھا اور ان کو صدمہ پہونچا تھا یا نہیں؟

شیعہ دانشمندوں کی نظر میں اس سوال کا جواب ان گذشتہ دو جوابوں سے زیادہ دردناک ہے کیونکہ جب ان لوگوں نے چاہا کہ حضرت علی کو مسجد لے جائیں اس وقت حضرت زہرا نے ان کا دفاع کیا اور حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کے بچانے میں بہت زیادہ جسمانی اور روحانی تکلیفیں برداشت کیں کہ زبان و قلم جن کے لکھنے اور کہنے سے عاجز ہے۔ (۳) لیکن اہلسنت کے دانشمندوں نے خلیفہ کے مقام و منصب کا دفاع کرتے ہوئے تاریخ اسلام کے اس باب کو لکھنے سے پرہیز کیا ہے یہاں تک کہ ابن ابی الحدید نے بھی اپنی شرح میں ایسے مسائل میں سے جانباہے کہ مسلمانوں کے درمیان صرف شیعوں نے انہینقل کیا ہے۔ (۴)

(۱) نہج البلاغہ، نامہ ۲۸

(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۶۰

(۳) شیعہ کتابوں میں سلیم بن قیس نے تفصیل کے ساتھ (صفحہ ۷۴ کے بعد) بیان کیا ہے۔

(۴) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۶۰

شیعوں کے بزرگ عالم دین مرحوم سید مرتضیٰ کہتے ہیں:

شروع شروع میں محدثین اور مؤرخین نے جو کچھ بھی پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ جسارتیں ہوئیں اس کو لکھنے سے پرہیز نہیں کیا تھا اور ان کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ خلیفہ کے حکم سے عمر نے حضرت فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرایا اور جو بچہ آپ کے شکم میں تھا وہ ساقط ہو گیا اور قنفذ نے عمر کے حکم سے حضرت زہرا کو تازیانہ مارا تاکہ علی کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں، لیکن بعد میں جب یہ دیکھا کہ اگر ایسے ہی نقل کرتے رہے تو خلفاء کے اوپر آنچ آئے گی لہذا اسی وقت سے اس واقعے کو تحریر کرنے سے پرہیز کرنے لگے۔ (۱)

سید مرتضیٰ کے کلام پر گواہ یہ ہے کہ اہلسنت کے مؤرخین و محدثین نے اس واقعہ کو بہت ہی نظر انداز کیا اور لکھنے سے پرہیز کیا مگر پھر بھی ان کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ شہرستانی نے معتزلہ کے رئیس ابراہیم بن سيار مشہور عظام سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے:

عمر نے بیعت لینے کے وقت دروازہ کو حضرت زہرا کے پہلو پر گرایا اور جو بچہ آپ کے شکم میں تھا وہ ساقط ہو گیا پھر اس نے حکم دیا کہ گھر کو گھر والوں سمت جب کہ گھر میں علی و فاطمہ حسن و حسین کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ (۲)

(۱) تلخیص الشافی ج ۳ ص ۷۶، شافی سید مرتضیٰ کی کتاب ہے جس کو شیخ طوسی نے خلاصہ کیا ہے۔

(۲) ملل و نحل ج ۲ ص ۹۵

انسانوں کی انسانوں پر حکومت

وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ خلفاء کی خلافت کو "انسانوں کی انسانوں پر حکومت" یا قانوں "مشورہ" کی توجیہ کریں۔ وہ ان دو گروہ میں سے ایک ہیں:

۱۔ جو لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی اصول کو آج کی فکروں اور تعلیمات سے تطبیق کریں اور اس کے ذریعے سے مغربی اور مغرب زدہ لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کر دینا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں کہ انسانوں کی لوگوں پر حکومت یہ آج کی نئی فکر نہیں ہے بلکہ چودہ سو سال پہلے اسلام کے اندر ایسی فکر موجود تھی اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے صحابہ نے خلیفہ منتخب کرتے وقت اس کا سہارا لیا تھا۔

اس گروہ نے اگرچہ اس راہ میں خلوص نیت کے ساتھ قدم اٹھایا لیکن افسوس اسلامی مسائل کی تحقیق

نہیں کیا اور اس کے ماہروں کی طرف بھی رجوع نہیں کیا اور ایک بے کار و بے ہودہ اور دھوکہ دینے والے موضوع پر بھروسہ کر رکھا جس کی وجہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔

۲۔ ایک گروہ جو کسی علت کی بنا پر شیعہ علماء سے گلہ رکھتے ہیں اور کبھی کبھی بعض تحریکوں کی وجہ سے سنیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کی اخلاقی خرابیوں اور عقیدتی انحرافات سے مقابلہ کرنے کے بجائے مومن نوجوانوں بلکہ سادہ لوح افراد کے لئے وبال جان بن جاتے ہیں اور ان کے شیعہ عقیدوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ پہلے گروہ کی غلطیوں کا جبران ہوسکتا ہے اور اگر ان کو صحیح اور قابل اعتماد حوالے دیئے جائیں تو وہ اپنی غلطیوں اور بھٹکی ہوئی راہ سے واپس آجائیں گے لہذا ان کے بارے میں ناسزا کہنا درست نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ بہترین خدمت یہ ہے کہ ہمیشہ ان سے رابطہ بنائیں رکھیں اور اپنے فکری اور علمی رابطے کو ان سے منقطع نہ کریں۔ لیکن دوسرے گروہ کی اصلاح اور ہدایت کرنا بہت مشکل ہے، علاوہ اس کے کہ وہ گلہ رکھتے ہیں دین کے متعلق صحیح اور زیادہ معلومات نہیں رکھتے، لہذا انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا بے فائدہ ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ سادہ لوح نوجوان اور دینی معلومات سے بے بہرہ افراد ان کے جال میں نہ پھنس جائیں اور اگر پھنس جائے تو کوشش کی جائے کہ ان کے دلوں سے سارے شبہات دور ہو جائیں۔

کیا عقل اور شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ حاکم کے مامور کئے ہوئے لوگ نیزے کے زور پر کسی کے گھر پر حملہ کریں اور اس گھر میں پناہ لئے ہوئے افراد کو مسجد میں لائیں اور ان سے بیعت لیں؟ کیا ڈیموکریسی کے معنی یہی ہیں کہ حاکم کے گروہ کا سردار بعض گروہوں کو حکم دے کہ مخالف یا حمایت نہ کرنے والے افراد سے جبراً و زبردستی بیعت لیں اور اگر وہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان سے جنگ کی جائے؟ تاریخ شاہد ہے کہ گروہ حاکم کے تمام افراد سے پہلے عمر نے بیعت لینے اور ووٹ حاصل کرنے میں بہت زیادہ اصرار کیا بلکہ جنگ تک کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔

زبیر بھی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں پناہ لئے ہوئے تھے اور ابھی خاندان رسالت سے انہوں نے بغاوت نہیں کی تھی جب سپاہیوں نے حضرت فاطمہ کے گھر میں پناہ لینے والوں کو گھر سے نکالنے کے لئے بہت زیادہ کوششیں کیں اس وقت زبیر ننگی تلوار لے کر گھر سے باہر آئے اور کہا ہم برگز بیعت نہیں کریں گے نہ صرف یہ کہ بیعت نہیں کریں گے بلکہ سب کے لئے ضروری ہے کہ علی کی بیعت کریں۔

زبیر اسلام کا مشہور پہلوان، بہادر اور تلوار چلانے میں ماہر تھا اور اس کے تلوار کا لگایا ہوا زخم دوسروں کے لگانے ہوئے تلوار کے زخم کے درمیان نمایاں رہتا تھا اس وجہ سے سپاہیوں نے خطرہ محسوس کیا اور سب نے مل کر یکبارگی حملہ کر کے اس کے ہاتھ سے تلوار کو چھین لیا اور ایک بہت بڑا قتل عام ہونے سے بچالیا، آخر عمر جو اتنا اصرار کر رہے تھے اس کی فداکاری کی وجہ کیا تھی؟ کیا حقیقت میں عمر خلوص نیت سے اس واقعہ میں پیش پیش تھے یا یہ کہ ان کے اور ابوبکر کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا؟

امیر المومنین علیہ السلام جس وقت خلافت کے نمائندوں کے دباؤ میں تھے اور ہمیشہ قتل کی دھمکیوں سے ڈرائے جاتے تھے اس وقت آپ نے عمر سے کہا:

"اے عمر اس (خلافت) کو لے لو کیونکہ وہ تمہارا آدھا مال ہے اور مرکب خلافت کو ابوبکر کے لئے محکم باندھ دو تاکہ کل تمہیں واپس کر دے۔ (۱)

اگر ابوبکر کے لئے بیعت کا لینا حقیقت میں ڈیموکریسی کے اصول کے مطابق ہوتا اور اس آیت "امرہم شوری بینہم" کا مصداق ہوتا، تو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کیوں وہ افسوس کر رہے تھے کہ کاش میں نے یہ تین کام انجام نہ دیئے ہوتے:

۱۔ اے کاش میں نے فاطمہ کے گھر کا احترام اور اس کی حفاظت کیا ہوتا اور حملہ کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا یہاں تک کہ اگر انہوں نے سپاہیوں کے لئے دروازہ بند کر دیا تھا۔

۲۔ اے کاش سقیفہ کے دن خلافت کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر نہ لیتا اور اسے عمر اور ابو عبیدہ کے حوالے کر دیتا اور خود ان کا وزیر یا معاون ہوتا۔

(۱) الامامة و السياسة ج ۱ ص ۱۲، خطبہ شفقہ میں تقریباً اسی مفہوم کو بیان کیا ہے: لشد ما تشطرا ضرعیبا...

۳۔ اے کاش ایسا بن عبد اللہ معروف بہ "الفجاء" کو نہ جلایا ہوتا۔ (۱)

نہایت افسوس کا مقام ہے کہ اس زمانے کے مشہور شاعر محمد حافظ ابراہیم مصری جن کا انتقال ۱۳۵۱ھ میں ہوا اپنے قصیدے "عمریہ" میں خلیفہ دوم نے جو حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی اور اہانت کی اس کی ستائش کی، وہ کہتا ہے۔  
و قولہ لعلٰ قالہا عمرُ

اکرم بسامعہا اعظم بملقیہا  
حرقۃ دارک لا اُتی علیک بہا  
ان لم تبایع و بنتُ المصطفیٰ فیہا  
ماکان غیرُ ابی حفص یفوه بہا  
امام فارسِ عدنانِ و حامیہا۔ (۲)

اس بات کو یاد کرو جو عمر نے علی سے کہاتھا: سننے والے کا احترام کرو اور کہنے والے کو محترم جانو۔  
عمر نے علی سے کہا: اگر بیعت نہیں کرو گے تو تمہارے گھر کو جلادوں گا اور اس گھر میں رکنے کی اجازت نہیں دوں گا اور اس نے یہ بات اس وقت کہی کہ پیغمبر کی بیٹی گھر میں موجود تھیں۔

یہ بات عمر کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ بھی عدنان عرب اور اس کے حامیوں کے شہسوار کے مقابلے میں یہ شاعر عقل و خرد سے دور رہ کر وہ ظلم و فساد جس سے عرش الہی لرز جاتا ہے چاہتا ہے کہ خلیفہ کے اس عمل کو مفاخر میں شمار کرے کیا یہ افتخار کی بات ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کا عمر کے نزدیک کوئی احترام نہہینتھا اور وہ صرف ابوبکر کی بیعت لینے کے اس خاطر پیغمبر کے گھر اور ان کی بیٹی کو جلادے؟! اور یہ بات بھی عجیب ہے جسے عقد الفرید نے نقل کیا ہے جس وقت علی کو مسجد میں لائے تو خلیفہ نے ان سے کہا کہ

کیا میری خلافت سے آپ ناراض ہیں؟ تو علی نے کہا: نہیں۔ بلکہ مینے خود عہد کیا تھا کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد اپنے دوش پر ردا نہیں ڈالوں گا جب تک کہ قرآن کو جمع نہیں کرلوں گا اور اسی وجہ سے میں دوسروں سے پیچھے رہ گیا۔ اور پھر خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی (۳) جب کہ وہ خود اور دوسرے افراد

(۱) تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۳۶، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۶۳  
(۲) دیوان شاعر نیل ج ۱ ص ۸۴  
(۳) عقد الفرید ج ۴ ص ۲۶۰

عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ چھ مہینے تک جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھیں علی نے بیعت نہیں کیا اور ان کی شہادت کے بعد خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (۱)  
لیکن نہ صرف یہ کہ علی نے بیعت نہیں کیا اور نہج البلاغہ کے خطبات آپ کی اس حقانیت پر گواہ ہیں، بلکہ وہ افراد بھی جن کے نام سے واقعہ سقیفہ کی تشریح کرتے وقت ہم آشنا ہوئے ہیں ان لوگوں نے بھی خلیفہ کی بیعت نہ کی، اور جناب سلمان جو حضرت علی کی ولایت کے سب سے بڑے حامی تھے ابوبکر کی خلافت کے بارے میں کہتے ہیں:  
"خلافت کو ایسے شخص کے حوالے کیا کہ جو فقط تم سے عمر میں بڑا ہے اور پیغمبر کے اہلبیت کو نظر انداز کر دیا حالانکہ اگر خلافت کو اس کے محور سے خارج نہ کرتے تو ہرگز اختلاف نہ ہوتا اور سبھی خلافت کے بہترین میوے (حق) سے بہرہ مند ہوتے۔ (۲)

(۱) عقد الفرید ج ۴ ص ۲۶۰  
(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۶۹

چوتھی فصل  
حضرت علی علیہ السلام اور فدک

فدک کی اقتصادی اہمیت

سقیفہ کی الجھنیں خلیفہ کے انتخاب کی وجہ سے ختم ہوئیں اور ابوبکر نے خلافت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ حضرت علی اپنے باوفا اصحاب کے ہمراہ حکومت کے جاہ و حشتم سے دور ہو گئے لیکن اپنی نوارنی فکروں اور عام لوگوں کے ذہنوں کی فکر و آگہی کے لئے اتحاد و اتفاق کی برقراری کے لئے حکومت کی مخالفت نہیں کی، بلکہ قرآن کی تفسیر و تعلیمات اور اعلیٰ مفاہیم، صحیح فیصلوں اور اہل کتاب کے دانشمندیوں کے ساتھ استدلال و احتجاجات وغیرہ اور اجتماعی و فردی خدمات انجام دینے لگے۔

امام تمام مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ باکمال تھے اور کبھی بھی یہ ممکن نہ تھا کہ آپ کے دشمن آپ سے یہ کمالات چھین سکیں، آپ پیغمبر کے چچازاد بھائی اور داماد، وصی بلافصل اور مجاہد نامدار، اور اسلام کے بڑے جانباز اور شہر علم پیغمبر کے دروازہ تھے، کسی بھی شخص میناتنی ہمت نہیں جو اسلام میں ان کی سبقت اور آپ کے وسیع علم اور قرآن و حدیث، اصول و فروع دین اور آسمانی کتابوں پر تسلط کا انکار کر سکے، یا ان تمام فضائل کو ان سے چھین سکے۔

ان فضائل کے علاوہ امام علیہ السلام کے پاس ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ آئندہ، خلفاء اس کی وجہ سے مشکل میں گرفتار ہوتے اور وہ اقتصادی و آمدنی جیسی قدرت تھی جو فدک کے ذریعے آپ کو حاصل ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے خلیفہ نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے چاہا کہ اس قدرت کو امام کے ہاتھوں سے لے لے، کیونکہ یہ امتیاز دوسرے امتیازات کی طرح نہ تھا جو امام کے ہاتھوں سے نہ لیا جاسکے (۱)

(۱) اس بحث کی تفصیلات کو باب 'فدک غصب کرنے کا مقصد' میں پڑھیں گے۔

فدک کا جغرافیہ

بہترین اور آباد سرزمین جو خیبر کے قریب واقع ہے اور مدینے سے فدک کا فاصلہ تقریباً ۱۴۰ کیلو میٹر ہے اور قلعہ خیبر کے بعد حجاز کے یہودیوں کے ٹھہرنے کی جگہ کے نام سے مشہور تھا اسی جگہ کو قریباً "فدک" کہتے ہیں۔ (۱)

پیغمبر اسلام نے یہودیوں کے لشکر کو "خیبر" اور "وادی القری" اور "تیمنا" میں شکست دینے کے بعد جب مدینہ کے شمال میں ایک بڑے خلاء کا احساس کیا تو اسے اسلام کے سپاہیوں سے پر کر دیا اور اس سرزمین سے یہودیوں کی طاقت و قدرت کو ختم کرنے کے لئے جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے خطرہ کا سبب اور اسلام کی مخالفت شمار ہوتی تھی ایک سفیر جس کا نام "محیط" تھا اسے فدک کے سردار کے پاس بھیجا یوشع بن نون جو اس دیہات کا رئیس تھا اس نے صلح و آشتی کو جنگ پر ترجیح دیا اور وہاں کے رہنے والے اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہر سال کا آدھا غلہ پیغمبر اسلام کو دیں گے اور اسلام کے پرچم تلے زندگی بسر کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے۔ اسلامی حکومت نے بھی ان کی حفاظت و سلامتی کی ذمہ داری قبول کر لی اسلامی قانون کے مطابق ہر وہ زمین جو جنگ و جدال کے ذریعے حاصل ہو وہ تمام مسلمانوں کی ملکیت ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری اور نظارت حاکم شرع کے ہاتھ مینہوتی ہے لیکن وہ زمینیں جو بغیر کسی حملہ اور جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوں وہ پیغمبر یا اس کے بعد کے امام کی ملکیت ہوتی ہیں اور جو قوانین و شرائط اسلام نے معین کئے ہیں الہی موارد میں صرف ہوتی ہیں ایک مورد یہ ہے کہ پیغمبر اور امام اپنے

قریبی افراد کی شرعی حاجتوں کو پورا کرنے اور ان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لئے خرچ کریں۔(۲)

فدک، پیغمبر اسلام(ص) کی طرف سے حضرت فاطمہ کو ہدیہ تھا  
شیعہ محدثین و مورخین اور اہل سنت کے دانشمندیوں کا ایک گروہ تحریر کرتا ہے:  
جب آیت "وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ" (۳) نازل ہوئی اس وقت پیغمبر(ص) نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ  
زہرا کو بلایا اور فدک کو ان کے

(۱) معجم البلدان و مراد الاطلاق میں "مادہ فدک" کی طرف رجوع کریں۔  
(۲) سورہ حشر، آیت ۶ و ۷، فقہ کی کتابوں میں باب جہاد بحث "فی" میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔  
(۳) سورہ اسراء، آیت ۲۶، یعنی اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، اور مفلسوں کے حق کو ادا کرو۔

حوالے کیا(۱) اور اس مطلب کو پیغمبر کے ایک بزرگ صحابی ابوسعید خدری نے نقل کیا ہے تمام مفسرین شیعہ و سنی کا  
اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت پیغمبر کے قریبی رشتہ داروں کی شان میں نازل ہوئی ہے اور آپ کی بیٹی "ذا القربی" کی  
بہترین مصداق ہیں، یہاں تک کہ جب شام کے ایک شخص نے حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ  
آپ اپنا تعارف کرائیے اس وقت آپ نے شامیوں کے سامنے اپنے کو پہچنانے کے لئے اسی آیت کی تلاوت کی اور یہ  
مطلب مسلمانوں کے درمیان اتنا واضح و روشن تھا کہ اس شامی نے تصدیق کے طور پر سر کو ہلاتے ہوئے حضرت سے  
یہ کہا کہ آپ کی رسول اسلام سے قربت اور خاص رشتہ داری کی وجہ سے ہی خدا نے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ کے حق  
کو آپ کو دے دیں"(۲)

خلاصہ یہ کہ یہ آیت حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے فرزندوں کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس سلسلے میں تمام  
مسلمانوں کا اتفاق ہے لیکن یہ بات کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پیغمبر نے فدک کو اپنی بیٹی کو بطور ہدیہ دیا تھا یا  
نہیں تو اس بارے میں تمام شیعہ محققین اور کچھ سنی محققین قائل ہیں کہ اس کو آپ نے اپنی بیٹی کو ہدیہ میں دیا تھا

(۱) مجمع البیان ج ۳ ص ۴۱۱ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۲۶۸ الدر المنثور ج ۴ ص ۱۷۷  
(۲) الدر المنثور ج ۴ ص ۱۷۶

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدک اپنی بیٹی کو کیوں دیا؟

پیغمبر اسلام اور آپ کے خاندان کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی دنیا کے دلدادہ نہیں تھے اور جس چیز کی ان کی  
نظر میں وقعت نہیں رکھتی تھی وہ دنیا کی دولت تھی اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فدک اپنی بیٹی کو دے دیا  
اور اسے حضرت علی کے خاندان سے مخصوص کر دیا یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں پیغمبر نے فدک فاطمہ  
زہرا کو دیا اس سوال کے جواب کی کئی وجہیں ذکر ہوئی ہیں۔

۱۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد مسلمانوں کی تمام ذمہ داریاں حضرت علی علیہ السلام پر تھیں اور یہ مقام و منصب بہت  
سنگین اور اسکے لئے زیادہ دولت کی ضرورت تھی حضرت علی خلافت کے تمام امور کی دیکھ بھال فدک سے حاصل  
ہوئی آمدنی سے اچھے طریقے سے کرسکتے تھے، مگر لگتا ہے کہ خلفاء، پیغمبر کی اس پیشنگوئی سے آگاہ ہو گئے تھے  
اسی لئے خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی فدک کو پیغمبر کے خاندان سے  
چھین لیا۔

۲۔ خاندان پیغمبر جس مینمظہر کامل آپ کی بیٹی اور آپ کے دو نور چشم حضرت حسن اور حضرت حسین علیہما السلام  
تھے ضروری تھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور رسول اسلام کی عزت و شرافت و حیثیت  
اور ان کا خاندان ہر طرح سے محفوظ رہے اسی مقصد کے تحت پیغمبر نے فدک اپنی بیٹی کو دیا تھا۔

۳۔ پیغمبر اسلام یہ جانتے تھے کہ ایک گروہ حضرت علی سے اپنے دل میں کینہ رکھے ہوئے ہے کیونکہ ان کے بہت سے  
رشتہ دار و احباب مختلف جنگوں میں حضرت علی کی تلوار سے مارے گئے ہیں ان کے دلوں سے کینہ دور کرنے کا ایک



راستہ یہ تھا کہ امام مالی امداد کر کے ان کی دلجوئی کریں، ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں، اسی طرح بیواؤں اور مفلسوں اور لاچاروں کی مدد کریں اور اس طرح سے ان تمام موانع کو جو آپ کو خلافت سے قریب ہونے سے روک رہے تھے ان کو دور کریں پیغمبر اسلام (ص) اگرچہ ظاہری طور پر فدک حضرت زہرا کو دیا تھا لیکن اس کی درآمد کا اختیار صاحب ولایت کے ہاتھوں میں تھا۔ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے اور اسلام و مسلمین کے فائدے کے لئے خرچ کریں۔

فدک کی آمدنی

تاریخ پر نگاہ کرنے کے بعد یہ تینوں باتیں صحیح معلوم ہوتی ہیں کیونکہ فدک ایک سرسبز و شاداب زمین تھی جو حضرت علی علیہ السلام کے مقصد کی کامیابی کے لئے بہترین معاون ثابت ہوتی۔

مشہور مورخ حلبی اپنی کتاب سیرۃ حلبی میں لکھتے ہیں:

"ابوبکر مائل تھے کہ فدک پیغمبر کی بیٹی کے پاس رہے اور فاطمہ کی ملکیت کو انہوں نے ایک کاغذ پر لکھ دیا لیکن عمر نے فاطمہ کو وہ توشہ دینے سے منع کر دیا اور ابوبکر کی طرف رخ کر کے کہا: آئندہ تمہیں فدک کی آمدنی کی سخت ضرورت پڑے گی کیونکہ اگر مشرکین عرب مسلمانوں کے خلاف قیام کریں تو جنگ کے تمام اخراجات کو کہاں سے پورا کرو گے؟ (۱)"

اس جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فدک کی آمدنی اس قدر تھی کہ دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے

(۱) سیرۃ حلبی ج ۳ ص ۴۰۰

میں جو اخراجات ہوتے اس کو پورا کر دیتی اسی وجہ سے ضروری تھا کہ پیغمبر اس اقتصادی قدرت کو حضرت علی کے اختیار میں دیدے۔

ابن ابی الحدید کہتے ہیں:

مینے مذہب امامیہ کے ایک دانشور سے فدک کے بارے میں کہا: فدک کا علاقہ اتنا وسیع نہ تھا اور اتنی کم زمین کہ جس میں چند کھجور کے درخت کے علاوہ کچھ نہ تھا، لہذا مخالفین فاطمہ کے لئے اتنا اہم نہ تھا کہ اس کی لالچ کرتے، تو انہوں نے میرے جواب میں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، وہاں پر کھجور کے درخت آج کے درختوں سے کم نہ تھے اور مکمل طریقے سے اس حاصل خیز زمین سے خاندان پیغمبر کو استفادہ کرنے سے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت علی اس کی آمدنی سے خلافت کے خلاف قیام کریں اس لئے نہ صرف فاطمہ کو فدک سے محروم کیا بلکہ تمام بنی ہاشم اور عبد المطلب کے فرزندوں کو ان کے شرعی حقوق (خمس، غنیمت) سے بھی محروم کر دیا۔ کیونکہ جو لوگ ہمیشہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے بیہوش کبھی جنگ و جدال کے خیال کو اپنی ذہن میں نہیں لاتے۔ (۱)"

امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فدک کے حدود و علاقہ کو اس حدیث میں معین کرتے ہیں: "فدک کا رقبہ ایک سمت سے عدن اور دوسری طرف سے سمرقند اور تیسری طرف سے افریقہ اور چوتھی طرف سے بہت سے دریاؤں اور جزیروں اور جنگلوں سے ملتا ہے" (۲)

حقیقت میں فدک جو کہ خیر کا جزء تھا اتنا وسیع و عریض نہ تھا بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ صرف ہم سے فدک کو غصب نہیں کیا ہے بلکہ تمام اسلامی ممالک کی حکومت کو اتنی مقدار میں جنتی امام نے معین کئے ہیں ابلیت سے چھین لیا گیا۔ پیغمبر اسلام (ص) نے فدک کو چوبیس ہزار دینار میں کرایہ پر دیدیا بعض حدیثوں میں ۷۰ ہزار دینار نقل ہوا ہے اور یہ فرق سالانہ آمدنی کی وجہ سے ہے۔

(۱) شرح نہج البلاغہ ج ۱ ص ۲۳۶

(۲) بحار الانوار ج ۸ ص ۱۴۴

قطب الدین راوندی لکھتے ہیں:

جب معاویہ خلافت کی کرسی پر بیٹھا تو اس نے فدک کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک تہائی مروان بن حکم اور ایک تہائی

عمر بن عثمان اور ایک تہائی اپنے بیٹے یزید کو دیا اور جب مروان خلیفہ بنا تو اس نے فدک کو اپنی جاگیر بنالیا (۱) اس طرح کی تقسیم سے واضح ہوتا ہے کہ فدک ایک اہم ترین سرزمین تھی جسے معاویہ نے تین آدمیوں میں تقسیم کیا اور تینوں اس کے اہم رشتہ داروں میں سے تھے۔

جس وقت حضرت فاطمہ زہرا نے ابوبکر سے فدک کے سلسلے میں گفتگو کی اور اپنی بات کی صداقت کے لئے گواہوں کو ان کے پاس لے گئیں اس وقت انہوں نے پیغمبر کی بیٹی کے جواب میں کہا: فدک پیغمبر کا مال نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کا مال تھا جس کی آمدنی سے سپاہیوں کے اخراجات پورے ہوتے تھے اور دشمنوں سے جنگ کے لئے بھیجے جاتے تھے اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ (۲)

پیغمبر اسلام (ص) فدک کی آمدنی سے سپاہیوں کو آمادہ کرتے تھے یا اسے بنی ہاشم اور درمندانہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے اور یہ زمین خیبر کی ایسی زمینوں میں سے تھی جس کی آمدنی بہت زیادہ تھی جو سپاہیوں کے خرچ کے لئے کافی تھی۔

جب عمر نے چپاکہ شبہ جزیرہ کو یہودیوں سے خالی کرانیتو ان لوگوں کو دھمکی دی کہ اپنی اپنی زمینوں کو اسلامی حکومت کے حوالے کرو اور اس کی قیمت لے لو اور فدک کو خالی کر دو۔

پیغمبر اسلام (ص) نے ابتدا سے ہی فدک میں رہنے والے افراد سے معاہدہ کیا تھا کہ آدھی زمین ان کے اختیار میں رہے گی اور بقیہ آدھی زمین کو رسول خدا کے حوالے کرینگے اسی وجہ سے خلیفہ نے ابن تیہان، فروہ، حباب، اور زید بن ثابت کو فدک بھیجا تاکہ جتنی مقدار میں ان لوگوں نے غصب کیا تھا اس کی اجرت و قیمت معین ہونے کے بعد یہودیوں کو جو وہاں ساکن تھے ادا کریں ان لوگوں نے یہودیوں کا حصہ پچاس ہزار درہم معین کیا اور عمر نے اس رقم کو اس مال سے ادا کیا جو عراق سے حاصل ہوا تھا۔ (۳)

(۱) بحار الانوار ج ۱۶ ص ۲۱۶

(۲) بحار الانوار ج ۱۶ ص ۲۱۴

(۳) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۶ ص ۲۱۱

فدک غصب کرنے کا مقصد

پیغمبر اسلام کے دنیا پرست اصحاب کے لئے ابوبکر کی خلافت و جانشینی کامیابی کا پہلا زینہ تھا اور خرچ جو گروہ انصار کے سب سے زیادہ طاقتور افراد تھے دوسرے گروہ سے مخالفت کر کے داخلی جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور بنی ہاشم نے جس کے رئیس حضرت علی علیہ السلام تھے ان علتوں کی بنا پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے لوگوں کے سامنے حقیقت آشکار کرنے کے بعد گروہ بندی اور مسلحانہ قیام سے پرہیز کیا۔

لیکن مدینہ میں صرف یہی کامیابی خلافت کے لئے کافی نہ تھی بلکہ مکہ کی حمایت بھی ضروری تھی لیکن بنی امیہ جس کا سرپرست ابوسفیان تھا، جس کے پاس بہت زیادہ افراد تھے اس نے خلیفہ کی خلافت کو رسماً قبول نہیں کیا تھا، وہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ ابوسفیان خلافت کی تائید کرے گا اور تمام احکامات و قوانین کو معین کرے گا۔

جب مکہ میں پیغمبر کے رحلت کی خبر پہنچی اس وقت مکہ کا حاکم عتاب بن اسید بن العاص تھا جس کی عمر ۲۰ سال تھی اس نے تمام لوگوں کو پیغمبر کے رحلت کی خبر سنائی لیکن خلافت و جانشینی کی خبر کے بارے میں لوگوں سے کچھ نہ کہا جب کہ دونوں واقع ایک ہی ساتھ آئے تھے اور دونوں کی خبر پھیل گئی تھی بہت بعید ہے کہ دونوں میں سے ایک واقعہ کی خبر مکہ پہنچے لیکن دوسرے واقعہ کی خبر مکہ نہ پہنچے مکہ کے اموی حاکم کی خاموشی کی علت صرف یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کے رئیس ابوسفیان کے نظریہ سے باخبر ہو جائے پھر اس کے نظریہ کے مطابق عمل کرے۔

ان تمام حقایق کے پیش نظر، خلیفہ یہ بات جانتا تھا کہ اس کی حکومت مخالفین کے مقابلے میں بہت دنوں تک قائم نہیں رہ سکتی۔ لہذا ضروری تھا کہ مخالفوں کے عقائد و نظریات سے باخبر ہو تاکہ ان سے زیادہ عقائد و نظریات کو پیش کرے جس کی بنا پر ان کے عقائد و غیرہ کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہ پڑے کیونکہ ایسی صورت میں حکومت کا بہت دنوں تک قائم رہنا بہت مشکل کام تھا۔

تمام لوگوں میں سے ایک با اثر شخص بنی امیہ کے عزیزوں کا رئیس ابوسفیان تھا اس کا نظریہ معلوم ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ابوبکر کی حکومت کا مخالف تھا اور جب اس نے سنا کہ ابوبکر نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے تو

اس نے اعتراض کیا "مجھے ابوفضیل سے کیا مطلب؟" یہ وہی تھا جو مدینہ میں داخل ہونے کے بعد حضرت علی اور عباس کے گھر گیا اور دونوں کو مسلحانہ قیام کے لئے دعوت دی اور کہا کہ "میں مدینے کو سواروں اور سپاہیوں سے بھر دوں گا، تم لوگ اٹھو اور حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لو" ابوبکر نے اس کو خاموش کرنے اور اس کو خریدنے کے لئے جو مال و دولت ابوسفیان لے کر آیا تھا اسی کو دیدیا اور ایک دینار تک اس میں سے نہ لیا، بلکہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے بیٹے یزید (معاویہ کا بھائی) کو شام کی حکومت کے لئے منتخب کر لیا، جب ابوسفیان کو یہ خبر ملی کہ اس کے بیٹے کو حکومت ملی ہے تو فوراً اس نے کہا: ابوبکر نے صلہ رحم کیا ہے (۱) جب کہ اس سے پہلے ابوسفیان ابوبکر سے کسی بھی طرح کا رشتہ جوڑنے کا قائل نہیں تھا۔

ابوسفیان کے علاوہ اور دوسرے افراد جن کا عقیدہ خریدا جا رہا تھا ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ابوبکر کی بیعت مہاجرین کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی اور مہاجرین میں سے صرف تین آدمی موجود تھے خود خلیفہ اور ان کے دو ہمفکر و ہم خیال عمر اور ابو عبیدہ، ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے بیعت لینے اور مہاجرین کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کی وجہ سے دوسرا گروہ ناراض ہو گا اس لئے ضروری تھا کہ خلیفہ ان کی ناراضگی کو دور کرے، اور ان سے رابطہ برقرار کرے اس کے علاوہ انصار خصوصاً قبیلہ خزرج والے جنہوں نے سقیفہ میں ہی ان کی بیعت نہیں کی تھی اور غم و غصہ کے عالم میں سقیفہ چھوڑ کر باہر آگئے تھے ان کو خلیفہ کی طرف سے محبت و الفت ملتی رہے۔

خلیفہ نے نہ صرف لوگوں کے عقائد کا سودا کیا بلکہ مال و دولت کو انصار کی عورتوں میں تقسیم کیا جب زید بن ثابت، بنی عدی کی ایک عورت کا حصہ اس کے گھر لایا تو اس محترم عورت نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ زید نے کہا: یہ تمہارا حصہ ہے اور خلیفہ نے تمام عورتوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، عورت نے اپنی ذہانت سے سمجھ لیا یہ پیسہ رشوت دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے لہذا اس سے کہا: میرے دین کو خریدنے کے لئے رشوت دے رہے ہو؟ خدا کی قسم! اس کی طرف سے میں کوئی چیز نہیں لوں گی یہ کہہ کر اسے واپس کر دیا۔ (۱)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۱۳۳

حکومت کے لئے مالی بحران

پیغمبر اسلام (ص) نے اپنی بیماری کے دوران ان تمام چیزوں کو جو آپ کے پاس تھا لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا بیت المال خالی تھا پیغمبر کے نمائندے آپ کی رحلت کے بعد بہت کم مال لے کر مدینہ واپس آئے یا اس کو متدین اور امین شخص کے ہاتھوں بھجوا دیا، لیکن یہ مختصر آمدنی (مال) اس حکومت کے لئے جو مخالفوں کے عقیدوں کا سودا کرنا چاہ رہی تھی بہت کم تھی۔

دوسری طرف اطراف کے قبیلے والے مخالفت کا پرچم اٹھانے تھے اور خلیفہ کے نمائندوں کو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے تھے اس وجہ سے حکومت اقتصادی مشکلات سے دوچار ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے حاکم کے سامنے کوئی راہ نہ تھی مگر یہ کہ حکومت کے اخراجات کے لئے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے اور مال جمع کرے اور اس وقت فدک سے بہتر کوئی چیز نہ تھی، اور اس سلسلے میں پیغمبر سے حدیث کو نقل کیا جس کا تنہا راوی خود خلیفہ تھا (۱) اور فدک کو حضرت فاطمہ سے چھین لیا اور اس کی بے شمار آمدنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لئے خرچ کیا۔

عمر نے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے ابوبکر سے کہا: کل تمہیں فدک کی بہت سخت ضرورت پڑے گی کیونکہ اگر مشرکین عرب مسلمانوں کے خلاف قیام کریں تو تم کہاں سے جنگ کے تمام اخراجات کو لاؤ پورا کرو گے۔ (۲) خلیفہ اور ان کے ہمفکروں کا عمل بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ جب حضرت فاطمہ نے ان سے فدک کا مطالبہ کیا تو جواب میں کہا: پیغمبر نے تمہاری زندگی کے اخراجات کا انتظام کر دیا ہے اور اس کی بقیہ آمدنی کو مسلمانوں میں تقسیم کیا ہے اس لئے تم یہ سب لے کر کیا کرو گی؟ پیغمبر کی بیٹی نے فرمایا: میں بھی اپنے بابا کے عمل کی پیروی کروں گی اور بقیہ آمدنی کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کروں گی۔

(۱) وہ جعلی حدیث یہ ہے "نحن معاشر الانبياء لانورث" یعنی ہم گروہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے۔  
(۲) سیرۃ حلبی ج ۳ ص ۴۰۰

جب حضرت فاطمہ نے خلیفہ کو بے جواب کر دیا تو انہوں نے کہا: میں بھی یہی کام انجام دوں گا جو تمہارے بابا نے انجام دیا ہے۔ (۱)  
اگر خلیفہ کا مقصد فدک کے تصرف و خرچ کرنے میں فقط حکم الہی کا جاری کرنا تھا اور فدک کی آمدنی میں سے پیغمبر کے اخراجات نکال کر مسلمانوں کے امور میں صرف کرنا تھا تو کیا فرق تھا کہ اس کام کو وہ انجام دے یا پیغمبر کی بیٹی یا اس کا شوہر انجام دیں جو نص قرآنی کے مطابق گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک و منزہ تھا خلیفہ کا اس بات پر اصرار کرنا کہ فدک کی آمدنی ان کے اختیار میں ہو اس بات پر گواہ ہیں کہ ان کی نگاہیں اس آمدنی پر تھی تاکہ اس کے ذریعے اپنی حکومت کو مضبوط اور دیگر امور میں اسکو خرچ کریں۔

فدک غصب کرنے کی ایک اور وجہ

فدک غصب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی ہے جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی اقتصادی طاقت کا ڈر تھا۔ امام کے اندر رہبری کے شرائط موجود تھے کیونکہ علم، تقویٰ، اور تابناک ماضی پیغمبر سے قرابت اور پیغمبر کا ان کے متعلق وصیت کرنا یہ ایسے حقائق ہیں جن سے انکار نہیں کرسکتے، اور جب بھی کوئی شخص ان شرائط کے ساتھ مالی طاقت و قدرت بھی رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ خلافت کی ڈگمگاتی کرسی کو سہارا دے تو ایسا شخص بہت بڑے خطرے میں پڑ سکتا ہے ایسی صورت میں اگر حضرت علی کے تمام شرائط و امکانات کو غصب کرنا ممکن نہ ہو اور ان کی ذاتی چیزوں کو لینا ممکن نہ ہوتو بھی مگر حضرت علی کی اقتصادی طاقت کو تو غصب کرسکتے تھے اسی وجہ سے خاندان اور حضرت علی کے حالات کو ضعیف کرنے کے لئے فدک کو اس کے حقیقی مالک سے چھین لیا اور پیغمبر کے خاندان کو خلافت و حکومت کا محتاج بنا دیا۔

یہ حقیقت عمر او رخلیفہ کی گفتگو سے واضح ہوتی ہے انہوں نے ابوبکر سے کہا:

"لوگ دنیا کے بندے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا ہدف بھی کچھ نہیں ہے تم خمس اور مال غنیمت کو علی سے لے لو فدک بھی ان کے ہاتھوں سے چھین لو اور جب لوگ انہیں خالی ہاتھ دیکھیں گے تو انہیں چھوڑ کر تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے۔" (۲)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱۶، ص ۳۱۶  
(۲) ناسخ التواریخ جلد مربوط بہ حضرت زہرا (س)، ۱۲۲

اس مطلب پر دوسرا گواہ یہ ہے کہ خلیفہ نے نہ صرف خاندان پیغمبر کو فدک سے محروم کیا بلکہ انہیں جنگ کے مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ جو نص قرآن کے اعتبار سے خاندان پیغمبر کا حق تھا (۱) اس سے بھی محروم کر دیا۔ اکثر مورخین کا خیال ہے کہ خلیفہ سے حضرت فاطمہ زہرا کا اختلاف صرف فدک کی وجہ سے تھا جب کہ آپ کا خلیفہ سے تین چیزوں کی بنا پر اختلاف تھا۔

۱۔ فدک جو پیغمبر نے آپ کو دیا تھا۔

۲۔ وہ میراث جو پیغمبر اسلام نے آپ کے لئے چھوڑی تھی۔

۳۔ ذوی القربیٰ کا حصہ جو نص قرآنی کے مطابق غنائم کے خمس کا تعلق ان سے بھی تھا۔

عمر کا بیان ہے کہ جب فاطمہ نے فدک اور ذوی القربیٰ کے حق کا خلیفہ سے مطالبہ کیا تو خلیفہ نے منع کر دیا اور انہیں نہیں دیا۔

انس ابن مالک کہتے ہیں:

فاطمہ (س) خلیفہ کے پاس آئیں اور آیت خمس کی تلاوت کی جس میں پیغمبر کے رشتہ داروں کا حصہ معین تھا خلیفہ نے کہا: تم جو قرآن پڑھتی ہو میں بھی وہی قرآن پڑھتا ہوں میں ذوی القربیٰ کا حق تمہیں برگز نہیں دوں گا بلکہ مینتمہاری کی زندگی کے تمام اخراجات برداشت کروں گا اور بقیہ مال کو مسلمانوں کے امور میں صرف کروں گا۔

فاطمہ (س) نے کہا: یہ حکم خدا نہیں ہے جب آیت خمس نازل ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا: خاندان محمد کے تمام افراد کو بشارت ہو کہ خدا نے (اپنے فضل و کرم سے) ان لوگوں کو بے نیاز کر دیا ہے۔  
 خلیفہ نے کہا: میں عمر اور ابو عبیدہ سے مشورہ کروں گا اگر تمہارے بارے میں موافقت کی تو میں ذوی القربیٰ کا پورا حصہ تمہیں دیدوں گا۔  
 جب ان دونوں سے سوال ہوا تو ان لوگوں نے خلیفہ کے نظریہ کی تائید کی، فاطمہ کو اس وقت بہت

(۱) سورہ انفال، "واعلموا انما غنمتم من شئی فان لله خمسہ و للرسول و لذی القربیٰ"

زیادہ تعجب ہوا اور سمجھ گئی کہ تینوں آپس میں مشورہ کر چکے ہیں۔ (۱)  
 خلیفہ کا کام صرف نص کے مقابلے میں اجتہاد ہی نہ تھا، قرآن کریم صراحۃً اعلان کر رہا ہے کہ مال غنیمت میں سے ایک حصہ پیغمبر کے عزیزوں کا ہے لیکن انہوں نے بہانہ بناتے ہوئے کہ اس سلسلے میں پیغمبر سے کچھ نہیں سنا ہے آیت کی تفسیر کی اور کہا: "آل محمد کو ان کے خرچ کے برابر دیدو اور بقیہ مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کرو"  
 یہ کوشش صرف اس لئے تھی کہ امام کے ہاتھ میں مال دنیا سے کچھ نہ رہے اور انہیں اپنا محتاج بنائینا کہ وہ حکومت کے خلاف اقدام نہ کر سکیں۔

شیعہ فقہ کی نظر میں، جانشین پیغمبر کے ذریعہ پہنچنے والی روایتوں کی رو سے ذوی القربیٰ کا حصہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اس لئے کہ قرآن نے ان کا جو حصہ معین کیا ہے وہ اس عنوان سے کہ بعد پیغمبر وہی مسلمانوں کے زعیم اور امام ہیں، اور خمس کا نصف پہنچنے والا مال ان کے زیر نظر خرچ ہو  
 خلیفہ اس بات سے باخبر تھا کہ اگر حضرت فاطمہ زہرا ذی القربیٰ کا حق مانگ رہی ہیں تو وہ اپنا حق نہیں مانگ رہی ہیں بلکہ وہ حصہ مانگ رہی ہیں جو شخص ذی القربیٰ کے زمرے میں آتا ہے اسے دریافت کر کے مسلمانوں کے زعیم و رہبر کے عنوان سے مسلمانوں کے دینی موارد میں صرف کرے اور رسول اسلام کے بعد ایسا شخص سوائے حضرت علی کے کوئی اور نہیں ہے اور حضرت علی کو حصہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ خلافت کو چھوڑ دینا اور امیر المومنین کی زعامت و رہبری کا اعتراف کرنا تھا اسی وجہ سے ابوبکر نے فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہا:  
 ذی القربیٰ کا حصہ تمہیں برگز نہیں دوں گا اور تمہاری زندگی کے اخراجات نکالنے کے بعد باقی تمام مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کروں گا۔

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۶ ص ۲۳۱ . ۲۳۰

فدک ہمیشہ مختلف گروہوں اور سیاستوں کا شکار

خلافت کے شروع کے ایام میں پیغمبر کی بیٹی کے باغ فدک کو غصب کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حکومت کے خزانے کو مستحکم اور خلیفہ اصلی کو مال دنیا سے محروم کر دیا جائے لیکن اسلامی حکومت کے بننے اور بڑی بڑی جنگوں میں فتح حاصل ہونے کے بعد حکومت کے پاس دولت و ثروت کا ریل پیل ہونے لگا اور اب حکومت نے فدک کی آمدنی سے اپنے کو بے نیاز سمجھا دوسری طرف زمانہ گذرنے کے ساتھ ساتھ خلفاء کی خلافت اسلامی معاشرہ میں اور محکم ہو گئی اور کسی کو بھی یہ گمان نہ تھا کہ حقیقی خلیفہ حضرت امیر المومنین فدک کی آمدنی سے خلیفہ کی مخالفت کریں گے اور ان کے مقابلے میں صف آرائی کریں گے۔

دوسرے خلفاء کے زمانے میں اگرچہ فدک کے غصب کرنے کی جو علت تھی یعنی خلافت کو مالی اعتبار سے مضبوط کرنا وہ ختم ہو گئی تھی لیکن سرزمین فدک اور اس کی آمدنی پھر بھی سیاسی شخصیتوں اور خلیفہ وقت کی ملکیت تھی اور ان کی خاندان پیغمبر سے جیسی وابستگی ہوتی تھی اس لحاظ سے اس کے بارے میں نظریئے قائم کرتے تھے، اگر ان کا قلبی رابطہ خاندان پیغمبر نہیں ہوتا تھا تو فدک کو حقیقی مالک (اہلبیت) نہیں کرتے تھے اور اسے مسلمانوں کی اور حکومت کی جانیداد قرار دیتے تھے لیکن جن کو اہلبیت سے محبت ہوتی تھی یا وقت کا تقاضا تھا کہ اولاد فاطمہ کے ساتھ

دلجوئی کی جائے وہ فدک کو اولاد فاطمہ کے حوالے کر دیتے تھے، ایسا سلسلہ وقت تک رہتا تھا جب تک کہ بعد کے خلیفہ کی سیاست نہ بدلے۔

اسی وجہ سے فدک کبھی ایک حالت پر نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ مختلف گروہوں اور متضاد سیاستوں کا شکار رہا کبھی اپنے حقیقی مالکوں کی طرف واپس آتا کبھی بلکہ اکثر غصب کیا جاتا تھا۔

خلفاء کے زمانے سے حضرت علی کے زمانے تک فدک اپنی جگہ پر ثابت رہا اور اس کی آمدنی سے تھوڑا سا خاندان پیغمبر کی زندگی کے اخراجات کے طور پر دیا جاتا تھا اور باقی مال دوسرے عمومی مال کی طرح خلفاء کی نگرانی میں خرچ ہوتا تھا۔

لیکن جب معاویہ کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اس نے فدک کو تین حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ مروان کو اور ایک حصہ عمر و بن عثمان بن عفان کو اور ایک حصہ اپنے بیٹے یزید کو دیا۔

فدک اسی طرح ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں جاتا رہا یہاں تک کہ جب مروان بن حکم کی حکومت آئی تو اس نے اپنی خلافت کے زمانے میں باقی دو حصوں کو ان لوگوں سے خرید لیا اور خود اپنا حصہ بنالیا اور پھر اسے اپنے بیٹے عبد العزیز کو دے دیا۔ اور اس نے بھی اپنے بیٹے عمر بن عبد العزیز کو دیدیا اس کے لئے بطور میراث چھوڑا۔ جب عمر بن عبد العزیز کی خلافت آئی تو اس نے چاہا کہ بنی امیہ کے تمام بدنما دھیوں کو اسلامی معاشرہ کے دامن سے پاک کر دے چنانچہ خاندان پیغمبر سے محبت کی وجہ سے سب سے پہلے جس چیز کو اس نے اس کے حقیقی مالک کو واپس کیا وہ فدک ہی تھا اس نے فدک کو حسن بن علی علیہ السلام کے حوالے کیا اور ایک روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام کے حوالے کیا۔ (۱)

اس نے مدینہ کے گورنر ابوبکر بن عمرو کے نام خط لکھا اور حکم دیا کہ فدک کو حضرت فاطمہ کے بچوں کو واپس کر دے دھوکہ باز حاکم نے خط کا جواب دیتے ہوئے خلیفہ کو لکھا:

مدینے میں فاطمہ کی اولاد بہت زیادہ ہے اور ہر شخص اپنے گھر میں زندگی بسر کر رہا ہے میں فدک کو ان میں سے کس کو واپس کروں؟

عبد العزیز کے بیٹے نے جب حاکم کے خط کو پڑھا تو بہت ناراض ہوا اور کہا: اگر میں تجھے گائے کو قتل کرنے کا حکم دوں تو تم بنی اسرائیل کی طرح کہو گے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو جیسے ہی میرا خط تجھ تک پہنچے فوراً فدک کو فاطمہ کے ان بچوں میں تقسیم کر دے جو علی کی اولاد ہیں۔

خلافت کے ٹکڑوں پر پلنے والے جو سب کے سب بنی امیہ کے ماننے والے تھے خلیفہ کی اس عدالت سے بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا: تو نے اپنے اس عمل سے شیخین کو گناہگار ٹھہرایا، زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ عمر بن قیس اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے شام پہنچا اور خلیفہ کے اس کام پر تنقید کرنے لگا۔ خلیفہ نے ان سب کے جواب میں کہا:

تم لوگ جاہل و نادان ہو جو کچھ مجھے یاد ہے تم لوگوں نے بھی اسے سنا ہے لیکن فراموش کر دیا ہے، میرے استاد ابوبکر بن محمد عمر و بن حزم نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے جد سے نقل کیا ہے کہ

(۱) اس دوسرے احتمال کو اگرچہ ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ عمر بن عبد العزیز ۵۹۹ھ میں خلیفہ ہوا جبکہ امام سجاد کی وفات ۶۰۴ھ میں ہو چکی تھی یہ ممکن ہے کہ محمد بن علی بن الحسین رہے ہوں اور لفظ محمد چھوٹ گیا ہو۔

پیغمبر اسلام نے فرمایا: "فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا" خلفاء کے زمانے میں فدک اموال عمومی اور حکومت کا حصہ تھا پھر وہ مروان تک پہنچا اور انہوں نے میرے باپ عبد العزیز کے حوالے کیا اور اپنے باپ کے انتقال کے بعد مجھے اور میرے بھائیوں کو بطور میراث حاصل ہوا اور میرے بھائیوں نے اپنے حصوں کو مجھے بیچ دیا یا مجھے دیدیا اور مینے حدیث رسول کے حکم سے زہرا کے بچوں کو واپس کر دیا۔

عمر بن عبد العزیز کے انتقال کے بعد، آل مروان ایک کے بعد دوسرے حکومت کی باگ ڈور سنبھالتے رہے اور سب نے عمر بن عبد العزیز کے برخلاف قدم اٹھایا اور فدک مروان کے بیٹوں کی خلافت کے زمانے تک ان لوگوں کے تصرف میں تھا اور پیغمبر کا خاندان اس کی آمدنی سے بالکل محروم تھا، بنی امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب بنی عباس کی حکومت وجود میں آئی تو فدک کی خاص اہمیت تھی، بنی عباس کے پہلے خلیفہ "سفاح" نے فدک عبد اللہ بن حسن کو واپس

کردیا اس کے بعد جب منصور آیا تو اس نے واپس لے لیا۔ منصور کے بیٹے مہدی نے اپنے باپ کی پیروی نہیں کی اور فدک کو حضرت زہرا کے بچوں کو واپس کر دیا مہدی کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے موسیٰ اور ہارون جنہوں نے یکے بعد دیگرے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی فدک کو پیغمبر کے خاندان سے چھین لیا اور اپنے تصرف میں لے لیا یہاں تک کہ ہارون کے بیٹے مامون نے حکومت کی باگ ڈور سنبھال لی۔ ایک دن مامون رد مظالم اور لوگوں کی شکایت وغیرہ سننے کے لئے رسماً بیٹھ گیا اور جو خطوط مظلوموں نے لکھے تھے اس کی تحقیق کرنے لگا۔

سب سے پہلا خط جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ ایسے شخص کا تھا جس نے اپنے کو حضرت فاطمہ کا وکیل و نمائندہ لکھا تھا اس نے خاندان پیغمبر کے لئے فدک واپس کرنے کا مطالبہ کیا تھا خلیفہ خط پڑھ کر رویا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس نے حکم دیا کہ خط لکھنے والے کو بلایا جائے، کچھ دیر کے بعد خلیفہ کے محل میں ایک بوڑھا شخص لایا گیا اور مامون سے فدک کے بارے میں بحث کرنے لگا، تھوڑی ہی دیر مناظرہ ہوا تھا کہ مامون قانع ہو گیا اور حکم دیا کہ رسمی طور پر مدینے کے حاکم کو خط لکھو کہ فدک کو فاطمہ زہرا کے بچوں کو واپس کر دے خط لکھا گیا اور خلیفہ نے اس پر مہر لگائی اور مدینہ بھیج دیا گیا۔

خاندان پیغمبر کو فدک مل جانے سے شیعہ بہت خوش ہوئے اور دعبل خزاعی نے اس موقع پر ایک قصیدہ بھی کہا جس کا پہلا شعر یہ تھا:

اصبح وجہ الزمان قد ضحکا

برد مامون ہاشم فدکا (۱)

زمانے کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نظر آنے لگے کیونکہ مامون نے فدک کو بنی ہاشم کے بچوں (جو واقعی مالک تھے) کو واپس کر دیا۔

حیرت انگیز وہ خط ہے جو مامون نے ۲۱۰ھ میں فدک کے سلسلے میں مدینہ کے حاکم قیام بن جعفر کو لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے:

"امیر المومنین جس کی خدا کے دین اور خلافت اسلامی میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور خاندان نبوت سے رشتہ داری کی بنا پر بہترین و شائستہ شخص ہے جس کے لئے ضروری ہے کہ پیغمبر کی سنتوں کی رعایت کرے اور جو کچھ بھی انہوں نے دوسروں کو دیا ہے اس کو ان کے حوالے کر دے پیغمبر اسلام نے فدک فاطمہ زہرا کو دیا ہے اور یہ بات اتنی زیادہ واضح و روشن ہے کہ پیغمبر کے بیٹوں میں سے کسی نے بھی اس سلسلے میں اختلاف نہیں کیا ہے اور کسی نے اس سے زیادہ کا بھی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ تصدیق کی ضرورت ہوتی"

اسی بنا پر امیر المومنین مامون نے مصلحت سمجھا کہ خدا کی مرضی حاصل ہونے اور عدالت جاری کرنے اور حق کو حقدار تک پہنچانے کے لئے فدک کو ان کے وارثوں کے حوالے کر دے اور اس کے لئے حکم جاری کرے، اسی لئے اس نے اپنے مشیروں اور کاتبوں کو حکم دیا کہ اس مطلب کو حکومتی رجسٹر میں تحریر کریں پیغمبر کے انتقال کے بعد جب بھی حج کی بجا آوری کے موقع پر یہ اعلان کیا گیا کہ جس شخص کا پیغمبر کے پاس صدقہ یا ہدیہ یا اور کوئی چیز ہو وہ مجھے مطلع کرے تو مسلمانوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو پھر پیغمبر کی بیٹی کا کیا مقابلہ، ان کی بات کی تو یقیناً تصدیق و تائید ہونا چاہیے۔

امیر المومنین نے مبارک طبری کو حکم دیا کہ فدک کو تمام حدود و حقوق کے ساتھ فاطمہ کے وارثوں کو واپس کر دو اور جو کچھ بھی فدک کے علاقے میں غلام، غلے اور دوسری چیزیں ہیں وہ سب محمد بن یحییٰ بن حسن بن زید بن علی بن الحسین اور محمد بن عبد اللہ بن حسن بن علی بن الحسین کو واپس کر دو، تم جان لو یہ وہ فکر و نظر ہے

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۶ ص ۲۱۸-۲۱۶۔

جو امیر المومنین نے خدا سے الہام کے ذریعے حاصل کیا ہے اور خدا نے ان کو کامیاب کیا ہے کہ خدا اور پیغمبر سے توسل و تقرب کریں۔

اس مطلب کو جو افراد بھی تمہاری طرف سے کام کر رہے ہیں ان تک پہنچا دو اور فدک کی تعمیر و آبادی میں ترقی کے لئے ہمیشہ کوشش کرتے رہو۔ (۱)

فدک حضرت زہرا کے بچوں کے ہاتھ میں رہا یہاں تک کہ متوکل کو خلافت کے لئے منتخب کیا گیا وہ خاندان رسالت کا بہت

سخت دشمن تھا لہذا فدک کو حضرت زہرا کے بچوں سے چھین لیا اور عبد اللہ بن عمر باز یار کی جاگیر قرار دیا۔ سرزمین فدک پر ۱۱ کھجور کے درخت تھے جنہیں خود پیغمبر اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے تھے لوگ حج کے زمانے میں ان درختوں کی کھجوروں کو بطور تبرک اور مہنگی قیمت پر خریدتے تھے جس سے خاندان نبوت کی شایان شان مدد ہوتی تھی۔

عبداللہ اس مسئلہ سے بہت زیادہ ناراض تھا۔ لہذا ایک شخص کو جس کا نام بشیران تھا اسے مدینہ روانہ کیا تاکہ کھجور کے ان درختوں کو کاٹ دے، اس نے بھی شقاوت قلبی کے ساتھ اس کے حکم پر عمل کیا لیکن جب بصرہ پہنچا تو مفلوج ہو گیا۔

اس دور حکومت کے بعد فدک خاندان پیغمبر سے چھین لیا گیا اور پھر ظالم حکومتوں نے وارثان زہرا کو فدک واپس نہیں کیا۔

(۱) فتوح البلدان ۴۱۔ ۳۹ تاریخ یعقوبی ج ۳ ص ۴۸۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### پانچویں فصل

#### مسئلہ فدک اور افکار عمومی

پیغمبر کی بیٹی کے اعتراض اور فدک کو غصب ہوئے چودہ صدیاں گذر گئیں مگر آج بھی بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید اس واقعہ کا فیصلہ کرنا دشوار ہے، کیونکہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اگر قاضی فیصلہ کرنا چاہے تو فدک کے مسئلہ پر مکمل طریقے سے معلومات فراہم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان تمام معلومات و شواہد کا دقت سے مطالعہ کر سکتا ہے کہ صحیح فیصلہ کر سکے، ممکن ہے اس واقعہ میں تحریف کردی گئی ہو اور اس کے مفہوم کو خلط ملط کر دیا گیا ہو لیکن جو چیز اس مشکل چیز کو آسان کر سکتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید اور پیغمبر کی احادیث اور طرفین کے دعوے اور اختلاف کی طرف رجوع کیا جائے اور نئے انداز سے اس مسئلہ کو منظم کیا جائے اور اسی اساس پر اسلام کے بعض قطعی و محکم اور نہ بدلنے والے اصول کے ذریعے فیصلہ کیا جائے ہم یہاں اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔

اسلام کے مسلم اصولوں میں سے ایک قانون یہ ہے کہ ہر وہ زمین جو بغیر جنگ اور بغیر فوجیوں کے غلبہ کے مسلمانوں کے ذریعے فتح ہو، وہ حکومت اسلامی کے اختیار میں ہوتی ہے اور عمومی مال میں اس کا شمار ہوتا ہے اور وہ رسول خدا کا حصہ ہوتی ہے۔

اس طرح کی زمینیں پیغمبر کی ذاتی ملکیتیں نہیں ہوتیں، بلکہ اسلامی حکومت سے مخصوص ہوتی ہیں جس کے رئیس پیغمبر اسلام ہوتے ہیں اور پیغمبر کے بعد اس شخص کے اختیار اور تصرف میں ہونگی جو پیغمبر کی جگہ اور پیغمبر کی طرح مسلمانوں کے تمام امور کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے، قرآن مجید نے اسلام کے اصلی قانون کو سورہ حشر کی چھٹی اور ساتویں آیت میں بیان کیا ہے

" وَمَا قَائِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا وَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كَنٍّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ه  
مَا قَائِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ بَلِّ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللَّسُّوْلِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ"

(تو) جو مال خدا نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے لے لیا اس میں تمہارا حق نہیں کیونکہ تم نے اس کے لئے کچھ دوڑ دھوپ تو کی نہیں، نہ گھوڑوں سے نہ اونٹوں سے، مگر خدا اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے تو جو مال خدا نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے لے لیا وہ خاص خدا اور



رسول اور (رسول کے) قرابتداروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا ہے۔  
جو اموال پیغمبر کے اختیار میں تھے وہ دو طرح کا تھے:

#### ۱۔ خصوصی

وہ اموال جو پیغمبر کے ذاتی تھے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں "پیغمبر کے خصوصی اموال" کے نام سے تفصیل سے درج ہیں (۱) پیغمبر کی حیات طیبہ میں اس کا تصرف خود آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ کے بعد اسلام کے میراث کے مسائل کے مطابق آپ کے وارثوں تک منتقل ہونا چاہئے مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ پیغمبر کے وارث آپ کے شخصی و ذاتی مال سے محروم تھے کہ اس صورت میں آپ کے مال کو بعنوان صدقہ لوگوں میں تقسیم ہونا چاہئے یا اسلامی امور میں صرف ہونا چاہئے آئندہ بحث میں ہم اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور ثابت کریں گے کہ میراث کے قانون کی رو سے پیغمبر کے وارثوں اور دوسروں کے وارثوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور وہ حدیث جو خلیفہ اول نے پیغمبر کی طرف نسبت دے کر پیغمبر کے وارثوں کو میراث سے محروم کیا ہے، اگر فرض کر لیں کہ وہ صحیح ہے تو اسکے دوسرے معنی ہیں جس سے خلیفہ اور اراکین خلافت نے غفلت برتی۔

#### ۲۔ خالصہ (۲)

وہ مال اور روہ ملکیت جو حکومت اسلامی سے مخصوص ہوتی ہے اور پیغمبر اسلام مسلمانوں اور اسلام کے مفاد و مصلحت میں خرچ کر سکتے ہیں اصطلاح میں اسے "خالصہ" کہا جاتا ہے فقہ کی بحث میں ایک باب "فنی" کے نام سے ہے جو کتاب جہاد اور کبھی باب "صدقات" میں مور دبحث قرار پاتا ہے لغت میں فنی کے معنی پلٹنے کے ہیں اور اس سے مراد وہ زمینیں ہیں جو بغیر قتل و غارت گری کے اسلامی حکومت کے تصرف

(۱) کشف الغمہ ج ۲ ص ۱۲۲۔  
(۲) وہ چیز جو کسی کی جاگیر نہ ہو۔

میں آئے اور اس میں رہنے والے افراد اسلامی قوانین کے مطابق حکومت اسلامی میں زندگی بسر کریں اور اس طرح کی زمینیں جو اسلام کے فوجیوں کی زحمت و مشقت اور ان کے حملے کئے بغیر حاصل ہوں وہ پیغمبر کے اختیار میں ہوتی ہیں اور اسلامی حکومت کا حق قرار پاتی ہیں اور اور مسلمان سپاہیوں کا اس میں حق نہیں ہوتا، بے پیغمبر اسلام ان کی آمدنی کو مسلمانوں کے امور میں خرچ کرتے تھے اور کبھی مستحق افراد کو دیتے تھے اور اس سے اور زحمت و مشقت کے ذریعے حاصل شدہ مال سے اپنا خرچ چلا تے تھے، پیغمبر جو بدیہ وغیرہ دیتے تھے وہ اسی کی آمدنی سے دیتے تھے اور رکبھی مال غنیمت سے حاصل شدہ خمس سے بھی دیتے تھے۔

بہتر ہے کہ اس طرح کی زمینوں کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کے طور طریقے کا ذکر کیا جائے۔  
بنی نضیر، یہودیوں کے تین طائفے سے مل کر بنے تھے، جو مدینے کے قریب میں زندگی بسر کر رہے تھے جن کے پاس باغ اور زمینیں تھیں جس وقت پیغمبر نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اوس و خزرج کے قبیلے والے آپ پر ایمان لائے، لیکن یہ تینوں طائفے اپنے دین پر باقی رہے پیغمبر اسلام نے عقدو پیمان کے ذریعے مدینے اور قرب و جوار میں رہنے والوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی بہت کوششیں کیں، نتیجتاً تینوں طائفوں نے پیغمبر سے عہد کیا کہ مسلمانوں پر ہر طرح کے یلغار و حملے سے پرہیز کریں گے اور ان کے خلاف کبھی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے، مگر تینوں طائفوں نے یکے بعد دیگرے ظاہری اور پوشیدہ طور پر عہد شکنی کی اور ہر طرح کی خیانت اور اسلامی حکومت گرانے کی ہر طرح سے کوششیں اور سازشیں کیں یہاں تک کہ پیغمبر کے قتل سے بھی پرہیز نہیں کیا خلاصہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام کسی کام کو انجام دینے کے لئے بنی نضیر کے محلہ میں گئے تو ان لوگوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ آپ کو قتل کر دیں، یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے ان تمام لوگوں کو مجبور کر دیا کہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں اور ان کی تمام زمینوں اور گھروں کو مہاجروں اور انصار کے بعض حاجت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ (۱)  
تاریخ اسلام میں ان لوگوں کا تذکرہ موجود ہے جنہوں نے اس سرزمین سے استفادہ کیا ہے اور گھروں میں پناہ لی ہے علی، ابوبکر، عبد الرحمن بن عوف اور بلال مہاجرین میں سے اور انصار میں ابودجانہ،

(۱) مجمع البیان ج ۵ ص ۲۶۰ طبع صیدا اور تمام معتبر تاریخی و سیرت کی کتابیں۔

سہل بن حنیف اور حارث بن صمہ تھے۔ (۱)

سرزمین فدک اموال خالصہ میں سے تھی محدثین و مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فدک اموال خالصہ (جو چیز کسی کی جاگیر نہ ہو) سے تھی، کیونکہ فدک وہ زمین ہے جو جنگ کرنے سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ جس وقت خیبر یوں کی شکست کی خبر قریہ فدک میں پہنچی تو وہاں کے لوگ آمادہ ہوئے کہ پیغمبر سے صلح کریں اور فدک کی ادھی زمین پیغمبر کے حوالے کریں اور اس کے بدلے میں اپنے مذہبی امور میں مکمل طور پر آزاد رہیں اور حکومت اسلامی ان کے علاقے کی حفاظت کرے۔ (۲)

اس مسئلہ میں علمائے اسلام میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے اور پیغمبر کی بیٹی اور ابوبکر کے درمیان فدک کے متعلق ہونے والی گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ طرفین نے فدک کے خالصہ ہونے کا اعتراف کیا تھا اور ان لوگوں کا اختلاف دوسری چیز میں تھا جس کی وضاحت بعد میں کریں گے۔

(۱) فتوح البلدان بلاذری ص ۲۷ ۳۱ ۳۴، مجمع البیان ج ۵ ص ۲۶۰ سیرۃ ابن ہشام ج ۳ ص ۱۹۴۔۱۹۳۔  
(۲) مغازی واقعی ج ۳ ص ۷۰۶ سیرۃ ابن ہشام ج ۳ ص ۴۰۸ فتح البلدان ۴۶۶۔۴۱، احکام القرآن جصاص ج ۳ ص ۵۲۸ تاریخ طبری ج ۳ ص ۹۷۔۹۵۔

فدک، پیغمبر اسلام (ص) نے فاطمہ (س) کو دیا تھا

شیعہ علماء اور اہلسنت کے بعض محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جس وقت یہ آیت "و آت ذا القربیٰ حقہ و المسکین و ابن السبیل" نازل ہوئی تو پیغمبر نے فدک فاطمہ زہرا کو دیدیا۔ اور اس حدیث کی سند بزرگ صحابی ابوسعید خدری اور ابن عباس پر ختم ہوتی ہے اور اہلسنت کے بعض محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا جس کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ اپنی مشہور و معروف تفسیر میں لکھتے ہیں: جب آیت "و آت ذا القربیٰ..." نازل ہوئی تو پیغمبر نے فاطمہ کو بلایا اور انہیں فدک دیدیا۔

نیز لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو بزرگ محدثین مثلاً بزاز و ابویعلیٰ، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے معروف صحابی ابوسعید خدری سے نقل کیا ہے۔

نیز لکھتے ہیں کہ ابن مردویہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت پیغمبر نے فدک کو فاطمہ کی ملکیت قرار دیا۔ (۱)

۲۔ علاء الدین علی بن حسام مشہور بہ متقی ہندی، ساکن مکہ متوفی ۹۷۶ھ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ (۲)

وہ کہتے ہیں: بزرگ محدثین مثلاً ابن النجار اور حاکم نے اس حدیث کو اپنی تاریخ میں ابوسعید سے نقل کیا ہے۔

۳۔ ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم نیشاپوری مشہور بہ ثعلبی متوفی ۴۲۷ھ یا ۴۳۷ھ نے اپنی تفسیر "الکشف و البیان" میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔

۴۔ مشہور مورخ بلاذری، متوفی ۲۷۹ھ نے مامون کا خط جو حاکم مدینہ کے نام لکھا تھا اسے نقل کیا ہے اس کا متن یہ ہے: "و قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أعطی فاطمۃ فدک و تصدق بہا علیہا و کان ذالک أمراً معروفاً لا اختلاف فیہ بین آل رسول اللہ و لم تزل تدعی" (۳)

پیغمبر خدا نے سرزمین فدک فاطمہ کو دیا، اور یہ بات اتنی واضح و روشن ہے کہ پیغمبر کے قرابتداروں میں کبھی اختلاف نہیں ہوا اور وہ (فاطمہ) زندگی کے آخری لمحہ تک فدک کا دعویٰ کرتی رہیں۔

۵۔ احمد بن عبد العزیز جوہری مولف کتاب "السقیفہ" لکھتے ہیں:

جس وقت عمر بن عبد العزیز نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی سب سے پہلے جس غصبی چیز کو ان کے مالکوں کو واپس کیا وہ فدک تھا جس کو حسن بن حسن بن علی کو واپس کیا۔ (۴)

- (۱) الدر المنثور ج ۴ ص ۱۷۷، حدیث کا متن یہ ہے "لما نزلت بذہ الآية، و آت ذا القربیٰ حقہ دعا رسول اللہ فاطمہ و أعطابا فدک"  
 (۲) کنز العمال، باب صلہ رحم، ج ۲، ص ۱۵۷۔  
 (۳) فتوح البلدان، ج ۶، معجم البلدان، ج ۴، ص ۲۴۰۔  
 (۴) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱۶، ص ۲۱۶۔

اس جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فدک صرف پیغمبر کی بیٹی کی ملکیت تھی۔  
 ۶۔ ابن ابی الحدید نے فدک سے متعلق میں آیت کے شان نزول کو ابوسعید خدری سے نقل کیا ہے اگرچہ اس کو نقل کرتے وقت سید مرتضیٰ کے کلام کو کتاب شافی سے لیا ہے لیکن اگر سید مرتضیٰ کا کلام اس کے لئے مورد اعتماد نہ ہوتا تو حتماً اس پر تنقید کرتا۔  
 اس کے علاوہ، اپنی شرح نہج البلاغہ میں جس باب کو اس واقعہ سے مخصوص کیا ہے اور اپنے مدرسہ غربی بغداد کے استاد سے جو گفتگو کی ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا معتقد تھا کہ پیغمبر نے فدک اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ (۱)  
 ۷۔ حلبی اپنی کتاب سیرہ میں فدک کے بارے میں پیغمبر کی بیٹی کے دعوے اور گواہوں کے نام کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

- خليفة وقت نے فدک کی سند زہرا کے نام سے جاری کی لیکن عمر نے اسے لے کر پھاڑ دیا۔ (۲)  
 ۸۔ مسعودی اپنی کتاب "مروج الذهب" میں لکھتے ہیں:  
 پیغمبر کی بیٹی نے ابوبکر سے فدک کے سلسلے میں گفتگو کی اور ان سے کہا کہ فدک مجھے واپس کر دو۔ اور علی، حسنین اور ام ایمن کو بطور گواہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ (۳)  
 ۹۔ یاقوت حموی لکھتا ہے:  
 فاطمہ ابوبکر کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ پیغمبر نے فدک مجھے دیا تھا خلیفہ نے گواہ طلب کیا... (مزید آگے لکھتا ہے کہ) عمر (ابن عبد العزیز) کی خلافت کے دوران فدک پیغمبر کے وارثوں کو واپس کر دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ (۴)  
 سمہودی نے اپنی کتاب "وفاء الوفاء" میں فاطمہ زہرا کی ابوبکر سے گفتگو کو نقل کیا ہے اور کہا ہے:  
 علی اور ام ایمن نے فاطمہ کے حق میں گواہی دیا اور دونوں نے کہا: پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہی

- (۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱۶، ص ۲۶۸ اور ص ۲۸۴۔  
 (۲) سیرہ حلبی، ج ۳، ص ۴۰۰۔ ۳۹۹۔  
 (۳) مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۰۰۔  
 (۴) معجم البلدان، ج ۴، ص ۲۳۸، مادہ فدک۔

فدک فاطمہ زہرا کو دیا تھا۔ (۱) عمر بن عبد العزیز نے فدک خاندان زہرا کو واپس کر دیا تھا۔ (۲)  
 شام کے ایک شخص نے علی بن الحسین علیہما السلام (امام سجاد) سے ملاقات کی اور کہا کہ اپنا تعارف کرائیے، امام نے فرمایا: کیا تم نے سورہ بنی اسرائیل میں اس آیت کو نہیں پڑھا "و آت ذا القربیٰ" اس شخص نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ رشتہ داری کی وجہ سے خدا نے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان کے حق کو واپس کر دو۔ (۳)  
 شیعہ دانشوروں کے درمیان بہت سی بزرگ شخصیتیں مثلاً کلینی، عیاشی اور شیخ صدوق نے اس آیت کے نزول کو پیغمبر کے قرابتداروں کے بارے میں ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے فدک اپنی بیٹی فاطمہ کو دیدیا تھا۔  
 اس سلسلے میں محقق عالی قدر مرحوم سید ہاشم بحرینی نے ۱۱ حدیث بہترین اسناد کے ساتھ ائمہ معصومین علیہم السلام مثلاً امیر المومنین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، اور امام علی رضا علیہم السلام سے نقل کیا ہے۔ (۴)  
 جی ہاں، تقریباً تمام افراد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت خاندان رسالت کے حق میں نازل ہوئی ہے لیکن یہ بات کہ آیت

نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے فدک اپنی بیٹی زہرا کو دیا تھا اسے شیعہ محدثین اور بعض بزرگان اہلسنت نے نقل کیا ہے۔  
 طرفین کی شناخت اور ان کے منصب کی شناخت اور اسی طرح اس مسئلے کی تحقیق و جستجو اور ان کی اہمیت کا پہچانا  
 بہت ضروری ہے۔  
 اس واقعہ میں شکایت اور دعویٰ کرنے والی پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا ہیں جن کا مقام و منزلت اور طہارت  
 و عصمت سب پر عیاں ہے، اور جس سے شکایت کی جا رہی ہے حکومت کا رئیس، خلیفہ

- (۱) وفاء الوفاء ج ۲ ص ۱۶۰۔  
 (۲) وفاء الوفاء ج ۲ ص ۱۶۰۔  
 (۳) تفسیر برہان ج ۲، ص ۱۹، ۴، یہ واقعہ تفصیلی ہے۔  
 (۴) تفسیر برہان ج ۲، ۱۹، ۴۔

وقت ابوبکر ہے جنہوں نے پیغمبر کے بعد حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی، کچھ گروہ خوف کے مارے اور کچھ حرص و  
 لالچ کی وجہ سے ان کے اردگرد جمع رہتے تھے۔  
 پیغمبر کے انتقال کو دس دن سے زیادہ نہ گذرا تھا کہ حضرت زہرا کو خبر ملی کہ خلیفہ کے سپاہیوں نے ان کے کام کرنے  
 والوں کو سرزمین فدک سے نکال دیا ہے اور تمام کام اپنے اختیار میں لے لیا ہے اسی وجہ سے ہاشم کی عورتوں کے ساتھ  
 اپنا حق لینے کے لئے خلیفہ کے پاس گئیں پھر آپ کے اور ابوبکر کے درمیان اس طرح سے گفتگو کا آغاز ہوا۔  
 فاطمہ: فدک سے میرے مزدوروں کو کیوں نکالا اور کیوں مجھے میرے حق سے محروم کیا؟  
 خلیفہ: مینے آپ کے والد سے سنا ہے کہ انبیاء اپنی چیز کو بطور میراث نہیں چھوڑتے۔  
 فاطمہ: میرے بابا نے فدک مجھے اپنی زندگی میں دیا تھا اور میں اپنے بابا کی زندگی ہی میں اس کی مالک تھی۔  
 خلیفہ: کیا اس بات پر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے۔  
 فاطمہ: ہاں میرے پاس گواہ ہیں میرے گواہ علی اور ام ایمن ہیں۔  
 اور ان لوگوں نے حضرت زہرا کی درخواست پر فدک کی گواہی دی کہ پیغمبر کے زمانے ہی میں حضرت زہرا اس کی  
 مالک تھیں۔

جب کہ بہت سے مورخین نے حضرت فاطمہ کے گواہ کے طور پر علی اور ام ایمن کا نام لیا ہے لیکن بعض حسن و حسین  
 کو بھی شہاد کے طور پر ذکر کیا ہے اس بات کو مسعودی (۱) اور حلبی (۲) نے بھی نقل کیا ہے بلکہ فخر رازی (۳) کہتے  
 ہیں:

پیغمبر کے غلاموں میں سے ایک نے بھی حضرت زہرا کی حقانیت پر گواہی دیا لیکن ان کے نام کو نہیں تحریر کیا۔ لیکن  
 بلاذری (۴) نے اس کے نام کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے اس غلام کا

- (۱) مروج الذهب، باب آغاز خلافت عباسی۔  
 (۲) سیرۃ حلبی ج ۳ ص ۴۰۔  
 (۳) تفسیر سورۃ حشر، ج ۸ ص ۱۲۵، بحار الانوار ج ۸ ص ۹۳، منقول از کتاب خراج سے منقول۔  
 (۴) فتوح البلدان ص ۴۳۔

نام "رباح" تھا۔

تاریخی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں آپس میں اختلاف نہیں، کیونکہ مورخین کے نقل کرنے کے مطابق  
 خلیفہ نے ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی کو مدعا ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں جانا ہے، (آئندہ اس سلسلہ میں بحث  
 ہوگی) اس وجہ سے ممکن ہے پیغمبر کی بیٹی گواہ مکمل کرنے کے لئے حسنین اور رسول اسلام کے غلام کو لے کر آئی  
 ہوں۔

شیعہ احادیث کے مطابق حضرت فاطمہ نے ان گواہوں کے علاوہ اسماء بنت عمیس کو بھی بطور گواہ پیش کیا، نیز ہماری  
 حدیثوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے ایک خط میں فدک کو حضرت زہرا کی ملکیت کی تصدیق کی  
 ہے (۱) اور یقیناً حضرت فاطمہ نے اس سے استناد کیا ہے۔

امیر المومنین علیہ السلام نے گواہی دینے کے بعد خلیفہ کو ان کی غلطی کی طرف انہینمتوجہ کیا کیونکہ انہوں نے اس سے گواہی طلب کیا جس کے تصرف میںفدک تھا اور مالک سے گواہی طلب کرنا اسلام کے قضاوت کے قانون کے برخلاف ہے۔

اس لئے آپ نے خلیفہ کی طرف رخ کر کے فرمایا: وہ مال جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اگر میں اس مال کا ادعا کروں تو تم گواہ کس سے طلب کرو گے؟ مجھ سے گواہ مانگو گے کہ میں مدعی ہوں یا دوسرے شخص سے کہ مال اس کے تصرف میں ہے؟ خلیفہ نے کہا اس موقع پر میں تم سے گواہ طلب کروں گا۔

علی علیہ السلام نے فرمایا: کافی عرصے سے فدک ہمارے تصرف اور اختیار میں ہے اور یہ مسلمان جو کہہ رہے ہیں کہ فدک عمومی مال ہے تو وہ گواہ و ثبوت پیش کریں نہ یہ کہ ہم سے ثبوت و گواہ طلب کریں۔ خلیفہ امام کے منطقی جواب کو سن کر خاموش ہو گیا۔ (۲)

(۱) بحار الانوار، ج ۸، ص ۹۳ اور ۱۰۵، طبع کمپانی۔  
(۲) احتجاج طبرسی، ج ۱، ص ۱۲۲، طبع نجف۔

### خلیفہ کے جوابات

خلیفہ نے جو حضرت زہرا کو جوابات دیئے تھے تاریخ نے اسے مختلف انداز سے نقل کیا ہے فدک کے مسئلہ کو مرتبہ حضرت زہرا نے چھیڑا ہے اور خلیفہ نے ہر مرتبہ طرح طرح کے جوابات دیئے ہیں ان کے دیئے ہوئے جوابات کو ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں:-

۱۔ جب جناب زہرا (س) کے گواہوں نے ان کے حق میں گواہی دی تو عمر اور ابو عبیدہ نے خلیفہ کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے خاندان کے اخراجات کو نکال کر فدک کی باقی آمدنی کو مسلمانوں کے امور میں خرچ کیا تھا اگر فدک پیغمبر کی بیٹی کا حق تھا تو کیوں پیغمبر نے بقیہ اموال کو دوسرے امور میں خرچ کیا۔

گواہوں کے متضاد بیانات کی وجہ سے خلیفہ اٹھا اور سب کے بیانات کو صحیح بتایا اور کہا دونوں طرف کے گواہ صحیح اور سچی بات کہہ رہے ہیں اور ہم نے سب کی گواہی کو قبول کیا، علی اور ام ایمن بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور عمر اور ابو عبیدہ بھی، کیونکہ فدک جو زہرا کے قبضہ میں تھا وہ پیغمبر کی ملکیت تھی جس کی آمدنی سے آپ اپنے خاندان کا خرچ چلاتے تھے اور اضافی مال کو مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے اس لئے میں بھی پیغمبر کی روش پر عمل کروں گا۔

پیغمبر کی بیٹی نے فرمایا: میں بھی حاضر ہوں کہ باقی اموال کو اسلامی امور میں صرف کروں۔

خلیفہ نے کہا: تمہارے بدلے، میں یہ کام انجام دوں گا۔ (۱)

۲۔ خلیفہ نے حضرت فاطمہ کے ان گواہوں کو جو اپنے حق کے ثابت کرنے کے لئے پیش کیا تھا قبول نہیں کیا اور کہا میں ہرگز ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی قبول نہیں کروں گا بلکہ ضروری ہے کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں۔ (۲)

شیعہ حدیث کے مطابق فاطمہ زہرا کے گواہوں پر تنقید کرنا بڑا دردناک المیہ ہے کیونکہ اس نے علی اور حسنین علیہم السلام کو اس نظر سے کہ فاطمہ کے شوہر اور حسنین ان کے بچے ہیں ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا اور ام ایمن کی شہادت کو اس لئے قبول نہیں کیا کہ وہ زہرا کی کنیز تھیں، اور اسماء بنت عمیس کی گواہی کو اس لئے ٹھکرا دیا کہ وہ جعفر ابن ابیطالب کی پہلے بیوی تھیں اور فاطمہ کو فدک واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ (۳)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۶ ص ۲۱۶۔  
(۲) سیرۃ حلبی ج ۲ ص ۴۰۰، فتوح البلدان ج ۳ معجم البلدان ج ۴ مادہ فدک  
(۳) بحار الانوار ج ۸ ص ۱۰۵۔

۳۔ خلیفہ نے پیغمبر کی بیٹی کے پیش کئے ہوئے گواہوں کی گواہی کو قبول کر لیا اور ایک سند ان کے نام تحریر کیا لیکن

عمر کے اصرار کرنے پر اسے نظر انداز کر دیا۔

ابراہیم بن سعید ثقفی اپنی کتاب "الغارات" میں تحریر کرتے ہیں:

خلیفہ نے گواہی سننے کے بعد چاہا کیا کہ فدک فاطمہ زہرا کو واپس کر دے چنانچہ کھال کے ایک ٹکڑے پر فدک کی سند کو حضرت فاطمہ کے نام لکھ دیا فاطمہ اس کے گھر سے باہر آئیں راستے میں عمر ملا اور تمام واقعات سے باخبر ہوا اور فاطمہ زہرا سے سند مانگی اور خلیفہ کے پاس آیا اور اعتراضاً کہا: تم نے فدک فاطمہ کو دیدیا جب کہ علی نے خود اپنے فائدے کے لئے گواہی دیا ہے اور ام ایمن ایک عورت کے علاوہ کچھ نہیں، پھر اس نے سند پر تھوکا اور اسے پہاڑ ڈالا۔ (۱) یہ واقعہ خلیفہ کے نفس کی سلامتی کی حکایت کرنے کے بجائے اس کے ضعیف ہونے کی حکایت کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اس کی قضاوت کتنی حد تک دوسرے کے مزاج کے تابع تھی۔

لیکن حلبی اس واقعہ کو دوسرے انداز سے نقل کرتا ہے وہ کہتا ہے:

خلیفہ نے فاطمہ (س) کی ملکیت کی تصدیق کی، اچانک عمر وارد ہوا اور کہا: یہ نامہ کیسا ہے؟

اس نے کہا: اس نامہ میں، میں نے فاطمہ کی ملکیت کی تصدیق کیا ہے اس نے کہا: تمہیں فدک کی آمدنی کی ضرورت ہے کیونکہ اگر کل مشرکین عرب مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کریں تو جنگ کے اخراجات کہاں سے پورا کرو گے؟ پھر اس نے نامہ لے کر پہاڑ دیا۔ (۲)

فدک کے متعلق تحقیق اب یہاں اختتام کو پہنچی اور جس واقعے کو ہوئے چودہ سو سال گزر گئے اس کو منظم طریقے سے پیش کیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اسلام اپنے اصول و سنن کے اعتبار سے کس طرح اس واقعہ کا فیصلہ کرتا ہے۔

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۶ ص ۲۷۴۔

(۲) سیرۃ حلبی ج ۳ ص ۴۰۰۔

مسئلہ فدک کے بارے میں آخری فیصلہ

فدک کے سلسلے میں آخری فیصلہ اس کے بعد کی فصل میں پیش کیا جائیگا وہاں ہم ثابت کریں گے کہ

پیغمبر کی بیٹی کو فدک نہ دینا سب سے پہلی اور بڑی حق تلفی ہے جو اسلام کی قضاوت کی تاریخ میں درج ہے ہم یہاں چند نکات بیان کر رہے ہیں:

ہم نے پچھلی بحثوں میں واضح اور روشن دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ "و آت ذا القربیٰ" کی آیت نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے فدک اپنی بیٹی کو دیدیا تھا اور اس سلسلے میں اہل سنت کے بہت سے دانشوروں کے علاوہ شیعہ علماء نے بھی اس مطلب کو صراحت سے بیان کیا ہے اور بزرگ محدثین مثلاً عیاشی، اربلی، اور سید بحرینی نے اس کے متعلق شیعہ احادیث کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، بطور نمونہ یہاں ایک حدیث نقل کرتے ہیں:

صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جب آیت "و آت ذا القربیٰ" نازل ہوئی تو پیغمبر نے جبرئیل سے پوچھا: "ذا القربیٰ" سے مراد کون ہے؟ جبرئیل نے کہا: آپ کے قرابتدار، اس وقت پیغمبر نے فاطمہ اور ان کے بچوں کو بلایا اور فدک ان کو دیدیا اور فرمایا کہ خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فدک تم لوگوں کو دیدوں۔ (۱)

(۱) تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۲۸۷۔

ایک سوال کا جواب

ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سورہ اسراء مکی سوروں میں سے ہے اور فدک ۷ھ میں مسلمانوں کے قبضے میں آئی تو جو آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے وہ کس طرح اس واقعے کے حکم کو بیان کر رہی ہے جو کئی سال بعد رونما ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ مکی او رمدنی سورہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ اگر اس سورہ کی اکثر آیتیں

مکہ میں نازل ہوئینتو وہ مکی سورہ ہے اور اگر اس سورہ کی اکثر آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں تو وہ مدنی سورہ ہے مگر کیونکہ بہت سے مکی سوروں میں مدنی آیتیں موجود ہیں اسی طرح بہت سے مدنی سوروں میں مکی آیتیں موجود ہیں، تفسیروں اور آیت کے شان نزول کے مطالعہ کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔

اس کے علاوہ خود آیت کے مفہوم سے واضح ہے کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ مکہ میں پیغمبر کے پاس اتنے امکانات موجود نہ تھے کہ رشتہ داروں اور غریبوں اور محتاجوں کا حق دیتے، اور مفسرین کے نقل کی بنا پر نہ صرف سورہ اسراء کی ۲۶ ویں آیت مدینے میں نازل ہوئی بلکہ ۳۲ ۳۳ ۱۵۷ اور ۷۳ ویں تا ۸۱ ویں آیتیں بھی مدینے میں نازل ہوئیں ہیں (۱) اس لئے سورہ کے مکی ہونے اور آیت کے مدینے میں نازل ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

فدک سے متعلق دیگر باتیں

جب فدک کا مسئلہ بالکل واضح تھا تو پھر کیوں پیغمبر کی بیٹی کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا؟ گذشتہ فصل میں فدک کے متعلق معتبر حوالوں اور طرفین کی دلیلوں کو بیان کیا ہے اور اب ضرورت ہے کہ اسکے بارے میں صحیح فیصلہ کیا جائے

فدک کے مسئلہ کو جس عدالت میں بھی پیش کیا جائے اور جس منصف مزاج قاضی کی نگاہوں سے گذرے گا اس کا فیصلہ پیغمبر کی بیٹی کے ہی حق میں کرے گا اب ہم اس واقعہ کا تجزیہ کرتے ہیں۔

۱۔ خلیفہ کے ہم خیال افراد کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا فدک کا مقصد اپنی خلافت اور حکومت کی بنیاد کو مخالفین کے مقابلے میں مضبوط کرنا تھا اور یہ بات کہ "پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے" فقط ایک بہانہ تھا تاکہ فدک کا مسئلہ دینی مسئلہ شمار ہو جائے، اور اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جب خلیفہ پر جناب فاطمہ کی گواہی اور دلیل اثر انداز ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ فدک ان کو واپس کر دیں چنانچہ انہوں نے حضرت فاطمہ کے نام سند لکھ دی لیکن اچانک عمر وارد ہوئے اور جب اس خبر سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر کل تمام عرب تمہاری حکومت کے خلاف قیام کریں تو جنگ کے اخراجات کہاں سے پورا کرو گے؟ پھر انہوں نے سند لیا اور پہاڑ ڈالا۔ (۲)

(۱) الدر المنثور ج ۴ ص ۱۷۷۔ ۱۷۶۔

(۲) سیرہ حلبی ج ۳ ص ۴۰۰، منقول از سبط ابن جوزی۔

یہ گفتگو فدک کے غصب کرنے کی علت کو واضح و آشکار کرتی ہے اور ہر طرح کے تاریخی خالیافیوں کی راہ کو مسدود کرتی ہے۔

۲۔ اسلامی محدثین اور مورخین نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت "وأت ذا القربیٰ..." نازل ہوئی تو پیغمبر خدا (ص) نے فدک فاطمہ زہرا کو دیا اور اس حدیث کی سند بزرگ صحابی ابوسعید خدری پر ختم ہوتی ہے، کیا خلیفہ کے لئے لازم نہیں تھا کہ وہ ابوسعید خدری کو بلاتے اور ان سے اس کی حقیقت دریافت کرتے؟

ابو سعید گمنام آدمی نہیں تھے جنہیں خلیفہ نہیں پہچانتے تھے یا ان کی پاکیزگی کے بارے میں شک و تردید میں تھے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تاریخ اسلام کے موثق محدثین نے ابوسعید خدری پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا کیونکہ اس سے ہٹ کر کہ حدیث کے نقل کرنے والے پاک و پاکیزہ ہیں ان کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جنہیں دروغ پر سازش کرنے کو عقل بعید سمجھتی ہے۔

ابو سعید خدری ان میں تھے جن کی طرف حدیث کے سلسلے میں رجوع کیا جاتا تھا، اور بہت زیادہ ان سے حدیثیں نقل ہوئی ہیں اور ایک گروہ مثلا ابو ہارون عیدی اور عبد اللہ علقمہ جو خاندان رسالت کے دشمن تھے، نے جب ابوسعید خدری کی طرف رجوع کیا تو خاندان رسالت سے عداوت سے باز آگئے۔ (۱)

۳۔ اسلام اور دنیا کی قضاوت کے قانون کے مطابق اگر کوئی کسی ملکیت میں تصرف کرے تو وہ اس کا مالک شمار ہوگا، مگر یہ کہ ثابت ہو کہ وہ مالک نہیں ہے، اور جب بھی کوئی شخص کسی غیر کی ملکیت میں تصرف نہ رکھنے کے باوجود اسے اپنی ملکیت ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ دوسرے کے تصرف میں ہو تو ضروری ہے کہ دو شاہد عادل اس کے مالک ہونے پر گواہی دیں، ورنہ عدالت تصرف کرنے والے کو اس کا مالک قرار دیتی ہے۔ اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ فدک کی سرزمین پیغمبر کی بیٹی کے تصرف میں تھی، جس وقت خلیفہ نے فدک پر

قبضہ کرنے کا حکم جاری کیا اس وقت حضرت زہرا کے مزدور اس میں کام کر رہے تھے۔ (۲)

(۱) قاموس الرجال ج ۱۰ ص ۸۵، ۸۴۔  
(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۲۱۱

کئی سال تک جناب زہرا کا فدک میں تصرف کرنا اور اس میں مزدوروں کا رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ فدک آپ کی ملکیت تھی اسکے باوجود خلیفہ نے حضرت زہرا کے تصرف اور اصطلاحی طور پر "ذوا لید" ہونے کو نظر انداز کر دیا تھا اور ان کے مزدوروں کو فدک سے نکال دیا۔

اور اس سے بھی بدتر یہ کہ خلیفہ بجائے تصرف نہ کرنے والوں سے گواہ و شاہد طلب کرنے کے حضرت فاطمہ زہرا سے جو کہ فدک پر تصرف کرتی تھی اور دوسرے کی ملکیت ہونے سے انکار کر رہی تھیں، گواہ طلب کیا جب کہ اسلام کی قضاوت کا قانون یہ ہے کہ جو زبردستی اور جھوٹا ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہو اس سے گواہ طلب کرے نہ یہ کہ مالک سے۔ (۱)

امیر المومنین نے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اسی وقت خلیفہ کو اس کی غلطی پر متوجہ کیا تھا۔ (۲) خود تاریخ، حضرت فاطمہ کے فدک میں تصرف کرنے کی گواہی دیتی ہے، امیر المومنین نے اپنے ایک خط میں بصرہ کے حاکم عثمان بن حنیف کو اس طرح لکھا:

"ہاں آسمان نے چیزوں پر اپنا سایہ کیا تھا ان میں سے صرف فدک ہمارے ہاتھ میں تھا"۔

ایک گروہ نے اسے لینے کی کوشش کی اور ایک گروہ نے (خود امام اور آپ کا خاندان) اس سے چشم پوشی کر لی اور خداوند عالم کتنا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۳)

اب بھی ایک سوال باقی ہے وہ یہ کہ جب پیغمبر کی بیٹی کا اس میں تصرف تھا اور وہ دوسرے کی ملکیت ہونے سے انکار کر رہی تھیں اس وقت صرف آپ کا فریضہ یہ تھا کہ مدعی کے سامنے رسوا کرنے والی قسم کھاتیں، پس جب خلیفہ نے ان سے گواہ طلب کیا تو کیوں شہزادی چند افراد کو بطور گواہ عدالت میں اپنے ساتھ لے گئیں؟ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ شہزادی نے خلیفہ کے گواہ طلب کرنے سے پہلے گواہوں کو جمع کر لیا تھا، تو

(۱) البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر۔

(۲) احتجاج طبرسی، ج ۱، ص ۱۲۲۔

(۳) نہج البلاغہ عبدہ، نامہ ۴۰۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ فدک مدینہ کے نزدیک کوئی چھوٹی زمین یا چھوٹا علاقہ نہ تھا جو مسلمان اس کے مالک اور وکیل سے باخبر ہوتے، بلکہ مدینہ سے ۱۴۰ کیلو میٹر کے فاصلے پر تھا، شاید یہی وجہ رہی ہو کہ شہزادی کو اطمینان تھا کہ خلیفہ ملکیت اور تصرف ثابت کرنے کے لئے گواہ طلب کرے گا اسی لئے گواہوں کو جمع کر لیا تھا اور پھر عدالت میں پیش کیا۔

۴۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر کی بیٹی بہ حکم آیہ تطہیر (۱) ہر طرح کے گناہ و معصیت سے محفوظ تھیں اور خلیفہ کی بیٹی عائشہ نے آیت کے شان نزول کو خاندان پیغمبر کے بارے میں نقل کیا ہے، اور اہلسنت کے دانشمندان نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں آیت کے شان نزول کو حضرت فاطمہ (س)، ان کے شوہر اور ان کے بچوں کے بارے میں نقل کیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ آیت الہی کی شان میں نازل ہوئی ہے احمد بن حنبل اپنی کتاب "مسند" میں نقل کرتے ہیں: اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی پیغمبر نماز صبح پڑھنے کے لئے اپنے گھر سے نکلتے اور حضرت زہرا کے گھر کے پاس سے گذرتے تو کہتے تھے "الصلاة" پھر اس آیت کو پڑھتے تھے اور یہ سلسلہ چھ مہینے تک جاری رہا۔ (۲) ان تمام باتوں کے بعد، کیا یہ صحیح تھا کہ خلیفہ، پیغمبر کی بیٹی سے گواہ و شاہد طلب کرے؟ اور وہ بھی ایسی چیز میں جس میں زہرا کے علاوہ کوئی اور مدعی نہ تھا تنہا دعویدار خلیفہ تھا۔

کیا یہ خلیفہ کے لئے سزاوار تھا کہ جناب فاطمہ کی پاکیزگی کے بارے میں قرآن کی تصریح چھوڑ دے اور ان سے گواہ طلب کرے؟

ہم نہیں کہتے کہ قاضی نے اپنے علم کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ درست ہے کہ علم، گواہ سے زیادہ اہمیت و



عظمت کا حامل ہے لیکن علم بھی گواہ کی طرح غلطی و اشتباہ کرتا ہے اگرچہ یقینی غلطی ظن و گمان سے کم ہوتی بلکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ کیوں خلیفہ نے قرآن کی اس صراحت کو کہ جناب زہرا گناہوں اور خطائوں سے محفوظ ہیں کو چھوڑ دیا؟ اگر قرآن خصوصی طور پر زہرا کی ملکیت کو صراحت سے بیان کرتا تو کیا خلیفہ پیغمبر کی

(۱) سورہ احزاب، آیت ۳۳ نَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بَلَغَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا  
(۲) مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۵۔

بیٹی سے گواہ طلب کرتا؟ حقیقتاً گواہ طلب نہیں کرتا کیونکہ وحی الہی کے مقابلے کوئی بھی بات سننے کے لائق نہیں ہوتی ہے۔

اسی طرح عدالت کے قاضی کو عصمت زہرا پر قرآنی تصریح ہونے کے بعد، حق نہیں تھا کہ وہ گواہ طلب کرے کیونکہ وہ آیت تطہیر کے اعتبار سے معصوم تھیں اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی تھیں۔ ہم ابھی اس سلسلے میں بحث نہیں کریں گے کہ حاکم اپنے ذاتی علم پر عمل کرے یا نہ کرے، کیونکہ یہ ایک وسیع موضوع ہے اور فقہاء اسلام نے اس بارے میں کتاب قضا میں بحث کی ہے۔ اگر خلیفہ چاہتا تو مندرجہ ذیل دو آیتوں کے ذریعے مسئلہ فدک کو ختم کر دیتا اور پیغمبر اسلام کی بیٹی کے حق میں رائے دیتا وہ دونوں آیتیں یہ ہیں:

۱۔ 'وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَحُكِّمُوا بِالْعَدْلِ' سورہ نساء آیت ۵۸۔

اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔

۲۔ 'وَمِمَّنْ خَلَقْنَا مَنَةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ' سورہ اعراف آیت ۱۸۱۔

اور ہماری مخلوقات ہی سے وہ قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ ان دو آیتوں کے حکم کے مطابق عدالت کے قاضی کے لئے ضروری ہے کہ ہمیشہ حق و عدالت کے ساتھ فیصلہ کرے، اس بنا پر جب پیغمبر کی بیٹی گناہوں سے پاک و منزہ تھیں اور رکبھی بھی ان کی زبان پر جھوٹ جاری نہیں ہوا تو لہذا ان کا دعویٰ کرنا عین حقیقت اور واقعی عدل تھا اور عدالت کو چاہیئے تھا کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی لیکن خلیفہ نے ان دو آیتوں کے بعد جو کہ اسلامی قضاوت کے اصولوں میں سے ہے کیوں فاطمہ زہرا کے حق میں فیصلہ نہیں کیا؟ بعض مفسرین کا احتمال یہ ہے کہ ان دو آیتوں سے مراد یہ ہے کہ قاضی (جج) پر لازم ہے کہ وہ قضاوت کے اصول و قوانین کی رعایت کرتے ہوئے صحیح اور عادلانہ فیصلہ کرے اگرچہ حقیقت میں عدالت کے خلافت ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ تفسیر درست نہیں ہے، ان دونوں آیتوں سے مراد وہی ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے۔

۵۔ خلیفہ کی سوانح حیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت سے مواقع پر لوگوں کے دعووں کو بغیر دلیل کے قبول کیا ہے مثلاً جب علاء حضرمی کی طرف سے کچھ مال بیت المال کے نام پر مدینہ لایا گیا تو ابوبکر نے لوگوں سے کہا اگر پیغمبر کے پاس کسی کا مال ہے یا حضرت نے اس سے کچھ وعدہ کیا ہے تو وہ آئے اور اپنا مال لے جائے۔ جناب جابر خلیفہ کے پاس گئے اور کہا کہ پیغمبر (ص) نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری فلاں مقدار میں مدد کروں گا اسی وقت ابوبکر نے انہیں تین ہزار پانچ سو (۳۵۰۰) درہم دیا۔

ابوسعید کہتا ہے جب ابوبکر کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے درہم و دینار لئے کہ انہیں میں سے ایک ابوبشر مازنی تھا اس نے خلیفہ سے کہا کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی میرے پاس کوئی مال لے کر آئے گا تو تم میرے پاس آنا اس وقت ابوبکر نے اسے ایک ہزار چار سو (۱۴۰۰) درہم دیا۔ (۱) اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ نے کس طرح سے ہر مدعی کے دعوے کو قبول کر لیا اور ان سے گواہی طلب نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیٹی کے مقابلے اپنی ضد پر اڑے رہے اور اس بہانہ سے کہ چونکہ ان کے پاس دلیل اور گواہ نہیں ہیں لہذا ان کی بات کو قبول نہیں کیا؟ جو قاضی عمومی مال کے متعلق اتنا سخی ہے کہ پیغمبر کے احتمالی قرضوں اور وعدوں کا اس پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ سائل کو فوراً ادا کر دیتا ہے تو پھر جناب فاطمہ کے سلسلے میں اتنا کیوں بخل سے کام لے رہا ہے؟ جس چیز نے خلیفہ کو پیغمبر کی بیٹی کی صداقت قبول کرنے پر روک دیا وہ وہی چیز ہے جسے ابن ابی الحدید نے اپنے استاد بزرگ اور بغداد کے مدرس علی بن الفار سے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے: میں نے اپنے استاد سے کہا کیا زہرا اپنے دعوے میں سچی تھیں؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ میں نے کہا: کیا خلیفہ جانتا تھا کہ وہ ایک سچی عورت ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں۔

میں نے کہا : تو پھر خلیفہ نے ان کے پورے حق کو ان کے سپرد کیوں نہیں کیا؟  
اس وقت استاد ہنسے اور بڑے اطمینان سے کہا:

(۱) صحیح بخاری، ج ۳ ص ۱۸۰، طبقات ابن سعد ج ۴ ص ۱۳۴۔

اگر خلیفہ ان کی بات کو قبول کر لیتا یہ سوچ کر کہ وہ ایک سچی عورت ہیں اور بغیر گواہ طلب کئے ہوئے فدک ان کے حوالے کر دیتا تو آئندہ اپنی سچائی سے اپنے شوہر کے حق میں استفادہ کرتیں اور کہتیں کہ خلافت حضرت علی کا حق ہے اور اس وقت خلیفہ مجبور ہوتا کہ خلافت کو حضرت علی کے حوالے کرے کیونکہ انہیں (اپنے اس اقدام سے) وہ سچا مانتا لہذا تقاضے اور مناظرے کا راستہ بند کرنے کے لئے انہیں ان کے مسلم حق سے محروم کر دیا۔ (۱)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱۶، ص ۲۸۴۔

فدک کے مسئلہ میں کوئی ابہام نہیں تھا

ان تمام واضح اور روشن دلیلوں کے بعد، کیوں اور کس دلیل سے فدک کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کیا گیا؟ خلیفہ مسلمین کے لئے ضروری ہے کہ امت کے حقوق کی حفاظت اور ان کے منافع کی حمایت کرے، اگر حقیقت میں فدک عمومی مال میں سے تھا اور پیغمبر نے اسے وقتی طور پر اپنے خاندان کی ایک فرد کو دیا تھا تو ضروری تھا کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے رہبر کو دیدیا جاتا، تاکہ اس کے زیر نظر مسلمانوں کے صحیح امور میں خرچ ہوتا، اور یہ ایسی بات ہے جس پر سبھی متفق ہیں لیکن قوم کے حقوق کی حفاظت اور لوگوں کے عمومی منافع کی حمایت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی فردی آزادی اور ذاتی ملکیت کو نظر انداز کر دیا جائے اور لوگوں کے ذاتی مال کو عمومی مال کے طور پر جمع کیا جائے اور پھر اسے عمومی مال قرار دیا جائے۔ اسلامی قانون جس طرح سے اجتماعی چیزوں کو محترم جاننا ہے اسی طرح کسی کے ذاتی و شخصی مال کو جو شرعی طریقے سے حاصل ہو اسے بھی محترم سمجھتا ہے، اور خلیفہ جس طرح سے عمومی اموال کی حفاظت میں کوشاں رہتا ہے اسی طرح لوگوں کے ذاتی مال اور حقوق کی جن کا اسلام نے حکم دیا ہے ان کی بھی حفاظت کرتا رہے کیونکہ جس طرح عمومی مصالح کی رعایت کے بغیر عمومی مال کو کسی شخص کو دینا لوگوں کے حقوق کے ساتھ ناانصافی ہے، اسی طرح کسی کی ذاتی ملکیت کو جو اسلامی قانون کے اعتبار سے مالک ہے اس سے چھین لینا لوگوں کے حقوق سے ناانصافی ہے اگر پیغمبر کی بیٹی کا اپنی ملکیت فدک کے بارے میں دعویٰ کرنا قانون قضاوت کے مطابق تھا اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے گواہوں کو جمع کیا تھا اور عدالت کے قاضی کی نظر میں مسئلہ فدک میں کوئی نقص نہ تھا تو ایسی صورت میں قاضی کا صحیح نظریہ دینے سے پرہیز کرنا یا حقیقت مسئلہ کے برخلاف نظریہ پیش کرنا لوگوں کی مصلحتوں کے خلاف اقدام کرنا ہے اور یہ ہے ایسا سنگین جرم جس کی اسلامی قانون میں سخت مذمت کی گئی ہے۔

مسئلہ فدک کا بعض حصہ اس بات پر شائبہ ہے کہ اس کے اندر نقص نہ تھا اور اسلام کے قضائی قانون کی بنیاد پر خلیفہ پیغمبر کی بیٹی کے حق میں اپنا نظریہ پیش کر سکتا تھا، کیونکہ :

پہلے یہ کہ، مورخین کے نقل کے مطابق جیسا کہ گذر چکا ہے خلیفہ نے حضرت زہرا کی طرف سے گواہ پیش کرنے کے بعد چاہا کہ فدک کو اس کے حقیقی مالک کو واپس کر دے اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک کاغذ پر فدک کو حضرت زہرا کی ملکیت قرار دے کر ان کے سپرد کر دیا، لیکن جب عمر اس بات سے آگاہ ہوئے تو خلیفہ پر غصہ ہوئے اور نامہ لے کر پہاڑ ڈالا۔

اگر حضرت زہرا کے گواہ، مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہ تھے، اور فدک کی سند میں کوئی کمی تھی تو خلیفہ کبھی بھی ان کے حق میں دیتا اور حقیقی طور پر ان کی ملکیت کی تصدیق نہ کرتا۔ دوسرے یہ کہ، جن لوگوں نے پیغمبر کی بیٹی کی حقانیت پر گواہی دی تھی وہ یہ افراد تھے:

۱۔ حضرت امام امیر المومنین -

۲۔ حضرت امام حسن -

۳۔ حضرت امام حسین -

۴۔ رباع، پیغمبر کا غلام۔

۵۔ ام ایمن۔

۶۔ اسماء بنت عمیس۔

کیا ان افراد کی گواہی حضرت زہرا کے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں تھی؟  
اگر فرض کریں کہ حضرت زہرا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے سوائے حضرت علی اور ام ایمن کے کسی کو عدالت میں نہیں لائیں تو کیا ان دو افراد کی گواہی ان کے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہ تھی؟  
ان دو گواہوں میں سے ایک گواہ حضرت امیر المومنین - ہیں کہ جن کی عصمت و طہارت پر آیت تطہیر کی مہر لگی ہوئی ہے اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق "علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے اور وہ حق کا محور ہیں اور حق انہی کے اردگرد طواف کرتا ہے" ان تمام چیزوں کے باوجود خلیفہ نے امام کی گواہی کو یہ بہانہ بنا کر قبول نہیں کیا کہ ضروری ہے کہ دو آدمی یا ایک آدمی اور دو عورتیں گواہی دیں۔

تیسرے یہ کہ، اگر خلیفہ نے حضرت زہرا کی گواہی اس لئے قبول نہیں کیا کہ تعداد معین افراد سے کم تھی تو ایسی صورت میں قضاوت اسلام کا قانون یہ ہے کہ وہ مدعی سے قسم کا مطالبہ کرے کیونکہ اسلامی قوانین میں مال و دولت اور قرض کے مسئلوں میں ایک گواہ کی گواہی کو قسم کے ساتھ قبول کر کے فیصلہ کرسکتے ہیں، تو پھر خلیفہ نے اس قانون کے جاری کرنے سے کیوں پرہیز کیا اور جھگڑے کو ختم نہیں کیا؟

چوتھے یہ کہ، خلیفہ نے ایک طرف حضرت زہرا کی گفتگو اور ان کے گواہوں (حضرت علی اور ام ایمن) کی تصدیق کی اور دوسری طرف عمر او رابو عبیدہ کی (ان لوگوں نے گواہی دیا تھا کہ پیغمبر نے فدک کی آمدنی کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا تھا) تصدیق کی۔ اور پھر فیصلہ کرنے کے لئے اٹھے او رکہا کہ سب کے سب صحیح اور سچے ہیں، کیونکہ فدک عمومی مال میں سے تھا اور پیغمبر اس کی آمدنی سے اپنے خاندان کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے اور باقی اموال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے جب کہ ضروری تھا کہ خلیفہ عمر او رابو عبیدہ کی گفتگو پر سنجیدگی سے غور کرتے کیونکہ ان دونوں نے یہ گواہی نہیں دی تھی کہ فدک عمومی مال میں سے تھا بلکہ صرف اس بات کی گواہی دی تھی کہ پیغمبر نے بقیہ اموال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا تھا، اور یہ بات حضرت زہرا کے مالک ہونے کے ذرہ برابر بھی مخالف نہ تھی کیونکہ پیغمبر اسلام کو اپنی بیٹی کی طرف سے اجازت تھی کہ بقیہ اموال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کردیں۔

خلیفہ کا وقت سے پہلے فیصلہ اور فدک لینے کا اس کا باطنی رجحان سبب بنا کہ خلیفہ ان دونوں کی اس گواہی کے بہانے کہ پیغمبر اسلام بقیہ مال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے حضرت زہرا کی ملکیت ہونے سے انکار کر دے جب کہ ان دونوں کی گواہی پیغمبر کی بیٹی کے دعوے کے مخالف نہیں تھی۔

اہمبات یہ کہ خلیفہ نے حضرت فاطمہ زہرا (س) سے وعدہ کیا تھا کہ فدک کے سلسلے میں ہمارا طریقہ وہی رہے گا جو پیغمبر کا طریقہ تھا اگر حقیقت میں فدک عمومی مال میں سے تھا تو پھر کیوں انہوں نے حضرت زہرا سے رضایت چاہی؟ اور اگر ذاتی ملکیت تھی یعنی پیغمبر کی بیٹی کی ملکیت تھی تو اس طرح کا وعدہ جب کہ مالک اپنی ملکیت سپرد کرنے سے انکار کرے اس میں تصرف کے جواز باعث نہیں بن سکتا۔

ان تمام چیزوں کے علاوہ اگر فرض کریں کہ خلیفہ کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے مگر وہ مہاجرین اور انصار سے رائے مشورہ اور ان کی رضایت حاصل کرنے کے بعد فدک پیغمبر کی بیٹی کے حوالے کرسکتا تھا، تو کیوں انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور حضرت زہرا کے شعلہ و غضب کا اپنے کو مستحق قرار دیا؟

پیغمبر کی زندگی میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اور پیغمبر نے مسلمانوں کی رضایت کو حاصل کر کے مشکل کو حل کردیا تھا جنگ بدر میں پیغمبر کا داماد ابو العاص (جو پیغمبر کی پروردہ بیٹی زینب کا شوہر تھا: مترجم) گرفتار ہوا تو مسلمانوں نے اس کے علاوہ اس کے ستر افراد کو بھی گرفتار کر لیا، پیغمبر کی طرف سے اعلان ہوا کہ جن کے رشتہ دار گرفتار ہوئے ہیں وہ کچھ رقم دے کر اپنے اسیروں کو آزاد کرسکتے ہیں۔ ابو العاص ایک شریف انسان اور مکہ کا تاجر تھا او ر زمانہ جاہلیت میں اس کی شادی پیغمبر کی پروردہ بیٹی سے ہوئی تھی، لیکن بعثت کے بعد اپنی بیوی کے برخلاف اسلام قبول نہیں کیا اور جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں شریک ہوا اور گرفتار ہو گیا اس کی بیوی ان دنوں مکہ میں تھی زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لئے اپنے اس ہار کو فدیہ قرار دیا جو آپ کی (پرورش کرنے والی) ماں خدیجہ نے

شادی کی رات دیا تھا جب پیغمبر کی نظر زینب کے بار پر پڑی تو بہت زیادہ گریہ کیا اور ان کی ماں خدیجہ کی فدا کاری و قربانی یاد آگئی جنہوں نے سخت مشکلات کے زمانے میں آپ کی مدد کی تھی اور اپنی تمام دولت کو اسلام کی کامیابی و ترقی کے لئے خرچ کیا تھا۔

پیغمبر اسلام (ص) عمومی اموال کے احترام کی رعایت کرنے کے لئے اپنے صحابیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: یہ بار تمہارا ہے اور اس پر تمہارا ہی اختیار ہے اگر دل چاہے تو اس بار کو واپس کر دو اور ابوالعاص کو بغیر فدیہ لئے ہوئے رہا کر دو آپ کے صحابیوں نے آپ کی درخواست کو قبول کر لیا۔

ابن ابی الحدید لکھتے ہیں: (۱)

"میں نے زینب کے واقعہ کو اپنے استاد ابو جعفر بصری علوی کے سامنے پڑھا تو انہوں نے اس کی

شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱۴، ص ۱۶۱۔

تصدیق کی اور کہا: کیا فاطمہ کی عظمت و منزلت زینب سے زیادہ نہ تھی؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ خلیفہ فاطمہ کو فدک واپس کر کے ان کے قلب کو خوشحال کر دیتا؟ اگرچہ فدک تمام مسلمانوں کا مال تھا۔

ابن ابی الحدید مزید لکھتے ہیں:

میں نے کہا کہ فدک اس روایت کے مطابق کہ "گروہ انبیاء بطور میراث کچھ نہیں چھوڑتے" مسلمانوں کا مال تھا تو کس طرح ممکن تھا کہ مسلمانوں کا مال حضرت زہرا کو دیدیتے؟

استاد نے کہا: کیا زینب کا وہ بار جو اس نے اپنے شوہر ابوالعاص کی رہائی کے لئے بھیجا تھا وہ مسلمانوں کا مال نہ تھا؟ میں نے کہا:

پیغمبر صاحب شریعت تھے اور تمام امور کے نفاذ اور اجراء کا حکم ان کے ہاتھوں میں تھا لیکن خلفاء کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔

استاد نے میرے جواب میں کہا: میں یہ نہیں کہتا کہ خلفاء زبردستی مسلمانوں سے فدک چھین لیتے اور فاطمہ کے ہاتھوں میں دیدیتے، بلکہ میرا کہنا یہ ہے کہ کیوں حاکم وقت نے فدک دینے کے لئے مسلمانوں کو راضی نہیں کیا؟ کیوں پیغمبر کی طرح نہ اٹھے اور ان کے اصحاب کے درمیان نہیں کہا کہ اے لوگو! زہرا تمہارے نبی کی بیٹی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پیغمبر کے زمانے کی طرح فدک کا نخلستان (کھجور کا باغ) ان کے ہاتھ میں رہے کیا تم لوگ خود اپنی مرضی سے راضی ہو کہ فدک فاطمہ کے حوالے کر دیا جائے؟

آخر مینابن ابی الحدید لکھتے ہیں:

ہمارے پاس استاد کی باتوں کا جواب نہ تھا اور صرف بطور تائید کہا: ابوالحسن عبد الجبار بھی خلفاء کے بارے میں ایسا ہی اعتراض رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگرچہ ان کا طور طریقہ شرع کے مطابق تھا لیکن جناب زہرا کا احترام اور ان کی عظمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### چھٹیں فصل

کیا انبیاء میراث نہیں چھوڑتے؟

اس بارے میں قرآن کا نظریہ

ابوبکر نے پیغمبر کی بیٹی کو میراث نہ دینے کے لئے ایک حدیث کا سہارا لیا جس کا مفہوم خلیفہ کی نظر میں یہ تھا کہ پیغمبران خدا بطور میراث کوئی چیز نہیں چھوڑتے اور ان کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں صدقہ ہوتی ہیں۔

قبل اس کے کہ اس حدیث کے متن کو نقل کریں جس سے خلیفہ نے استناد کیا ہے، ضروری ہے کہ اس مسئلے کو قرآن سے حل کریں کیونکہ قرآن مجید حدیث صحیح کو حدیث باطل سے پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے اور اگر قرآن نے اس موضوع کی تصدیق نہیں کیا تو اس حدیث کو (اگرچہ ابوبکر ناقل ہوں) صحیح حدیث شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے من گھڑت اور رباطل حدیث شمار کیا جائے گا۔

قرآن کریم کی نظر میناور اسلام میں میراث کے احکام کی روسے پیغمبروں کی اولاد یا ان کے وارثوں کو مستثنیٰ کرنا قانون میراث کے مطابق غیر منطقی بات ہے اور جب تک قطعی دلیل ان آیات ارث کو تخصیص نہ دے میراث کے تمام قوانین تمام افراد کو کہ انہی میں پیغمبر کی تمام اولادیں اور وارثین ہی شامل ہیں۔

اس جگہ سوال کرنا چاہیے کہ کیوں پیغمبر کی اولاد میراث نہیں لے سکتی؟ ان کی رحلت کے بعد ان کا گھر اور تمام زندگی کے اسباب ان سے کیوں لے لیا جائے؟ آخر پیغمبر کے وارث کس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد تمام لوگ گھر سے باہر نکال دیئے جائیں؟

اگرچہ پیغمبر کے وارثوں کو میراث سے محروم کرنا عقلاً بعید ہے لیکن اگر وحی کی طرف سے قطعی اور صحیح دلیل موجود ہو کہ تمام انبیاء کوئی چیز بعنوان میراث نہیں چھوڑتے اور ان کا ترکہ عمومی مال شمار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں "أَمَّا وَصْدَقْنَا" حدیث کو قبول کریں گے اور غلط فہمی کو دور کر دیں گے اور میراث سے مربوط آیتوں کو صحیح حدیث کے ذریعے تخصیص دیں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا اس طرح کی حدیثیں پیغمبر سے وارد ہوئی ہیں؟ وہ حدیث جو خلیفہ نے نقل کی ہے اس کو پہچاننے کے لئے بہترین راستہ یہ ہے کہ حدیث کے مفہوم کو قرآن کی آیتوں سے ملائیں اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کریں گے اور اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو اسے رد کر دیں گے۔ جب ہم قرآنی آیتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ قرآن نے دو جگہوں پر پیغمبر کی اولاد کی میراث کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے میراث لینے کو ایک مسلم حق بیان کیا ہے وہ آیتیں جو اس مطلب کو بیان کرتی ہیں یہ ہیں:

۱- یحییٰ نے زکریا سے میراث پائی

"وَتَىٰ خَفَّتِ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ أَمْرًا فَبَبَّ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا هَ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا" (سورہ مریم، آیت ۵، ۶)

اور میں اپنے (مرنے کے) بعد اپنے وارثوں (چچا زاد بھائیوں) سے ڈرجاتا ہوں (کہ مبادا دین کو برباد کریں) اور میری بی بی (ام کلثوم بنت عمران) بانجھ ہے پس تو مجھ کو اپنی بارگاہ سے ایک جانشین (فرزند) عطا فرما، جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو اور اسے میرے پروردگار اور اس کو اپنا پسندیدہ بنا۔

اس آیت کو اگر ہر اس شخص کے سامنے پڑھایا جائے جو لڑائی جھگڑوں سے دور ہو تو وہ یہی کہے گا کہ حضرت زکریا نے خداوند عالم سے ایک بیٹا طلب کیا تھا جو ان کا وارث ہو کیونکہ ان کو اپنے دوسرے وارثوں سے خطرہ اور خوف محسوس ہو رہا تھا اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی دولت و ثروت ان لوگوں تک پہنچے، وہ کیوں خوف محسوس کر رہے تھے اس کی وضاحت بعد میں کریں گے۔

آیت میں "یرثنی" سے مراد میراث میں سے مال لینا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لفظ مال کی وراثت کے علاوہ دوسری چیزوں میں استعمال نہیں ہوتا مثلاً نبوت اور علوم کا وارث ہونا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک دوسرے والے معنی کے ساتھ کوئی قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک یہ مال سے میراث لینا مراد ہوگا نہ کہ علم اور نبوت سے میراث لینا۔ (۱)

(۱) جی ہاں، کبھی کبھی یہی لفظ کسی خاص قرینے کی وجہ سے میراث علم میں استعمال ہوتا ہے مثلاً "ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا" (فاطر، آیت ۳۲) یعنی ہم نے اس کتاب کو اس گروہ سے جس کو نے چنا ہے ان کو میراث میں دیا، یہاں پر لفظ "کتاب" واضح و روشن قرینہ ہے کہ یہاں مال میں میراث مراد نہیں ہے بلکہ قرآن کے حقائق سے آگاہی کی میراث مراد ہے۔

یہاں ہم ان قرینوں کو پیش کر رہے ہیں جو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ "یرثنی و یرث من آل یعقوب" سے مراد مال میں میراث ہے نہ کہ علم و نبوت میں میراث لینا۔

۱- لفظ "یرثنی" اور "یرث" سے یہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہی مال میں میراث ہے نہ کہ غیر میں، اور جب تک اس کے برخلاف کوئی قطعی دلیل نہ ہو جب تک اس کو اس معنی سے خارج نہیں کر سکتے، اگر آپ قرآن میں اس لفظ کے تمام مشتقات کو غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لفظ پورے قرآن میں (سوائے سورہ فاطر آیت ۳۲ کے) مال میں

وراثت کے متعلق استعمال ہوا ہے اور یہ خود بہترین دلیل ہے کہ ان دو لفظوں کو اس کے اسی معروف و مشہور معنی میں استعمال کریں۔

۲۔ نبوت اور امامت خداوند عالم کا فیض ہے جو مسلسل مجاہدت، فداکاری اور ایثار کے ذریعے باعظمت انسان کو نصیب ہوتا ہے اور یہ فیض بغیر کسی ملاک کے کسی کو دیا نہیں جاتا اس لئے یہ قابل میراث نہیں ہے بلکہ ایک ایسے باعظمت و مقدس گروہ میں ہے کہ ملاک نہ ہونے کی صورت میں ہرگز کسی کو دیا نہیں جاتا اگرچہ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ زکریا نے پروردگار عالم سے بیٹے کی درخواست نہیں کی جو نبوت و رسالت کا وارث ہو اور اس بات کی تائید قرآن مجید میں ہے کہ:

"اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ" (۱)

خداوند عالم سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔

۳۔ حضرت زکریا نے صرف خدا سے بیٹے کی تمنا ہی نہیں کی بلکہ کہا کہ پروردگار اسے میرا پاک و پاکیزہ اور پسندیدہ وارث قرار دے اگر اس سے مراد مال میں میراث ہو تو صحیح ہے کہ حضرت زکریا اس کے حق میں دعا کریں کہ "و اجعلہ رب رضياً" (خدا یا) اسے مورد پسند قرار دے۔

کیونکہ ممکن ہے کہ مال کا وارث کوئی غیر سالم شخص ہو، لیکن اگر اس سے مراد نبوت و رسالت کا وارث ہو، تو اس طرح سے دعا کرنا صحیح نہیں ہوگا اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا یا ایک علاقہ کے لئے پیغمبر بھیج دے اور اسے پاک و مورد پسند قرار دے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ

#### (۱) سورہ انعام، آیت ۱۲۴۔

ایسی دعا پیغمبر کے بارے میں جو خداوند عالم کی جانب سے مقام رسالت و نبوت پر فائز ہو باطل ہو جائے گی۔  
۴۔ حضرت زکریا اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ "میں اپنے عزیزوں اور چچازاد بھائیوں سے خوف محسوس کرتا ہوں" لیکن ابتدا میں زکریا کے ڈرنے کی کیا وجہ تھی؟

کیا انہیں اس بات کا خوف تھا کہ ان کے بعد رسالت و نبوت کا منصب ان نا اہلوں تک پہنچ جائے گا اسی لئے انہوں نے اپنے لئے خدا سے ایک بیٹے کی تمنا کی؟ یہ احتمال بالکل ہے جا ہے کیونکہ خداوند عالم نبوت و رسالت کے منصب کو ہرگز نااہلوں کو نہیں دیتا کہ ان کو اس بات کا خوف ہو۔ یا حضرت زکریا کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان کے بعد دین اور اس کے قوانین ختم ہو جائیں گے اور ان کی قوم الگ الگ گروہوں میں ہو جائے گی؟ اس طرح کا خوف بھی انہیں نہیں تھا کیونکہ خداوند عالم اپنے بندوں کو ایک لمحہ کے لئے بھی اپنی ہدایت کے فیض سے محروم نہیں کرتا اور مسلسل اپنی حجت ان کی رہبری کے لئے بھیجتا ہے اور ان لوگوں کو بھی بغیر رہبر کے نہیں چھوڑتا۔  
اس کے علاوہ اگر مراد یہی تھی تو ایسی صورت میں زکریا کو بیٹے کی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ صرف اتنا ہی کافی تھا کہ دعا کرتے کہ پروردگار ان لوگوں کے لئے پیغمبر بھیج دے (چاہے ان کی نسل سے ان کا وارث ہو چاہے دوسرے کی نسل سے) تاکہ ان کو جاہلیت کے دور سے نجات دیدے حالانکہ زکریا نے وارث کے نہ ہونے پر خوف محسوس کیا۔

#### دو سوالوں کا جواب

مورد بحث آیت کے سلسلے میں دو اعتراض ذکر ہوا ہے جس کی طرف اہلسنت کے بعض دانشمندان نے اشارہ کیا ہے یہاں پر ہم دونوں سوالوں کا جائزہ لے رہے ہیں

الف: حضرت یحییٰ اپنے والد کے زمانے میں منصب نبوت پر فائز ہوئے لیکن ہرگز ان کے مال سے میراث نہیں لی کیونکہ اپنے والد سے پہلے ہی شہید ہو گئے اس لئے ضروری ہے کہ لفظ "یرثنی" کو نبوت میں وارث کے عنوان سے تفسیر کریں نہ کہ مال میں وراثت سے۔

جواب:

ہر حالت میں اس اعتراض کا جواب دینا ضروری ہے چاہے اس سے مراد مال کا وارث ہو یا نبوت کا وارث ہو، چونکہ نبوت میں وارث ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے بعد منصب نبوت پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کی تفسیر میں

دونوں نظریوں پر اشکال ہوا ہے اور تفسیر، مال میں وارث ہونے سے مخصوص نہیں ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یحییٰ کا زکریا سے میراث پانا صرف ان کی دعاؤں کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ان کی دعا صرف یہ تھی کہ خداوند عالم انہیں صالح بیٹا عطا کرے اور بیٹے کی تمنا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ زکریا کا وارث بنے، خدا نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اگرچہ حضرت زکریا نے جو اس بیٹے کی تمنا کی اس مقصد (یحییٰ کا ان سے میراث لینا) میں کامیاب نہ ہوئے۔

مورد بحث آیت میں تین جملے استعمال ہوئے ہیں جن کی ہم وضاحت کر رہے ہیں:

"فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا" پروردگار! مجھے ایک بیٹا عطا کر۔

"يُرْتَضَىٰ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ" میرا اور یعقوب کے خاندان کا وارث ہو۔

"وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا" پروردگار! اسے مورد پسند قرار دے۔

ان تین جملوں میں پہلا اور تیسرا جملہ بطور درخواست استعمال ہوا ہے جو حضرت زکریا کی دعا کو بیان کرتا ہے یعنی انہوں نے خدا سے یہ دعا کی کہ مجھے لائق و پسندیدہ بیٹا عطا کر، لیکن غرض اور مقصد یا دوسرے لفظوں میں علت غائی، مسئلہ وراثت تھا۔

جب کہ مسئلہ وراثت دعا کا جزء نہ تھا اور جس چیز کی جناب زکریا نے خدا سے درخواست کی تھی وہ پوری ہو گئی اگرچہ ان کی غرض و مقصد پورا نہ ہوا اور ان کا بیٹا ان کے بعد موجود نہ رہا کہ ان کے مال یا نبوت کا وارث ہوتا۔ (۱) وراثت جزء دعا نہ تھی بلکہ امید تھی جو اس درخواست پر اثر انداز ہوئی، اس بات پر بہترین گواہی ہے کہ دعا کی عبارت اور زکریا کی درخواست دوسرے سورہ میں اس طرح وارد ہوئی ہے، اور وہاں پر اصلاً وراثت کا تذکرہ نہیں ہے۔

(۱) بعض قاریوں نے "یرثی" کو جزم کے ساتھ پڑھا ہے اور اسے جواب یا "ہب" (کہ جو صیغہ امر ہے) کی جزا جانا ہے یعنی "ان تہب ولیاً یرثی" اگر بیٹا عطا کرے گا تو وہ میرا وارث ہوگا۔

"بُنَايِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً نَكَ سَمِيعُ الدُّعَايِ" (۱)

اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار! مجھے اپنی جانب سے ایک صالح اور پاکیزہ بیٹا عطا فرما اور تو اپنے بندوں کی دعا کو سننے والا ہے۔

اب آپ اس آیت میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس درخواست میں وراثت دعا کا حصہ نہیں ہے بلکہ درخواست میں پاکیزہ نسل کا تذکرہ ہے اور سورہ مریم میں "ذریۃ" کی جگہ پر لفظ "ولیا" اور "طیبۃ" کی جگہ پر لفظ "رضیاً" استعمال ہوا ہے۔ ب: مورد بحث آیت میں ضروری ہے کہ زکریا کا فرزند دو آدمیوں سے میراث لے ایک زکریا سے دوسرے یعقوب کے خاندان سے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: "یرثی و یرث من آل یعقوب" یعقوب کے خاندان کی تمام وراثت، نبوت کی وراثت کا حصہ نہیں بن سکتی۔

جواب: آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ زکریا کا فرزند، خاندان یعقوب کے تمام افراد کا وارث ہو، بلکہ آیت کا مفہوم لفظ "من" سے جو کہ تبعیض کا فائدہ دیتی ہے، یہ ہے کہ اس خاندان کے بعض افراد سے میراث حاصل کرے نہ کہ تمام افراد سے، اور اس بات کے صحیح ہونے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی ماں سے یعقوب کے خاندان کے کسی فرد سے میراث حاصل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس یعقوب سے مراد کون ہے کیا وہی یعقوب بن اسحاق مراد ہیں یا کوئی دوسرا فی الحال مشخص نہیں ہے۔

۲: سلیمان نے داؤد سے میراث پائی

"وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ" (۲)

سلیمان نے داؤد سے میراث پائی۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ سلیمان نے مال و سلطنت کو حضرت داؤد سے بطور میراث حاصل کیا اور یہ خیال کرنا کہ اس سے مراد علم کا وارث ہونا تھا دولحاظ سے باطل ہے۔

(۱) سورہ آل عمران، آیت ۳۸۔

(۲) سورہ نمل، آیت ۱۶۔

۱۔ اصطلاح میں کلمہ "ورث" کے معنی مال سے میراث لینا ہے اور علم کی وراثت مراد لینا تفسیر کے برخلاف ہے جو قرینہ قطعی کے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔

۲۔ چونکہ اکتسابی علم استاد سے شاگرد کی طرف منتقل ہوتا ہے اور مجازاً یہ کہنا صحیح ہے کہ " فلاں شخص اپنے استاد کے علم کا وارث ہے " لیکن مقام نبوت اور علوم الہی و بیبی ہیں اور اکتسابی اور موروثی نہیں ہیں اور خدا جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے لہذا وراثت کی تفسیر اس طریقے کے علوم و معارف اور مقامات اور منصبوں سے اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک قرینہ موجود نہ ہو کیونکہ بعد میں آنے والے پیغمبر نے نبوت اور علم کو خدا سے لیا ہے نہ کہ اپنے والد سے۔

اس کے علاوہ اس آیت سے پہلے والی آیت میں خداوند عالم داؤد اور سلیمان کے بارے میں فرماتا ہے:

"وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ" (۱)

اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور دونوں نے (خوش ہو کر) کہا خدا کا شکر جس نے ہم کو اپنے بہنیرے ایماندار بندوں پر فضیلت دی۔

کیا آیت سے یہ ظاہر نہیں ہے کہ خداوند عالم نے دونوں کو علم و دانش عطا کیا اور سلیمان کا علم وہی تھا نہ کہ موروثی؟ سورہ نمل اور سورہ مریم کی آیتوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شریعت الہی کا پچھلے پیغمبروں کے بارے میں یہ ارادہ نہیں تھا کہ ان کی اولادینان کی میراث نہ لیں، بلکہ ان کی اولادیں بھی دوسروں کی اولادوں کی طرح ایک دوسرے سے میراث حاصل کریں۔

یہی وجہ ہے کہ صریحی طور پر وہ آیتیں جو یحییٰ اور سلیمان کی اپنے والد سے میراث لینے کے متعلق ہیں انہیں حضرت فاطمہ نے اپنے خطبہ میں جو آپ نے پیغمبر کے بعد مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا تھا بیان کیا اور ان دونوں آیتوں سے استناد کرتے ہوئے اس فکر کے غلط ہونے پر استدلال کیا اور فرمایا:

(۱) سورہ نمل، آیت ۱۵۔

"ہذا کتاب اللہ حکماً عدلاً و ناطقاً فصلاً يقول "یرثنی و یرث من آل یعقوب" و ورث سلیمان داؤد" (۱)  
یہ کتاب خدا حاکم اور عادل و گویا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والی ہے جس کا بیان یہ ہے کہ (یحییٰ نے) مجھ (زکریا سے) اور یعقوب کے خاندان سے میراث پائی (پھر کہا) سلیمان نے داؤد سے میراث پائی۔

(۱) احتجاج طبرسی، ج ۱، ص ۱۴۵، (مطبوعہ نجف اشرف)

پیغمبر (ص) سے منسوب حدیث

گذشتہ بحث میں قرآن کی آیتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پیغمبروں کے وارث، پیغمبروں سے میراث پاتے تھے اور ان کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں (میراث) غریبوں اور محتاجوں میں بعنوان صدقہ تقسیم نہیں ہوتی تھیں، اب اس وقت ہم ان روایتوں کی تحقیق کریں گے جنہیں اہلسنت کے علماء نے نقل کیا ہے اور خلیفہ اول کے اس عمل کی توجیہ کی ہے جو انہوں نے حضرت زہرا کو ان کے باپ کی میراث لینے سے محروم کر دیا تھا۔

ابتدا میں ہم ان حدیثوں کو نقل کر رہے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں پھر ان کے معنی کو بیان کریں گے۔  
۱۔ "نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ دَهْبًا وَلَا فِضَّةً وَلَا أَرْضًا وَلَا عِقَارًا وَلَا دَارًا وَلَا كُنَّا نُورِثُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ وَالسُّنَّةَ"  
ہم گروہ انبیاء سونا، چاندی، زمین اور گھر وغیرہ بطور میراث نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم ایمان، حکمت، علم اور رحمت بعنوان میراث چھوڑتے ہیں۔

۲۔ "إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورِثُونَ".

ہے شک انبیاء کوئی چیز بھی بعنوان میراث نہیں چھوڑتے (یا ان کی چیزیں میراث واقع نہیں ہوتیں)

۳۔ "إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورِثُ".



ہے شک پیغمبر کوئی چیز میراث نہیں چھوڑتے (یا میراث واقع نہیں ہوتی) ۴۔ "لَا تُورَث، مَا تَرَكَهَا صَدَقَةٌ"۔

ہم کوئی چیز میراث نہیں چھوڑتے بلکہ جو چیز ہمارے بعد باقی رہتی ہے وہ صدقہ ہے۔ یہ ان تمام حدیثوں کی اصلی عبارتیں ہیں جنہیں اہلسنت نے نقل کیا ہے خلیفہ اول نے حضرت زہرا کو ان کے باپ کی میراث نہ دینے کے لئے چوتھی حدیث کا سہارا لیا، اس سلسلے میں پانچویں حدیث بھی ہے جسے ابوہریرہ نے نقل کیا ہے لیکن چونکہ معلوم ہے کہ ابوہریرہ صاحب نے یہ حدیث گڑھی ہے جیسا کہ (خود ابوہریرہ جوہری کتاب "السقیفہ" کے مولف نے اس حدیث کے متن کی غرابت کا اعتراف کیا ہے) (۱)

اس لئے ہم نے اسے نقل کرنے سے پرہیز کیا ہے اب ہم ان چاروں حدیثوں کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں۔ پہلی حدیث کے سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ انبیاء کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے، بلکہ مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی عمر کو سونے چاندی، مال و دولت کے جمع کرنے میں خرچ کریں اور اپنے وارثوں کے لئے مال و دولت چھوڑیں اور ان کی جو یادگاریں باقی ہیں وہ سونا چاندی نہیں ہیں، بلکہ علم و حکمت اور سنت ہیں، اسکا مطلب یہ نہیں کہ اگر پیغمبر نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی ہدایت و رہبری میں صرف کی اور تقویٰ اور زہد کے ساتھ زندگی بسر کی تو ان کے انتقال کے بعد اس حکم کی بناء پر کہ پیغمبر کوئی چیز بطور میراث میں نہیں چھوڑتے، ان کے وارثوں سے فوراً ان کا ترکہ لے کر صدقہ دیدیں۔ واضح لفظوں میں اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کی امتیں یا ان کے ورثاء اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ وہ اپنے بعد مال و دولت بطور میراث چھوڑیں گے، کیونکہ وہ لوگ اس کام کے لئے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اس لئے بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کے درمیان دین و شریعت، علم و حکمت کو پھیلائیں اور انہی

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیدج ۱۶ ص ۲۲۰۔

چیزوں کو اپنی یادگار چھوڑیں، شیعہ دانشمندیوں نے اسی مضمون میں ایک حدیث امام صادق سے نقل کی ہے اور یہ اس بات پر گواہ ہے کہ پیغمبر کا مقصد یہی تھا۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں:

"إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دَرِيماً وَلَا دِينَاراً وَإِنَّمَا وَرَثُوا أَحَادِيثَهُمْ" (۱)

علماء انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ پیغمبروں نے درہم و دینار ورثہ میں نہیں چھوڑا ہے بلکہ (لوگوں کے لئے) اپنی حدیثوں میں سے حدیث کو یادگار چھوڑا ہے

اس حدیث اور اس سے مشابہ حدیث کامراد یہ ہے کہ پیغمبروں کی شان مال کو جمع کر کے میراث میں چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کی عظمت و شان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی امت کے لئے علم و ایمان کو بطور میراث چھوڑیں، لہذا یہ تعبیر اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ اگر پیغمبر کوئی چیز میراث میں چھوڑ دینتو ضروری ہے کہ ان کے وارثوں سے لے لیا جائے۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسری اور تیسری حدیثوں کا مقصد بھی یہی ہے اگرچہ مختصر اور غیر واضح نقل ہوئی ہیں۔ حقیقت میں جو پیغمبر نے فرمایا: وہ صرف ایک ہی حدیث ہے جس میں کثر بیونت کر کے مختصراً نقل کیا گیا ہے۔

اب تک ہم نے شروع کی تین حدیثوں کی بالکل صحیح تفسیر کی ہے اور ان کے قرآن سے اختلافات کو جو پیغمبروں کی اولادوں کے وارث ہونے بتاتا ہے، اسے برطرف کر دیا۔

مشکل چوتھی حدیث میں ہے، کیونکہ مذکورہ توجیہ اس میں جاری نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ پیغمبر یا پیغمبروں کا ترکہ صدقہ کے عنوان سے لے لینا چاہئے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس حدیث کا مقصد یہی ہے کہ یہ حکم تمام پیغمبروں کے لئے ہے تو اس صورت میں اس کا مفہوم قرآن کے مخالف ہوگا اور پھر معتبر نہیں ہوگی، اور اگر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم صرف پیغمبر اسلام کے لئے نافذ ہے اور تمام پیغمبروں کے درمیان صرف وہ اس خصوصیت کے

## (۱) مقدمہ معالم ص ۱ منقول از کلینی .

حامل ہیں، تو ایسی صورت میناگرچہ کلی طور پر قرآن مجید کے مخالف نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی متعدد آیتوں کے مقابلے میں عمل کرنا خصوصاً میراث اور اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم کرنا، جو کلی و عمومی ہے پیغمبر اسلام کو بھی شامل کرتی ہے بشرطیکہ یہ حدیث اس قدر صحیح و معتبر ہو کہ ان قرآنی آیتوں کی تخصیص کر دے، لیکن افسوس کہ یہ حدیث کہ جس پر خلیفہ اول نے اعتماد کیا ہے اس قدر غیر معتبر ہے جس کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔

۱۔ پیغمبر کے صحابیوں میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے اور صرف اس کو نقل کرنے میں خلیفہ اول فر دفرید ہیں۔

اور ہم نے جو یہ کہا ہے کہ حدیث نقل کرنے میں صرف وہی ہیں تو یہ غلط عبات نہیں ہے بلکہ یہ مطلب تاریخ کے دامن میں تحریر ہے اور مسلمات میں سے ہے چنانچہ ابن حجر نے تنہا اس حدیث کے نقل کرنے کی بنا پر ان کی اعلمیت کا اعتراف کیا ہے۔ (۱)

جی ہاں، صرف تاریخ میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور عباس کے درمیان پیغمبر کی میراث کے بارے میں جو اختلاف تھا۔ (۲) عمر نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے اسی حدیث کا سہارا لیا جسے خلیفہ اول نے نقل کیا تھا اور اس مجمع میں سے پانچ لوگوں نے اس کے صحیح ہونے پر گواہی دی۔ (۳) ابن ابی الحدید لکھتے ہیں:

پیغمبر کی رحلت کے بعد صرف ابوبکر نے اس حدیث کو نقل کیا تھا، ان کے علاوہ کسی نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا اور کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ مالک بن اوس نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ البتہ، عمر کی خلافت کی زمانے میں بعض مہاجرین نے اس کے صحیح ہونے کی گواہی دی ہے۔ (۴)

## (۱) صواعق محرقہ ص ۱۹ .

(۲) حضرت علی علیہ السلام کا عباس سے اختلاف جس طرح سے اہلسنت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے وہ محققین شیعہ کی نظر میں غیر قابل قبول ہے۔

(۳) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۶ ص ۲۲۹، صواعق محرقہ ص ۲۱ .

(۴) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۶ ص ۲۲۷ .

ایسی صورت میں کیا یہ صحیح ہے کہ خلیفہ جو کہ خود بھی مدعی ہے ایسی حدیث کو بطور گواہ پیش کرے کہ اس زمانے میں اس کے علاوہ کسی کو بھی اس حدیث کی اطلاع نہ ہو؟

ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ قاضی فیصلہ کرتے وقت اپنے علم پر عمل کرسکتا ہے اور اپنے کینہ اپنے علم و آگاہی کی بنیاد پر فیصلہ کرے، اور چونکہ خلیفہ نے اس حدیث کو پیغمبر سے سنا تھا لہذا اپنے علم کی بنیاد پر اولاد کی میراث کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں انہیں تخصیص دیدیں، اور پھر اسی اساس پر فیصلہ کریں، لیکن افسوس، خلیفہ کامتضاد کردار اور فدک دینے میں کشمکش کا شکار ہونا اور پھر دوبارہ فدک واپس کرنے سے منع کرنا (جس کی تفصیل گذر چکی ہے) اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انہیں حدیث کے صحیح ہونے پر یقین و اطمینان نہ تھا۔

اس بناء پر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ نے پیغمبر کی بیٹی کو ان کے باپ کی میراث نہ دینے میں اپنے علم کے مطابق عمل کیا ہے اور قرآن مجید کی آیتوں کو اس حدیث سے جو پیغمبر سے سنا تھا مخصوص کر دیا ہے؟

۲۔ اگر خداوند عالم کا پیغمبر کے ترکہ کے بارے میں حکم تھا کہ ان کا مال عمومی ہے اور مسلمانوں کے امور میں صرف ہو، تو کیوں پیغمبر نے اپنے تنہا وارث سے یہ بات نہیں بتائی؟ کیا یہ بات معقول ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی سے اس حکم الہی کو جو خود ان سے مربوط تھا پوشیدہ رکھیں؟ یا یہ کہ ان کو باخبر کر دیں مگر وہ اسے نظر انداز کر دیں؟

نہیں۔ یہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کی عصمت اور آپ کی بیٹی کا گناہ سے محفوظ رہنا اس چیز کے لئے مانع ہے کہ اس طرح کا احتمال ان کے بارے میں دیا جائے؛ بلکہ ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ کے انکار کو اس بات پر گواہ سمجھیں کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ حدیث ان لوگوں کی من گھڑت ہے جن لوگوں نے سیاسی طور پر یہ ارادہ کیا کہ پیغمبر کے حقیقی وارث کو ان کے شرعی حق سے محروم کر دیں۔

۳۔ وہ حدیث جس کو خلیفہ نے نقل کیا تھا اگر واقعاً وہ صحیح تھی تو پھر کیوں فدک مختلف سیاستوں کا شکار رہا اور ہر نئے خلیفہ اپنے دور ان حکومت میں متضاد کردار ادا کیا؟ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فدک خلفاء کے زمانے میں

ایک آدمی کے پاس نہ تھا کبھی فدک ان کے حقیقی مالکوں کو واپس کیا گیا تو کبھی حکومت کے قبضے میں رہا، بہر حال ہر زمانے میں فدک ایک حساس مسئلہ اور اسلام کے پیچیدہ مسائل کے طور پر تھا۔ (۱) جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ عمر کی خلافت کے دور میں فدک علی علیہ السلام اور عباس کو واپس کر دیا گیا تھا (۲) خلافت عثمان کے زمانے میں مروان کی جاگیر تھا معاویہ کے خلافت کے دور میں اور امام حسن بن علی کی شہادت کے بعد فدک تین آدمیوں کے درمیان (مروان، عمر و بن عثمان، یزید بن معاویہ) تقسیم ہوا پھر مروان کی خلافت کے دوران تمام فدک اسی کے اختیار میں تھا اور مروان نے اسے اپنے بیٹے عبد العزیز کو دے دیا، اور خود اس نے بھی اپنے بیٹے عمر کے نام بیہ کر دیا۔

عمر بن عبد العزیز نے اپنی حکومت کے زمانے میں حضرت زہرا کی اولادوں کے حوالے کر دیا اور جب یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی تو فدک کو حضرت فاطمہ کے بچوں سے واپس لے لیا اور کافی عرصے تک بنی مروان کے خاندان میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں جاتا رہا یہاں تک کہ ان کی حکومت کا زمانہ ختم ہو گیا۔

بنی عباس کی خلافت کے زمانے میں بھی فدک مختلف لوگوں کے پاس رہا، ابو العباس سفاح نے اسے عبد اللہ بن حسن بن علی کے حوالے کر دیا، ابو جعفر منصور نے اسے واپس لے لیا، مہدی عباسی نے اسے اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا موسیٰ بن مہدی اور اس کے بھائی نے اسے واپس لے لیا یہاں تک خلافت مامون تک پہنچی اور اس نے فدک اس کے حقیقی مالک کو واپس کر دیا اور جب متوکل خلیفہ ہوا تو اس نے فدک کو اس کے حقیقی مالک سے چھین لیا۔ (۳)

اگر پیغمبر کے فرزندوں کو پیغمبر کے ترکہ سے محروم کرنے والی حدیث صحیح اور مسلم ہوتی تو فدک کبھی بھی در بدر کی ٹھوکر نہ کھاتی۔

۴۔ پیغمبر اسلام نے فدک کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ورثہ میں چھوڑیں، لیکن خلیفہ اول نے تمام

(۱) اس سلسلے میں مزید معلومات کے لئے کتاب الغدیر مطبوعہ نجف ج ۷ ص ۱۵۶ تا ۱۹۶، پڑھ سکتے ہیں۔  
 (۲) یہ عبارت امام - کی اس نامہ سے سازگار نہیں ہے جو آپ نے عثمان بن حنیف کو لکھا تھا آپ وہاں لکھتے ہیں: "کانت فی ایدنا فدک من کل ما اظلتہ السماء فشححت علیہا نفوس قوم و سخت عنہا نفوس قوم آخرین و نعم الحکم للہ" یعنی وہ چیز جس پر آسمان نے اپنا سایہ کیا ہے اس میں سے صرف فدک میرے اختیار میں ہے جب کہ بعض گروہ نے اسے لالچ کی نگاہ سے دیکھا اور دوسری گروہ نے اسے نظر انداز کر دیا واہ کیا خوب ہے خدا کا فیصلہ۔  
 (۳) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۶ ص ۲۱۷۔ ۲۱۶۔

ورثے میں سے صرف فدک کو ہی زبردستی چھین لیا اور باقی تمام مال رسول خدا کی بیویوں کے گھر میں موجود تھا اور بالکل اسی طرح ان کے ہاتھوں میں باقی رہا اور خلیفہ نے کبھی بھی ان کی طرف رخ نہیں کیا اور کسی کو بھی اس کے لئے نہ بھیجا کہ جاکر گھروں کے حالات معلوم کرے کہ کیا وہ خود پیغمبر کی ملکیت ہے یا حضرت نے اپنی زندگی ہی میں اپنی بیویوں کو دیدیا تھا۔

ابوبکر نے نہ یہ کہ اس سلسلے میں تحقیق نہیں کیا بلکہ پیغمبر کے جوار میں دفن ہونے کے لئے اپنی بیٹی عائشہ سے اجازت مانگی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو پیغمبر کا وارث مانتے تھے۔

انہوں نے نہ یہ کہ ازدواج پیغمبر کے گھروں کو نہیں لیا بلکہ رسول خدا کی انگوٹھی، عمامہ، تلوار، سواری، لباس وغیرہ جو حضرت علی کے ہاتھ میں تھے تو واپس نہیں لیا اور اس سلسلے میں کبھی کوئی گفتگو بھی نہیں کی۔

ابن ابی الحدید معتزلی اس تبعیض کو دیکھ کر اتنا مبہوت ہو گئے کہ وہ چاہتے تھے کہ خود اپنی طرف سے اس کی توجیہ کریں لیکن ان کی توجیہ اتنی بے اساس اور غیر معقول ہے کہ وہ نقل اور تنقید کے لائق نہیں ہے (۱)

کیا میراث سے محروم ہونا صرف پیغمبر کی بیٹی سے مخصوص تھا، یا ان میں تمام ورثاء بھی شامل تھے، یا اصلاً محرومیت کی بات ہی نہ تھی صرف سیاسی مسئلہ تھا اور وہ یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا کو ان کی میراث سے محروم کر دیا جائے؟

۵۔ اگر شریعت اسلامی میں پیغمبر کے وارثوں کا ان کی میراث سے محروم ہونا یقینی امر تھا تو کیوں پیغمبر کی بیٹی نے جن کی عصمت پر آیت تطہیر کا پیرہ ہے اپنے شعلہ ور خطبہ میں اس طرح فرمایا:

"یا بنی ابی قحافة أفی کتاب اللہ ان ترث أباک و لارث ابی؟ لقد جنت شیئاً فریاً افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ فنبذتموه و راء ظہورکم و ... و زعمتم ان لا خطلی و لارث من ابی و لارحم بیننا؟ افخصکم اللہ بأبایہ اخرج ابی منہا ام بل تقولون: ان اہل ملتین لایتوارثان؟ او لست أنا و ابی من اہل ملة واحدة ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عموہ من ابی و ابن عمی؟ فدونکہا مخطومة مرحولة تلقاک یوم حشرک

فنعلم الحكم الله و الزعيم محمد و الموعد القيامة و عند الساعة يخسر المبطلون" (۱)

اے قحافہ کے بیٹے! کیا کتاب خدا میں ایسا ہے کہ تو اپنے باپ سے میراث حاصل کرے اور میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں؟ تو نے تو عجیب بات کہی ہے کیا تو نے جان بوجھ کر خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور اسے نظر انداز کر دیا ہے اور یہ خیال کیا کہ میں اپنے بابا کی میراث حاصل نہیں کروں گی اور ہمارے اور ان کے درمیان خونی رشتہ نہیں ہے؟ کیا خدا نے اس سلسلے میں تمہارے لئے کوئی مخصوص آیت نازل کی ہے اور اس آیت میں میرے بابا کو وراثت کے قانون سے محروم کر دیا ہے یا یہ کہو کہ دو مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے سے میراث نہیں لیتے؟ کیا ہم اور ہمارے بابا ایک مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا تم قرآن کی تمام عام و خاص چیزوں میں میرے بابا اور ان کے چچازاد بھائی (علی ابن ابیطالب) سے زیادہ معلومات رکھتے ہو؟ لے اس مرکب کو جو مہار و زین کے ساتھ ہے جو قیامت کے دن تمہارے روبرو ہوں گے، واہ کیا خداوند عالم کا فیصلہ ہے اور کیا بہتر محمدؐ کی رہبری ہے میرا اور تمہارا وعدہ قیامت کے دن کے لئے ہے اور قیامت کے دن باطل عقیدے والے خسارے میں ہوں گے۔

کیا یہ صحیح ہے کہ اس شعلہ و خطبہ کے بعد ہم یہ احتمال دیں کہ وہ حدیث جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ صحیح اور محکم تھی؟ یہ کیسا قانون ہے کہ جو صرف پیغمبر کی بیٹی اور پیغمبر کے چچازاد بھائی سے مربوط ہو اور وہ اس خبر سے بے خبر ہوں اور ایک غیر معمولی انسان جس کا حدیث سے کوئی رابطہ و واسطہ نہ ہو اس سے باخبر ہو؟! اس بحث کے آخر میں چند نکات ذکر کرنا ضروری ہے۔

الف: حضرت فاطمہ کا حاکم وقت سے چار چیزوں میں اختلاف تھا۔

۱۔ پیغمبر اکرمؐ کی میراث۔

۲۔ فدک، جسے پیغمبر نے اپنی زندگی ہی میں فاطمہ کو دیدیا تھا، اور عربی زبان میں اسے "نحلہ" کہتے ہیں۔

۳۔ قرابتداروں کا حصہ، جس کا تذکرہ سورہ انفال کی آیت نمبر ۴۱ میں ہوا ہے۔

۴۔ حکومت اور ولایت۔

حضرت زہرا (س) کے خطبوں اور احتجاجوں میں ان چاروں امور کی طرف اشارہ ہوا ہے اسی وجہ سے کبھی لفظ میراث اور کبھی لفظ نحلہ استعمال ہوا ہے۔ ابن ابی الحدید نے (شرح نہج البلاغہ ج ۱۶، ص ۲۳۰) اس سلسلے میں تفصیلی بحث کی ہے۔

ب بعض شیعہ علماء مثلاً مرحوم سید مرتضیٰ نے حدیث "لانورث ماترکناہ صدقہ" کی ایسی تفسیر کی ہے جو حضرت فاطمہ کے میراث پانے کے منافی نہیں ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ لفظ "نورث" صیغہ معروف ہے اور "ما" موصول اس کا مفعول ہے اور لفظ "صدقہ" حال یا تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ایسی صورت میں حدیث کا معنی یہ ہوگا جو چیز بھی صدقہ کے عنوان سے چھوڑی جائے گی اسے میراث نہیں کہیں گے اور یہ بات واضح ہے کہ جو چیز پیغمبر کی زندگی میں صدقہ ہو گی وہ میراث نہیں بن سکتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پیغمبر اکرمؐ ہرگز کوئی چیز میراث کے طور پر نہیں چھوڑتے۔

لیکن یہ تفسیر بھی اشکال سے خالی نہیں ہے کیونکہ یہ بات صرف پیغمبر سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان جو اپنی زندگی میں کچھ مال وقف یا صدقہ کرے وہ میراث میں شمار نہیں ہوگا اور ہرگز اس کی اولادوں کو نہیں ملے گا چاہے پیغمبر ہو یا کوئی اور شخص ہو۔

ج: پیغمبر اسلامؐ کی پارہ جگر کے تمام کلام چاہے وہ شعلہ و خطبہ ہو، چاہے خلیفہ وقت سے بحث و مباحثہ ہو، ان سب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ان حالات سے بہت سخت ناراض تھیں اور اپنے مخالفین پر سخت غضبناک تھیں اور جب تک زندہ رہیں ان سے راضی نہ ہوئیں۔

حضرت فاطمہ زہرا (س) کا غضبناک ہونا

اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی کا ابوبکر سے احتجاج و مناظرہ کرنا بے نتیجہ رہا اور فدک حضرت زہرا کے ہاتھوں سے لے لیا گیا اور آپ دنیا سے بھی رخصت ہو گئیں مگر خلیفہ سے ناراض تھیں اور یہ بات تاریخی اعتبار سے اس قدر واضح و روشن ہے کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے اہلسنت کے مشہور محدث بخاری کہتے ہیں:

جب خلیفہ نے پیغمبر کی طرف حدیث کی نسبت دے کر فاطمہ کو فدک لینے سے روک دیا تو آپ خلیفہ پر غضبناک ہوئیں اور پھر ان سے گفتگو نہیں کیا یہاں تک کہ اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ (۱)

ابن قتیبہ اپنی کتاب "الامامة والسياسة" ج ۱ ص ۱۴ پر تحریر کرتے ہیں:

"عمر نے ابوبکر سے کہا چلو فاطمہ کے پاس چلیں کیونکہ ہم نے انہیں ناراض کر دیا ہے وہ لوگ حضرت زہرا کے گھر آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی لیکن آپ نے اجازت نہیں دی یہاں تک کہ حضرت علی کے ذریعے سے گھر میں داخل ہوئے لیکن زہرا نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا اور سلام کاجواب تک نہ دیا۔

انہوں نے بہت منت و سماجت کی اور یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے فدک انہیں کیوں نہیں دیا زہرا نے ان کے جواب میں کہا: میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ کیا تم نے پیغمبر سے نہیں سنا تھا کہ فاطمہ کی رضایت میری رضایت ہے اور اس کو غضبناک کرنا مجھے غضبناک کرنا ہے فاطمہ میری بیٹی ہے جو شخص بھی اُسے دوست رکھے گا گویا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے اسے راضی کیا گویا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے بھی زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا ہے؟ اس وقت دونوں (عمر اور ابوبکر) نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں پیغمبر سے ہم نے یہ باتیں سنی تھیں۔

زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں: میں خدا اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے غضبناک کیا ہے اور مجھے ناراض کیا ہے اور جب ہم پیغمبر سے ملاقات کریں گے تو تم دونوں کی شکایت کریں گے۔

ابوبکر نے کہا: میں تمہارے اور پیغمبر کے غضبناک ہونے پر خدا سے مانگتا ہوں، اس وقت خلیفہ رونے لگے اور کہا کہ خدا کی قسم میں ہر نماز کے بعد تمہارے لئے دعا کروں گا یہ کہنے کے بعد روتے ہوا

---

(۱) صحیح بخاری باب فرض الخمس ج ۵ ص ۵ و کتاب غزوات باب غزوات خبیر ج ۶ ص ۱۹۶ اس باب میں کہتے ہیں: اپنے باپ کے انتقال کے بعد فاطمہ چھ مہینہ زندہ تھیں اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کے شوہر نے شب کی تاریکی میں دفن کیا اور ابوبکر کو خبر بھی نہ دی۔

حضرت زہرا کے گھر سے باہر نکل گئے لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے انہوں نے کہا:

تم میں سے ہر شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی سے شب و روز بسر کر رہا ہے اور تم لوگوں نے مجھے ایسے کام میں لگا دیا ہے میں تمہاری بیعت کا محتاج نہیں ہوں مجھے منصب خلافت سے معزول کر دو۔ (۱)

اسلامی محدثین نے متفقہ طور پر اس حدیث کو پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے:

"فاطمہ بضعة منی فمن أغضبها أغضبني" (۲)

فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔

"فسلام اللہ علیہا یوم ولدت و یوم ماتت و یوم تبعث حیة"

(اللہ کا سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئیں اور جس دن انہوں نے وفات پائی اور جس دن اس دنیا سے اٹھائی جائیں گی)

---

(۱) جاحظ نے اپنے رسائل ص ۳۰۰ پر بہترین کلام اس سلسلے میں ذکر کیا ہے قارئین مزید معلومات کے لئے رجوع کر سکتے ہیں۔

(۲) اس حدیث کے حوالوں کے لئے الغدیر ج ۷ ص ۲۳۵-۲۳۲، مطبوعہ نجف کی طرف رجوع کریں۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

## ساتویں فصل

### حضرت علی علیہ السلام اور شوریٰ

پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد خلفاء ثلاثہ کا انتخاب ایک طریقے سے نہیں ہوا بلکہ خلفاء ثلاثہ میں سے ہر ایک خلیفہ الگ الگ طریقے سے منتخب ہوا، مثلاً ابوبکر انصار کے ذریعے چنے گئے جن کی تعداد سقیفہ بنی ساعدہ میں بہت زیادہ تھی اور مہاجرین سے زبردستی اور اختیاری دونوں صورتوں سے بیعت لی گئی، اور عمر کو ابوبکر نے رہبری کے لئے منتخب کیا اور عثمان اس شوریٰ کے ذریعے منتخب ہوئے جس میں کل چھ آدمی تھے اور اس کمیٹی کو دوسرے خلیفہ نے بنایا تھا۔

خلیفہ منتخب کرنے کے یہ مختلف طریقے اس بات پر گواہ ہیں کہ خلافت انتخابی امر نہیں تھا اور پیغمبر کی جانب سے کوئی ایسا حکم جاری نہ ہوا تھا کہ لوگ امام کا انتخاب کر لیں ورنہ پیغمبر کے انتقال کے بعد خلفاء کا مختلف طریقوں سے منتخب ہونا جو آپس میں ایک دوسرے سے مشابہت بھی نہیں رکھتے تھے وہ چن لئے جائیں اور پیغمبر کا حکم نظر انداز کر دیا جائے، اور تمام لوگ اپنی زبانوں پر تالے لگالیں اور اس طرح کے انتخابات پر کوئی اعتراض نہ کریں۔ یہ اختلاف اس بات پر گواہ ہے کہ اسلام میں رہبری اور امامت کا مرتبہ خدا کی جانب سے ایک انتصابی منصب ہے لیکن افسوس اس قوم کے بزرگوں نے اس مسئلے میں بھی، دوسرے مسائل کی طرح پیغمبر کی حدیثوں کو نظر انداز کر دیا ہے اور لوگوں کو یہ راہ دکھادی کہ امت کا رہبر خود امت ہی منتخب کرے اور چونکہ لوگوں کے ذریعے رہبر کا انتخاب ایک نئی چیز تھی اور اس روش کے ایجاد کرنے والوں کو کوئی تجربہ نہ تھا لہذا رہبر کا مختلف طریقوں سے انتخاب کیا گیا۔

ابوبکر نے حق نمک ادا کر دیا

ابوبکر کو مسند خلافت پر بیٹھانے کے لئے عمر نے بہت زیادہ کوششیں کیں اور اس کام سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ابوبکر کے مرنے کے بعد خلافت ان کے حق میں آئے کیونکہ وہ ابوبکر سے کچھ چھوٹے تھے امام علی علیہ السلام نے ابتدائے مینہی عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

"اچھی طرح اس کی مدد کرو کہ تمہیں ہی اس کا فائدہ ملے گا آج اس کے لئے بہترین راہ ہموار کرو تا کہ کل تمہیں واپس مل جائے" (۱)

ابوبکر نے بھی نمک حرامی نہیں کی، بیماری کے عالم میں جب کہ وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے عثمان کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ لکھو:

"یہ عبد اللہ بن عثمان کا عہد نامہ (۲) مسلمانوں کے لئے ہے جو دنیا کی زندگی کے آخری لمحات اور آخرت کے پہلے گام پر ہے اس وقت میں جب کہ مومن بہترین کام اور نیک چیزوں کی فکر مینہے اور کافر حالت تسلیم میں ہے۔

ابھی خلیفہ کا کلام یہیں پر پہونچا تھا کہ بے ہوش ہو گئے، عثمان نے یہ سوچ کر کہ وصیت نامہ مکمل ہونے سے پہلے خلیفہ مر گئے ہیں لہذا عہد نامہ کو خود اپنی طرف سے لکھ ڈالا، پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد خطاب کے بیٹے کو جانشین قرار دیا ہے۔

کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خلیفہ کو ہوش آگیا اور عثمان نے جو کچھ ان کی طرف سے لکھا تھا اس کو پڑھ کر سنایا ابوبکر نے عثمان سے پوچھا: تم نے میری وصیت کو کس طرح لکھا؟ انہوں نے جواب دیا: میں جانتا تھا کہ آپ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں لکھیں گے۔

اگر یہ واقعہ صرف نمائش کے لئے ہو تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ عثمان بھی عمر کے منتخب ہونے میں شامل تھے اور انہوں نے ایک خاص طریقے سے اپنے ارادے کو ظاہر کر دیا۔

مدتوں بعد وہ وقت آپہونچا کہ عمر نے حق کو پہچانا اور عثمان کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ منتخب کر دیا اور حق نمک ادا کر دیا۔

(۱) الامامة و السياسة ج ۱ ص ۱۲، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معنزی ج ۲ ص ۵، اسی مضمون سے ملتے ہوئے مضمون کے متعلق امیر المومنین نے خطبہ شمشقیہ (نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ) میں فرمایا ہے "الشد ماتشظرا ضرعیبا"  
(۲) ابوبکر کا نام ہے۔ الامامة و السياسة ج ۱ ص ۸۸۔

اسلام کا اہم افتخار ، جو آج بھی اپنی طرف محروم اور مظلوم ترین افراد کو جذب کر رہا ہے ہر طرح کی تبعیض اور قوم پرستی سے لوگوں کو دور رکھنا ہے اور اس کا ایک ہی شعار ہے کہ تم میں سب سے عظیم شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔

پیغمبر اسلام کے زمانے میں حکومت کے سپاہیوں اور کام کرنے والوں کی کوئی معقول و معین تنخواہیں نہیں تھیں اور ان کی ضروریات زندگی مال غنیمت سے پوری ہوتی تھیں وہ مال جو مسلمان مشرکوں سے جنگ کر کے حاصل کرتے تھے اس میں سے پانچواں حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں کے درمیان تقسیم ہوتا تھا اور مال غنیمت تقسیم ہونے وقت تبعیض یا حسب و نسب یا پیغمبر کا رشتہ دار کی رعایت نہیں کی جاتی تھی۔

خلیفہ اول کے زمانے میں بھی یہی طریقہ رائج تھا، لیکن خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ دستور تبدیل ہو گیا، اسلام کے روز بروز ترقی کرنے کا سبب یہ ہوا کہ خلیفہ وقت نے سپاہیوں اور کام کرنے والوں کی تنخواہوں کے لئے ایک خاص بندوبست کیا، لیکن افسوس کہ تنخواہ معین کرتے وقت معیار و میزان بجائے یہ کہ تقویٰ و پرہیزگاری، سیاسی و نظامی آگاہی، سابقہ خدمت وغیرہ ہو یا کم سے کم اسلام کو معیار قرار دیا جائے، حسب و نسب اور نژاد پرستی کو معیار قرار دیا گیا۔

اس اہم موضوع میں عرب کے سپاہی عجم کے سپاہیوں پر، عرب قحطان عرب عدنان پر، عرب مضر عرب ربیعہ پر، قریش غیر قریش پر، اور بنی ہاشم بنی امیہ پر مقدم تھے، اور پہلے گروہ والوں کی تنخواہ دوسرے گروہ والوں سے زیادہ تھی، مشہور مورخین مثلاً ابن اثیر، یعقوبی اور جرجی زیدان، نے اپنی اپنی تاریخ میں حکومت اسلامی کے سپاہیوں اور سرکاری نوکروں کی مختلف تنخواہوں کے اختلاف کو ذکر کیا ہے۔ (۱)

تنخواہوں کی رقموں کا مختلف ہونا تعجب خیز ہے مشہور و معروف مالدار عباس بن عبد المطلب کا سالانہ وظیفہ ۱۲ ہزار درہم تھا جب کہ ایک مصری سپاہی کا سالانہ وظیفہ ۳۰۰ درہم سے زیادہ نہ تھا۔

پیغمبر اسلام کی ہر ایک بیوی کا سالانہ وظیفہ ۶ ہزار درہم تھا جب کہ یمن کے ایک سپاہی کا سالانہ

(۱) تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۰۶، کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۱۶۸، تاریخ جرجی زیدان ترجمہ جواہر الکلام ج ۱ ص ۱۵۹ کے بعد ۔

وظیفہ ۴۰۰ درہم بھی نہ تھا، معاویہ اور اس کے باپ ابوسفیان کا سالانہ وظیفہ ۵ ہزار درہم تھا جب کہ مکہ کے ایک عام شخص جس نے ہجرت نہیں کیا تھا اس کا سالانہ وظیفہ ۶ سو درہم تھا خلیفہ نے اس عمل "نژاد پرستی" کو جسے قرآن اور رسول اسلام نے ممنوع قرار دیا تھا دوبارہ زندہ کر دیا اور اسلامی معاشرے کو اختلاف اور طبقہ بندی میں گرفتار کر دیا۔

زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اسلامی معاشرے میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا اور سیم و جواہر کی تلاش و جستجو کرنے والے اور دنیا پرست خلیفہ کی حمایت کے زیر نظر سیم و زر کی تلاش میں نکل پڑے اور محنت و مشقت کرنے والوں اور مزدوروں پر ظلم و زیادتی کا زمانہ شروع ہو گیا۔

خلیفہ وقت نے حاکموں اور دنیا پرستوں مثلاً سعد وقاص، عمر و عاص، ابوہریرہ، جیسے مالداروں کا مال پہلے ہی جمع کر لیا تھا اور ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہے کہ طبقاتی نظام اس سے زیادہ نہ پھیلے، لیکن افسوس چونکہ ان کا سب سے پہلا اقتصادی قدم غلط اور بے بنیاد اور بے وجہ برتری پر قائم تھا لہذا ان کا مال جمع کرنا سود مند ثابت نہ ہوا اور آئندہ کے رہبر کے تعیین کو جو ذاتاً نژاد پرست تھے آسان کر دیا اور ان کی نژاد پرستی کو اور مضبوط کر دیا۔

اس دور کے دولت مند افراد نے مالدار ہونے کی وجہ سے غلاموں کو خریدا اور انہیں کام کرنے میں آزاد کر دیا اور مجبور کیا کہ خود اپنی زندگی کی ضروریات کو بھی پورا کریں اور روزانہ یا ہر مہینے اپنے اپنے مالکوں کو کچھ رقم ادا کریں بیچارے غلام، صبح سے شام تک محنت کرتے اور اپنی جان کو گناتے تھے تاکہ تعیین شدہ رقم مالک کو ادا کرسکیں۔

خلیفہ سے ایک ایرانی کاریگر کی فریاد

فیروز ایرانی، جو ابو لؤلؤ کے نام سے مشہور ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، وہ اپنی زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے بعد مجبور تھا کہ روزانہ دو درہم مغیرہ کو ادا کرے، ایک دن بازار میں ابو لؤلؤ کی نگاہ خلیفہ دوم پر پڑی اس نے فریاد کی اور کہا: مغیرہ نے جو چیز مجھ پر معین کی ہے وہ میرے لئے بہت مشکل ہے، خلیفہ چونکہ اس کے کام سے



آگاہ تھے لہذا انہوں نے پوچھا: تم کیا کام جانتے ہو؟

اس نے جواب دیا: بڑھنی، نقاشی اور لوہار کا کام۔

خلیفہ نے بڑی بے توجہی سے کہا، اس کام کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔

میں نے سنا ہے کہ تم ایک ایسی چکی بنا سکتے ہو جو ہوا کے ذریعے چلے کیا تم ایسی ہی چکی میرے لئے بنا سکتے ہو؟ فیروز جو خلیفہ کی باتیں سن کر بہت زیادہ غیظ مینتھا اشارتاً انہیں قتل کی دھمکی دی اور اس کا جواب دیا کہ میں تمہارے لئے ایسی چکی بناؤں گا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہ ہوگی خلیفہ ایرانی کاریگر کی اس جسارت سے بہت ناراض ہوئے اور جو شخص ان کے ہمراہ تھا اس سے کہا: اس ایرانی غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔

وہ اپنی خلافت کے آخری دنوں میں اس بات سے آگاہ تھے کہ اسلامی معاشرے کا مزاج بہت آلودہ ہو گیا ہے اور ظلم و ستم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے لہذا انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو ایک سال لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی مشکلات کو حل کروں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بہت سی شکایتیں ان تک نہیں پہنچتی ہیں، ڈاکٹر علی وردی کے نقل کرنے کے مطابق خلیفہ دوم نے کہا:

"میرا تبعیض اور بعض کو بعض پر مقدم کرنے کا مقصد صرف تالیف قلوب تھا (لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا یا اسلام کی طرف مائل کرنا) اگر میں آنے والے نئے سال تک زندہ رہا تو تمام لوگوں کے درمیان مساوات قائم کروں گا اور تبعیض کو تمہارے درمیان سے ختم کر دوں گا اور کالے، گورے، عرب، عجم سب کو مساوی قرار دوں گا جیسا کہ ابوبکر اور پیغمبر نے کیا تھا"۔ (۱)

مگر خلیفہ زندہ نہ رہے اور موت نے ان کے اور ان کی آرزوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا اور فیروز کے خنجر نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، لیکن خلیفہ سوم نے ان کے طبقاتی نظام کو کو اور بھی زیادہ کر دیا اور اسلامی حکومت کو کینہ پروروں کی آماجگاہ قرار دیدیا۔

فیروز کا خنجر مزدوروں کے غیظ و غضب کی علامت تھا اگر خلیفہ فیروز ایرانی کے ہاتھوں قتل نہ ہوتے تو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ خنجر ان کی طرف بڑھتے۔

ہمارے مورخین و مقررین یہ تصور کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں طبقاتی اختلاف اور نژاد پرستی

#### (۱) نقش و عاظ در اسلام ص ۸۴۔

کی بنیاد عثمان کی حکومت میں پڑی ہے جب کہ عثمان کے زمانے میں نژاد پرستی عروج پرتھی اور سبب بنی کہ لوگوں نے ہر طرف سے ان کی حکومت کے خلاف قیام کیا، لیکن اس کی بنیاد یہی خلیفہ دوم کے زمانے میں رکھی گئی۔ جی ہاں، پیغمبر اسلام کے بعد سب سے پہلے جس نے اس آگ کو روشن کیا اور اس کا دھواں خود اس کی اور دوسروں کی آنکھوں میں گیا وہ خلیفہ دوم تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے:

بہت غلط کام ہے کہ عرب ایک دوسرے کو قید کریں جب کہ خداوند عالم نے عجم کی وسیع و عریض سرزمین کو اسیروں کے لئے بنایا ہے۔ (۱)

اور اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی شریعت میں تصرف کیا اور کہا:

عجمیوں کی اولاد اس وقت اپنی اپنی میراثیں لے سکتی ہیں جب وہ عرب کی زمین پر پیدا ہوئی ہوں۔ (۲)

ان کی نژاد پرستی کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے عجم کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں دی اور اگر فیروز مغیرہ کا غلام مدینے میں زندگی بسر کر رہا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے پہلے سے اجازت لی تھی۔ (۳)

یہ تبعیض اور اسی طرح کی دوسری چیزیں سبب بنیں کہ خلیفہ تین ایرانیوں فیروز، شہزادہ ہرمزان اور جفینہ جو ابو لؤلؤ کی بیٹی تھی، کی سازش سے اپنی جان کھو بیٹھیں، وہ فیروز کے خنجر سے زخمی ہوئے اور تین دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

خیال کیا جاتا تھا کہ خلیفہ حق کی راہ سے بٹنے کا چونکہ تلخ مزہ چکھ ہی لیا ہے لہذا اس حساس وقت میں جب کہ ان کی زندگی کا چراغ خاموش ہونے والا ہے صحیح فکر کریں گے اور خطرناک ذمہ داری کو قبول نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے لئے بہترین و شائستہ رہبر کا انتخاب کریں گے

لیکن افسوس کہ انہوں نے ایسے حالات میں ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جس کے ذریعے سے اسلامی



- (۱) تاریخ جرجی زیدان ج ۴ ص ۳۵۔  
 (۲) النص والاجتہاد ص ۶۰ ، اجتہاد نص کے مقابلے میں (مترجم) ص ۲۷۵۔  
 (۳) مروج الذہب ج ۱ ص ۴۲۔

معاشرہ کا بہترین و شائستہ رہبر سے محروم ہوجانا یقینی تھا اور اس کے ذریعے قوم پرست شخص کا، کہ بقول خلیفہ دوم ، اگر حکومت کی باگ ڈور کو اپنے ہاتھوں میں لے لے تو اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کے کاندھوں پر سوار کرے گا، منتخب ہونا مسلم تھا۔

ان تمام مسائل سے آگاہی کے بعد ایک کمیٹی بنانے کا حکم دیدیا، وہ شوریٰ (کمیٹی) جس کے متعلق امام علیہ السلام فرماتے ہیں: "فيا لله وللشورى" (خطبہ شقشقیہ) (بہلا خدا کے لئے مجھے شوریٰ سے کیا واسطہ، مترجم) بغیر کسی شوری کے طرف داری کے تمام واقعات کو یہاں نقل کر رہے ہیں اور پھر اس تاریخی واقعہ کے بارے میں جس نے بہت زیادہ تلخی اور ناکامی کو جنم دیا جو سبب بنا کہ بنی امیہ سو سال تک اسلامی حکومت پر قابض رہیں اور اس کے بعد بنی عباس کو بھی اسے اپنی جاگیر بنالیں، فیصلہ کریں گے۔

شوریٰ کا انتخاب

خلیفہ دوم کا آخری وقت تھا اور ان کو خود بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں ہیں ہر طرف سے پیغامات آرہے تھے کہ اپنا جانشین منتخب کیجئے، عائشہ نے حذیفہ کے بیٹے عبداللہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ محمد کی امت کو بغیر چرواہے کے نہ چھوڑو اور جلد سے جلد اپنا جانشین منتخب کرو، کیونکہ میں فتنہ و فساد سے بہت ڈرتی ہوں۔ (۱)

عمر کے بیٹے نے بھی اپنے باپ سے یہی باتیں کہیں اور کہا: اگر تم اپنے گلہ کے چرواہے کو بلاؤ تو کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ وہ واپس جانے تک کسی کو اپنا جانشین قرار دے، تاکہ بکریوں کے جھنڈ کو بھیڑیوں سے محفوظ رکھے؟ اور جو لوگ خلیفہ کی عیادت کرنے آئے تھے ان لوگوں نے بھی اسی بات کو خلیفہ سے کہا، بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اپنے بیٹے عبد اللہ کو اپنا جانشین بنا دیجئے، خلیفہ اپنے بیٹے عبداللہ کی بے لیاقتی سے باخبر تھے لہذا عذر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ خاندان خطاب کے لئے بس یہی کافی ہے کہ ایک آدمی خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ چھ افراد جن سے پیغمبر اسلام مرتے دم راضی تھے ان کو بلاجائے، تاکہ مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کرنے کی ذمہ داری ان کے حوالے کی جائے، وہ چھ افراد یہ

(۱) الامامة والسياسة ج ۱ ص ۲۲۔

ہیں: علی - ، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد وقاص، عبدالرحمن بن عوف۔ جب یہ لوگ خلیفہ کے قریب پہنچے تو خلیفہ نے غصہ کے عالم میں ان کی طرف دیکھا اور کہا تم لوگ ضرور چاہتے ہو کہ میرے بعد اس حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لو، پھر اس نے حضرت علی کے علاوہ ہر ایک سے گفتگو کی اور دلیلوں کا ذکر کرتے ہوئے ان میں سے کسی ایک کو بھی خلافت کے منصب کے لئے شائستہ نہیں جانا، پھر اس وقت انہوں نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور حضرت کی پوری زندگی میں اس نے کوئی ضعیف پہلو سوائے اس کے کہ آپ شوخ مزاج ہیں نہیں پایا اور کہا کہ اگر یہ حکومت کی باگ ڈور سنبھالیں تو لوگوں پر حق اور واضح حقیقت کے ساتھ رہبری کریں گے۔ اور آخر میں عثمان سے مخاطب ہو کر کہا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قریش نے تمہیں خلافت کے لئے منتخب کر لیا ہے اور تم نے بنی امیہ اور بنی ابی معیط کو لوگوں پر مسلط کر دیا ہے اور بیت المال کو ان کے لئے مخصوص کر دیا ہے اور اس وقت عرب کے مخالف گروہ تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہیں تمہارے گھر کے اندر ہی قتل کر دیں گے، پھر مزید کہا کہ اگر یہ واقعہ رونما ہو تو میری بات کو یاد کرنا۔ پھر انہوں نے شوریٰ کے اراکین کی طرف دیکھا اور کہا اگر تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو خلافت کے درخت کا پھل تم اور تمہارے بچے کھائیں گے، لیکن اگر آپس میں ایک دوسرے سے حسد کیا اور ایک دوسرے کی مخالفت کی تو معاویہ اس خلافت کو تم سے چھین لے گا۔

جب عمر کی گفتگو ختم ہو گئی تو انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ جب مجھے دفن کر کے واپس آنا تو پچاس مسلح افراد کے ساتھ ان چھ افراد کو خلافت کے لئے دعوت دینا اور سب کو ایک گھر میں جمع کرنا اور مسلح افراد کو دروازے پر حفاظت کے لئے کھڑا کرنا تاکہ یہ آپس میں کسی ایک کو خلافت کے لئے منتخب کر لیں اگر ان میں سے پانچ لوگوں نے موافقت کیا اور ایک آدمی نے مخالفت کیا تو اسے قتل کر دینا اور اگر چار لوگوں نے موافقت کی اور دو آدمیوں نے مخالفت کی تو ان دونوں کو قتل کر دینا اور اگر یہ گروہ دو حصوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائے تو فیصلہ اس گروہ کے حق میں ہوگا جس میں عبد الرحمن ہو اس وقت ان تین افراد جو کہ موافق ہیں انہیں خلافت کی دعوت دینا اور اگر موافقت نہ ہوں تو دوسرے گروہ کو قتل کر دینا اور اگر تین دن گذر جائے اور شوریٰ کے درمیان صحیح نظریہ حاصل نہ ہو تو ان چھ آدمیوں کو قتل کرنا اور مسلمانوں کو آزادی دیدینا تاکہ آئندہ وہ اپنا رہبر و خلیفہ منتخب کر لیں۔

جب لوگ عمر کو دفن کر کے واپس آئے تو محمد بن مسلمہ نے پچاس سپاہیوں کو جو ہاتھوں میں ننگی تلواریں لئے تھے ان کے ہمراہ شوریٰ کے چھ افراد کو ایک گھر میں جمع کیا اور پھر ان لوگوں کو عمر کے حکم سے باخبر کیا، سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ طلحہ جن کا رابطہ مولائے متقیان حضرت علی سے اچھا نہ تھا عثمان کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ علی علیہ السلام اور عثمان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اسے خلافت کے لئے منتخب نہیں کرے گا، لہذا بہتر ہے کہ عثمان کی موافقت میناس کی طرف چلا جائے تاکہ علی کی موافقت نہ کرسکے، طلحہ اور حضرت علی کے درمیان مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی ابوبکر کی طرح قبیلہٴ تیم سے تھا کیونکہ ابوبکر کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد قبیلہ بنی تیم اور خاندان بنی ہاشم کے درمیان روابط خراب ہو گئے تھے اور یہ اختلاف بہت دنوں تک باقی رہا۔

زبیر حضرت علی کا پھوپھی زاد بھائی اور علی علیہ السلام اس کے ماموں زاد بھائی تھے، چونکہ وہ آپ کا رشتہ دار تھا لہذا امام کی طرف آگیا اور سعد و قاصد عبد الرحمن کی طرف چلا گیا کیونکہ وہ دونوں قبیلہ زہرہ سے تھے نتیجتاً شوریٰ کے عہدہ داروں میں سے صرف تین آدمی باقی بچے اور ان میں سے ہر ایک کے پاس دو ووٹ تھے اور کامیابی اس کے لئے تھی جس کی طرف ان تینوں میں سے ایک آدمی مائل ہو۔

اس وقت عبد الرحمن، حضرت علی اور عثمان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنا حق دوسرے کو دیدے؟

دونوں خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا، عبد الرحمن نے پھر کہا میں تم لوگوں کو گواہ بنا کر اپنے کو خلافت کے اس مسئلہ سے دور کرتا ہوں تاکہ تم میں سے کسی ایک کو خلافت کا حقدار بنانوں۔

پھر حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے میں تمہاری بیعت کرونگا اور تم خدا کی کتاب اور سنت پیغمبر پر عمل کرنا اور شیخین کی سیرت کی پیروی کرنا۔

حضرت علی نے اس کی آخری شرط کو قبول نہیں کیا اور کہا میں تمہاری بیعت کو قبول کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ کتاب خدا اور سنت پیغمبر اور اپنے علم و اجتہاد کے مطابق عمل کروں۔

جب عبدالرحمن نے علی کا منفی جواب سنا تو عثمان کو مخاطب کر کے وہی باتیں دہرائیں، عثمان نے فوراً جواب دیا، ہاں، میں قبول کرتا ہوں۔

اس وقت عبدالرحمن نے اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ پر رکھا اور اسے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا اور اس جلسہ کا نتیجہ مسلمانوں کو جو گھر کے باہر منتظر تھے سنایا گیا۔

شوریٰ کے اس جلسہ کا نتیجہ ایسا نہ تھا جس سے حضرت ابتدا سے واقف نہ تھے، یہاں تک کہ ابن عباس نے بھی شوریٰ کے جلسہ کی کاروائی سننے کے بعد حضرت کی خلافت سے محرومی کو تیسری مرتبہ اعلان کیا تھا لہذا جب عوف کے بیٹے نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے بہترین نقش پیش کیا اس وقت حضرت علی نے عبد الرحمن کو مخاطب کر کے کہا :

تم نے اس امید کے ساتھ کہ عثمان آخر وقت میں خلافت تمہارے حوالے کر دیں گے اس کو منتخب کیا جس طرح سے عمر نے بھی ابوبکر کو چنا تھا مگر مجھے امید ہے کہ خداوند عالم تم دونوں کے درمیان سخت اختلاف پیدا کر دے گا۔

مورخین نے لکھا ہے کہ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ عوف کے بیٹے اور عثمان کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہو گیا یہاں تک کہ عبدالرحمن کا انتقال ہو گیا۔ (۱)

یہ خلیفہ دوم کی شوریٰ (چھ آدمیوں کی کمیٹی) کے واقعہ کا خلاصہ تھا، اس کے پہلے کہ ہم تاریخ اسلام کے اس واقعہ پر اپنا نظریہ پیش کریں حضرت علی علیہ السلام کے نظریات کو بیان کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام خطبہ شقشقیہ (نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ) میں ارشاد فرماتے ہیں :

"حتی اذا مضی لسبیلہ جعلہا فی جماعۃ زعم انی احبہم فی اللہ و للشوری! متی اعترض الریب فی الاول منہم حتی صرث

اقرنُ الی ہذہ النظائر، لکنی اسفنتُ إذ أسقوا و طرتُ اذ طاروا فصغی رجل منهم لِضِغْنِهِ و مالَ الآخرُ لِصِبْرِهِ مع بن و بن" جب عمر کا انتقال ہوا تو خلافت کو شوری کے حوالے کر دیا اور یہ خیال کیا کہ میں بھی اسی شوری کا ایک فرد ہوں خدایا اس شوری کے متعلق تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ کب میری حقانیت کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا اس وقت جب میں ابوبکر کے ساتھ تھا یہاں تک کہ آج مینان لوگوں کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا گیا

(۱) شوری کے متعلق تمام معلومات شرح نہج البلاغہ ج ۱ ص ۱۸۸۔ ۱۸۵ سے تلخیص کے ساتھ نقل ہونی ہے۔

ہوں؟ لیکن مصلحت کی وجہ سے میں نے ان کی موافقت کر دی اور شوریٰ میں شریک ہوا، لیکن اسی شوری کے ایک ممبر نے مجھ سے کینہ رکھنے کی وجہ سے میری کھلم کھلا مخالفت کی اور خلیفہ سے رشتہ داری کی وجہ سے اس کے پاس چلا گیا اور دو افراد وہ جن کا نام لینا بھی برا ہے (طلحہ اور زبیر) نہج البلاغہ میں عمر کی شوری کے متعلق اس سے زیادہ اور مطالب نہیں ہیں مگر قارئین کی معلومات کے لئے ان کے جرائم اور جنایت ظلم و بربریت، ان کی بدترین سازشوں اور خلیفہ کی خود غرضیوں سے لوگوں کو باخبر کرنے کے لئے چند نکتے یہاں بیان کر رہے ہیں۔

عمر کی شوریٰ پر ایک نظر

اس تجزیہ میں حساس اور اہم مسئلوں کا ذکر کریں گے اور جزئی اور غیر مہم نکات سے پرہیز کریں گے۔

- ۱۔ مختلف گروہوں نے خلیفہ دوم سے جو یہ گذارش کی کہ اپنا جانشین منتخب کیجئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام لوگوں نے فطری طور پر یہ درک کیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں اسلامی معاشرہ کے لئے اپنا جانشین معین کرے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو ممکن ہے پورے معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے (۱) اور اس راہ میں بہت زیادہ خون بہایا جائے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت کے دانشمند کس طرح سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین معین نہیں کیا؟
- ۲۔ خلیفہ کا جانشین معین کرنے کے لئے حکم دینا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد شوریٰ کی حکومت تشکیل دینا بے بنیاد تھا اور اس طرح کے کسی حکم کا وجود نہ تھا ورنہ کس طرح ممکن ہے کہ شوریٰ بنانے سے متعلق پیغمبر اسلام ﷺ کا صریح حکم کے ہوتے ہوئے خلیفہ دوم کے جانشین منتخب کرنے کی پیشنہاد کی جائے؟

(۱) لا تدعُ امةً محمد بلاراع استخلف علیہم و لاتدعُہم بعدک بملا فانی احشی علیہم الفتنة، الغدير ج ۷ ص ۱۳۳ مطبوعہ بیروت، منقول از الامامة والسياسة ج ۱ ص ۲۲۔

حکومت شوریٰ یا اس سے ہٹ کر کہ امام کا تعین خداوند عالم کی طرف سے بہترین شیوہ حکومت ہے جس کو انسان منتخب کر سکتا ہے ایک ایسا امر ہے جو آج تمام لوگوں کی زبانوں پر ہے اور اس کے ماننے والے بہت بڑھا چڑھا کر اس کی تعریف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ اسلام میں حکومت کی اساس یہی ہے (یعنی یہی اصلی حکومت ہے) اور پیغمبر کی یہی حکومت شوریٰ ہے اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں اس طرح کی حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے۔

کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کے دوست و اصحاب سب نے غلطی اور اشتباہ کیا ہے اور پیغمبر کے حکم کو نظر انداز کر دیا ہے؟

۳۔ عمر نے لوگوں کی درخواست کا جواب دیتے ہوئے کہا:

"اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو اس کو میں اپنا جانشین منتخب کرتا کیونکہ مینے پیغمبر سے سنا ہے کہ وہ اس امت کا امین ہے اور اگر سالم، ابو حذیفہ کا مولا زندہ ہوتا تو میں اسے اپنا جانشین بناتا، کیونکہ مینے پیغمبر سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: وہ خدا کا دوست ہے۔"

وہ ایسے وقت میں بجائے اس کے کہ زندوں کی فکر کرتے مردوں کی فکر میں غرق تھا کہ یہ مردہ پرستی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بے توجہی کی علامت ہے جو ان کے زمانے میں زندہ تھے۔

بہر حال، اگر ابو عبیدہ اور سالم کے انتخاب کا ملاک و معیار یہ تھا کہ پیغمبر نے ان لوگوں کو امت کا امین اور خدا کا دوست

کہا تھا، تو پھر عمر نے ابوطالب کے بیٹے کو کیوں یاد نہیں کیا؟ جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا:  
 "عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ" (۱) یعنی علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔  
 حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور ان کے طیب و طاہر مزاج، ان کے بے نظیر فیصلوں اور ان کی بہادری،  
 کتاب و سنت پر ان کا علم و غیرہ سے وہ دوسروں سے زیادہ باخبر تھے پھر کیوں انہوں نے حضرت علی کا نام نہیں لیا اور  
 مردوں کو یاد کرنے لگے جن کا مشغلہ دوسروں کے ساتھ کینہ اور بغض و حسد کے علاوہ کچھ اور نہ تھا؟

(۱) یہ حدیث محدثین اہل سنت سے بطور متواتر نقل ہوئی ہے۔ الغدیر ج ۳ ص ۱۵۹-۱۵۶، مطبوعہ نجف اور ص ۱۸۰-۱۷۶،  
 مطبوعہ بیروت کی طرف مراجعہ کریں۔

۴۔ اگر امامت کا مقام اور منصب ایک الہی مقام اور رسالت کے فرائض کو آگے بڑھانا ہے تو امام کو پہچاننے کے لئے نص  
 الہی کا پابند ہونا چاہئے، اور اگر مقام امامت، مقام اجتماعی ہے تو اس کی پہچان کے لئے ضروری ہے کہ عمومی افکار  
 کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن امام کا انتخاب اس شوریٰ کے ذریعے جس کے ممبران خود اپنی طرف سے خلیفہ نے  
 معین کئے ہوں، نہ نص کی پیروی ہے اور نہ ہی افکار عمومی کا احترام اگر ضروری ہے کہ آنے والے خلیفہ کا انتخاب  
 خود موجودہ خلیفہ کرے تو پھر اس کام کو چھ آدمیوں پر مشتمل شوریٰ کے حوالے کیوں کیا۔  
 اہل سنت کے نظریہ کے مطابق ضروری ہے کہ امام اجتماع امت یا اہل حل و عقد کے ذریعے منتخب ہو اور آنے والے خلیفہ  
 کی نظر کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن نہیں معلوم کیوں وہ لوگ اس کام کو صحیح جانتے ہیں اور چھ نفری شوریٰ کی تائید  
 کو لازم الاجراء سمجھتے ہیں۔

اگر امام کو منتخب کرنا خود امت کاحق اور لوگوں کے اختیار میں ہے تو خلیفہ وقت نے کس دلیل سے اس چیز کو لوگوں  
 سے سلب کر لیا، اور شوریٰ کے حوالے کر دیا جس کے ممبران کو خود اس نے معین کیا تھا؟  
 ۵۔ کسی بھی طریقے سے بہ بات واضح نہیں ہے کہ شوریٰ کے ممبران کی تعداد صرف چھ آدمیوں میں کیوں منحصر تھی،  
 اگر ان لوگوں کو منتخب کرنے کی علت یہ تھی کہ رسول خدا (ص) انتقال کے وقت ان لوگوں سے راضی تھے، تو یہی  
 ملاک و معیار عمار، حذیفہ یمانی، ابوذر، مقداد، ابی بن کعب وغیرہ پر بھی ثابت ہوتا ہے۔

مثلاً پیغمبر (ص) نے عمار کے بارے میں فرمایا:

"عمارُ مع الحقِّ مع الحقِّ معہ یدور معہ اینما دار" (۱)

عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ جاتے ہیں حق ان کے ساتھ جاتا ہے اور ابوذر کے بارے میں  
 فرماتے ہیں۔

(۱) الغدیر ج ۹ ص ۲۵ مطبوعہ نجف۔

"ما اظلت الخضرای و لا اقلت الغبرای علی ذی لہجة اصدق من ابی ذر" (۱)

زمین نے کسی ایسے کا بار نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔  
 ایسے باصفات حضرات کے وجود کے بعد کیوں عمر نے ان کو شوریٰ کے ممبران میں شامل نہیں کیا، اور ایسے افراد کو  
 منتخب کیا جن میں سے اکثر حضرت علی علیہ السلام کے مخالف تھے ان میں سے صرف ایک شخص حضرت علی علیہ  
 السلام کا چاہنے والا تھا اور وہ زبیر تھے اور باقی چار لوگ امام کے سخت مخالف تھے اگرچہ زبیر بھی آخر میں مولائے  
 کائنات کے لئے مضر ثابت ہوئے، کیونکہ زبیر جو ان دنوں خود کو حضرت علی کا اپنا ہمعیا و مثل نہیں سمجھتے تھے اور  
 آپ کے ساتھ تھے لیکن آخر میں قتل عثمان کے بعد خلافت کا دعویٰ کرنے لگے۔

اگر شوریٰ کے لئے چنے جانے کا معیار جنگ بدر واحد میں شریک ہونا اور مہاجر ہونا تھا تو یہ معیار تو دوسروں پر بھی  
 صادق آتا تھا، تو پھر ان کے درمیان سے کیوں اس گروہ کے لئے لوگوں کو منتخب نہیں کیا گیا؟

۶۔ خلیفہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو شوریٰ کے لئے اس لئے منتخب کیا ہے کہ پیغمبر اسلام انتقال کے وقت ان  
 سے راضی تھے، جب کہ خود انہوں نے شوریٰ کے ممبران کے بارے میں طلحہ کو دوسرے انداز سے پہچنوا یا تھا، اور ان  
 سے کہا تھا کہ تم نے آیت حجاب نازل ہوتے وقت ایسی بات کہی تھی کہ پیغمبر تجھ پر غضبناک ہوئے تھے اور وفات کے

دن تک تم سے ناراض تھے۔

اب خود فیصلہ کریں کہ ان دونوں نظریوں میں سے کس کو قبول کیا جائے؟  
خلیفہ نے شوریٰ کے ممبران کے انتقاد میں ایسی باتیں کہیں کہ جن میں سے اکثر خلافت کیا شوریٰ کا ممبر ہونے کی صلاحیت کے بھی منافی تھی، مثلاً زبیر کے بارے میں کہا کہ تم ایک دن انسان، اور ایک دن شیطان ہو، کیا ممکن ہے کہ ایسا شخص شورائے خلافت میں شریک ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ قرار پائے؟ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ شوریٰ کے جلسے کے وقت شیطانی نیت رکھ کر جلسہ میں شریک ہوتا تو اس کی شیطانی فکر کا نتیجہ کیا ہوتا؟  
اور انہوں (عمر) نے عثمان کے بارے میں کہا: اگر تم خلیفہ بنے تو بنی امیہ کو لوگوں پر مسلط کر دو گے و

(۱) محدثین فریقین نے اس حدیث کو متفقہ طور پر نقل کیا ہے اور ہم نے اپنی کتاب "شخصیتہائے اسلامی شیعہ" ص ۲۲۰، میناس کے حوالے کو نقل کیا ہے۔

.... ایسا شخص جو اس قسم کی طینت رکھتا ہو اور رشتہ داری کی بناء پر حق سے منحرف ہوجائے تو کیا یہ شخص شورائے خلافت کے ممبر بننے کی لیاقت و صلاحیت رکھتا ہے؟ یا امت کے لئے خلیفہ کا تعیین کرے؟  
۷۔ خلیفہ کو یہ علم کیسے ہوا کہ عثمان کو خلافت کے لئے چنا جائے گا اور اپنی قوم کو لوگوں پر مسلط کرے گا اور ایک دن وہ آئے گا جب لوگ اس کے خلاف قیام کریں گے؟ (اور پھر ان سے یہ بھی کہا کہ اس موقع پر مجھے یاد کرنا)۔  
خلیفہ نے یہ فراست و دانائی یاغیب کی باتوں کو کہاں سے حاصل کیا تھا؟ کیاس کے علاوہ کچھ اور ہے کہ انہوں نے خلافت کے لئے شوریٰ کے ممبران کا اس طرح انتخاب کیا تھا کہ عثمان کا خلافت کے لئے منتخب ہوجانا اور علی کو حتماً خلافت سے محروم ہو جانا یقینی تھا۔  
۸۔ عمر بے شمار کوششوں کے باوجود امام علی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی عیب تلاش نہ کرپائے اور ایسی گفتگو کی کہ بعد میں عمر و عاص نے اسے بہانہ بنایا اور کہا علی شوخ مزاج تھے۔ (۱)  
عمر نے حضرت کے کشادہ سینے اور معاف کرنے اور امور مادی کو حضرت کی طرف سے ناچیز شمار کرنے کو شوخ مزاجی سے تعبیر کیا ہے وہ چیز جو ایک رہبر کے پاس ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ حق کے اجراء کرنے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے میں مصمم ارادہ رکھتا ہو اور حضرت علی اس خصوصیت کی اعلیٰ مثال تھے اور خود خلیفہ دوم نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی تو لوگوں کی واضح و آشکار حق کے ساتھ رہبری کرو گے۔ ۹۔ عمر نے عبد الرحمن بن عوف کو کیوں معیار قرار دیا اور کہا کہ اگر دونوں کی رائے مساوی ہو تو اس گروہ کو مقدم کرنا جس میں عبد الرحمن بن عوف ہو؟  
ممکن ہے یہ کہا جائے کہ خلیفہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ مساوی رائے ہونے کی صورت میں ضروری تھا کہ اس مشکل کو حل کیا جائے اور خلیفہ نے عبد الرحمن کو یہ فیصلہ کا حق دے کر اس مشکل کو برطرف کردیا۔

(۱) امام - نے اس تہمت کو عمر و عاص سے نقل کیا ہے اور اس طرح سے جواب دیا ہے۔ "عجباً لابن النابغۃ یزعم لابل الشام ان فی دُعابة و ان امرؤ تلعبا... لقد قال باطلا و نطق اثمًا، نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۸۲۔"

اس کا جواب بالکل واضح ہے کیونکہ عبد الرحمن بن عوف کو فیصلہ کرنے کا حق دینا عثمان کی کامیابی کو مستحکم کرنے کے علاوہ کچھ اور نہ تھا کیونکہ عبد الرحمن عثمان کا بہنوئی تھا لہذا فیصلہ کرتے وقت اپنی رشتہ داری کو کبھی فراموش نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اگر فرض بھی کر لیں کہ وہ اچھا انسان تھا تب بھی رشتہ داری کا اثر نہ چاہتے ہوئے بھی پڑ جاتا ہے۔

عمر اس مشکل کو برطرف کرنے کے لئے دوسرے گروہ کی رائے کو فیصلہ کن رائے قرار دے سکتے تھے کہہ سکتے تھے کہ اگر دونوں گروہ ایک ہی رائے پر متفق ہوں۔ تو آخری رائے ان لوگوں کی ہوگی جس رائے سے پیغمبر کے پاکیزہ اصحاب راضی ہوں، نہ کہ عبد الرحمن کی رائے جو کہ عثمان کا بہنوئی اور سعد و قاص کا عزیز تھا۔

۱۰۔ عمر نے جب کہ وہ درد کی وجہ سے بے حال تھے وہاں پر موجود افراد سے کہا کہ میرے بعد تم لوگ آپس میں اختلاف نہ کرنا اور تفرقہ بازی سے پرہیز کرنا کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو معاویہ خلافت کو لے لیگا اور تم سے حکومت

کو چھین لے گا، اسکے باوجود عبدالرحمن کی رائے کو فیصلہ کن قرار دیا جو عثمان کا رشتہ دار تھا، عثمان اور معاویہ بنی امیہ کے نجس درخت کے دو پھل ہیں اور عثمان کی خلافت معاویہ کی حکومت کے لئے استحکام کا باعث بنی تھی۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ خلیفہ کبھی حاکموں کے اموال کو لے کر ان کے منصب سے معزول کر دیتا تھا مگر کبھی بھی معاویہ کی حکومت میں دخل اندازی نہیں کی اور اسے مال جمع کرنے اور شام میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا تھا، جب کہ یہ جانتا تھا کہ وہ ایک عام حاکم کی طرح (حاکموں کی روش کے مطابق) اپنے فرائض کو انجام نہیں دیتا ہے اور اس کا دربار، قیصر و کسریٰ کے نمائندوں سے کم نہیں ہے۔ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک پلاننگ تھی اور اس کام کا مقصد بنی امیہ کے لئے زمینہ فراہم کرنا تھا جو اسلام آنے سے پہلے سے ہی بنی ہاشم کے خونی دشمن تھے؟ جی ہاں، ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر بنی ہاشم مرکز اسلام "مدینہ" میں ایک طاقت بن کر ابھرے اور لوگ ان کے ماننے والے ہو گئے تو ایک بیرونی طاقتور حکومت ہمیشہ ان کے لئے مزاحمت کا سبب ہوگی، چنانچہ ایسا ہوا بھی۔

۱۱۔ عمر نے اپنی عجز و انکساری ظاہر کرتے ہوئے کہا: میرے بیٹے عبداللہ کورائے نہ دینا کیونکہ اس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے سکے، ان تمام چیزوں کے باوجود اسے شوریٰ کا مشاور قرار دیا اور کہا جب شوریٰ کے ممبران تین مساوی رائے رکھتے ہوں تو طرفین میرے بیٹے عبد اللہ کی بات کو قبول کریں لیکن ہر گز یہ اجازت نہ دی کہ حسن بن علی اور عبد اللہ بن عباس شوریٰ کے ممبر یا اس کے مشاور ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ جلسہ میں آزاد سامعین کی طرح آنا چاہیں تو شرکت کر سکتے ہیں۔ (۱)

۱۲۔ اصولی طور پر کیا ہوجاتا اگر عمر، ابوبکر کی طرح علی کو جانشینی کے لئے منتخب کرتے اور اسی طرح بہت سی خرابیوں کو روک سکتے دیتے؟

اس صورت میں بنی امیہ، معاویہ سے مروان تک نہ سرکشی کی قدرت رکھتے، اور نہ اس کی جرأت اور رکھتے، جاگیر کا مسئلہ، بیت المال کو غارت کرنا، لوگوں کے کمزور اور بے بنیاد اعتقاد، حاکم وقت کی کوتاہیاں، اور جاہلیت کے آداب و رسوم کا مستحکم ہونا جس نے اسلام پر ضرب لگائی، یہ تمام واقعات ہر گز رونما نہ ہوتے۔ امام کی بے مثال عقلی، جسمی اور اخلاقی قوت اور اس کے علاوہ تمام ہمت و شجاعت، جو منافقوں اور شقیوں سے مقابلہ میں ختم ہوئی یہ سب اسلام کے تمام آسمانی اصولوں، لوگوں کو جذب کرنے، اور مختلف قوم و ملت کے افراد کو اسلام کی دعوت دینے اور اس کی ترویج وغیرہ میں صرف ہوتی اور حقیقت میں دنیا اور آدمی کو ایک نئی سرنوشت اور روشن و تابناک مستقبل حاصل ہوتا۔ (۲)

۱۳۔ عمر نے ایک طرف تو عبد الرحمن بن عوف کو مومن یکتا کے خطاب سے نوازا کہ اس کا ایمان زمین پر موجود لوگوں کے آدھے ایمان سے زیادہ سنگین ہے اور دوسری طرف اس مشہور و معروف مالدار کو "فرعون امت" کے لقب سے نوازا ہے (۳) اور حقیقتاً تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ عبدالرحمن بن عوف قریش کا مشہور و معروف مالدار تھا اور مرنے کے بعد بے پناہ دولت میراث میں چھوڑی تھی۔

(۱) تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۱۲، الامامة والسياسة ج ۱ ص ۲۴۔

(۲) ماخوذ از "مرد نامتناہی" ص ۱۱۴۔

(۳) الامامة والسياسة ج ۱ ص ۲۴۔

اس کی دولت کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس کے پاس ایک ہزار گائے، تین ہزار بکری اور سو گھوڑے تھے اور مدینے کے "جرف" علاقے کو بیس گائے کے ذریعہ پانی سے سیراب کر کے کھیتی کرتا تھا۔ اس کی چار بیویاں تھیں اور جب اس کا انتقال ہوا تو ہر بیوی کو ۸۰ ہزار دینار میراث کے طور پر ملا اور یہ اس کی دولت میں سے آٹھویں حصہ کا ایک چوتھائی حصہ تھا جو اس کی بیویوں تک پہنچا اور جب اس نے اپنی ایک بیوی کو بیماری کی حالت میں طلاق دیا تو ۸۳ ہزار دینار اسے بطور میراث دیکر اس سے مصالحت کی۔ (۱) کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کا ایمان روئے زمین پر موجود افراد کے آدھے ایمان سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟

۱۴۔ عبد الرحمن نے عثمان کو منتخب کرتے وقت مکر و فریب سے کام لیا اور سب سے پہلے حضرت علی سے پیشنہاد کیا کہ کتاب خدا و سنت پیغمبر اور شیخین کی سیرت کے مطابق عمل کریں، جب کہ وہ جانتا تھا کہ شیخین کا طور و طریقہ، قرآن و سنت سے مطابقت کی صورت میں ایک جداگانہ امر نہیں ہے اور قرآن و سنت کے مطابق نہ ہونے کی صورت

میناس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔

ان تمام چیزوں کے باوجود اس کا اصرار تھا کہ علی کی بیعت ان تینوں شرطوں پر ہونی چاہیے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امام علی تیسری شرط کو قبول نہیں کریں گے لہذا جب حضرت نے اس تیسری شرط کو رد کر دیا تو عبد الرحمن نے فوراً اس چیز کی خبر اپنے برادر نسبتی عثمان کو دیدی اور انہوں نے فوراً اسے قبول کر لیا۔

۱۵۔ امام کے لئے حکومت وسیلہ تھی نہ کہ ہدف، جب کہ آپ کے مخالف کے لئے ہدف تھی نہ وسیلہ۔

اگر امام خلافت کو اسی نگاہ سے دیکھتے جس سے عثمان دیکھ رہے تھے تو بہت زیادہ آسان تھا کہ ظاہراً عوف کے بیٹے کی شرط کو قبول کر لیتے لیکن عمل کے وقت اسے قبول نہ کرتے، لیکن حضرت نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ کبھی بھی حق کو باطل کے ذریعے حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے۔

۱۶۔ امام ابتدا سے ہی خلیفہ دوم کے فریب اور ان کے نمائندوں کی نیت سے باخبر تھے یہی وجہ خلافت سے محروم ہو گئے صرف امام ہی اس نتیجے سے آگاہ نہ تھے بلکہ عبداللہ بن عباس جیسا نوجوان بھی جب

---

(۱) الغدير ج ۸ ص ۲۹۱ مطبوعہ نجف و ص ۲۸۴ مطبوعہ لبنان۔

شوری کے نمائندوں کی فہرست سے باخبر ہوا تو اس نے کہا کہ عمر چاہتے ہیں کہ عثمان خلیفہ بنیں۔ (۱)  
۱۷۔ عمر نے محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ اگر اقلیت نے اکثریت کی موافقت نہ کی تو فوراً ان کو قتل کر دینا اور اگر دونوں گروہ مساوی ہوں اور دوسرے گروہ نے اس گروہ کی جس میں عبدالرحمن ہے موافقت نہیں کی تو فوراً انہیں قتل کر دینا اور اگر شوری کے ممبران تین دن تک جانشین کا تعین نہ کر سکیں تو سب کو قتل کر دینا۔  
ان دھمکیوں کے مقابلے میں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اس آزادی پر مبارکباد، دنیا کی کس حکومت کا قانون ہے کہ اگر اقلیت اکثریت کے مقابلے میں ہو تو اسے قتل کر دیا جائے؟!  
حکومت اسلامی کی باگ ڈور دس سال تک اس سنگدل شخص کے ہاتھوں میں تھی، جو نہ صحیح تدبیر رکھتا تھا نہ مروت اور نہ لوگوں سے محبت رکھتا تھا لہذا لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے۔

درّة عمر ابيہ من سيف الحجاج

عمر کا تازیانہ حجاج کی تلوار سے زیادہ خطرناک تھا۔

عثمان کے خلیفہ منتخب ہونے کی وجہ سے بنی امیہ کو بہت زیادہ ترقی نصیب ہوئی اور اتنی قدرت و جرأت ملی کہ ابو سفیان جو عثمان کے رشتہ داروں میں سے تھا ایک دن وہ احد گیا اور اسلام کے بزرگ سردار جناب حمزہ کی قبر پر جو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کرتے وقت شہید ہوئے تھے پیر سے ٹھوکر مار کر کہتا ہے: اے ابا یعلیٰ! اٹھو اور دیکھو جس چیز کے لئے ہم نے لڑائی لڑی تھی وہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ (۲)  
عثمان کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں ایک دن اس کے تمام رشتہ دار اس کے گھر میں موجود تھے اس وقت اسی بوڑھے ملحد نے سب سے مخاطب ہو کر کہا:

"خلافت کو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں منتقل کرتے رہو اور اپنے عہدہ داروں کو بنی امیہ میں سے منتخب کرو کیونکہ حاکمیت کے علاوہ کوئی دوسرا ہدف نہیں ہے نہ کوئی جنت ہے اور نہ کوئی دوزخ۔ (۳)

---

(۱) کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۴۵ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۳ ص ۹۳۔

(۲) نقش و عاظ در اسلام، ص ۱۵۱۔

(۳) الاستیعاب، ج ۲، ص ۲۹۰۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)



## اٹھویں فصل

خاندان رسالت، حضرت علی کی نظر میں

امام علی علیہ السلام کی پچیس سالہ زندگی جو پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد شروع ہوتی ہے اور آپ کی ظاہری خلافت کے شروع ہونے پر ختم ہوتی ہے ایک ایسا حساس اور قابل درس حصہ ہے جس میں سے بعض کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور بقیہ حصے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں اس میں سے کچھ حصے حسب ذیل ہیں:

۱۔ خلفاء ثلاثہ کے مقابلے میں امام کا رویہ اور ان کے ساتھ برتاؤ۔

۲۔ مسلمانوں کو احکام اور اسلامی مسائل کی تعلیم دینا۔

۳۔ امام کی اجتماعی خدمات۔

اس کے پہلے کہ امام کی خلفاء کے مقابلے میں آپ کے رویے کو بیان کریں، ضروری ہے کہ خاندان رسالت کے سلسلے میں حضرت کے نظریہ کو بیان کریں یا خود امام کی اصطلاح میں "آل محمد" کے حالات کو بیان کریں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام کی نشرو اشاعت میں حضرت علی علیہ السلام کا خلفاء کے ساتھ ہمکاری کرنا اس وجہ سے نہ تھا کہ امام ان لوگوں کو حق کا محور اور واقعی خلیفہ و حاکم سمجھتے تھے، بلکہ آنحضرت ان کی ہمکاری اور سیاسی و علمی مشکلات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان رسالت استادان حق، صحیح پیشوا اور حقیقی حاکم جانتے تھے خود واضح لفظوں فرماتے ہیں:

"لَا يِقَاسُ بِالْأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدَةِ الْأَمَةِ أَحَدٌ وَ لَا يَسَاوِيْ بِيَهُمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ ابْدَاءً" (۱)

اس امت میں کسی شخص کا مقابلہ بھی خاندان رسالت سے نہیں ہو سکتا اور جو لوگ ان کی نعمتوں سے مستفید ہوئے ہیں برگر ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔

دوسرے مقام پر امام آل محمد کے علمی فضائل کے ایک گوشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "بم موضع سرّ و ملجأ امره و عيبه علمه و موئل حكيمه و كهوف كنهه و

### (۱) نہج البلاغہ عیدہ، خطبہ ۲۔

جبال دینہ، بہم أقام انحنائ ظہرہ و اذنب ارتعاد فرائضہ" (۱)

خاندان پیغمبر کے افراد پیغمبر کے رازوں کے محافظ اور ان کے حکم پر عمل کرنے والے، اور ان کے علوم کا ذخیرہ، اور ان کی کتابوں کے محافظ ہیں۔ وہ لوگ ایسے مضبوط پہاڑ ہیں جو اسلام کی سرزمین کو زلزلہ سے محفوظ رکھتے ہیں، پیغمبر نے ان لوگوں کے وسیلے سے اپنی پشت کو سیدھا کیا اور اپنے کو آرام و سکون بخشا۔ حضرت علی علیہ السلام ایک مقام پر ان لوگوں کو دین کی اساس و بنیاد اور ایمان و یقین کے ستون سے تعبیر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے رفتار و گفتار کو دیکھ کر جو لوگ غلو کرتے ہیں ان کو غلو سے روکا اور جو حق کی راہ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو واپس منزل پر لایا جا سکتا ہے۔

"ہم اساس الدین و عماد الیقین الیہم یفیئ الغالی و بہم یلحق التالی" (۲)

ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں :

"انظروا اہل بیت نییکم فالزموا سمئہم و اتبعوا اثرہم فلن یخروکم من ہدی و لن یعیدوکم فی ردئ فان لبدوا فالبدوا و ان نہضوا فانہضوا و لا تسبقوہم ففضلوا و لا تتأخروا عنہم فتہلکوا" (۳)

خاندان رسالت کے بارے میں فکر و تدبیر سے کام لو اور ان کے راستے پر چلو کیونکہ ان کی پیروی تمہیں راہ حقیقت سے دور نہیں کر سکتی اور گمراہی کی طرف نہیں لے جائے گی اگر وہ کسی مقام پر رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ اور اگر اٹھ جائیں تو تم بھی اٹھ جاؤ کبھی بھی ان پر سبقت نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور ان سے منہ بھی نہ موڑنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔

امام اہل بیت نبوت کی معرفت و شناخت کو خدا و پیغمبر کی معرفت کے بعد جانتے ہیں۔

"فانہ من مات منکم علی فراشہ و ہو علی معرفۃ حق ربہ و حق رسولہ و اہل بیئہ مات

### (۱) نہج البلاغہ عیدہ خطبہ ۲۔



- (۲) نہج البلاغہ عیدہ خطبہ ۲۔  
(۳) نہج البلاغہ عیدہ خطبہ ۹۳۔

شہیداً" (۱)

تم میں سے جو شخص بھی خود اپنے بستر پر مرجائے اور اپنے پروردگار کے حق اور اپنے پیغمبر کے حق اور خاندان رسالت کے حق کی معرفت رکھتا ہو تو وہ دنیا سے شہید اٹھا ہے۔  
امام نے اپنے کلام میں کہ خاندان رسالت کے حق کی معرفت، خدا و رسالت کے حق کی معرفت کے ہمراہ ہے اس حدیث کو واضح اور روشن کر دیا ہے جسے محدثین نے پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے۔

من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتةً جاهلیةً

جو مرجائے اور اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے

امام ایک مقام پر ہر زمانے میں فیض الہی جاری رہنے کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"الا ان مثل آل محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کمثل نجوم السماء اذا خوی نجمٌ طلع نجم" (۲)

خاندان رسالت کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے کہ اگر ایک ڈوبتا ہے تو دوسرا نکلتا ہے۔

امام نے خاندان رسالت کے فضائل و کمالات کے متعلق اس سے بہت زیادہ کہا ہے کہ ان سب کو یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے (۳) نمونہ کے طور پر چند حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حضرت ان کے اسماء مبارک کے سلسلے میں فرماتے ہیں:

"ألا بابی و امی ہم من عداة اسماء ہم فی السماء معروفہ و فی الارض مجهولة" (۴)

میرے ماں باپ قربان ہوں اس گروہ پر جن کے نام آسمانوں پر مشہور اور زمین پر مجہول ہیں۔

امام - کی درج ذیل حدیث اگر چہ حق کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں ہے لیکن اس کا مصداق کامل خاندان رسالت ہے۔

(۱) نہج البلاغہ عیدہ خطبہ ۱۸۵۔

(۲) نہج البلاغہ عیدہ خطبہ ۹۶۔

(۳) نہج البلاغہ فیض الاسلام خطبہ نمبر ۹۳ ۹۶ ۱۰۸ ۱۱۹ ۱۴۷ ۱۵۳ ۱۶۰ ۲۲۴ و مکتوب نمبر ۱۷ کلمات قصار ۱۰۱۔

(۴) نہج البلاغہ عیدہ خطبہ ۱۸۲۔

"عقلوا الدین عقل و عایة و رعایة لا عقل سماع و روایة فان رواة العلم کثیر و رعائہ قليل" (۱)

دین و اصول اور فروع کی حقیقت کو حد کمال و عقل تک پہنچانا ہے اور اس پر عمل کیا ہے نہ یہ کہ صرف سن کر پہنچانا ہے کیونکہ علم کے دعوے دار بہت ہیں اور اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔

امام نے اگر چہ ذیل کے کلام میں ان کے باعظمت مقام کو بیان کیا ہے لیکن اپنے دوسرے کلام میں ان کی ولایت و رببری کی تصریح کی ہے اور ان لوگوں کو اس امت کا ولی و حاکم اور پیغمبر کا جانشین اور ان کے منصبوں کا (سوائے نبوت کے) وارث قرار دیا ہے۔

"و لهم خصائص حق الولاية و فيهم الوصية و الوراثة" (۲)

ولایت و امامت کی خصوصیتیں (علم اور اعجاز) ان کے پاس ہیں اور پیغمبر کی وصیت ان کے بارے

میں ہے اور یہ لوگ پیغمبر کے وارث ہیں۔

حضرت علی کے بیانات کی روشنی میں جب خاندان رسالت کی عظمت واضح ہو گئی اور خود آپ بھی اسی خاندان کی ایک اہم فرد ہیں۔ تو اب ضروری ہے کہ امام کی خلفاء کے بارے میں امام کے رویے کی اہم تاریخی حوالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔

(۱) نہج البلاغہ عیدہ خطبہ ۲۳۔

(۲) نہج البلاغہ عیدہ خطبہ ۲۔

امام خلفاء کی فکری اور قضاوتی آماجگاہ تھے

منصب خلافت سے کنارہ کشی کرنے کے بعد امام پچیس سال تک خاموش رہے اور مکمل طور پر خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ امور رببری میں ہر طرح کی مداخلت سے کنارہ کشی کئے ہوئے تھے، اگرچہ سیاسی رببری اور منصب خلافت پر دوسروں نے قبضہ کر لیا تھا اور منصوب و معزول کرنا اور اسلامی اموال ان کے ہاتھ میں تھا، اس کے باوجود اس امت کے تنہا معلم اور لوگوں کی فکروں کی آماجگاہ جن کے علم کے مقابلے میں سبھی خاضع تھے وہ علی بن ابی طالب - تھے۔

اس زمانے میں امام - کی اہم ترین خدمات یہ تھیں کہ نئے اسلام کے قضاوت کی رببری کرتے تھے، جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی فوراً اس مسئلہ کے حل کے لئے حضرت کی طرف رجوع کرتے تھے اور کبھی کبھی خود امام بغیر اس کے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے خلیفہ وقت کی مسئلہ قضاوت میں رہنمائی کرتے تھے اور جو اس کے جاری کردہ حکم میں غلطیاں ہوتی تھیں اس پر متوجہ کرتے اور بہترین اور فیصلوں کے ذریعے پیغمبر کے صحابیوں کے ذہنوں کو جلا بخشتے تھے۔

اگرچہ امام ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور خود کو پیغمبر اسلامؐ کا وصی و جانشین اور امت کے تمام امور کی رببری کے لئے بہترین فرد جانتے تھے، لیکن جب بھی اسلام اور مسلمانوں کی مصلحتوں پر کوئی وقت آتا تھا تو ہر طرح سے مدد کرتے تھے بلکہ جانبازی اور فداکاری سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے تمام مشکلات کا استقبال کرتے تھے۔

امام کی منزلت اس سے بالاتر اور آپ کی روح اس سے بزرگ تر تھی کہ آپ کے بارے میں بعض یہ خیال کریں کہ چونکہ خلافت کی باگ ڈور ان سے لے لی گئی لہذا حکومت کے کسی بھی امور میں مداخلت نہ کریں اور کسی بھی مشکل کو حل نہ کریں، تاکہ اسلامی معاشرہ ناراض ہو جائے اور خلافت غیر مستحکم ہو جائے اور حکومت کا تختہ پلٹ جائے، نہیں امام ایسے شخص نہ تھے، وہ اسلام کے پروردہ تھے اور اسلام کی آغوش مینانہوں نے تربیت پائی تھی اور جب پیغمبر اسلام شجر اسلام کی آبیاری کر رہے تھے اس وقت آپ نے بہت زحمتیں برداشت کیں اور اسلام کی راہ میں خون نثار کیا، آپ کا ایمان اور پاکیزہ فکر اس بات کے لئے راضی نہ تھی کہ اسلام کی مشکلات اور مسلمانوں کے دشوار امور کے مقابلے میں مکمل خاموش رہیں اور ہر طرح کی مداخلت سے پرہیز کریں۔

امام - کا اہم ہدف یہ تھا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے اور مستحکم ہو جائے اور امت کے افراد معارف الہی، دین کے اصول و فروع سے باخبر اور یہودیوں اور نصرانیوں کے دانشمندانوں کے نزدیک اسلام کی عظمت محفوظ ہو جائے جو اس نئے مذہب کی طرف گروہ در گروہ تحقیق کے لئے مدینہ آ رہے تھے اور جہاں تک امام کے امکان میں تھا اور حکومت، مزاحمت ایجاد نہیں کرتی تھی بلکہ کبھی کبھی آپ کے سامنے دست سوال دراز کرتی تھی تو آپ ان کی رہنمائی اور رببری سے منہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ ہمیشہ استقبال کرتے تھے۔

امام نے اس خط میں جو مالک اشتر کے ذریعے مصر والوں کے نام لکھا تھا اس میں آپ نے اس حقیقت کی وضاحت اور خلفاء کے ساتھ مدد اور رہنمائی کرنے کی وجہ کو بھی بیان کیا ہے۔

"فامسکتُ یدی حتی رأیتُ راجعۃً الناسِ قدرجعثُ عن الاسلامِ یدعون الی محق دین محمدٍ فخشیتُ ان لم انصرُ الاسلامَ و اہلہ ان أری فیہ تلمأاً او بدمأً تکونُ المصیبۃُ بہ علاً أعظمَ من فوتِ ولایتکم التی انما ہی متاعُ ایامِ قلائلٍ یزولُ منہا ما کان کما یزولُ السراب" (۱)

میں نے ابتدا میں خلفاء کی مدد کرنے سے پرہیز کیا (اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا) یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک گروہ نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے اور لوگوں کو دین محمدؐ کے مٹانے کی دعوت دے رہا ہے مجھے خوف محسوس ہوا کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کی مدد کے لئے نہ اٹھوں تو اسلام کے اندر رخنہ یا ویرانی دیکھنا پڑے گی اور یہ مصیبت میرے لئے اس چند روزہ حکومت سے دوری سے زیادہ بڑی ہوگی جو سراب کی طرح زائل ہو۔

امام کا یہ نامہ آپ کی روح کی پاکیزگی اور اس اسلامی معاشرہ کے امور میں مداخلت کی علت کو بیان کر رہا ہے کہ جس کی باگ ڈور ایسے افراد کے ہاتھ میں تھی جنہیں امام تسلیم نہیں کرتے تھے۔

حضرت علی، رسول اسلامؐ کی نظر میں

پیغمبر اسلام ﷺ کے انتقال کے بعد خلفاء اور آپ کے اصحاب نے اپنی مشکلات کے حل کے لئے حضرت علی کی طرف رجوع کیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے پیغمبر اسلام ﷺ سے حضرت علی کے علم و فضل و قضاوت کے بارے میں سنا تھا کہ آپ نے فرمایا:

"اعلم امتی بالسنة و القضاة علی بن ابی طالب" (۲)

میری امت میں اسلامی سنت اور قضاوت کے احکام کی سب سے زیادہ معلومات رکھنے والے

(۱) نہج البلاغہ عہدہ نامہ ۶۲۔

(۲) کفایۃ الطالب، مطبوعہ نجف، ص ۱۹۰۔

علین ابی طالب ہیں ان لوگوں نے پیغمبر اسلام ﷺ سے سنا تھا کہ حضرت نے زید بن ثابت اور ابی ابن کعب وغیرہ کی معرفی کرتے وقت حضرت علی کے بارے میں فرمایا: "اقضاکم علی" (۱) یعنی تم میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔

ابھی پیغمبر کی آواز صحابیوں کے کانوں سے ٹکرا ہی رہی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا:

"انا مدینۃ العلم و علی بائہا فمن اراد المدینۃ فلیاتہا من بابہا" (۲)

میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں جو شخص بھی چاہتا ہے کہ شہر میں داخل ہو تو اسے چاہئے کہ شہر کے دروازے سے داخل ہو۔

جی ہاں، خلفاء اور پیغمبر کے اصحاب اپنی مشکلوں کے حل کے لئے کیوں نہ مولائے متقیان حضرت علی کی طرف رجوع کریں اور ان کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کریں؟ اس لئے کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب اہل یمن نے پیغمبر اسلام ﷺ سے کہا: کسی ایسے شخص کو ہماری رہبری کے لئے بھیجئے جو ہمیں دینسکھا سکے اور سنت اسلامی کی ہمیں تعلیم دے سکے اور خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرسکے " اس وقت پیغمبر اسلام نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور فرمایا:

"یا علی انطلق الی اہل الیمن ففہم فی الدین و علمہم السنن و احکم فیہم بکتاب اللہ... اذہب ان اللہ سیہدی قلبک و یثبت لسانک" (۳)

اے علی، یمن جاؤ اور ان لوگوں کو خدا کے دین کی تعلیم دو اور اسلامی سنتوں سے ان کو آشنا کرو اور قرآن مجید کے ذریعے ان کے فیصلے کرو (پھر آپ نے علی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا) جاؤ خدا تمہارے قلب کو حق کی طرف رہبری کرے گا اور تمہاری زبان کو خطا و غلطیوں سے محفوظ رکھے گا۔ پیغمبر اسلام ﷺ کی دعا حضرت علی کے بارے میں اس قدر مستجاب ہوئی کہ امام نے فرمایا: اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی مشکل میں گرفتار نہیں ہوا۔

(۱) کفایۃ الطالب، مطبوعہ نجف، ص ۱۰۴۔

(۲) مرحوم آیت اللہ میر حامد حسین ہندی نے اپنی کتاب عباقات الانوار کی ایک جلد میں اس حدیث کی سند کو جمع کیا ہے۔

(۳) کنز العمال ج ۶ ص ۳۹۲۔

پیغمبر ﷺ کے زمانے میں حضرت علی کی قضاوت

امیر المومنین صرف خلفاء کے زمانے میں ہی بہترین قاضی اور امت کے بہترین فیصلہ کرنے والے نہیں تھے بلکہ پیغمبر کے زمانے میں بھی یمن اور مدینے میں لوگوں کے مسلم قاضی تھے، رسول خدا ﷺ نے ان کے فیصلوں کو سراہا ہے اور اسی لئے اپنے بعد جامعہ اسلامی کے لئے بہترین فیصلہ کرنے والے کے عنوان سے حضرت علی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے یہاں پر ہم آپ کے فیصلوں میں سے دو فیصلے بعنوان نمونہ پیش کر رہے ہیں جو پیغمبر کے زمانے میں کئے تھے اور حضرت نے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔

۱۔ جس زمانے میں حضرت علی پیغمبرؑ کے حکم سے یمن میں رہ رہے تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک گروہ نے شیر کا شکار کر کے ایک گہرے گڈھے میں اسے رکھا اور چاروں طرف سے اس کی محافظت کرنے لگے کہ اچانک ان میں سے ایک کا پیر لڑکھڑا یا اس نے اپنے کو بچانے کے لئے دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور اس نے تیسرے کا ہاتھ پکڑا اور اس نے چوتھے کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سب اس گڈھے میں گر پڑے اور شیر نے ان پر حملہ کر دیا اور شیر کے حملے کی وجہ سے وہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے، ان کے رشتہ داروں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ امام علی اس واقعے سے مطلع ہوئے اور فرمایا: میں تمہارا فیصلہ کروں گا اور اگر میرے فیصلے پر راضی نہ ہو تو اس مسئلہ کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کرو تاکہ وہ تمہارا فیصلہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا: جن لوگوں نے اس گڈھے کو کھودا ہے وہ لوگ ان چاروں مرنے والے افراد کا دیہ اس طرح سے ادا کریں۔

پہلے مرنے والے شخص کے وارث کو ایک چوتھائی دیہ ادا کریں اور دوسرے شخص کے وارث کو ایک تہائی دیہ ادا کریں اور تیسرے شخص کے وارث کو آدھا دیہ ادا کریں اور چوتھے شخص کے وارث کو پورا دیہ دیں۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ پہلے شخص کے وارث کو کیوں ایک چوتھائی دیہ دیا جائے، حضرت نے جواب میں فرمایا: کیونکہ اس کے بعد تین آدمی مرے ہیں اور اسی ترتیب کو دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: دوسرے شخص کے وارث کو ایک تہائی حصہ دیں کیونکہ اس کے بعد دو آدمی مرے ہیں، اور تیسرے شخص کے وارث کو آدھا دیہ دیں کیونکہ اس کے بعد ایک آدمی مرا ہے اور چوتھے شخص کے وارث کو پورا دیہ دیں کیونکہ وہ آخری آدمی ہے جو مرا ہے۔ (۱) جی ہاں، مرنے والوں کے ورثاء نے امام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا اور مدینے کے لئے روانہ ہو گئے اور پیغمبر کی خدمت میں اس مسئلہ کو پیش کیا آنحضرت نے فرمایا:

"القضاء كما قضی علی" (۲)

محدثین شیعہ و اہل سنت دونوں نے امام علی کے اس فیصلے کو بعینہ اسی طرح نقل کیا ہے، لیکن شیعہ محدثین نے اس فیصلے کو دوسرے انداز سے بھی نقل کیا ہے، اس نقل کے مطابق۔ امام نے فرمایا: پہلا شخص شیر کا لقمہ بنا ہے اس لئے اس کا دیہ کسی پر نہیں ہے لیکن پہلے شخص کے وارثوں کو چاہیے کہ دوسرے شخص کے ورثاء کو ایک تہائی دیہ دیں اور دوسرے شخص کے ورثاء تیسرے شخص کے ورثاء کو آدھا دیہ دیں اور تیسرے شخص کے ورثاء چوتھے شخص کے ورثاء کو پورا دیہ دینا شیعہ دانشمند پہلی حدیث کو معتبر نہیں مانتے ہیں کیونکہ اس حدیث کی سند میں غیر معتبر افراد موجود ہیں لیکن دوسری حدیث کی پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اس فیصلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ امام نے چوتھے فرد کی دیت کو پہلے تینوں افراد کے اولیاء کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا ہے اس ترتیب کے ساتھ کہ ایک تہائی دیہ کو پہلے والے کے ورثاء دوسرے والے کے ورثاء کو اور تیسرے والے کے ورثاء اس کا دو تہائی (ایک تہائی اپنا حق جو پہلے والے سے لیا ہے ادا کریں) تیسرے والے کے ورثاء کو ادا کریں اور تیسرے والے پورا دیہ ادا کریں۔ یعنی دو تہائی جو پہلے لیا تھا ایک تہائی لے لیں اور ایک مکمل دیہ چوتھے والے کے ورثاء کو ادا کریں اور اس طرح سے چوتھے شخص کا دیہ پہلے والے تین افراد پر برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔

(کتاب جواہر الکلام ج ۶ کتاب دیات، "بحث تراحم موجبات" کی طرف رجوع فرمائیں)

۲۔ پیغمبر اسلامؑ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی مسجد میں وارد ہوئے اور اپنے اختلاف کو بیان کیا جس کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) ذخائر العقبیٰ مولف: محب طبری ص ۸۴، کنز العمال ج ۲ ص ۳۹۳، وسائل الشیعہ ج ۱۹ ص ۱۷۵۔

(۲) کنز العمال ج ۲ ص ۳۹۳، وسائل الشیعہ ج ۱۹ ص ۱۷۵، باب ۴ موجبات ضمان۔

ایک گائے نے اپنی سینگھ سے کسی کے جانور کو مار ڈالا، تو کیا گائے کا مالک جانور کی قیمت کا ضامن ہے؟ مسلمانوں میں سے ایک شخص فوراً بول اٹھا اور کہا: "لا ضمان علی البہائم" یعنی غیر مکلف جانور کسی کے مال کا ضامن نہیں ہے۔

شیخ کلینی کے اصول کافی میں نقل کرنے کے مطابق پیغمبر نے ابوبکر اور عمر سے کہا کہ اس اختلاف کا فیصلہ کریں ان دونوں نے کہا: "بہیمۃ قتلت بہیمۃ ما علیہا من شیئ" (۱) یعنی ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہے اور جانور کے لئے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس وقت پیغمبر اسلامؑ نے حضرت علی سے فرمایا کہ وہ فیصلہ کریں۔ امام نے کلی قانون، جس

سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے، سے اس مشکل کو حل کر دیا اور فرمایا: اس کا نقصان اس شخص کے ذمہ ہے جس نے کوتاہی کیا ہے اور اس نے جانور پالنے کی شرطوں پر عمل نہیں کیا، ہے اور اگر جانور کے مالک نے اپنے جانور کی صحیح دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کی ہے لیکن گائے کے مالک نے اپنے وظیفے سے کوتاہی کی اور اسے آزاد چھوڑ دیا تو گائے کا مالک ضامن ہے اور ضروری ہے کہ اس جانور کا دیہ دے، لیکن اگر واقعہ اس کے برعکس ہے تو اس پر کوئی ضمانت نہیں ہے۔

پیغمبر اسلام ﷺ نے اس عظیم اور کلی فیصلہ سننے کے بعد آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا:  
"الحمد لله الذي جعل في امتي من يقضي بقضاء النبيين"

یعنی خداوند عالم کا شکر کہ اس نے ہمارے خاندان میں ایسے شخص کو قرار دیا ہے جس کا فیصلہ پیغمبروں کے فیصلے کی طرح ہے۔ (۲)

رسول اسلام ﷺ کے زمانے میں حضرت علی کے فیصلے صرف انہی دو فیصلوں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ مولائے متقیان نے پیغمبر کے زمانے میں ایسے ایسے حیرت انگیز فیصلے کئے ہیں جو آج بھی تاریخی اور روائی (روایتوں کی) کتابوں میں موجود ہیں۔ (۳)

(۱) اصول کافی ج ۷ ص ۳۵۲ حدیث ۶ ۷۔

(۲) صواعق محرقہ، ص ۷۵، مناقب ابن شہر آشوب، ج ۱، ص ۴۸۸۔

(۳) مرحوم مجلسی نے بحار الانوار میں کچھ فیصلوں کا تذکرہ کیا ہے، بحار الانوار ج ۴ ص ۲۴۰۔۲۱۹، کی طرف رجوع فرمائیں۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

## نویں فصل

حضرت علی اور خلیفہ اول کی سیاسی مشکلیں

پیغمبر اکرم ﷺ نے صحابیوں اور چاہنے والوں کے درمیان جو حضرت علی کے فضائل بیان کئے اس کی وجہ سے پیغمبر اسلام ﷺ کی رحلت کے بعد علمی اور فکری مسائل میں حضرت علی امت کے عظیم مرجع قرار پائے یہاں تک کہ وہ افراد بھی جنہوں نے حضرت علی کو خلافت سے دور کر دیا تھا اپنی علمی، سیاسی، عقیدتی مشکلوں میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے مدد طلب کرتے تھے۔

خلفاء کا امام سے مدد طلب کرنا تاریخ اسلام کا ایک مسلم باب ہے اور بہت زیادہ قطعی سندیں اس سلسلے میں موجود ہیں اور کوئی بھی انصاف پسند اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام - قرآن و سنت، اصول و فروع اور اسلام کے سیاسی مصلحتوں میں اعلم تھے صرف کتاب "الوشیعہ" کے مولف نے اس تاریخی حقیقت کا کناہہ و اشارتاً انکار کیا ہے اور خلیفہ دوم کو دسیوں جعلی اور تاریخی سندوں کے ساتھ امت میں سب سے اعلم اور افقہ شمار کیا ہے (۱) ہم فی الحال اس سلسلے میں بحث نہیں کریں گے کیونکہ بہت زیادہ تاریخی شواہد موجود ہیں کہ خلیفہ دوم نے مدد کے لئے حضرت علی کی طرف رجوع کیا تھا اور تاریخ نے اسے اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے جو ان کی بات کا جواب ہے، لہذا جواب دینے سے بہتر یہ ہے کہ خلفاء میں سے ہر ایک کی علمی اور سیاسی مدد جو انہوں نے امیر المومنین سے مانگی تھی، اسے پیش کیا جائے۔

(۱) مقدمہ الوشیعہ، ص ن

تاریخ اس بات کی شہاد ہے کہ خلیفہ اول نے حضرت علی سے سیاسی، فقہی، عقائدی، تفسیر قرآن اور احکام اسلامی جیسے اہم مسئلوں میں مدد لی تھی اور حضرت کی رہنمائیوں سے پورا فائدہ اٹھایا تھا، یہاں پر چند نمونے ذکر کر رہے ہیں۔

رومیوں کے ساتھ جنگ

اسلامی حکومت کے دشمنوں میں سے بدترین دشمن روم کے بادشاہ تھے جو ہمیشہ شمال کی جانب سے اسلامی حکومت کو ڈرایا کرتے تھے، پیغمبر اسلام (ص) اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک روم کے خطروں سے غافل نہ تھے۔

۷ھ میں آپ نے ایک گروہ کو جعفر بن ابی طالب کی سپہ سالاری میں شام کے اطراف میں روانہ کیا، لیکن لشکر اسلام نے اپنے تین سپہ سالاروں کو کھو دینے کے بعد بغیر نتیجہ مدینہ واپس آگئے اس خسارے کی تلاش کرنے کے لئے رسول اکرم ﷺ ۹ھ میں ایک عظیم لشکر کے ہمراہ تبوک کی جانب عازم ہوئے لیکن دشمن سے مقابلہ کئے بغیر مدینہ واپس آگئے اس سفر میں ایسے اہم اور واضح نتائج سامنے آئے کہ جو تاریخ میں محفوظ ہیں، اس کے باوجود روم کی جانب سے ہونے والے خطرے نے پیغمبر کو متفکر رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب کہ آپ بیمار تھے مہاجرین اور انصار سے سپاہیوں کا انتخاب کیا اور انہیں شام کے ساحل کی طرف روانہ کر دیا، لیکن یہ لشکر کسی وجہ سے مدینے سے باہر نہیں گیا اور پیغمبر اسلام ﷺ کا انتقال ہو گیا جب کہ لشکر اسلام نے مدینے سے چند کلو میٹر کے فاصلے پر پناہ لے رکھی تھی۔

پیغمبر اسلام (ص) کے انتقال کے بعد مدینہ کی سیاسی فضا جو بحران کا شکار ہو گئی تھی، خاموش ہو گئی اور ابوبکر نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے رکھی تھی۔

خلیفہ نے پیغمبر (ص) کے اس فرمان کو جو رومیوں سے جنگ کے متعلق آپ نے جاری کیا تھا اس میں دو دلی کا مظاہرہ کیا، لہذا صحابیوں کے کچھ گروہ سے مشورہ کیا اور جس نے بھی جو نظریہ پیش کیا اس سے یہ قانع اور مطمئن نہیں ہوا آخر میں حضرت علی سے مشورہ کیا امام نے اسے پیغمبر اسلام کے حکم جاری کرنے کی رغبت دلائی اور فرمایا کہ اگر رومیوں سے جنگ کرو گے تو کامیاب رہو گے خلیفہ امام کی اس تشویق اور رغبت سے خوشحال ہو گیا اور کہا: تم نے بہترین فال کی طرف اشارہ کیا ہے اور خیر و نیکی کی بشارت دی ہے۔ (۱)

(۱) تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۲۳، مطبوعہ نجف۔

یہودیوں کے بزرگ علماء کے ساتھ مناظرہ

پیغمبر اسلام (ص) کے انتقال کے بعد یہودیوں اور نصرانیوں کے بزرگ علماء و دانشوروں نے مسلمانوں کے روح و ذہن کو کمزور کرنے کے لئے اسلام کی طرف قدم بڑھایا اور بہت سے سوالات کئے جن میں سے بعض یہ ہیں:

یہودیوں کے علماء کا ایک گروہ مدینہ آیا اور خلیفہ اول سے کہا: اس وقت تم اپنے پیغمبر کے جانشین ہو تو تم میرے سوال کا جواب دو کہ خدا کہاں ہے؟ کیا وہ آسمانوں پر ہے یا زمین پر؟

ابوبکر نے جو جواب دیا اس سے وہ لوگ مطمئن نہ ہوئے انہوں نے کہا کہ خدا عرش پر ہے جس پر یہودیوں نے تنقید کی اور کہا کہ ایسی صورت میں زمین کو خدا سے خالی ہونا چاہیئے، ایسے حساس موقع پر حضرت علی علیہ السلام اسلام کی مدد کو پہنچے اور مسلمانوں کی آبرو کو بچا لیا کر لیا، امام نے منطقی جواب دیتے ہوئے کہا:

"ان الله اين الاين فلا اين له، جل أن يحويه مكان فهو في كل مكان بغير ممانسة ولا مجاورة، يحيط علماً بما فيها ولا يخلوا شيء من تدبيره" (۱)

تمام جگہوں کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے اور وہ اس سے زیادہ بلند و بالا ہے کہ جگہیں اسے اپنی آغوش میں لیں، وہ برجگہ ہے لیکن کسی نے لمس نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کسی کا پڑوسی ہے، تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں اور کوئی چیز بھی اس کی تدبیر سے باہر نہیں ہے۔

حضرت علی علیہ السلام نے اس جواب میں خدا کے ہر جگہ ہونے پر واضح استدلال کیا ہے اور یہودی علماء کو اتنا تعجب میں ڈال دیا کہ وہ مولائے کائنات کے کلام کی حقانیت اور آپ پیغمبر کے اصلی جانشین ہونے کا اعتراف کرنے لگے۔ امام نے اپنے پہلے جملے میں (تمام جگہوں کو خدا نے پیدا کیا ہے) دلیل توحید سے استفادہ کیا ہے اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دنیا میں قدیم بالذات خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، خداوند عالم کے لئے ہر طرح کے مکان سے نفی کیا ہے، کیونکہ اگر خدا کسی مکان میں ہوتا تو ضروری تھا کہ شروع ہی سے اس کے ساتھ ہوتا، جب کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب اسی کی مخلوق ہے۔ کہ انہی میں مکان بھی ہے لہذا کوئی بھی چیز اس کے ہمراہ نہیں ہو سکتی واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر خدا کے لئے کوئی جگہ یا مکان فرض کیا جائے تو یہ مکان بھی خدا کی ذات کی طرح یا قدیم ہو گیا مخلوق

(۱) ارشاد مفید، چاپ قدیم، ص ۱۰۷۔

خدا شمار ہو گا، پہلا فرض برہان توحید کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور یہ کہ کائنات میں خدا کے سوا کوئی قدیم نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، اور دوسرا فرض اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ فرضی مکان، مخلوق خدا ہے، اس پر شائد کہ اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا تھا اور یہ مکان نہیں تھا بعد میں اس نے خلق کیا۔ امام - نے اپنے دوسرے جملے میں (وہ ہر جگہ موجود ہے بغیر اس کے کہ کوئی اسے لمس کر سکے یا اسکا ہمسایہ ہو سکے) خداوند عالم کے صفات میں سے ایک صفت پر اعتماد کیا ہے اور وہ یہ کہ اس کا وجود لامتناہی ہے اور لامتناہی ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہو اور ہر چیز پر قدرت و احاطہ رکھتا ہو، اور یہ کہ خدا جسم نہیں رکھتا یعنی موجودات میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتا اور کسی کی ہمسایگی نہیں کر سکتا۔ کیا یہ مختصر اور پر معنی عبارت حضرت علی علیہ السلام کے وسیع علم اور علم الہی سے معمور ہونے کا پتہ نہیں دیتی؟ البتہ صرف یہ تنہا مور نہیں تھا کہ امام نے، یہودیوں کے علماء اور دانشمندیوں کے مقابلے میں خدا کے صفات کے سلسلے میں بحث کی ہے بلکہ دوسرے اور تیسرے خلیفہ کے زمانے میں اور خود اپنی خلافت کے زمانے میں اکثر و بیشتر یہودیوں سے بحث کی ہے۔

ابونعیم اصفہانی نے حضرت علی اور علماء یہود کے چالیس افراد کے درمیان ہوئے مناظرے کو نقل کیا ہے، اور اگر امام - کے اس مناظرے کی شرح لکھی جائے تو اس کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے یہاں پر اس کی تفصیل کا مقام نہیں ہے۔ (۱)

امام کے بحث کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سامنے والے کی علمی سطح دیکھ کر بحث کرتے تھے، کبھی بہت دقیق دلیل پر پیش کرتے تو کبھی واضح اور روشن مثالوں اور تشبیہوں سے بات واضح کرتے تھے۔

(۱) حلیۃ الاولیاء، ج ۱، ص ۷۲۔

عیسائی دانشمند کو اطمینان بخش جواب

سلمان کہتے ہیں:

پیغمبر (ص) کے انتقال کے بعد عیسائیوں کا ایک گروہ ایک پادری کی سربراہی میں مدینہ آیا اور خلیفہ کے سامنے سوال کرنا شروع کرکے، خلیفہ نے ان لوگوں کو حضرت علی کے پاس بھیجا ان لوگوں نے امام سے سوال کیا کہ "خدا کہاں ہے؟" امام - نے آگ جلائی اور پھر اس سے پوچھا بتاؤ آگ کا رخ کدھر ہے، عیسائی دانشمند نے جواب دیا چاروں طرف آگ ہے اور آگ کا سامان اور پشت نہیں ہے اور آگ پشت و رخ نہیں رکھتی۔ امام نے فرمایا: اگر آگ جسے خدا نے پیدا کیا ہے اس کا کوئی خاص رخ نہیں ہے تو اس کا خالق جو ہرگز اس کے مشابہ نہیں ہے اور اس سے بہت بلند و بالا ہے وہ پشت و رخ رکھتا ہو، مشرق و مغرب کو اسی خدا نے پیدا کیا ہے اور جس طرف بھی رخ کرو گے اس طرف خدا ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ (۱)

امام نے نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے فکری اور عقائدی مسئلوں میں خلیفہ کی مدد کی بلکہ جب بھی خلیفہ، قرآن کریم کے کلموں کے معنی کی تفسیر کرنے سے عاجز ہو جاتے تھے تو ان کی مدد کرتے تھے، چنانچہ جب ایک شخص نے ابوبکر سے اس آیت "وفاکہة و ابا متاعاً لکم و لانعامکم" (۲) میں لفظ "أب" کا معنی پوچھا انہوں نے بہت تعجب سے کہا میں کہاں جاؤں، اگر بغیر علم و آگاہی کے خدا کے کلام کی تفسیر کروں۔ جب یہ خبر حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا: "أب" سے مراد ہری بھری گھاس ہے۔ (۳) اور عربی میں کلمہ "أب" کے معنی ہری گھاس کے ہیں تو اس پر خود آیت پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ کیونکہ آیت "فاکہة و ابا" کے بعد بغیر کسی فاصلے کے ارشاد قدرت ہوتا ہے: "متاعاً لکم و لانعامکم" یعنی یہ دونوں تمہارے اور تمہارے چارپایوں کے فائدے کے لئے بناور جو کچھ انسان کے فائدے کے لئے ہے وہ "میوہ" ہے اور جو کچھ حیوان کے لئے باعث لذت اور زندگی ہے وہ "ہری گھاس" ہے جو یقیناً صحرائی ہری بھری گھاس ہے۔

- (۱) قضاء امیر المومنین مطبوعہ نجف ۱۳۶۹ھ ص ۹۶۔  
 (۲) سورہ عیس، آیت ۳۱۔۳۲؛ اور میوے اور چارا (یہ سب کچھ) تمہارے اور تمہارے چارپایوں کے فائدے کے لئے بنایا ہے۔  
 (۳) الدر المنثور ج ۶ ص ۳۱۷، ارشاد ص ۱۰۶۔

ایک شرابی کے بارے میں حضرت علی کا فیصلہ

خلیفہ اول نے نہ صرف امام - سے قرآن کے مفاہیم سے آگاہی حاصل کی بلکہ، فروع دین اور احکام میں حضرت سے ہمیشہ مدد لیتے رہے۔

حکومت کے سپاہی ایک شرابی کو پکڑ کر خلیفہ کے پاس لائے تاکہ شراب پینے کی وجہ سے اس پر حد جاری کریں۔ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ شراب حرام ہے کیونکہ ہم نے ایسے معاشرے میں پرورش پائی ہے جو آج تک شراب کو حلال سمجھتے ہیں، خلیفہ فیصلہ کرنے سے عاجز آگیا فوراً کسی کو حضرت علی کے پاس بھیجا اور ان سے اس مشکل کا حل دریافت کیا۔ امام نے فرمایا:

دو معتبر افراد شرابی کا ہاتھ پکڑ کر مہاجرین و انصار کے پاس لے جائیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ابھی تک آیت تحریم خمر (شراب کو حرام قرار دینے والی آیت) کو اس مرد کے سامنے پڑھا ہے یا نہیں؛ اگر ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے آیت حرمت کو اس کے سامنے پڑھا ہے تو ضروری ہے کہ اس پر خدا کی طرف سے معین کردہ حد جاری ہو اور اگر ان لوگوں نے گواہی نہیں دی تو ضروری ہے کہ یہ شخص توبہ کرے کہ آئندہ کبھی بھی اپنے ہونٹ کو شراب سے تر نہیں کرے گا اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے۔

خلیفہ نے امام کے حکم کی پیروی کی اور اسے آزاد کر دیا۔ (۱)

یہ بات صحیح ہے کہ امام نے خلفاء کے زمانے میں خاموشی اختیار کی اور کوئی بھی عہدہ نہیں لیا، لیکن کبھی بھی اسلام کے دفاع اور دین مقدس کی حمایت سے غافل نہیں رہے۔

تاریخ کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ "رأس الجالوت" (یہودیوں کے پیشوا) نے درج ذیل مطالب کے بارے میں ابوبکر سے سوال کیا اور اس کے متعلق قرآن کا نظریہ دریافت کیا۔

- ۱۔ زندگی اور ہر زندہ موجودات کی بقا کی ہے؟
  - ۲۔ بے جان چیز جس نے کلام کیا ہے وہ کیا ہے؟
  - ۳۔ وہ چیز جو ہمیشہ کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے کیا ہے؟
- جب یہ خبر امام - کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا:

(۱) اصول کافی ج ۲ حدیث ۱۶، ارشاد مفید ص ۱۰۶، مناقب ابن شہر آشوب ج ۱ ص ۴۸۹۔



زندگی کی بقا قرآن کی نظر میں "پانی" ہے (۱) وہ بے جان چیز جس نے گفتگو کی وہ زمین و آسمان ہیں جنہوں نے خدا کا حکم پاتے ہی اپنی اطاعت کا اظہار کیا (۲) اور جو چیز ہمیشہ کم و زیادہ ہوتی ہے وہ دن اور رات ہیں۔ (۳) جیسا کہ امام کے اس بیان سے واضح و روشن ہوتا ہے امام معمولاً اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کی آیتوں سے استناد کرتے تھے اور یہ ان کے کلام کی حقانیت کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ (۴)

(۱) "و جعلنا من الماء کل شیء حی" سورہ انبیاء آیت ۳۰؛ یعنی ہم نے پانی سے ہر زندہ موجودات کو پیدا کیا۔  
 (۲) "فقال لها و للأرض أنتیا طوعاً او کرہاً قالتا أتینا طائعين؛ سورہ حم سجدہ ، آیت ۱۱؛ تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں او خوشی سے یا کراہت سے دونوں نے عرض کی ہم خوش خوش حاضر ہیں (اور حکم کے پابند ہیں)  
 (۳) "بولج اللیل فی النهار و بولج النهار فی اللیل" سورہ لقمان، آیت ۲۹؛ یعنی خدا ہی رات کو (بڑھا کے) دن میں داخل کر دیتا ہے (تو رات بڑھ جاتی ہے) اور دن کو (بڑھا کے) رات میں داخل کر دیتا ہے (تو دن بڑھ جاتا ہے)۔  
 (۴) بحار الانوار ج ۴ ص ۲۲۴۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

#### دسویں فصل

حضرت علی علیہ السلام اور خلیفہ دوم کو سیاسی مشورے

امام علی علیہ السلام کا سب سے بڑا مقصد اسلام کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنا تھا۔ اسی بنا پر اگرچہ آپ اپنے کو پیغمبر کا برحق جانشین مانتے تھے اور آپ کی عظمت و برتری دوسروں پر واضح و آشکار تھی، اس کے باوجود جب بھی خلافت مشکل میں گرفتار ہوتی تھی تو آپ بلند ترین افکار اور عالی ترین نظروں سے اسے حل کر دیتے تھے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے خلیفہ دوم کے زمانے میں مشورے اور بہت زیادہ سیاسی، اجتماعی اور علمی مشکلوں کو حل کیا ہے، بہت سی جگہیں جہاں پر عمر نے سیاسی مسئلوں میں حضرت علی کی رہنمائیوں سے استفادہ کیا ہے ان میں سے سے چند چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں۔

ایران فتح کرنے کے متعلق مشورہ

۱۴ھ میں قادسیہ کی سرزمین پر اسلام کی فوج اور ایرانی فوج کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور ایرانی فوج کا کمانڈر رستم فرخ زاد، اور اس کے لشکر کے کچھ افراد قتل کر دیئے گئے اور پورے عراق پر مسلمانوں کا سیاسی اور فوجی تسلط ہو گیا اور مدائن جو ساسانی بادشاہوں کی حکومت کا مرکز تھا مسلمانوں کے قبضے میں ہو گیا اور ایرانی فوج کے سپہ سالار پیچھے ہٹ گئے۔

ایران کے فوجی سپہ سالاروں اور مشیروں کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی فوج دھیرے دھیرے بڑھتی رہے اور پورے ملک کو اپنے قبضے میں لے لے، اس خطرناک حملے کے مقابلے کے لئے پارسی بادشاہ، یزدگرد (ایرانی بادشاہ) نے فیروزان کی سپہ سالاری مینا یک لاکھ پچاس ہزار سپاہیوں کی فوج بنائی تاکہ ہر طرح کے حملے سے مقابلہ کریں اور اگر حالات سازگار ہوں تو خود حملہ کر دیں۔

(عمار یاسر کے بقول) اسلام کی فوج کا سپہ سالار سعد وقاص، جس کی کوفہ پر حکومت تھی اس نے عمر کو خط لکھا اور اسے حالات سے باخبر کیا کہ کوفہ کی فوج جنگ کرنے کے لئے تیار ہے اور قبل اس کے کہ دشمن ان پر حملہ کریں وہ لوگ دشمن پر رعب و دبدبہ بٹھانے کے لئے جنگ شروع کر دیں۔

خلیفہ مسجد میں گئے اور تمام بزرگ صحابیوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کو اپنے ارادے سے باخبر کیا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور کوفہ اور بصرہ کے درمیان قیام کروں گا تاکہ وہاں رہ کر فوج کی رہبری کروں۔ اس وقت طلحہ کھڑا ہوا اور خلیفہ کے اس اقدام کی تعریف کی اور ایسی تقریر کی جس کے ایک ایک لفظ سے چابھوسے کی بو آرہی تھی۔

عثمان بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے نہ صرف خلیفہ کے مدینہ چھوڑنے کی تعریف کی بلکہ خلیفہ سے کہا کہ شام اور یمن کی فوج کے پاس خط لکھو کہ وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور تم سے آکر مل جائیں اور تم اتنے زیادہ

سپاہیوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرسکتے ہو۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور دونوں نظریوں پر تنقید کی اور فرمایا: "وہ سرزمین جو محنت و مشقت اور ابھی ابھی مسلمانوں کے تصرف میں آئی ہے اس کا اسلام کی فوج سے خالی رہنا صحیح نہیں ہے اگر یمن اور شام کے مسلمانوں کو وہاں سے ہٹا دو گے تو ممکن ہے حبشہ کی فوج یمن اور روم کی فوج شام کو اپنے قبضے میں کر لیں، اور مسلمانوں کی اولادیں اور عورتیں جو یمن اور شام میں زندگی بسر کر رہی ہیں مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں۔ اور اگر مدینے کو چھوڑ کر چلے گئے تو اطراف و جوانب کے عرب اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور ایسا فتنہ پیدا کردیں گے جس کا نقصان اس فتنہ سے زیادہ ہوگا جس کے مقابلے کے لئے جارہے ہو۔ اور (امور سلطنت) میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈوروں کی۔ جو انہیں ایک جگہ ملا کر رکھتا ہے پس اگر ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے اگر تو اسلامی فوج کے سپاہیوں کی کمی کی بنا پر فکر مند ہے تو مسلمان جو ایمان رکھتے ہیں سپرد کردیں، تیری مثال چکی کی اس لکڑی کی ہے جو بیچ میں رہتی ہے اور جنگ کی چکی کو اسلام کے سپاہیوں کے ذریعے انجام دے، جنگ کے میدان میں تمہارا جانا دشمنوں کی جرأت میں اضافہ کا سبب ہوگا، کیونکہ وہ لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ تم اسلام کے پیشوا و حاکم ہو اور تمہارے علاوہ مسلمانوں کا کوئی رہبر نہیں ہے اور اگر اس کو درمیان سے اٹھالیں تو ان لوگوں کی مشکل حل ہو جائے گی اور یہ فکر، ان کے جنگ کی حرص اور کامیابی حاصل کرنے کا باعث بنے گی۔ (۱) خلیفہ امام کی بات سننے کے

(۱) نہج البلاغہ عبدہ خطبہ ۱۴۴، تاریخ طبری ج ۴ ص ۲۳۸۔۲۳۷، تاریخ کامل ج ۳ ص ۳، تاریخ ابن کثیر ج ۷ ص ۱۰۷، بحار الانوار ج ۹ ص ۵۰۱ مطبوعہ کمپانی۔

بعد جنگ پر جانے سے باز آگیا اور کہا یہ رائے و ارادہ علی کا ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے حکم کی پیروی کروں۔ (۱)

بیت المقدس فتح کرنے کے بارے میں مشورہ

بیت المقدس فتح کرنے کے سلسلے میں عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے مشورہ کیا اور حضرت کے حکم کی پیروی کی۔

مسلمانوں کو شام فتح کئے ہوئے صرف ایک مہینہ گزرا تھا اور ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف چڑھائی کریں، اسلامی فوج کے علمبردار ابو عبیدہ جراح اور معاذ بن جبل تھے۔

معاذ نے ابو عبیدہ سے کہا: خلیفہ کو خط لکھو اور بیت المقدس کی طرف چڑھائی کے متعلق سوال، کرو ابو عبیدہ نے خط لکھا، خلیفہ نے مسلمانوں کے سامنے خط پڑھا اور ان لوگوں سے مشورہ طلب کیا۔

امام - نے عمر کو شوق و رغبت دلایا کہ اپنے سپہ سالاروں کو خط لکھو کہ بیت المقدس کی طرف بڑھتے رہیں اور بیت المقدس فتح کرنے کے بعد ٹھہر نہ جائیں بلکہ سرزمین قیصر میں داخل ہوں اور اس بات سے مطمئن رہیں کہ کامیابی انہیں ہی ملے گی کیونکہ پیغمبر نے اس فتح و کامرانی کی خبر دی ہے۔

خلیفہ نے فوراً قلم و کاغذ منگایا اور ابو عبیدہ کو خط لکھا اور اسے جنگ جاری رکھنے اور بیت المقدس کی طرف بڑھنے کا حکم اور رغبت دلایا اور لکھا کہ پیغمبر کے چچازاد بھائی نے مجھے بشارت دی ہے کہ بیت المقدس تمہارے ہاتھوں سے فتح ہوگا۔ (۲)

(۱) نہج البلاغہ عبدہ خطبہ ۱۴۴، تاریخ طبری ج ۴ ص ۲۳۸۔۲۳۷، تاریخ کامل ج ۳ ص ۳، تاریخ ابن کثیر ج ۷ ص ۱۰۷، بحار الانوار ج ۹ ص ۵۰۱ مطبوعہ کمپانی۔  
(۲) ثمرۃ الاوراق، حاشیہ المستطرف میں، تحقیق: تقی الدین حموی ج ۲ ص ۱۵، مطبوعہ مصر ۱۳۶۸ھ

ہر قوم کی ایک ابتدائی تاریخ ہوا کرتی ہے جس میں لوگ اپنے تمام واقعات و حادثات کو پرکھتے ہیں، مسیحی قوم کی تاریخ کا آغاز حضرت عیسیٰ کی ولادت سے ہوتا ہے اور اسلام سے پہلے عربوں کی تاریخ "عام الفیل" سے شمار ہوتی تھی، بعض قوموں کی تاریخ کا آغاز عمومی ہوتا ہے اور بعض قومیں حادثات وغیرہ سے اپنی تاریخ کو یاد کرتی ہیں مثلاً قحط والا سال، جنگ کا سال، وغیرہ۔

عمر کی خلافت کے تیسرے سال تک مسلمانوں کی کوئی تاریخ نہیں تھی جسے خطوط اور تمام قرارداد اور حکومت کے امور اس تاریخ سے مخصوص ہوتے، تو پھر ان خطوط کا کیا کہنا جو فوج کے سپہ سالاروں کے لئے لکھا جاتا تھا اور تمام خطوط میں صرف مہینوں کا نام لکھا جاتا تھا، لیکن تاریخی سال کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا، یہ کام اسلامی نظام میں نقص کے علاوہ خط موصول کرنے والوں کے لئے بھی مشکلیں ایجاد کر رہا تھا کیونکہ ممکن تھا کہ دو مختلف حکم سپہ سالار کے پاس یا حاکم وقت کے پاس پہنچے اور راستے کی دوری اور خطوط میں تاریخ درج نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جان پائیں کہ پہلے کون سا خط لکھا گیا ہے۔

خلیفہ نے تاریخ اسلام کی ابتدا اور اس کے تعیین کے لئے پیغمبر کے تمام صحابیوں کو جمع کیا لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نظریہ پیش کیا بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کی تاریخ سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو اور بعض لوگوں نے کہا کہ عید بعثت (۲۷ رجب معراج پیغمبر) سے تاریخ کی ابتدا ہو، انہیں انہی نظریوں میں حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنا نظریہ پیش کیا کہ جس دن پیغمبر اسلام نے سرزمین شریک کو چھوڑا اور سرزمین اسلام پر قدم رکھا اسی سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، عمر نے تمام نظریوں میں سے حضرت علی علیہ السلام کے نظریہ کو پسند کیا اور پیغمبر اسلام کی ہجرت کو تاریخ اسلام کی ابتدا قرار دیا اور اسی دن سے تمام خطوط، سندیں، اور حکومت کے دفاتر وغیرہ میں ہجری سال لکھا جانے لگا۔ (۱)

بے شک یہ بات صحیح ہے کہ ولادت پیغمبر یا پیغمبر کی بعثت ایک بڑا واقعہ ہے لیکن ان دونوں دنوں میں اسلام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اجاگر نہ تھا، پیغمبر کی ولادت کے دن اسلام کا وجود نہیں تھا اور پیغمبر کی بعثت کے دن اسلام کا کوئی قانون و قاعدہ نہ تھا، لیکن ہجرت کے دن کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی طاقت و قدرت اور کامیابی اور اسلامی حکومت کی تشکیل کا دن تھا اور اس دن پیغمبر نے سرزمین شریک کو چھوڑا تھا اور مسلمانوں کے لئے اسلامی وطن بنایا تھا۔

(۱) تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۱۲۳، تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۵۳، کنز العمال ج ۵ ص ۲۴۴، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۱۳ مطبوعہ مصر۔

خلیفہ دوم کے زمانے میں لوگ صرف حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے

پیغمبر اسلام (ص) کی رحلت کے بعد مختلف قوم و ملت میں اسلام پھیلنے کی وجہ سے مسلمان نئے مسائل سے روبرو ہوا جس کا حکم قرآن مجید اور پیغمبر کی حدیث میں موجود نہیں تھا، کیونکہ احکام و فروع سے مربوط آیتیں محدود ہیں، اور تھیں واجبات و محرمات سے متعلق پیغمبر اسلام کی جو حدیثیں امت کے درمیان موجود تھیں ان کی تعداد چار سو سے زیادہ نہیں تھی (۱) یہی وجہ ہے کہ مسلمان بہت سے مسئلوں کے حل کے لئے جس کے بارے میں قرآنی نص اور حدیث پیغمبر وارد نہیں ہوئی ہے مشکلوں میں گرفتار ہوئے۔

ان مشکلوں نے ایک گروہ کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ان مسئلوں میں اپنی عقل اور رائے پر عمل کریں اور غیر صحیح معیاروں کے ذریعے اس مسئلہ کا حکم معین کریں۔ اس گروہ کو "اصحاب رائے" کہتے ہیں، وہ لوگ کتاب و سنت سے قطعی اور شرعی دلیل سے استناد کرنے کے بجائے موضوعات کا مطابق مصالح و مفاسد کے حل نکالتے تھے اور ظن و گمان کے ذریعے خدا کے حکم کو معین کرتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلہ دیتے تھے۔

خلیفہ دوم نے بہت سی جگہوں پر نص کے مقابلے میں خود اپنی رائے پر عمل کیا ہے اور وہ جگہیں آج بھی تاریخ کے صفحات پر درج ہیں لیکن اصحاب کی رائے کے متعلق انداز دوسرا تھا ان کے بارے میں کہتے ہیں۔

"صاحبان رائے" پیغمبر اسلام کی سنتوں کے دشمن ہیں وہ لوگ پیغمبر کی حدیث کو یاد نہیں کر سکتے تھے اسی لئے اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتے تھے ، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، آگاہ ہو جاؤ کہ ہم پیروی کرتے ہیں خود سے کوئی کام نہیں کرتے اور ہم تابع ہیں بدعت نہیں کرتے، ہم لوگ پیغمبر کی حدیثوں پر عمل کریں گے اور گمراہ نہیں ہوں گے"

(۱) رشید رضا، مولف: المنار اپنی کتاب "الوحی المحمدی" دوسرا ایڈیشن، ص ۲۲۵، پر لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی تمام حدیثیں جو فروع اور احکام سے متعلق ہمارے پاس بینان میں سے اگر تکرار ہوئی حدیث کو حذف کر دیا جائے تو چار سو سے زیادہ نہ ہونگی۔ اور یہ احتمال دینا کہ پیغمبر کی حدیثیں اس سے زیادہ ہیں اور ہم تک نہیں پہنچی ہیں یہ ضعیف ہے لہذا پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد جتنی حدیثیں امت کے پاس موجود بیناتنی ہی یا اس سے کچھ زیادہ ہیں۔

جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ عمر نے نص کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کیا ہے اور بہت سی جگہوں پر دلیل نہ ہونے کی وجہ سے انہونے خود اپنی رائے اور نظریہ پر عمل کیا لیکن بہت سے مقامات پر باب علم پیغمبر حضرت امیر المومنین کی طرف رجوع کیا۔ پیغمبر اسلام (ص) کے فرمان کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر کے علوم کا خزانہ اور احکام خداوندی کے وارث تھے اور قیامت تک جن چیزوں کی امت کو ضرورت ہوگی ان تمام چیزوں کے لئے جاننے والے تھے اور امت پیغمبر میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ سیکڑوں مقام پر جن میں سے کچھ جگہوں کو تاریخ نے اپنے دامن میں جگہ دی خلیفہ دوم نے امام کے علوم سے استفادہ کیا ہے اور اس کی زبان پر ہمیشہ یہ جملہ یا اس سے مشابہ جملہ ورد رہتا تھا۔

"عجزت النساء ان یلدن مثل علی بن ابی طالب"

عورتیں اس بات سے عاجز ہیں کہ علی جیسی شخصیت کو پیدا کر سکیں۔

"اللہم لا تبقتی لمعضلة لیس لها ابن ابی طالب"

خداوند! مجھے ایسی مشکل میں گرفتار نہ کرنا جس کے حل کے لئے علی بن ابی طالب نہ ہوں۔

(وہ جگہیں جہاں پر عمر نے اپنی رائے و نظریہ پر نص کے مقابلے میں عمل کیا ہے) اس میں سے کچھ جگہوں کو بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ ایک شخص نے عمر سے اپنی بیوی کے بارے میں شکایت کیا کہ شادی کے چھٹے مہینے بعد ہی اسے بچہ ہوا ہے عورت نے بھی اس بات کو قبول کر لیا اور کہا کہ شادی سے پہلے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خلیفہ نے حکم دیدیا کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے ، لیکن امام نے حد جاری کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ قرآن کی نظر مینعورت چھ مہینے کے عرصہ میں بچہ پیدا کر سکتی ہے کیونکہ آیت میں حمل اور دودھ پلانے کی کل مدت ۳۰ مہینے معین ہوئی ہے۔

"وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا" (۱)

اور اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کے دودھ بڑھائی کی (کل مدت) تیس مہینے ہے۔

(۱) سورہ احقاف، آیت ۱۵۔

قرآن کی دوسری آیت میں صرف دودھ پلانے کی مدت دو سال بیان ہوئی ہے۔

"وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ" (۱) اور اس کے دودھ بڑھانے کی مدت دو سال ہے۔

اگر تیس مہینے سے دو سال کم کریں تو حمل کے لئے چھ مہینے کی مدت باقی رہے گی۔

عمر نے امام کے منطقی کلام سننے کے بعد کہا: "لولا علی لہلک عمر" (۲)

۲۔ خلیفہ دوم کی عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ پانچ آدمیوں نے عفت کے منافی عمل انجام دیا ہے خلیفہ نے تمام آدمیوں کے بارے میں ایک ہی فیصلہ کیا ، لیکن امام نے ان کے حکم کو باطل قرار دیدیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں تحقیق و جستجو کی جائے اگر ان کے حالات مختلف ہونگے تو کہ خدا کا حکم بھی مختلف ہوگا۔

تحقیق و جستجو کے بعد امام نے فرمایا:

ان میں سے ایک کو قتل کرادو، دوسرے کو سنگسار کرادو، تیسرے کو سو کوڑے مارو ، چوتھے کو پچاس کوڑے

لگائو اور پانچویں کو نصیحت کرو۔

خلیفہ نے جب امام کا مختلف فیصلہ سنا تو بہت تعجب ہوا اور امام سے اس کا سبب دریافت کیا ، تو امام نے فرمایا: پہلا شخص کافر ذمی ہے اور کافر ذمی کی جان اس وقت تک محترم ہے جب تک احکام ذمی پر عمل کرے، لیکن اگر احکام ذمی کی رعایت نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے اور دوسرے نے عورت شوہر دار سے زنا کیا ہے۔ اور اسلام میں اس کی سزا سنگسار کرنا ہے اور تیسرا شخص کنوارا ہے جس نے اپنے کو گناہوں سے آلودہ کیا ہے اس کی سزا سو تازیانہ ہے چوتھا شخص غلام ہے اور اس کی سزا آزاد شخص کی آدھی سزا کے برابر ہے اور پانچواں شخص پاگل ہے۔ (۳) اس وقت خلیفہ نے کہا: "لا عشت فی امة لست فیہا یا ابا الحسن!" میں ایسے لوگوں کے درمیان نہ رہوں جن میناے ابو الحسن آپ نہ ہوں۔

(۱) سورہ لقمان، آیت ۱۴۔

(۲) مناقب شہر ابن آشوب ج ۱ ص ۴۹۶، بحار ج ۴۰ ص ۳۳۲۔

(۳) شیخ طوسی تہذیب ج ۱۰ ص ۵۰ احکام زنا حدیث ۱۸۸۔

۳۔ ایک غلام جس کے پیر میں زنجیر بندھی تھی کہیں جارہا تھا، دو آدمیوں کے درمیان اس کے وزن کے متعلق اختلاف ہو گیا اور ان میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی بات صحیح نہ ہوگی تو اس کی زوجہ کو تین طلاق والی ہو جائیگی۔ دونوں غلام کے مالک کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ زنجیر کو کھول دے، تاکہ اس کو وزن کریں اس نے کہا: میں اس کے وزن سے آگاہ نہیں ہوں اور مینے نذر بھی کی ہے کہ اس کی زنجیر کو نہیں کھولوں گا مگر یہ کہ اس کے وزن کا صدقہ دوں۔

اس مسئلہ کو خلیفہ کے پاس پیش کیا گیا، انہوں نے حکم دیا کہ اس وقت غلام کا مالک زنجیر کھولنے سے معذور ہے لہذا یہ دونوں اپنی اپنی بیویوں سے جدا ہو جائیں، ان لوگوں نے خلیفہ سے گزارش کی کہ اس مسئلہ کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا جائے، امام نے فرمایا: زنجیر کے وزن سے آگاہی بہت آسان ہے۔ اس وقت آپ نے حکم دیا کہ ایک بڑا طشت لایا جائے اور غلام سے کہا کہ اس کے بیچ میں کھڑا ہو جائے، پھر امام نے زنجیر کو نیچے کر دیا اور اس مینایک دھاگا باندھا اور طشت کو پانی سے بھر دیا۔ پھر زنجیر کو اس تاگے کے ذریعے اوپر کھینچنا شروع کیا یہاں تک کہ پوری زنجیر پانی سے باہر آگئی اس وقت حکم دیا کہ زنجیر کو دھاگے کے ذریعے اوپر کھینچیں تاکہ وہ پانی سے اوپر آجائے۔ پھر فرمایا کہ طشت کو ٹوٹے پھوٹے لوہوں سے بھر دو تاکہ پانی اپنی اصلی جگہ تک آجائے اور آخر میں فرمایا کہ ان ٹوٹے ہوئے لوہوں کو کھینچیں کیونکہ اس کا وزن وہی زنجیر کا وزن ہے اور اس طریقے سے تینوں افراد کی مشکل حل ہوگئی۔ (۱)

۴۔ ایک عورت جنگل میں پیاسی تھی اور تشنگی نے اس پر سخت غلبہ کیا مجبوراً اس نے ایک چرواہے سے پانی مانگا اس نے اس شرط پر پانی دینے کا وعدہ کیا کہ عورت خود کو اس کے حوالے کرے، خلیفہ دوم نے اس عورت کے حکم کے متعلق امام سے مشورہ کیا حضرت نے فرمایا: کہ عورت اس کو انجام دینے میں مجبور تھی اور مضطر و مجبور پر کوئی حکم نہیں ہے۔ (۲)

یہ واقعہ اور اسی طرح کے دوسرے واقعات، جن میں سے بعض کو بیان کیا ہے یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ امام اسلام کے مکمل قوانین سے باخبر تھے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور خلیفہ ان چیزوں سے بے خبر تھے۔

(۱) شیخ صدوق، من لایحضرہ الفقیہ ج ۳ ص ۹۔

(۲) سنن بیہقی ج ۸ ص ۲۳۶، ذخائر العقبیٰ ص ۸۱، الغدیر ج ۶ ص ۱۲۰۔

۵۔ ایک پاگل عورت نے عفت کے خلاف عمل کیا، خلیفہ نے اسے مجرم قرار دیا لیکن امام نے اسے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث یاد دلاتے ہوئے عورت کو آزاد کر دیا اور حدیث یہ ہے تین لوگوں سے حکم اٹھالیا گیا ہے جس میں سے ایک دیوانہ ہے یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے۔ (۱)

۶۔ ایک حاملہ عورت نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو اسی حالت میں سنگسار کر دیں امام نے حد جاری کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ تم اس کی جان لینے کا حق رکھتے ہو نہ کہ اس بچے کی جو کہ اس کے پیٹ میں ہے۔ (۲)

۷۔ کبھی کبھی امام مشکلوں کو حل کرنے کے لئے نفسیاتی اصولوں سے استفادہ کرتے تھے، ایک دن ایک عورت نے اپنے بیٹے سے بیزاری ظاہر کی اور اس کی ماں ہونے سے انکار کر دیا اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ابھی کنواری ہے جب کہ اس نوجوان کا اصرار تھا کہ یہ میری ماں ہے خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کی طرف غلط نسبت دینے کی وجہ سے نوجوان کو تازیانہ مارا جائے۔ جب اس واقعہ کی خبر امام کو ملی تو امام نے اس عورت اور اس کے رشتہ داروں کو بلایا تاکہ اس عورت کی شادی ان میں سے جس سے بھی چاہیں کر دیں اور ان لوگوں نے بھی حضرت علی کو اپنا وکیل بنا دیا۔ امام نے اسی نوجوان کی طرف رخ کر کے کہا: میں نے اس عورت کا عقد تمہارے ساتھ پڑھا اور اس کی مہر ۴۸۰ درہم ہے پھر ایک تھیلی نکالی جس میں اتنا ہی درہم تھا اور عورت کے حوالے کیا اور اس جوان سے کہا: اس عورت کا ہاتھ پکڑو اور پھر میرے پاس نہ آنا، مگر یہ کہ شادی وغیرہ کے آثار تمہاری شکل و صورت سے ظاہر ہوں۔ عورت نے جب یہ کلام سنا تو چیخ اٹھی اور کہا: "اللہ، اللہ ہو النار، ہو و اللہ ابنی!" یعنی خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، اس کا نتیجہ آگ ہے خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے پھر اس نے انکار کرنے کی وجہ کو تفصیل سے بیان کیا۔ (۳)

- (۱) مستدرک حاکم ج ۲ ص ۹۵، الغدیر ج ۶ ص ۱۰۲۔  
 (۲) ذخائر العقبیٰ ص ۸۰، الغدیر ج ۶ ص ۱۱۰۔  
 (۳) کشف الغمہ ج ۱ ص ۳۳، بحار الانوار ج ۴۰ ص ۲۷۷۔

فروغ و لاپیت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### گیارہویں فصل

عثمان اور معاویہ کی علمی مشکلات کا حل کرنا

امام کا علمی اور فکری میدان میں مدد کرنا صرف ابوبکر و عمر کی خلافت تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ آپ سرپرست اور دین کے حامی و دلسوز کے عنوان سے اسلام اور مسلمانوں کی خلافت کے مختلف دور میں علمی اور سیاسی مشکلوں کو حل کرتے تھے۔ انہی میں سے تیسرے خلیفہ نے بھی امام کے بلند ترین افکار اور ان کی عظیم و آگاہانہ رہنمائیوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ عثمان نے امام کی رہنمائیوں سے استفادہ کیا تھا بلکہ تعجب کا مقام یہ ہے کہ معاویہ نے بھی امام سے بغض و عداوت رکھنے کے باوجود اپنے علمی اور فکری مشکلوں کے حل کے لئے امام کی طرف دست سوال بڑھایا تھا اور کچھ لوگوں کو خفیہ طور پر امام کے پاس بھیجا تاکہ بعض مسئلوں کا جواب امام سے دریافت کریں۔ مثلاً کبھی کبھی روم کا حاکم، معاویہ سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کرتا تھا اور اس سے جواب طلب کرتا تھا۔ معاویہ اپنی عزت و آبرو بچانے کے لئے (چونکہ اس نے اپنے کو مسلمانوں کا خلیفہ کہا تھا) کچھ لوگوں کو حضرت علی کے پاس بھیجتا تھا تاکہ وہ کسی بھی صورت سے ان سے ان سوالوں کے جوابات حاصل کر کے معاویہ کے پاس لے آئیں۔ خلیفہ سوم اور معاویہ نے جو اپنی علمی مشکلات کے رفع کے لئے امام سے کی طرف رجوع کیا ان کے چند نمونے ہم یہاں نکر کر رہے ہیں۔

۱۔ اسلام مینعورتوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اور عورت کا عدہ ختم ہونے سے پہلے ہی شوہر مر جائے تو عورت دوسرے وارثوں کی طرح شوہر کی میراث کی حقدار ہے کیونکہ جب تک عدہ ختم نہ ہو اس وقت تک شوہر و بیوی کا رشتہ برقرار ہے۔

عثمان کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص کی دو بیویاں تھیں ایک بیوی انصار میں سے تھی اور دوسری بنی ہاشم میں سے، کسی وجہ سے مرد نے اپنی بیوی کو جو انصار سے تھی طلاق دیدیا اور کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا انصار والی عورت خلیفہ کے پاس گئی اور کہا ابھی میرا عدہ ختم نہیں ہوا ہے مجھے میری میراث چاہئے عثمان فیصلہ کرنے سے معذور ہو گئے لہذا اس معاملے کو امام کے پاس بھیجا حضرت نے فرمایا کہ اگر انصار والی عورت یہ قسم کھا کر کہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد تین مرتبہ حائض نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنے شوہر سے میراث لے سکتی ہے۔

عثمان نے ہاشمی عورت سے کہا: یہ فیصلہ تمہارے پسر عم علی نے کیا ہے۔ اور میننے اس سلسلے میں کوئی رائے نہیں دی ہے۔

اس نے جواب دیا: مینعلی کے فیصلے پر راضی ہوں۔ وہ قسم کھائے اور میراث لے لے۔ (۱)  
 محدثین اہلسنت نے اس واقعے کو دوسرے انداز سے لکھا ہے جن کی عبارتیں شیعہ فقہاء کے فتووں سے متفق نہیں ہیں۔ (۲)  
 ۲۔ جس شخص نے فریضہ حج یا عمرہ کے لئے احرام باندھا ہے اسکو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خشکی میں رہنے والے جانور کا شکار کرے، قرآن کریم کا اس سلسلے میں ارشاد ہے: " وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا" (۳) جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی میں رہنے والے جانور کا شکار کرنا تم پر حرام ہے، لیکن اگر وہ شخص جو حالت احرام میں نہ ہو اور خشکی میں رہنے والے جانور کا شکار کرے تو کیا حالت احرام میں رہنے والا شخص اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ یہ وہی مسئلہ ہے جس میں خلیفہ سوم نے امام کے نظریہ کی پیروی کی ہے، اس کے پہلے خلیفہ کی نظریہ تھی کہ حالت احرام میں رہنے والا غیر محرم کے شکار کئے ہوئے جانور کا گوشت کھا سکتا ہے اتفاق سے وہ خود بھی حالت احرام میں تھے کہ اور کچھ لوگوں اسی طرح کے گوشت سے کھانا تیار کر کے ان کو دعوت دی تھی اور یہ اس میں جانا چاہتے تھے، جب امام نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تب ان کا نظریہ بدلا۔  
 ان سے حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام (ص) کا ایک واقعہ بیان کیا جس سے وہ مطمئن ہو گئے، واقعہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام (ص) جب حالت احرام میں تھے تو کچھ لوگ ان کے لئے بھی

- (۱) مستدرک الوسائل ج ۳ ص ۱۶۶۔  
 (۲) کنز العمال ج ۳ ص ۱۷۸، ذخائر العقبیٰ ص ۸۰۔  
 (۳) سورۃ مائدہ آیت ۹۶۔

اسی طرح کی غذا لے کر آئے، حضرت نے فرمایا: میں حالت احرام میں ہوں، یہ کھانا ایسے لوگوں کو دیدو جو حالت احرام میں نہ ہوں۔

جس وقت امام نے اس واقعہ کو نقل کیا اس وقت بارہ آدمیوں نے تائید کرتے ہوئے اس کی گواہی دی، پھر علی علیہ السلام نے فرمایا: رسول اسلام نے نہ صرف ہمیں اس طرح کے گوشت کھانے سے منع کیا ہے بلکہ پرندوں کے انڈے یا شکار ہوئے پرندوں کے گوشت سے بھی منع کیا ہے۔ (۱)

۳۔ اسلام کے مسلم عقائد میں سے ہے کہ کافر پر مرنے کے بعد سخت عذاب ہوگا، عثمان کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص نے اس اصل اسلامی عقیدہ پر اعتراض کرنے کے لئے ایک کافر کی کھوپڑی نکالی اسے خلیفہ کے پاس لے گیا اور کہا: اگر کافر مرنے کے بعد آگ میں جلے گا تو اس کھوپڑی کو بھی گرم ہونا چاہیئے جب کہ میں اس کے بدن پر ہاتھ مس کرتا ہوں پھر بھی مجھے کوئی حرارت محسوس نہیں ہوتی! خلیفہ اس کا جواب دینے سے عاجز ہو گئے اور امام کی طرف رجوع کیا، امام نے معترض کو جواب دیا اور فرمایا کہ ایک لوبا (جس سے آگ نکالتے ہیں) اور ایک پتھر (جس سے آگ نکلتی ہے) لایا جائے اور پھر دونوں کو آپس میں ٹکرایا اس سے شعلہ نکلا اس وقت آپ نے فرمایا: میں لوبے اور پتھر پر ہاتھ پھیر رہا ہوں مگر حرارت کا احساس نہیں ہوتا جب کہ دونوں حرارت رکھتے ہیں اور خاص حالات کی وجہ سے اپنا کام کرتے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ قبر میں کافر کا عذاب بھی ایسا ہو۔

خلیفہ امام کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا: "لولا علی لہلک عثمان" (۲)  
 وہ موارد جہاں معاویہ نے امام کی طرف رجوع کیا ہے۔

اسلامی تواریخ نے سات مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے دست سوال پھیلا یا ہے اور اپنی شرمندگی اور ندامت کو علم امام کے وسیلے سے دور کیا ہے۔

آذینہ کہتے ہیں: ایک شخص نے معاویہ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، معاویہ نے کہا: اس موضوع کے متعلق علی سے سوال کرو۔ سائل نے کہا: میں نہیں چاہتا کہ ان سے پوچھوں، میں چاہتا ہوں کہ تم سے سوال کروں۔

(۱) کنز العمال ج ۳ ص ۵۳، مستدرک الوسائل ج ۲ ص ۱۱۹۔

- اس نے کہا کیوں تم ایسے شخص سے سوال نہیں کرنا چاہتے جس کے بارے میں پیغمبر ﷺ نے کہا ہے: "علی سے میری نسبت ایسی ہی ہے جیسی موسیٰ کی ہارون سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے"، عمر نے اپنی مشکلوں کو امام کے سامنے پیش کرتے تھے۔ (۱)
- جب امام کی شہادت کی خبر معاویہ تک پہنچی تو اس نے کہا: "فقہ و علم مرگیا" معاویہ کے بھائی نے اس سے کہا: تمہاری یہ بات شام کے لوگ تمہاری زبان سے نہ سنیں۔ (۲)
- ان مقامات کی فہرست جہاں پر معاویہ نے حضرت علی سے مدد طلب کی ہے۔ (۳)
- ۱۔ ایسے شخص کے بارے میں حکم معلوم کرنا جو بہت دنوں سے قیروں کو کھود کر کفنوں کو چراتا تھا۔
  - ۲۔ ایسے شخص کے بارے میں حکم معلوم کرنا جس نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کا دعویٰ تھا کہ مینے اسے ایسی حالت میں قتل کیا ہے جب کہ وہ میری بیوی کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔
  - ۳۔ دو آدمیوں کا ایک لباس کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا اس میں سے ایک شخص نے دو گواہ پیش کیا کہ یہ مال اس کا ہے اور دوسرے کا دعویٰ تھا کہ اس نے کسی اجنبی سے یہ لباس خریدا ہے۔
  - ۴۔ ایک شخص نے ایک لڑکی سے شادی کی لیکن لڑکی کے باپ نے اس لڑکی کے بجائے دوسری لڑکی کو اس کے حوالے کیا۔
  - ۵۔ حاکم روم نے کچھ سوالات، کہکشاں، قوس و قزح وغیرہ کے بارے میں معاویہ سے کیا تھا اور اس نے کسی اجنبی کو عراق بھیجا تاکہ ان تمام سوالوں کے جوابات علی سے دریافت کرے۔
  - ۶۔ روم کے حاکم نے دوبارہ اسی طرح کے سوالات معاویہ سے پوچھے اور اپنا جزیہ (ٹیکس) ادا کرنے کی یہ شرط رکھی کہ سوالوں کے صحیح جوابات دے۔
  - ۷۔ تیسری مرتبہ پھر روم کی جانب سے کچھ سوالات معاویہ کی طرف پہنچے اور ان کے جوابات طلب کئے عمر و عاص نے کسی نہ کسی بہانے سے ان تمام سوالوں کے جوابات امام سے حاصل کر لئے۔

- (۱) ذخائر العقبیٰ ص ۷۹۔
- (۲) الاستیعاب ج ۲ ص ۴۲۶۔
- (۳) علی و الخلفاء، ص ۳۲۴۔ ۳۱۶۔

### بارہویں فصل

#### حضرت علی علیہ السلام کی سماجی خدمات

- خلافت سے حضرت علی علیہ السلام کو کی محرومیت کا زمانہ، مسلمانوں کے سارے امور سے کنارہ کشی کا زمانہ نہیں تھا، اس دور میں آپ نے بہت زیادہ علمی اور سماجی خدمات انجام دینے کی مثال تاریخ کے صفحات پر کسی اور کے لئے نہیں ملتی
- حضرت علی علیہ السلام ان سے نہیں تھے جو معاشرے کے مسائل اور ضروریات کو صرف ایک نظر اور وہ بھی خلافت کی نظر سے دیکھتے، اور وہ سوچتے کہ جب خلافت چھن گئی تو ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائوں گا، اس کے باوجود نہ کہ آپ کو سیاسی ریبری سے محروم کر دیا گیا تھا بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے اور اس وصیت کی تاسی کرتے ہوئے جس کو جناب یعقوب نے اپنے فرزندوں سے کی تھی (۱) مختلف طریقوں سے سماج کی خدمت کی۔
- خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اہم ترین خدمتیں یہ تھیں:
- ۱۔ علماء یہود و نصاریٰ کے علمی حملے کے مقابلے میں اسلام کے مقدس عقائد اور اصول کی حفاظت اور ان کے شبہات کے جوابات دینا۔
  - ۲۔ خلافت کے مشکل مسائل کی راہنمائی اور صحیح ہدایت کرنا، خصوصاً قضاوت کے مسائل کا حل کرنا۔



۳۔ سماجی خدمات انجام دینا، ان میں کچھ بہت اہم بینجن کو ذیل میں ذکر کر رہے ہیں۔

۱۔ فقیروں اور یتیموں کی خیر گیری

اس بارے میں پر صرف اسی آیت کا ذکر کرنا کافی ہے "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ مَوَالِيَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً" (۲) (جو لوگ رات کو، دن کو چھپا کے یا دکھا کے [خدا کی راہ میں] خرچ کرتے ہیں) تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اگرچہ یہ آیت پیغمبر اسلام (ص) کے زمانے میں حضرت علی کی سماجی خدمات کو بیان کرتی ہے لیکن یہ اس خدمت کا سلسلہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد بھی جاری تھا۔ اور حضرت ہمیشہ یتیموں اور فقیروں کی خیر گیری کیا کرتے تھے اور آپ زندگی کے آخری لمحے تک فقیروں پر اتفاق کرتے رہے۔ اس سلسلے کے بہت سے شواہد تاریخ کے دامن میں آج بھی موجود ہیں جن کی تفصیل یہاں پر ممکن نہیں ہے۔

(۱) قرآن کریم (سورۃ یوسف، آیت ۶۷) کے مطابق حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ جب شہر مصر میں داخل ہوں تو ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ مختلف دروازوں سے وارد ہوں۔  
(۲) سورۃ بقرہ، آیت ۲۷۴۔

۲۔ غلاموں کو آزاد کرنا

اسلام میں مستحب مؤکد ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے رسول اسلام (ص) سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:  
"من اعتق عبداً مومنًا اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو عضواً له من النار" (۱)  
اگر کوئی شخص ایک مومن غلام کو آزاد کرے تو خداوند عزیز و جبار اس غلام کے بدن کے ہر حصے کے مقابلے میں آزاد کرنے والے کے بدن کے حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔  
حضرت علی علیہ السلام دوسرے تمام فضائل و خدمات کی طرح اس سلسلے میں بھی سب سے آگے تھے اور اپنی مزدوری کی اجرت سے (نہ کہ بیت المال سے) ہزاروں غلاموں کو خریدا اور آزاد کیا۔  
امام جعفر صادق نے اس حقیقت کی گواہی دی ہے اور فرمایا ہے:  
"ان علیاً اعتق الف مملوک من کد یدہ" (۲)  
علی (علیہ السلام) نے اپنے ہاتھوں سے جمع کی ہوئی رقم سے ہزار غلاموں کو آزاد کیا تھا۔

(۱) روضۃ کافی ج ۲ ص ۱۸۱۔  
(۲) فروغ کافی ج ۵ ص ۷۴، بحار الانوار ج ۱ ص ۴۳۔

۳۔ زراعت اور درخت کاری

پیغمبر اسلام (ص) کے زمانے میں اور ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا ایک مشغلہ کھیتی باڑی اور پیڑ پودھے لگانا تھا، حضرت نے اس ذریعے سے بہت ہ خدمتیں انجام دی تھیں اور لوگوں پر خرچ کیا تھا، اس کے علاوہ بہت سی جائدادیں جنہیں خود آباد کیا تھا وقف کیا تھا۔  
امام جعفر صادق اس بارے میں فرماتے ہیں کہ "کان امیر المومنین یضرب بالمرء و یستخرج الارضین" (۱)  
حضرت امیر المومنین بیلچہ چلاتے تھے اور زمین کے دل سے چھپی ہوئی نعمتوں کو نکالتے تھے۔  
اسی طرح آپ ہی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: خدا کی نظر میں زراعت سے زیادہ محبوب کوئی کام نہیں ہے۔  
(۲) ایک شخص نے حضرت علی کے پاس ایک وسق (۳) خرمن کی گٹھلی دیکھی اس نے پوچھا یا علی ان خرمن کی

گٹھالیوں کو جمع کرنے کا کیا مقصد ہے؟  
 آپ نے فرمایا: یہ تمام کے تمام خدا کے حکم سے خرمنے کے بیڑ میں تبدیل ہو جائیں گے۔  
 راوی کہتا ہے کہ امام نے ان گٹھالیوں کو زمین میں دبا دیا کچھ دنوں کے بعد وہاں کھجور کا باغ تیار ہو گیا اور امام نے اسے وقف کر دیا۔ (۴)

۴۔ چھوٹی نہریں کھودنا  
 عرب جیسی تپتی اور سوکھی زمین میں نہریں بنانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔  
 امام جعفر صادق فرماتے ہیں: پیغمبر اسلام (ص) نے انفال (۵) میں سے ایک زمین کو حضرت علی کے حوالے کیا اور امام نے وہاں نہر کھودی جس کا پانی اونٹ کی گردن کی طرح فوارہ کے ساتھ نکل رہا تھا۔

(۱) فروغ کافی، ج ۵، ص ۷۴، بحار الانوار، ج ۱، ص ۴۳۔  
 (۲) بحار الانوار ج ۳۲ ص ۲۰۔  
 (۳) ایک وسق ساٹھ صاع کے برابر اور ہر صاع ایک من ہے۔ (ایرانی من تین کلو کا ہوتا ہے۔ رضوی)  
 (۴) مناقب ابن شہر آشوب ج ۱ ص ۳۲۳، بحار الانوار ج ۱ ص ۳۳۔  
 (۵) وہ زمینیں جو بغیر جنگ و جدال کے مسلمانوں نے حاصل کی ہوں جس میں کچھ انفال نبوت سے مخصوص ہے اور رسول اسلام (ص) نے اسے اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں خرچ کرتے تھے۔

فرمایا: یہ نہر خانہ کعبہ کے زائرین اور جو لوگ یہاں سے گزریں گے ان کے لئے وقف ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کا پانی بیچے اور میرے بچے اسے میراث میں نہیں لیں گے۔ (۱)  
 آج بھی مدینہ سے مکہ جاتے وقت راستے میں ایک علاقہ ہے جسے "بئر علی" کہتے ہیں امام نے وہاں پر کنواں کھودا تھا۔  
 امام جعفر صادق کے بعض ارشادات سے استفادہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے مکہ اور کوفہ کے راستوں میں بہت سے کنویں کھودے تھے۔ (۲)

۵۔ مسجدوں کی تعمیر کرنا  
 مسجدوں کی تعمیر اور تاسیس کرنا خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کی علامت ہے، اور امام نے بہت سی مسجدیں بنائی تھیں جن میں سے کچھ مسجدوں کا نام تاریخ نے درج کیا ہے اور وہ یہ ہیں:  
 مدینہ میں مسجد الفتح، قبر جناب حمزہ کے پاس، کوفہ، میقات، بصرہ میں مسجدیں۔ (۳)

۶۔ مکان و جائداد کا وقف کرنا  
 حدیث و تاریخ کی متعدد کتابوں میں حضرت علی علیہ السلام کے موقوفات کے نام تحریر ہیں، ان موقوفات کی اہمیت کے لئے یہی کافی ہے کہ معتبر مؤرخین کے نقل کرنے کے مطابق ان کی سالانہ آمدنی ۴۰ ہزار دینار تھی جو تمام محتاجوں اور فقیروں پر خرچ ہوتی تھی۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ آمدنی کے باوجود حضرت امیر اپنے اخراجات کے لئے تلوار بیچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ (۴)  
 جی ہاں، کیوں علی علیہ السلام نے ان موقوفات میں سے کچھ اپنے لئے باقی نہ رکھا؟ کیا پیغمبر اسلام نے نہیں فرمایا ہے "جو شخص بھی اس دنیا سے اٹھ جائے تو مرنے کے بعد اسے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی مگر یہ کہ اس نے تین چیزیں چھوڑی ہوں، نیک اور صالح اولاد جو اس کے لئے استغفار کرے، سنت حسنہ جو

(۱) فروغ کافی، ج ۷، ص ۵۴۳، وسائل الشیعہ، ج ۱۳، ص ۳۰۳۔  
 (۲،۳) مناقب، ج ۱، ص ۳۲۳، بحار الانوار، ج ۱، ص ۳۲۔  
 (۴) کشف المحجہ، ص ۱۲۴، بحار الانوار، ج ۱، ص ۴۳۔

لوگوں کے درمیان رائج ہو، نیک کام جس کا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے۔ (۱) حضرت علی علیہ السلام کے وقف نامے اسلام میں احکام وقت کے لئے ایک منبع و مدرک ہونے کے علاوہ، آپ کی سماجی خدمات پر ٹھوس ثبوت

ہیں۔ ان وقف نامونسے آگاہی پیدا کرنے کیلئے وسائل الشیعہ، ج ۱۳ کتاب الوقوف و الصدقات کی طرف رجوع کیجئے۔

(۱) وسائل الشیعہ ج ۱۳ ص ۲۹۲۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

پانچواں حصہ

حضرت علی کی خلافت کے زمانے کے واقعات

پہلی فصل

حضرت علی کی خلافت کی طرف مسلمانوں کے رجحان کی علت

امام علی علیہ السلام کی زندگی کے چار اہم حصوں کے واقعات کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس وقت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے پانچویں حصے کا ذکر کر رہے ہیں، زندگی کا وہ حصہ جس میں آپ منصب خلافت و رہبری پر فائز ہوئے۔ اور اس دور ان آپ بہت سے رونما ہونے والے واقعات اور نشیب و فراز سے دوچار ہوئے۔ ان تمام واقعات کی تشریح و توضیح ہم سے ممکن نہیں ہے، اس لئے ہم مجبور ہیں کہ گذشتہ بحثوں کی طرح ان واقعات بہت زیادہ اہم بینصراف انہیں بیان کریں۔ اس فصل میں سب سے پہلی بحث، مہاجرین و انصار کی ہے کہ انہوں نے کس وجہ سے امام کو اپنا رہبر اور خلیفہ مانا، وہ رغبت جو خلفاء ثلاثہ کے سلسلے میں ہے مثال تھی اور بعد میں بھی اس جیسی دیکھنے کو نہ ملی، پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد امام کے دوست بہت اقلیت میں تھے اور مہاجرین و انصار میں سے مومن و صالح افراد کے علاوہ کوئی بھی آپ کی خلافت کا خواہاں نہیں تھا لیکن خلافت اسلامی کے ۲۵ سال گذرنے کے بعد تاریخ نے ایسی کروٹ بدلی کہ تمام لوگوں کی نظرینعلی کے علاوہ کسی پر نہ تھیں۔ عثمان کے قتل کے بعد تمام مسلمان شور و ولولہ اور تیز آواز کے ساتھ امام کے دروازے پر جمع ہو گئے اور بیعت کے لئے بہت زیادہ اصرار کرنے لگے۔

اس رجحان کی وجہ کو خلیفہ سوم کی خلافت کے زمانے کے تلخ واقعات میں معلوم کیا جاسکتا ہے ایسے واقعات جو خود ان کے قتل کا سبب بنا اور مصری اور عراقی انقلابیوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ جب تک اسلامی خلیفہ کا کام تمام نہ ہو جائے اپنے وطن واپس نہیں جائیں۔

عثمان کے خلاف قیام کرنے کی علت

عثمان کے خلاف اقدام کرنے کی اصلی وجہ، عثمان کا اموی خاندان سے خاص لگائو اور الفت تھی۔ وہ خود اسی خاندان کی ایک فرد تھے، وہ اس نجس و ناپاک خاندان کی عزت و اکرام کے علاوہ کتاب و سنت کی بے حرمتی کرنے میں اپنے پہلے کے دو خلیفوں سے بھی آگے تھے۔

ان کے اس مزاج اور خاندان امیہ سے لگائو سے ہر ایک واقف تھا، جس وقت خلیفہ دوم نے شوریٰ کے عہدہ داروں کا انتخاب کیا عثمان پر تنقید کرتے ہوئے کہا۔

میں دیکھ رہا ہوں کہ قریش نے تمہیں اپنا رہبر چن لیا ہے اور تم نے بنی امیہ اور بنی ابی معط۔ کو لوگوں پر مسلط کر دیا ہے اور بیت المال کو انہی لوگوں سے مخصوص کر دیا ہے اس وقت عرب کے خطرناک گروہ تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں گھر کے اندر قتل کر دیں گے۔ (۱)

بنی امیہ جو عثمان کے مزاج سے واقف تھے انہوں نے شوریٰ کی طرف سے منتخب ہونے کے بعد ان کو اپنے حصار میں لے لیا اور زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اسلامی منصب اور مقام ان کے درمیان تقسیم ہو گیا اور ان لوگوں کی جرأت اس حد تک بڑھ گئی کہ ابو سفیان قبرستان احد گیا اور پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ کی قبر پر جو ابو سفیان سے جنگ کرتے وقت شہید ہوئے تھے، ٹھوکرمار کر کہا "ابو یعلیٰ، اٹھو اور دیکھو کہ جس چیز کے لئے تم نے ہم سے جنگ کی تھی اب وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔"

خلیفہ سوم کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں بنی امیہ کے افراد ایک جگہ پر جمع ہوئے ابو سفیان ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا:

اس وقت جب کہ خلافت قبیلہ تیم اور عدی کے بعد تمہارے ہاتھوں تک پہنچی ہے ہوشیار رہو کہ خلافت تمہارے خاندان سے باہر نہ جائے، اور اسے ایک کے بعد دوسرے تک پہنچاتے رہو کیونکہ خلافت کا مقصد حکومت اور رہبری کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور جنت و جہنم کا وجود نہیں ہے۔ (۲)

ابوسفیان کی اس بات نے خلیفہ کی شخصیت کو سخت مجروح کیا، جو لوگ وہاں پر حاضر تھے انہوں نے اس کو چھپانے کی پوری کوشش کی لیکن آخر کار حقیقت نے اپنا کام کر دیکھا یا مسلمانوں کے خلیفہ کے لئے سزاوار یہ تھا کہ وہ ابو سفیان کی خبر لیتے اور مرتد کی حد اس پر جاری کرتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ یہ کہ ایسا نہیں کیا بلکہ اکثر ابو سفیان پر لطفِ کرم کی بارش کی اور بہت زیادہ مال غنیمت بطور تحفہ بھیجا رہا۔

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۸۷  
(۲) الاستیعاب ج ۲ ص ۶۹۰

### بغاوت کی علت

خلیفہ دوم نے جس شوریٰ کا انتخاب کیا تھا اس شوریٰ کے ذریعے ۳ محرم ۲۴ھ کو عثمان منصب خلافت کے لئے منتخب ہو گئے اور ۱۲ سال حکومت کرنے کے بعد ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ کو مصر اور عراق کے انقلابیوں اور مہاجر و انصار کے بعض گروہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اسلام کے معتبر مورخین نے عثمان کے قتل ہونے اور مسلمانوں کے بغاوت کی علت کو اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، اگرچہ بعض مؤرخین نے، مقام خلافت کے احترام میں ان واقعات کے رونما ہونے کی علت کی وضاحت کرنے سے پرہیز کیا ہے، درج ذیل وجہوں کو بغاوت کی بنیاد اور مسلمانوں کے بعض خطرناک گروہوں کے حملہ کرنے کی علت کہا جا سکتا ہے۔

۱۔ حدود الہی کا جاری نہ ہونا

۲۔ بنی امیہ کے درمیان بیت المال کا تقسیم ہونا۔

۳۔ اموی حکومت کی تشکیل اور اسلامی منصبوں پر غیر شائستہ افراد کا تقرر۔

۴۔ پیغمبر اسلام کے بعض صحابہ کو مصیبت و تکلیف دینا جو خلیفہ اور ان کے دوستوں پر تنقید کرتے تھے۔

۵۔ پیغمبر کے بعض صحابیوں کو شہر بدر کرنا جو خلیفہ کی نظر میں ان کے لئے مضر تھے۔

پہلی وجہ حدود الہی کا جاری نہ ہونا

۱۔ خلیفہ نے اپنے مادری بھائی ولید بن عتبہ کو کوفہ کا گورنر معین کیا وہ ایسا شخص تھا جس کے بارے میں قرآن مجید نے دو جگہوں پر اس کے فسق و فجور اور اسلامی احکام سے سرکشی و بغاوت کا تذکرہ کیا ہے۔ (۱)

(۱) شرح ابن ابی الحدید ج ۲ قدیم ایڈیشن ص ۱۰۳،

آیت: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا" (حجرات ۶) و آیت: "فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ" (سجدہ ۱۸) تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں آیتیں اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور دوسری آیت نازل ہونے کے بعد حسان بن ثابت نے یہ اشعار کہا۔

انزل الله في الكتاب العزيز

في علي وفي الوليد قرأنا

فتبينوا الوليد اذاك فاسقاً

وعلي ميوء صدق ايماننا

فاسق کی نگاہ میں جو چیز قابل اہمیت نہیں ہے وہ حدود الہی اور اعلیٰ مقام و منصب کی رعایت نہ کرنا ہے اس زمانے کے حاکم سیاسی امور کی دیکھ بھال کے علاوہ جمعہ و جماعت کی نماز بھی پڑھاتے تھے، یہ نالائق حاکم (ولید) نے نشے کی حالت میں نماز صبح کو چار رکعت پڑھا دیا، اور محراب تک کو نجس کر دیا وہ نشے میں اتنا مد ہوش تھا کہ لوگوں نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی اور اسے احساس تک نہ ہوا۔

کوفہ کے لوگ شکایت کرنے کے لئے مدینہ روانہ ہوئے اور اس واقعہ کی تفصیل خلیفہ کے سامنے پیش کی لیکن افسوس کہ خلیفہ نے نہ یہ کہ صرف ان کی شکایت نہ سنی بلکہ ان لوگوں کو دھمکی بھی دی اور کہا: کیا تم نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی نے شراب پیا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا: ہم نے اس کو شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا لیکن اسے مستی کے عالم میں دیکھا ہے اور اس کے ہاتھوں سے انگوٹھی اتار لی مگر وہ متوجہ نہیں ہوا اس واقعہ کے گواہ کچھ مومن وغیرہ افراد بھی تھے ان لوگوں نے حضرت علی اور عائشہ کو اس واقعہ سے آگاہ کیا۔ عائشہ جو عثمان سے سخت ناراض تھیں، انہوں نے کہا عثمان نے خدا کے احکام کو ترک کر دیا ہے اور گواہوں کو دھمکی دی ہے۔

امیر المومنین نے عثمان سے ملاقات کی اور خلیفہ دوم کی وہ بات جو انہوں نے شوری کے دن ان کے بارے میں کہی تھی انہیں یاد دلایا اور کہا، بنی امیہ کے بیٹوں کو لوگوں پر مسلط نہ کرو اور تمہارے لئے ضروری ہے کہ ولید کو گورنری کے منصب سے معزول کر دو اور اس پر حد الہی جاری کرو،

طلحہ اور زبیرہ نے بھی ولید کے منتخب ہونے پر اعتراض کیا اور خلیفہ سے کہا کہ اس کو تازیانہ لگایا جائے خلیفہ نے تمام لوگوں کی باتوں سے مجبور ہو کر سعید بن العاص کو جو بنی امیہ کے شجرئہ خبیثہ سے تھا کوفہ کی گورنری کے لئے منتخب کیا، جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے محراب و منبر اور دارالامامہ کو پاک کرایا اور ولید کو مدینہ بھیج دیا۔ صرف ولید کو معزول کرنے سے ہی لوگ راضی نہ ہوئے بلکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ خلیفہ کو چاہیے کہ جو سزا اسلام نے شراب پینے والے کے لئے معین کی ہے اپنے بھائی پر وہ جاری کریں، عثمان چونکہ اپنے بھائی کو بہت چاہتے تھے لہذا اسنہونے اسے قیمتی لباس پہنایا اور اسے ایک کمرے میں بیٹھا دیا تا کہ مسلمانوں میں کوئی ایک شخص اس پر حد الہی جاری کرے، جو لوگ مائل تھے کہ اس پر حد جاری کریں ولید نے انہیں دھمکی دی تھی بالآخر امام علی نے تازیانہ اپنے ہاتھ میں لیا اور بغیر تاخیر کے اس پر حد جاری کی اور اس کی دھمکی اور ناراضگی کی کوئی پروا نہ کی۔ (۱)

۲۔ انسان کی اجتماعی زندگی کا ایک رکن عادلانہ قانون کی حکومت ہے تا کہ معاشرے کے تمام لوگوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے، اور اس سے بھی زیادہ اہم قانون کا جاری کرنا ہے اور قانون گزار، قانون کو جاری کرتے وقت دوست و دشمن اور اپنے اور پرانے کو نہ دیکھے اس صورت میں قانون عملی جامہ پہنے گا اور پورے طور پر عدالت سامنے آئے گی۔

الہی نمائندوں نے خدا کے قوانین کو بغیر کسی ڈرا و خوف کے جاری کیا اور کبھی بھی انسانی الفت و محبت، رشتہ داری، مادی منفعت سے متاثر نہیں ہوئے، پیغمبر اسلام نے خود اسلامی قانون کو سب سے پہلے جاری کیا، اور اس آیت کے واضح و روشن مصداق تھے "وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ" (۲) فاطمہ مخزومی جس نے چوری کی تھی اسکے بارے میں آپ کا ایک چھوٹا جملہ آپ کی اجتماع عدالت پر واضح و روشن دلیل ہے۔

فاطمہ مخزومی ایک مشہور و معروف عورت تھی جس کی چوری پیغمبر کے سامنے ثابت ہو گئی تھی اور یہ طے پایا کہ عدالت کا حکم اس پر جاری ہو، ایک گروہ نے اس پر قانون نہ جاری کرنے کی کوشش کی اور اسامہ بن زید کو پیغمبر کے پاس بھیجا تا کہ اس مشہور و معروف عورت کا ہاتھ کاٹنے سے پیغمبر کو منع کرے، رسول اسلامؐ اس بات سے بہت سخت ناراض ہوئے اور فرمایا۔

(۱) ۱ مسند احمد ج ۱ ص ۱۴۲، سنن بیہقی ج ۸ ص ۳۱۸، اسد الغابہ ج ۵ ص ۹۱، کامل ابن اثیر ج ۲۳ ص ۴۲۳۔ الغدير ج ۸ ص ۱۷۲ منقول الانساب بلاذری ج ۵ ص ۳۳ سے ماخوذ۔  
(۲) سورنہ ماندہ، ۵۴

خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرے تو میں حکم خدا کو جاری کروں گا اور حکم خدا کے مقابلے میں فاطمہ مخدومی اور فاطمہ محمدی دونوں برابر ہیں۔ (۱)

پچھلی امتوں کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ جب بھی ان کے درمیان کوئی بڑا شخص چوری کرتا تھا تو اسے معاف کر دیتے تھے اور اس کی چوریوں کو نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن اگر کوئی عام آدمی چوری کرتا تھا تو فوراً اس پر حکم

الہی جاری کرتے تھے -

پیغمبر اسلام (ص) نے امت اسلامی کی اس طرح سے تربیت کی، لیکن آپ کے انتقال کے بعد دھیرے دھیرے اسلامی معاشرے میں قوانین کے جاری کرنے میں رخ نہ پڑ گیا، خصوصاً خلیفہ دوم کے زمانے میں عرب اور غیر عرب، حسب نسب، ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے مقابلے میں وجود میں آیا لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ انقلاب اور شورش برپا ہو، عثمان کی خلافت کے زمانے میں اسلامی قانون کے اجراء میں تبعیض شباب پر تھی، اور یہی چیز لوگوں کی ناراضگی کا سبب بنی اور لوگ خلیفہ اور ان کے اطرافیوں سے متنفر ہو گئے -

مثلاً خلیفہ دوم ایک ایرانی بنام ابو لولو جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا کے ہاتھوں مارے گئے تھے قتل کرنے کی علت کیا تھی یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ہم نے اس کا تذکرہ "علی اور شوریٰ" میں عمر کے قتل ہونے کی علت میں بیان کیا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خلیفہ کے قتل کا مسئلہ اسلامی عدالت سے حل کرنا چاہیے تھا اور اس کے قاتل اور محرک افراد (اگر محرک تھے) کو اسلامی قاعدہ اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے تھی لیکن یہ بات صحیح نہیں تھی کہ خلیفہ کے بیٹے یا اس کے رشتہ دار اس کے قاتل کو سزادیں یا اسے قتل کریں چہ جائیکہ کہ قاتل کے رشتہ داروں اور دوستوں تک کو سزا دیں یا قتل کریں، بغیر اس کے کہ خلیفہ کے قتل میں شامل ہونا ثابت ہو اور بغیر سزا کے انہیں قتل کر دیں،

لیکن افسوس کہ خلیفہ کے قتل کے بعد یا ان کے حالات احتضار ہی میں خلیفہ کے بیٹے عبید اللہ نے دو بے گناہوں (ہرمزان اور ابولولو کی بیٹی جفینہ) کو اس الزام میں کہ اس کے باپ کے قتل کرنے میں شامل تھے قتل کر ڈالا اور اگر صحابیوں سے ایک صحابی نے اس کے ہاتھ سے تلوار نہ لی ہوتی اور اسے نہ روکا

(۱) الاستیعاب ج ۴؛ ۳۷۴

ہوتا تو مدینہ میں جتنے بھی قیدی تھے انہیں قتل کر ڈالتا۔ عبید اللہ کے اس جرم نے مدینہ میں تلاطم برپا کر دیا، اور مہاجرین و انصاریں عثمان سے بے حد اصرار کیا کہ اسے سزا دیں اور ابولولو کی بیٹی اور بہو کو انکے خون کا بدلہ اس سے لیں۔

(۱) خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اصرار کیا کہ عبید اللہ کو سزا دو، اور خلیفہ سے کہا: بے گناہوں کو قتل کرنے کا انتقام عبید اللہ سے لو، کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے اور بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، لیکن جب عثمان کی طرف سے مایوس ہو گئے اس وقت آپ نے عبید اللہ کو مخاطب کر کے کہا: اگر کسی دن تو میرے ہاتھوں میں آگیا تو میں تجھے ہرمزان کے بدلے میں قتل کر دوں گا۔ (۲)

عبید اللہ کو سزا دلانے اور عثمان کی بے توجہی کی وجہ سے اعتراض روز بروز بڑھتا رہا اور اب بھی ابولولو کی بیٹی اور ہرمزان کے ناحق خون بہالوگوں کے درمیان جوش و خروش تھا، خلیفہ نے جب خطرہ محسوس کیا تو عبید اللہ کو حکم دیا کہ مدینہ سے کوفہ کی طرف چلا جائے اور بہت وسیع زمین اس کے حوالے کر دی اور اس جگہ کا، کوفہ ابن عمر (عمر کے بیٹے کا چھوٹا کوفہ) نام رکھا۔

(۱) طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۱۷ (طبع بیروت)۔  
(۲) انساب بلاذری ج ۵ ص ۲۴۔

بے جا عذر

مسلمان تاریخ لکھنے والوں نے خلیفہ سوم اور ان کے ہم فکروں کے دفاع میں معذوری کو پیش کیا ہے جو بچگانہ معذوری کے مانند ہے ہم یہاں پر ان میں سے چند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں -  
۱۔ جب عثمان نے عبید اللہ کے بارے میں عمرو عاص سے مشورہ کیا تو عمر و عاص نے کہا کہ، ہرمزان کا قتل اس وقت ہوا جب مسلمانوں کا حاکم کوئی اور شخص تھا اور مسلمانوں کی ذمہ داری تمہارے ہاتھوں میں نہ تھی اور اس طرح تم پر

کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، اس عذر کا جواب واضح ہے:

الف: مسلمانوں کے ہر حاکم و سرپرست پر لازم ہے کہ مظلوم کا حق ظالم سے دلوائے، چاہے وہ ظالم اس کی حکومت کے زمانے میں ظلم کرے یا دوسرے شخص کی حکومت کے زمانے میں ظلم کرے، کیونکہ حق ثابت اور پائیدار ہوتا ہے اور زمانہ کا گزرنا اور حاکم کا بدلنا ہر گز فریضہ کو نہیں بدلنا۔

ب: وہ حاکم کہ جن کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا خود انہوں نے اس واقعہ کی تفتیش کا حکم دیا تھا، جب خلیفہ کو اس واقعہ کی خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے عبید اللہ نے ہرمزان کو قتل کر ڈالا ہے تو انہوں نے اس قتل کی وجہ پوچھی، لوگوں نے کہا یہ بات مشہور ہے کہ ہرمزان نے ابو لولو کو حکم دیا تھا کہ تمہیں قتل کر دے خلیفہ نے کہا: میرے بیٹے سے پوچھو، اگر اس کے پاس کوئی گواہ ہے تو میرا خون ہرمزان کے خون کے برابر ہے لیکن اگر اس کے برعکس ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ (۱)

کیا بعد میں آنے والے خلیفہ پر واجب نہیں تھا کہ اپنے پہلے کے خلیفہ کے حکم کو جاری کرے؟ کیونکہ عمر کے بیٹے کے پاس نہ کوئی گواہ تھا کہ ہرمزان اس کے باپ کے قتل میں شریک، اور نہ ہی ہرمزان نے ابو لولو کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔

۲۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہرمزان اور ابو لولو کی چھوٹی بیٹی کا خون ناحق بہایا گیا لیکن اگر مقتول کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کے خون کا ولی مسلمانوں کا خلیفہ اور امام ہے، اسی وجہ سے عثمان نے اس مقام و منصب سے خوب استفادہ کیا اور قاتل کو آزاد چھوڑ دیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ (۲)

اس عذر کی بھی پچھلے عذر کی طرح کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لئے کہ ہرمزان، فارچ (ککر متا) کی طرح نہ تھا جو زمین سے آگاتھا اور اس کا کوئی وارث و رشتہ دار نہ تھا۔

مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک زمانے تک شوشتر کا حاکم تھا۔ (۳)

اور ایسی شخصیت بغیر وارث کے نہیں ہوسکتی اس بنا پر خلیفہ کا فریضہ یہ تھا کہ اس کے وارث کو تلاش کرتے اور تمام کاموں کی ذمہ داریاں اس کے سپرد کرتے۔

اس کے علاوہ اگر ہم فرض کر لیں کہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا تو ایسی صورت میں اس کا تمام حق، مال مسلمانوں کا حق تھا اور جب تمام مسلمان اس کے قتل بخش دیتے اس وقت خلیفہ اس کے قصاص کو نظر انداز کر دیتے، لیکن افسوس کہ واقعہ اس کے برخلاف تھا اور مولف طبقات کے نقل کرنے کے مطابق چند افراد کے علاوہ تمام مسلمان عبید اللہ سے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ (۴)

(۱) سنن بیہقی (چاپ آفیسٹ) ج ۸ ص ۶۱۔

(۲) سنن بیہقی (چاپ آفیسٹ) ج ۸ ص ۶۱۔

(۳) قاموس الرجال ج ۹ ص ۳۰۵۔

(۴) طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۱۷۔

امیر المومنین نے بہت سختی سے عثمان سے کہا، اقد الفاسق فائتہ! ائی عظیماً قتل مسلمان بل اذنب۔ (۱)

اور جس وقت خلیفہ نے عبید اللہ کو آزاد کرنا چاہا تو امام علی نے فوراً اعتراض کیا اور کہا: خلیفہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو مسلمان کا حق ہے اسے نظر انداز کر دے۔ (۲)

اس کے علاوہ، اہل سنت کی فقہ کے مطابق، امام اور اسی طرح دوسرے اولیاء (مثل باپ اور ماں) کو یہ حق حاصل ہے کہ قاتل کو قتل کریں یا اس سے دیت لیں، لیکن ہرگز اسے معاف کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ (۳)

۳۔ اگر عبید اللہ قتل ہو جاتا تو مسلمانوں کے دشمن خوشحال ہو تے کہ کل ان کا خلیفہ مارا گیا اور آج اس کے بیٹے کو مار ڈالا گیا۔ (۴)

یہ عذر بھی قرآن و سنت کی نظر میں ہے وقعت ہے کیونکہ ایسے اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کا قصاص مسلمانوں کے افتخار کا باعث تھا اور عملی طور پر یہ ثابت کر دیتا کہ ان کا ملک، قانون و عدالت کا ملک ہے، اور خلاف ورزی کرنے والے چاہے جس مقام و منصب پر ہوں قانون کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں اور ان کا مقام و منصب عدالت جاری کر تے وقت مانع نہیں ہوتا۔

دشمن اس وقت خوشحال ہوتا جب وہ دیکھتا ہے کہ حاکم و ربیب قوانین الہی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اپنی خواہشات کو حکم الہی پر مقدم کر رہے ہیں۔

۴۔ کہتے ہیں کہ ہرمزان، خلیفہ کو قتل کر نے میں شامل تھا کیونکہ عبدالرحمن بن ابو بکر نے گواہی دی کہ ابو لولو اور ہرمزان اور جفین کو ہم نے آپس میں آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے دیکھا اور جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ایک خنجر زمین پر گر ا جس میں دو نوک تھے، اور اس کا دستہ بیچ میں تھا، اور خلیفہ بھی اسی خنجر سے قتل ہوا۔ (۵)

- (۱) انساب بلاذری ج ۵ ص ۲۴۔  
 (۲) قاموس الرجال ج ۹ ص ۳۰۵ منقول از شیخ مفید  
 (۳) الغدير ج ۸ (طبع نجف) (بدائع الصنائع ملك العلماء حنفی سے گفتگو)  
 (۴) تاریخ طبری ج ۵ ص ۴۱  
 (۵) تاریخ طبری ج ۲ ص ۴۲

اسلامی عدالت میں اس عذر کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہٹ کر کہ گواہی دینے والا ایک شخص ہے ایسے لوگوں کا ایک جگہ ہونا جو مدتوں سے دوست رہے ہوں اور ان میں سے ایک لڑکی ہو، خلیفہ کے قتل کرنے پر گواہ نہیں بن سکتا شاید ہرمزان نے اس وقت خلیفہ کو قتل کرنے سے منع کیا ہو کیا صرف وہم وگمان کے ذریعے دوسروں کا خون بہایا جاسکتا ہے؟ اور کیا اس طرح کی گواہی اور ثبوت کسی بھی عدالت میں قابل قبول ہے؟  
 جی ہاں تمام بے جا عذر سبب بنے کہ ہرمزان کا قاتل لمبے عرصے تک آزادانہ زندگی گزارے، لیکن امام علی نے اس سے کہا تھا کہ اگر کسی دن تم میرے قبضے میں آگئے تو تم سے ہرمزان کا قصاص ضرور لیں گے۔ (۱)  
 جس وقت امام نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی، عبید اللہ کوفہ سے شام بھاگ گیا، امام نے فرمایا، اگر آج بھاگ گیا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور ہاتھ آئے گا، زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ جنگ صفین میں حضرت علی کے ہاتھوں یا مالک اشتر یا عمار یاسر (بہ اختلاف تاریخ) کے ہاتھوں قتل ہوا۔

دوسری وجہ، بنی امیہ کے درمیان بیت المال کا تقسیم ہونا پیغمبر اسلام (ص) کی خلافت و جانشینی ایک مقدس و اعلیٰ مقام ہے جسے تمام مسلمان نبوت و رسالت کے منصب کے بعد سب سے اہم مقام سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کا اختلاف صرف مسئلہ خلافت کے بارے میں ہے کہ خلیفہ کا انتخاب خدا کی طرف سے ہونا چاہیے یا لوگ خود خلیفہ کا انتخاب کریں، ان لوگوں کے درمیان اختلاف یہ نہ تھا کہ مقام خلافت کا رتبہ بڑھ جائے اور اسلامی خلافت کی موقعیت کو اہم شمار کریں۔ اسی مقام خلافت کے احترام کی وجہ سے امیر المؤمنین نے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے خلیفہ سوم سے یہ کہا:  
 "وانی انشدک اللہ ان لا تکون امام هذه الامة المقتول، فانه کان یقتل فی هذه الامة امام یفتح علیہا القتال والقتال الی یوم القیامة" (۲)

- (۱) انساب بلاذری ج ۵ ص ۲۴۔  
 (۲) نہج البلاغہ عیدہ خطبہ ۱۵۹۔

میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اس امت کے مقتول پیشوا کی طرح نہ ہونا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اس امت کا پیشوا مارا جائے گا جس کے قتل کی وجہ سے قیامت تک کے لئے قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا،  
 مہاجرین و انصار اور دیگر مسلمانوں کے درمیان اسلامی خلافت اور خلیفہ مسلمین کی عظمت و رفعت کے باوجود اسلام کی دوسری بزرگ شخصیتیں مختلف جگہوں سے مدینہ آگئیں، اور مہاجرین و انصار کی مدد سے خلیفہ سوم کو قتل کر کے پھر اپنے اپنے شہر واپس چلی گئیں۔  
 عثمان کے خلاف شورش و انقلاب کی ایک دو وجہیں نہیں تھیں، انقلاب لانے کی ایک وجہ حدود الہی کا جاری نہ ہونا تھا جس کا تذکرہ ہم مختصر آ کر چکے ہیں اور دوسری وجہ جس پر ہم بحث کر رہے ہیں یعنی خلیفہ کا اپنے رشتہ داروں کو بے حساب بیت المال سے مدد کرنا اور ان کا خرچ دینا تھا، اگرچہ تاریخ نے ان تمام چیزوں کو نہیں لکھا ہے یہاں تک کہ طبری نے بھی کئی مرتبہ اس بات کو صراحت سے کہا ہے، میں اکثر لوگوں کے تحمل نہ کرنے کی وجہ سے بعض اعتراض کو جو مسلمانوں نے خلیفہ کے خلاف کیئے تھے، تحریر نہیں کیا ہے (۱)



لیکن وہی چیزیں جنہیں تاریخ نے لکھا ہے، بیت المال سے متعلق عثمان کے کردار کو بخوبی واضح و روشن کرتا ہے۔ مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیتیں اور دوسرے سامان جو انہوں نے اپنے اعزہ و احباب کو دینے تھے، وہ بہت زیادہ تھے جن میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔

عثمان نے فدک کے علاقہ کو جو مدتوں حضرت زہرا اور خلیفہ اول کے درمیان مورد بحث تھا مروان کو دیدیا اور یہ ملکیت ایک کے بعد ایک مروان کی اولادوں میں منتقل ہوتی رہی یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے اسے حضرت زہرا کی اولادوں کو واپس کر دیا۔

پیغمبر اسلام کی بیٹی نے کہا تھا کہ میرے بابا نے فدک مجھے دیا تھا، لیکن ابو بکر کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ صدقہ ہے اور دیگر صدقوں کی طرح یہ بھی محفوظ رہے اور اس کی آمدنی مسلمانوں کے امور میں خرچ ہو بہر حال کسی بھی صورت سے عثمان کا مروان کو فدک دینا صحیح نہیں تھا، بہت سے مورخین نے عثمان کی اس حرکت پر ان کو

(۱) تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۲۳۲۔

اڑے ہاتھ لیا اور سب نے یہی لکھا کہ "تمام لوگوں نے جو ان پر اعتراض ہوئے یہ ہے کہ انہوں نے فدک کو جو رسول اسلام کا صدقہ تھا مروان کو دیدیا" (۱)

اے کاش خلیفہ اسی پر اکتفاء کرتے اور اپنے چچا زاد بھائی اور داماد کو اس کے علاوہ کچھ اور نہ دیتے، لیکن افسوس کہ اموی خاندان کے ساتھ خلیفہ کی الفت و محبت و لگائو کی کوئی حد نہ تھی، انہوں نے اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ۲۷ ہجری میں اسلامی فوج نے افریقہ سے بہت زیادہ مال غنیمت جمع کیا تھا جس کی قیمت تقریباً ڈھائی ملین (۲۵ لاکھ) دینار تھی اس کا پانچواں حصہ (۵ لاکھ) جسے قرآن کریم نے خمس کے چھ موارد میں تقسیم کیا ہے بغیر کسی دلیل کے اپنے داماد مروان کو دیدیا، اور اس طرح سے انہوں نے سب سے مخالفت مول لی، چنانچہ بعض شعراء نے بعنوان اعتراض یہ شعر کہا (۲)

وأعطيت مروان خمس العبا

د ظلماً لهم وحميت الحمى (۳)

وہ خمس جو خدا کے بندوں سے مخصوص ہے بغیر کسی دلیل کے مروان کو دیدیا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا۔

بیت المال کے بارے میں اسلام کا نظریہ

ہر عمل ایک و نظریہ کی حکایت کرتا ہے، خلیفہ کا عمل اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ وہ بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور ہدیہ و تحفہ وغیرہ دینے کو صلہ رحمی اور رشتہ داروں کی خدمت کرنا جانتے تھے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بیت المال چاہے مال غنیمت ہو یا زکات کی طرح دوسرے اموال کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے یہاں ہم پیغمبر اسلام (ص) اور امیر المومنین کے چند اقوال کو پیش کر رہے ہیں۔

۱ پیغمبر اسلام (ص) مال غنیمت کے بارے میں فرماتے ہیں

لله خمسہ واربعة اخماس للحيش (۴)

(۱) ابن قتیبہ دینوری، معارف ص ۸۴۔

(۲) سورنہ انفال آیت ۴۱۔

(۳) سنن بیہقی ج ۶ ص ۳۲۴۔

(۴) سنن بیہقی ج ۶ ص ۳۲۴۔

اس میں سے پانچواں خدا کا حصہ اور باقی ۴۵ لشکر اسلام کا ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ خدا س سے بے نیاز ہے کہ وہ اپنے لئے حصہ معین کرے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ۱/۵ کو ایسے کاموں میں خرچ کیا جائے جن میں خدا کی مرضی شامل ہو۔

۲ جب پیغمبر اسلام نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا تو انہیں حکم دیا کہ لوگوں سے کہنا۔

"ان الله قد فرض عليكم صدقة اموالكم نوخذ من اغنياءكم فتردّالى فقراءكم" (۱)

خداوند عالم نے تم پر زکوٰۃ واجب کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور فقیروں کے درمیان تقسیم کی جائے

گی۔

۳۔ امیر المومنین نے اپنے مکہ کے حاکم کو لکھا :

جو کچھ خدا کا مال تمہارے پاس جمع ہوا ہے اس کا حساب و کتاب کرو اور اسے کثیر العیال اور بھوکوں کو دیدو ، اور اس بات کا خیال رہے کہ وہ یقیناً فقیروں اور محتاجوں کو ملے ۔

تاریخ میں ہے کہ دو عورتیں دو نژاد کی ایک عرب اور دوسری آزاد کردہ ، مولائے کائنات کے پاس آئیں اور دونوں نے حاجت پیش کی ، امام نے ہر ایک کو ۴۰ درہم کے علاوہ کھانے پینے کا سامان دیا نژاد وہ عورت جو عرب سے نہیں تھی اس نے اپنا حصہ لیا اور چلی گئی لیکن عرب عورت نے جاہلیت کی فکر رکھنے کے وجہ سے امام سے کہا کیا آپ مجھے اتنی ہی مقدار میں دیں گے جتنا غیر عرب کو دیا ہے ؟ امام - نے جواب میں کہا ، میں خدا کی کتاب قرآن میں اسماعیل کے بیٹوں کی اسحاق کے بیٹوں پر فضیلت و برتری نہیں دیکھتا؟ (۲)

ان حدیثوں اور صراحتوں کے ہوتے ہوئے اور یہ کہ خلیفہ اول و دوم کا طریقہ خلیفہ سوم سے علیحدہ تھا اس کے باوجود عثمان نے اپنی پوری خلافت کے درمیان بہت زیادہ تحفے و ہدیہ لوگوں کو دینے کہ کسی بھی صورت میں اس کی توجیہ نہیں کی جاسکتی ۔

اگر ان ہدیوں اور کو ان نیک لوگوں کو دیا جاتا جن کی گذشتہ زندگی اسلام کے لئے باعث افتخار تھی ، تو

(۱) الاموال ص ۵۸۰۔

(۲) نہج البلاغہ نامہ ۶۷۔

اتنی ملامت نہیں ہوتی ، لیکن افسوس کہ وہ گروہ لایق فضل و کرم قرار پایا جس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں تھا۔ مروان بن حکم حضرت امیر المومنین کا سخت ترین دشمن تھا ، جس وقت اس نے حضرت علی سے اپنی بیعت توڑی اور جنگ جمل میں گرفتار ہوا اور امام حسین کی شفاعت کرنے سے آزاد ہوا ، تو امام کے بیٹوں نے امام سے کہا ، مروان دوسری مرتبہ پھر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا ، امام نے فرمایا ۔ مجھے اس کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے کیا عثمان کے قتل کے بعد اس نے میرے ہاتھوں پر بیعت نہیں کیا؟ اس کی بیعت یہودیوں کی بیعت کی طرح ہے جو مکرو فریب اور بے وفائی میں بہت مشہور ہیں، اگر خود اپنے ہاتھوں پر بیعت کرے تو دوسرے دن مکرو فریب کے ساتھ اسے توڑ دے گا اس کے لئے حکومت چھوٹی چیز ہے جیسے کتا خود اپنی ناک چاٹتا ہے، وہ چار بچوں کا باپ ہے اور امت مسلمہ کو اس سے اور اس کے بچوں سے ایک روز شدید جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ (۱)

(۱) سنن بیہقی ج ۶ ص ۳۴۸۔

تیسری وجہ، اموی حکومت کی تشکیل

عثمان کے خلاف شورش کی تیسری وجہ ، اسلام کے حساس مرکزوں پر امویوں کی ظالمانہ حکومت تھی وہ بھی ایسی حکومت جو بچے اور بوڑھے کو نہیں جانتی تھی اور خشک وتر کو جلا دیتی تھی ، اصل بات یہ تھی کہ خلیفہ سوم کو بنی امیہ سے بہت ہی زیادہ الفت و محبت تھی اور رشتہ دار کی محبت کو ٹ کوٹ کر بھری تھی ، اپنے رشتہ داروں کی اس درخواست کی تکمیل کے لئے کہ ایک اموی حکومت تشکیل دی جائے عقل و خرد ، مسلمانوں کی مصالح و مفاسد اور اسلام کے قوانین کی عثمان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی اور بنی امیہ سے بیحد محبت کی وجہ سے بہت زیادہ غلط انجام پاتے تھے ۔

اس بات کی بھی یاد دہانی ضروری ہے کہ ان کی محبت سارے مسلمانوں سے نہ تھی بلکہ ان کی محبت کا ربط صرف اپنے رشتہ داروں سے تھا ، اور دوسرے افراد ان کے غیظ و غضب سے امان میں نہ پہنچتے ، یعنی شجرہ اموی سے بے شمار محبت کی وجہ سے ابوذر ، عمار ، عبد اللہ بن مسعود وغیرہ پر بہت خشمگین رہتے تھے ، جس وقت

ابو ذر کو ایسی سرزمین جہاں آب ودانہ نہ تھا یعنی ، ریزہ بھیجا اور اس عظیم مجاہد نے وہاں تڑپ تڑپ کر جان دیدی ، اس وقت ان کی محبت جوش میں نہ آئی جس وقت عمار خلافت کے بکے ہوئے کارمندوں کے لات گھونسوں سے زخمی ہوئے اور اور بے ہوش ہو گئے ، خلیفہ پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا ۔

خلیفہ کا خاندان ، بنی ابی معیط ، کے ساتھ لگائو چھپنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ خلیفہ دوم نے بھی اس بات کا احساس کر لیا تھا تبھی تو انہوں نے ابن عباس سے کہا تھا :

"الولیہا عثمان لحمل بنی ابی معیط علی رقاب الناس ولو فعلها لقتلوه" (۱)

اگر عثمان خلافت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے گا تو ابی معیط ، کے بیٹوں کو لوگوں پر مسلط کر دے گا اور اگر اس نے ایسا کیا تو لوگ اسے قتل کر دیں گے۔

جس وقت عمر نے شوری تشکیل دینے کا حکم دیا اور اس میں عثمان کو بھی داخل کیا تو ان کی طرف رخ کر کے کہا ، اگر خلافت تمہارے ہاتھوں میں آجائے تو اس وقت خدا سے خوف کھانا اور ابی معیط کی آل کو لوگوں پر مسلط نہ کرنا جب عثمان نے ولید بن عتبہ کو کوفہ کا گورنر بنایا، تو امیر المومنین اور طلحہ وزبیر نے عمر کی بات یاد دلانی اور عثمان سے کہا :

"الم یوصک عمر الا تحمل آل بنی محیط وبنی امیہ علی رقاب الناس؟" (۲)

کیا عمر نے تم کو نصیحت نہیں کی تھی کہ آل بنی محیط اور بنی امیہ کو لوگوں پر مسلط نہ کرنا؟

لیکن ہوا وہی کے سارے معیار ان کی مکمل محبت و غالب ہو گئی ، اور اسلام کے تمام حساس و اہم مراکز امویوں کے ہاتھوں میں آ گئے ، اور ایسا ہوا کہ ایک گروہ قدرت و حکومت میں مست اور دوسرا گروہ مال جمع کرنے میں مشغول ہو گیا جب کہ نزدیک اور دور کے علاقے کے مسلمان خلیفہ کے رشتہ داروں کو غرامت دینے والے تھے ۔

حقیقت میں عثمان نے خاندان بنی امیہ کے بوڑھے شخص ، ابو سفیان کی پیروی کی جو عثمان کے خلیفہ منتخب ہونے والے دن ان کے گھر آیا ورجب اس نے دیکھا کہ وہاں سب کے سب بنی امیہ سے ہیں تو اس

(۱) انساب بلاذری ج ۱۶ ، ۵۰۔

(۲) انساب بلاذری ج ۵ ص ۳۰۔

نے کہا کہ خلافت کو یکے بعد دیگرے اپنے ہی ہاتھوں میں رکھنا۔ (۱)

ابو موسیٰ اشعری یمنی کوفہ کا حاکم تھا، اور یہ چیز خلیفہ کے ساتھیوں کے لئے برداشت کے قابل نہیں تھا کہ ایک غیر اموی شخص اس عہدے پر فائز ہو ، یہی وجہ تھی کہ شبلی بن خالد نے ایک خصوصی جلسہ میں جس میں سب کے سب اموی تھے کہا: کیوں اتنی زیادہ زمین ابو موسیٰ اشعری کو دیدیا ہے؟ ، خلیفہ نے کہا: تمہاری نظر میں کون بہتر ہے؟ شبلی نے عبداللہ بن عامر کی طرف اشارہ کیا ، اس وقت اس کی عمر سولہ سال سے زیادہ نہ تھی۔ (۲)

اسی فکر کا نتیجہ تھا کہ حاکم کوفہ سعید بن عاص اموی نے منبر سے اعلان کیا تھا کہ عراق قریش کے جوانوں کی چراگاہ ہے۔

اگر حکومت عثمان میں کام کرنے والوں کی فہرست کو تاریخ کے اوراق سے نکالا جائے تو اس وقت خلیفہ سوم کی بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ نے کہا تھا ۔

"لو ان بیدی مفاتیح الجنۃ لاعطیتہا بنی امیہ حتی ید خلوا من اخرہم" (۳)

اگر جنت کی کنجی میرے ہاتھوں میں ہوتی تو اسے بنی امیہ کو دیدیتا تاکہ بنی امیہ کی آخری فرد بھی جنت میں داخل ہو جائے۔

اسی بے جا اور بے حساب محبت کا نتیجہ تھا کہ لوگ خلیفہ کے حاکموں کے ظلم و ستم اور حکومت کے سیاسی رہنمائوں کے ظلم و جبر سے عاجز ہو گئے تھے اور خلیفہ کے خلاف ایسی مخالفتیں معاشرے میں پروان چڑھنے لگیں جنہوں نے عثمان کی خلافت اور ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ۔

عثمان کی خلافت کے زمانے مینگورنروں کے سلسلے میں صرف کوفہ اور مصر میں جو تبدیلیاں دیکھنے کو آئیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان کی سیاست یہ تھی کہ سارے امور امویوں کے ہاتھوں میں ہوں۔

(۱) استیعاب ج ۲ ص ۶۹۰۔

(۲) تاریخ طبری ، کامل ابن اثیر۔ انساب بلاذری ۔

جس وقت خلیفہ نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی، مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے سعد وقاص کو اس کی جگہ پر منصوب کر دیا، اس مورد میں ظاہر اچھا کام کیا کیونکہ سعد وقاص کا مقام و مرتبہ جو کہ فاتح عراق تھا۔ مغیرہ بن شعبہ سے جو نا زیبا اور غلط کاموں میں مشہور تھا بہت بلند تھا بلکہ اس کا ان سے مقابلہ نہیں تھا، لیکن حقیقت میں سعد وقاص کو منصوب کرنے کا مقصد کچھ دوسرا تھا کیونکہ ایک سال کے بعد انہوں نے سعد وقاص کو ہٹا کر اپنے مادری بھائی ولید بن عتبہ بن ابی معیط کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، ۲۷ ہجری میں عمرو عاص کو مصر سے جزیہ لینے کی ذمہ داری سے ہٹا کر اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مصر میں جزیہ لینے کے لئے معین کر دیا، ۳۰ ہجری میں ابو موسیٰ اشعری کو، جو خلیفہ دوم کے زمانے سے بصرہ کا حاکم تھا، معزول کر کے اپنے ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر جو بالکل نوجوان (۶ سال کا) تھا بصرہ کا حاکم بنا دیا۔ (۱)

یہ تمام موارد جوڈ کر ہوئے ہیں اس بات کی علامت ہیں کہ عثمان کی ہمیشہ یہی کو شش تھی کہ ایک اموی حکومت تشکیل پا جائے۔

چوتھی وجہ، پیغمبر اسلام ﷺ کے صحابہ پر ظلم و ستم عثمان کے خلاف شورش و بغاوت کی چوتھی وجہ پیغمبر کے صحابہ کی بے حرمتی تھی، جو خود عثمان کی طرف سے یا ان کی طرف سے معین کئے ہوئے شخص کے ہاتھوں انجام ہوتی تھی، اس سلسلے میں یہاں صرف دو نمونے پیش کر رہا ہوں۔

۱۔ عبداللہ بن مسعود پر ظلم و ستم عبداللہ بن مسعود پیغمبر اسلام (ص) کے بزرگ صحابی تھے، تاریخ اسلام میں جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور صحابہ کے بارے میں جو کتابیں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ان کے حالات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوی ایمان والے اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے معارف اسلامی کی اشاعت میں کوشاں رہتے تھے۔ (۲)

(۱) تاریخ طبری کامل ابن اثیر، انساب بلاذری۔  
(۲) استیعاب ج ۱، ص ۳۷۳، اصحابہ ج ۲، ص ۳۶۹، اسد الغابہ۔

وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر مسجد الحرام میں اور قریش کی انجمن کے سامنے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کی، تاکہ خدا کے کلام کو قریش کے اندھے دلوں تک پہنچائیں، جی ہاں دو پہر کے وقت جب قریش کے سردار جمع ہو کر تبا دلہ خیال کر رہے تھے، کہ اچانک عبداللہ نے "مقام ابراہیم" کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں سورنہ رحمن کی چند آیتوں کی تلاوت کی، قریش نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، ابن ام عبد، کیا کہہ رہا ہے؟ ایک نے کہا جو قرآن محمد پر نازل ہوا ہے اسے ہی پڑھ رہا ہے، اس وقت سب کے سب اٹھے اور عبداللہ پر سب و شتم اور ان کے چہرے پر طمانچہ مار کر ان کی آواز کو خاموش کر دیا، عبد اللہ زخمی چہرے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آگئے، لوگوں نے ان سے کہا، تم سے ہمیں اس بات کا خوف تھا، عبداللہ نے ان کے جواب میں کہا دشمنان خدا آج کی طرح کبھی بھی میری نگاہ میں اتنے ذلیل و حقیر نہ تھے، اور پھر کہا کہ اگر تم لوگ راضی ہو تو میں کل پہر اسی کام کو دوبارہ کروں! ان لوگوں نے کہا جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے اس کو جتنا انہوں نے سن لیا بس وہ ہی کافی ہے (۲) یہ اس صحابی کے تابناک زندگی کے خوشنما اوراق ہیں جس نے اپنی عمر کو جوانی کی ابتداء سے مسلمانوں کو قرآن سکھانے اور توحید کا درس دینے میں صرف کیا تھا اور وہ ان چھ افراد میں سے ہے جن کے بارے میں ذیل کی آیت نازل ہوئی۔ (۲)

"وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْئٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ" (انعام ۵۲)

اور (اے رسول) جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے اس کی خوشنودی کی تمنا میں دعائیں مانگا کرتے ہیں ان کو اپنے پاس سے نہ دھتکارو، نہ ان کے (حساب و کتاب کی) جوابدہی تمہارے ذمہ ہے اور نہ تمہارے (حساب و کتاب کی) جوابدہی کچھ ان کے ذمہ ہے تاکہ تم انہیں (اس خیال سے) دھتکار بتاؤ تو تم ظالموں (کے شمار) میں ہو جاؤ گے۔

(۱) سیرنہ ابن ہشام ج ۱، ص ۳۳۷۔  
(۲) تفسیر ی طبری ج ۷، ص ۱۲۸، مستدرک حاکم نیشا پوری ج ۳، ص ۳۱۹۔

عبداللہ کی عظمت کے بارے میں اس سے زیادہ تاریخ نے بیان کیا ہے حق تو یہ ہے کہ یہاں تفصیل سے بیان کیا جاتا لیکن جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ ایسے مومن اور خدمت گزار صحابی جس کی خطا صرف یہ تھی کہ اس نے کوفہ کے حاکم ولید بن عتبہ کا ساتھ نہیں دیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔

سعدو قاص کوفہ کا حاکم تھا عثمان نے اسے اس منصب سے ہٹادیا اور اپنے رضاعی بھائی ولید بن عتبہ کو ان کی جگہ معین کر دیا، ولید نے کوفہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے بیت المال کو اپنے قبضہ میں لے لیا اسکی کنجی عبداللہ بن مسعود کے پاس تھی، عبداللہ نے کنجی دینے سے انکار کر دیا ولید نے اس کی خبر عثمان کو بھیجی، عثمان نے عبداللہ بن مسعود کے نام خط لکھا اور ولید کو بیت المال کی کنجی نہ دینے پر ملامت کیا، عبداللہ نے خلیفہ کے خوف و ڈر کی وجہ سے کنجی حاکم کی طرف پھینک دی اور کہا:

کیسا دن آگیا کہ سعد و قاص کو ان کے منصب سے دور کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر ولید بن عتبہ کو منصوب کر دیا گیا، خدا کا کلام سچا ہے بہترین حضرت محمدؐ کی رہنمائی و ہدایت ہے، ان کے لئے بدترین امور انکی نئی باتیں ہیں جن کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے جو چیز بھی شرعی نہ ہو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔

عبداللہ نے یہ باتیں کہیں اور چونکہ عثمان نے انہیں مدینہ بلایا تھا لہذا مدینے کی طرف روانہ ہو گئے کوفہ کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوئے اور مدد کرنے کا وعدہ کیا انہوں نے کہا خلیفہ کی اطاعت مجھ پر فرض ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں وہ پہلا شخص بنوں جو فتنہ و فساد کا دروازہ کھولتا ہے وہ جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے سیدھے مسجد گئے اور وہاں خلیفہ کو منبر پر مصروف گفتگو پایا۔

بلاندی لکھتے ہیں: جب عثمان کی نگاہ عبداللہ بن مسعود پر پڑی تو وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ابھی ابھی تمہارے درمیان ایک بد بودار جانور آیا ہے وہ جاندار جو خود اپنی غذا پر چلتا ہے اور اس پر قے کر کے اسے خراب کر دیتا ہے۔

عبداللہ نے جیسے ہی یہ سنا جواب دیا، کہ میں ایسا نہیں ہوں بلکہ میں پیغمبر کا صحابی، جنگ بدر کا سپاہی اور بیعت الرضوان، میں بیعت کرنے والا ہوں۔

اس وقت عائشہ نے اپنے کمرے سے فریاد بلند کی، عثمان! کیوں پیغمبر کے صحابہ کی توہین کر رہے ہو؟ چہ می گوئیاں شروع ہو گئیں شروافت سے بچنے کیلئے عبداللہ کو خلیفہ کے حکم سے مسجد سے باہر نکال دیا گیا۔ ابن زمعہ نے انہیں زمین پر گرا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ جحوم، عثمان کے غلام نے انہیں اٹھایا اور پھر بہت تیز زمین پر اس طرح سے گرایا کہ ان کے دانت ٹوٹ گئے اس وقت حضرت علی نے اعتراض کیا اور کہا: صرف ولید کی شکایت پر تم پیغمبر کے صحابی پر یہ ظلم کر رہے ہو؟

با لآخر امام عبداللہ کو اپنے گھر لے گئے لیکن عثمان نے اسے مدینہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگادی وہ مدینے ہی میں رہے یہاں تک کہ ۳۲ ھ میں (عثمان کے قتل ہونے سے ۳ سال پہلے) اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ (۱)  
عبداللہ بن مسعود جب بستر بیماری پر تھے تو ان کے دوست و احباب ان کی عیادت کے لئے آئے، ایک دن عثمان نے بھی ان کی عیادت کی اور دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ درج ذیل ہے:

عثمان: کس چیز کی وجہ سے فکرمند ہو؟

عبداللہ: اپنے گناہوں کی وجہ سے۔

عثمان: کیا چاہتے ہو؟

عبداللہ: خدا کی وسیع ترین رحمت۔

عثمان: تمہارے لئے طبیب کا انتظام کرو۔

عبداللہ: حقیقی طبیب نے بیمار کیا ہے۔

عثمان: حکم دیدوں کہ تمہاری سابقہ پنشن ادا کر دی جائے (۲ سال سے ان کی پنشن روک دی گئی تھی)۔

عبداللہ: جس دن مجھے ضرورت تھی اس دن تم نے منع کر دیا تھا اور آج جب کہ مجھے ضرورت نہیں ہے دینا چاہتے ہو؟

عثمان : ( یہ مال ) تمہارے بچوں اور وارثوں تک پہنچے گا۔  
عبداللہ : خدا ان لوگوں کو رزق دینے والا ہے ۔

(۱) حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۱۳۸۔

عثمان: خدا سے میرے لئے استغفار کرو۔

عبداللہ: خدا سے یہی چاہو گا کہ میرا حق تجھ سے لے لے۔

جب عبداللہ نے اپنے کو موت سے قریب پایا تو عمار اور ایک روایت کی بنا پر زبیر کو اپنا وصی قرار دیا کہ عثمان کو میرے جنازے پر نماز نہ پڑھنے دینا، یہی وجہ تھی کہ رات میں نماز جنازہ ہوئی اور دفن کر دیئے گئے، عثمان جب اس واقعہ سے باخبر ہوئے تو عمار سے پوچھا کہ کیوں عبداللہ کے مرنے کی خبر مجھے نہیں دی، عمار نے کہا انہوں نے وصیت کیا تھا کہ تم ان کی لاش پر نماز نہ پڑھو، زبیر نے عثمان اور عمار کی گفتگو سننے کے بعد اس شعر کو پڑھا۔

لا عرفنک بعدا لموت تندبني

وفی حیاتی ما زودتني زادی

میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر رو رہا ہے، حالانکہ جب میں زندہ تھا تو نے میرا حق ادا نہیں کیا

جناب عبداللہ بن مسعود پیغمبر کے جلیل القدر صحابی اور بزرگ قاریوں میں سے تھے اور جن کے بارے میں حضرت امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ "علم القرآن و علم السنة ثم انتہی وکفی بہ علماً" (۱)

ان پر ایسا ظلم و ستم کرنا حقیقت میں بغیر کسی عکس العمل کے نہ تھا، جب خلافت ایسے برے کام انجام دے تو لوگوں کے درمیان بدبینی اور انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اس عمل کی تکرار کی وجہ سے لوگوں میں حکومت کے خلاف بغاوت اور انقلاب لانے کی فکر پیدا ہو جائے گی اور جو چیز نہیں ہو نی چاہیئے وہ ہو جاتی ہے ۔

(۱) یعنی: قرآن و سنت کو سیکھا اور آخر تک پہنچایا ان کے لئے یہی کافی ہے، انساب ج ۵، ص ۳۶۔ تاریخ ابن کثیر ج ۷ ص ۱۶۳

۲۔ عمار یاسر پر ظلم و ستم

یہ صرف عبداللہ بن مسعود نہ تھے جو خلیفہ کی بے توجہی کا نشانہ بنے، بلکہ عمار یاسر بھی ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، ان پر ظلم و ستم اور اہانت کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ نے بیت المال کے بعض زیورات کو اپنے اہل و عیال کے لئے مخصوص کر دیا تھا، اور جب لوگ یہ دیکھ کر بہت غصہ ہوئے تو وہ اپنے دفاع اور صفائی کے لئے منبر پر گئے اور کہا: مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی بیت المال سے لونگا، اور ان لوگوں کو سخت سزا دوں گا (جو اعتراض کریں گے) علی نے خلیفہ کا جواب دیتے ہوئے کہا: تمہیں اس کام سے روکا جائے گا۔

عمار نے کہا: خدا کی قسم میں وہ پہلا شخص ہوں جسے اس کی وجہ سے سزا دی جائے گی اس وقت عثمان نے تند لہجہ میں کہا، اے بڑے پیٹ والے میرے سامنے تمہاری یہ ہمت؟ اسے پکڑ لو، انہیں پکڑ لیا گیا اور اتنا مارا کی حالت غیر ہو گئی عمار کے دوستوں نے انہیں پیغمبر کی بیوی ام سلمہ کے گھر پہنچایا، جب انہیں ہوش آیا تو کہا: خدا کا شکر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ مجھ پر ظلم و ستم ہوا ہے جب عائشہ کو اس واقعہ کی خبر ملی تو انہوں نے پیغمبر کا بال، لباس اور نعلین باہر نکالا اور کہا ابھی پیغمبر کا بال، لباس، اور نعلین پرانا نہیں ہوا ہے اور عثمان نے ان کی سنت کو نظر انداز کر دیا ہے عثمان عائشہ کی باتیں سن کر بہت غصہ ہوا مگر انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔

ام سلمہ نے پیغمبر کے بزرگ ساتھی کی خوب تیما داری کی اور قبیلہ بنی مخزوم کے افراد جو عمار کے ہم خیال تھے ام سلمہ کے گھر آتے جاتے تھے، یہ بات عثمان کو بہت بری لگی اور انہوں نے اعتراض کیا، ام سلمہ نے عثمان کو پیغام بھجوایا: تم خود لوگوں کو اس کام پر مجبور کرتے ہو۔ (۱)

ابن قتیبہ نے اپنی کتاب "الامامۃ والسیاسة" میں عمار پر ظلم و ستم کے واقعہ کو دوسری طرح نقل کیا ہے جس کا خلاصہ

- ۳۔ یہ ہے: پیغمبر کے تمام صحابی ایک جگہ جمع ہوئے اور خلیفہ وقت کے نام خط لکھا اور اس میں ان کے ظلم و ستم اور کمزوریوں کے بارے میں تحریر کیا۔
- ۱۔ خلیفہ نے چند چیزوں میں پیغمبر کی سنت اور شیخین کی مخالفت کی ہے۔
- ۲۔ افریقہ سے آئے ہوئے مال غنیمت کو، جو کہ رسول اور ان کے اہلبیت (ع) اور یتیموں اور مسکینوں کا حق تھا، مروان کے سپرد کر دیا۔
- ۳۔ عثمان نے اپنی بیوی نائلہ اور اپنی بیٹی کے لئے مدینے میں سات گھر بنوائے۔
- ۴۔ مروان نے بیت المال کی رقم سے مدینہ میں بہت سے "قصر" بنوائے۔
- ۵۔ عثمان نے تمام سیا سی امور امویوں کے سپرد کر دیا تھا اور مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال

#### (۱) انساب ج ۵ ص ۸۷

ایسے نوجوان کے ہاتھ میں دے رکھی تھی جس نے ہر گز رسول خدا کو نہ دیکھا تھا۔

۶۔ کوفہ کے حاکم ولید بن عتبہ نے شراب پی کر مستی کے عالم میں صبح کی نماز چار رکعت پڑھائی اور پھر ما مو میں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر تم لوگ راضی ہو تو کچھ اور رکعتوں میں اضافہ کرو۔

۷۔ ان تمام چیزوں کے باوجود، عثمان نے ولید پر شراب پینے کی حد جاری نہیں کی۔

۸۔ مہاجر و انصار کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے مشورہ وغیرہ نہیں کرتا۔

۹۔ بادشاہوں کی طرح مدینے کے اطراف کی تمام زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔

۱۰۔ وہ لوگ جنہوں نے ہر گز پیغمبر کے زمانے کو درک نہیں کیا تھا اور نہ کبھی جنگ میں شرکت کی تھی اور نہ اس وقت ہی دین کا دفاع کر رہے ہیں، انہیں بہت زیادہ مال و دولت دیا اور بہت زیادہ زمین ان کے نام کر دی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی خلاف ورزیاں ہیں۔

ایک گروہ جس میں دس آدمی شامل تھے ان کے توسط سے یہ خط لکھا گیا لیکن عکس العمل کی وجہ سے لوگوں نے اس پر دستخط نہیں کیا اور اسے عمار کے حوالے کیا کہ عثمان تک پہنچا دیں، وہ عثمان کے گھر آئے اس وقت مروان اور بنی امیہ کے دوسرے گروہ عثمان کے اردگرد بیٹھے تھے، عمار نے خط عثمان کے حوالے کیا خلیفہ خط پڑھنے کے بعد لکھنے والوں کے نام سے باخبر ہو گیا لیکن وہ سمجھ گیا کہ ان میں سے کوئی بھی ڈر کے مارے ان کے گھر نہیں آیا ہے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے عمار کو مخاطب کر کے کہا: میرے ساتھ تمہاری جرأت بہت بڑھ گئی ہے مروان نے خلیفہ سے کہا: اس کالے غلام نے لوگوں کو تمہارے خلاف بھڑکایا ہے اگر اسے قتل کر دیا گویا تم نے اپنا اور دوسروں کا بدلہ لے لیا ہے۔

عثمان نے کہا: اسے مارو۔

سب نے انہیں اتنا مارا کہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور حالت غیر ہو گئی، پھر اسی حالت میں انہیں گھر سے باہر پھینک دیا گیا۔

ام سلمہ پیغمبر کی بیوی اس واقعہ سے باخبر ہوئیں اور انہیں اپنے گھر لے آئیں۔ قبیلہ بنی مغیرہ کے لوگ جو عمار کے ہم فکر و خیال تھے اس واقعہ سے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ جب خلیفہ نماز ظہر پڑھنے کے لئے مسجد میں آئے اس وقت ہشام بن ولید نے عثمان سے کہا: اگر عمار ان زخموں کی وجہ سے مر گئے تو بنی امیہ کے ایک شخص کو قتل کر ڈالو گا۔

عثمان نے جواب میں کہا: تم ایسا نہیں کر سکتے۔

اس وقت علی کی طرف متوجہ ہوئے دونوں کے درمیان سخت لہجہ میں گفتگو ہوئی۔ یہاں گفتگو طولانی ہونے کی وجہ سے ہم نقل کرنے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ (۱)

پانچویں وجہ، بزرگ شخصیتوں کو جلا وطن کرنا

پیغمبر اسلام (ص) کے بہت سے صحابی اور دوست جو امت کے درمیان حسن سلوک اور تقویٰ میں بہت مشہور تھے ان کو عثمان نے کوفہ سے شام اور شام سے "حمص" اور مدینہ سے "ربذہ" کی طرف جلا وطن کر دیا۔

تاریخ اسلام کا یہ باب بہت ہی دردناک باب ہے اور اس کا مطالعہ کرنے والا ایک ظالم و ستمگر حکومت و خلافت کا

احساس کرتا ہے اور ہم اس باب میں چند کی طرف مختصراً اشارہ کریں گے اور چونکہ تقریباً سبھی لوگ ابوذر کی جلا وطنی سے باخبر ہیں (۲) لہذا ان کے حالات نقل نہیں کریں گے اور عثمان کی خلافت کے زمانے میں دوسرے بزرگ جو جلا وطن ہوئے ہیں ان کے حالات قلمبند کر رہے ہیں۔

(۱) الامامة و السياسة، ج ۱، ص ۲۹۔

(۲) شخصیتہای اسلامی شیعہ، ج ۱، ص ۸۔

مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کی جلاوطنی

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے خلیفہ سوم نے لوگوں کے دبانو کی بنا پر کوفہ کے بدترین حاکم و لید بن عتبہ کو حاکم کے منصب سے معزول کر کے سعید بن عاص اموی کو کوفہ کا حاکم بنا دیا اور اسے حکم دیا کہ قرآن کے قاریوں اور مشہور و معروف افراد کے ساتھ اچھا روابط رکھے، یہی وجہ تھی کہ کوفہ کے نئے حاکم کی مالک اشتر اور ان کے دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح صوحان کے بیٹے زید اور صعصعہ کے ساتھ نشست و گفتگو ہوتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوفہ کے حاکم نے مالک اشتر اور ان کے ہمفکروں کو خلیفہ کا مخالف جانا اور اس سلسلے میں اس نے خلیفہ سے خفیہ طور پر خط و کتابت کی اور اپنے خط میں لکھا:

مالک اشتر اور ان کے ساتھی قرآن مجید کے قاری ہیں لیکن میں ان کی موجودگی میں اپنا فریضہ انجام نہیں دے سکتا، خلیفہ نے حاکم کوفہ کو جواب دیا کہ اس گروہ کو جلاوطن کر کے شام بھیج دو، اور اسی کے ساتھ مالک اشتر کو بھی خط لکھا: تم اپنے دل میں کچھ ایسی باتیں چھپائے ہو کہ اگر اس کو ظاہر کیا تو تمہارا خون بہانا حلال ہو جائے گا اور مجھے ہرگز اس بات کی امید نہیں ہے کہ تم اس خط کو دیکھنے کے بعد اپنے مشن سے دور ہو جاؤ گے مگر یہ کہ تم پر سخت بلا و مصیبت نازل ہو، جس کے بعد تمہاری زندگی ختم ہو جائے، جیسے ہی میرا خط تمہارے پاس پہنچے فوراً شام کی طرف چلے جانا۔

جب خلیفہ کا خط کوفہ کے حاکم کے پاس پہنچا تو اس نے دس آدمیوں پر مشتمل گروہ جس میں کوفہ کے صالح اور متدین افراد تھے، جلاوطن کر کے شام بھیج دیا جن کے درمیان مالک اشتر کے علاوہ صوحان کے بیٹے زید و صعصعہ اور کمیل بن زیاد نخعی، حارث عبد اللہ حمدانی وغیرہ جیسی اہم شخصیتیں شامل تھیں۔

قرآن کریم کے قاریوں اور بہادر و توانا خطیبوں اور متقیوں کے اس گروہ نے شام کے حاکم معاویہ کی زندگی کو بھی عذاب بنادیا تھا اور قریب تھا کہ وہاں کے افراد شام کے حاکم او خلافت عثمان کے خلاف انقلاب برپا کر دیں، لہذا معاویہ نے خلیفہ کو خط لکھا کہ اس گروہ کا شام میں موجود رہنا خلافت کے لئے خطرہ کا باعث ہے اس نے اپنے خط میں لکھا: "تم نے ایسے گروہ کو شام میں جلاوطن کر کے بھیجا ہے کہ جس نے ہمارے شہر و دیار میں ہنگامہ اور جوش و خروش پیدا کر دیا ہے، میں ہرگز مطمئن نہیں ہوں کہ شام بھی کوفہ کی طرح مشکلات میں گرفتار نہ ہو، اور شامیوں کی فکر صحیح و سالم اور استحکام کو خطرہ و مشکل نہ ہو، معاویہ کے خط سے خلیفہ کے اندر خوف پیدا ہو گیا، خلیفہ نے جواب میں لکھا کہ اس گروہ کو حمص (شام کا ایک دور دراز پسماندہ علاقہ) جلاوطن کر کے بھیج دو۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خلیفہ نے ارادہ کیا کہ اس گروہ کو دوبارہ کوفہ بھیج دے لیکن سعید بن عاص حاکم کوفہ نے خلیفہ کو اس چیز سے منع کر دیا اور اسی وجہ سے وہ لوگ حمص جلاوطن ہوئے۔ (۱)

جو لوگ خلیفہ سوم کے نمائندوں کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر جلا وطن ہوئے ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لوگ حق بات اور خلافت کے نمائندوں پر تنقید کیا کرتے تھے وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ بھی سیرت پیغمبر پر چلے۔

خلیفہ کے شایان شان یہ تھا کہ کوفہ کے حاکم کی بات سننے کے بجائے کچھ امین اور سچے افراد کو کوفہ بھیجتے، تاکہ وہ حقیقت کا پتہ لگاتے اور ایسے اہم کام میں صرف ایک نمائندہ کی بات پر اکتفا نہ کرتے۔



(۱) الانساب ج ۵ ص ۴۳۔ ۳۹؛ اس کی تفصیل تاریخ طبری ج ۳ ص ۳۶۸۔ ۳۶۰؛ (حادثہ کا سال ۵۳۳ھ) میں بیان ہوئی ہے۔

جلاوطن ہونے والے افراد کون تھے؟

- ۱۔ مالک اشتر: اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے پیغمبر (ص) کے زماکو درک کیا تھا اور کسی ایک مورخ نے ، ان کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں لکھا ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیان میں ان کی اس طرح سے تعریف و توصیف کی ہے کہ آج تک کسی کی بھی اس طرح تعریف نہیں کی۔ (۱)
- جب مالک اشتر کی وفات کی خبر امام کو ملی بہت زیادہ غمگین ہوئے اور کہا:
- "و ما مالک! لوکان من جبل لکان فنداً و لو کان من حجر لکان صلداً . أما و الله لیبدن موتک عالماً و لیفرحن عالماً علی مثل مالک فلیبک البواکی و ہل موجود کمالک" (۲)
- کیا تم جانتے ہو کہ مالک کیسا آدمی تھا؟ اگر وہ پہاڑ تھا تو اس کی سب سے بلند چوٹی تھا (کہ اس پر سے پرندے پرواز نہیں کرسکتے) اور اگر وہ پتھر تھا تو بہت سخت پتھر تھا اے مالک تمہاری موت نے ایک دنیا کو غمگین اور دوسری دنیا کو خوشحال کردیا، مالک پر رونے والوں کی طرح گریہ کرو۔ کیا مالک کے جیسا کوئی موجود ہے؟
- ۲۔ زید بن صوحان: ان کی شخصیت کے بارے میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ ابو عمر واپنی کتاب "استیعاب" میں لکھتا ہے۔
- "یہ اپنے قبیلے کے بہت ہی با فضیلت، بزرگ اور دیندار تھے ،جنگ قادسیہ میں اپنا ایک ہاتھ قربان کرچکے تھے اور جنگ جمل میں امام علی کے رکاب میں جام شہادت نوش کیا۔(۳)

(۱) نہج البلاغہ، نامہ ۳۸، "فقد بعثت الیکم عبداً من عباد الله لاینام ایام الخوف..."

(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۶ ص ۷۷ (۳) استیعاب ج ۱ ص ۱۹۷۔

- خطیب بغدادی لکھتا ہے: زید راتوں کو عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔(۱)
- ۳۔ صعصعہ: زید کے بھائی صعصعہ بھی آپ ہی کی طرح بزرگ و باعظمت اور دیندار تھے۔
- ۴۔ عمر وبن حمق خزاعی: پیغمبر کے خاص صحابیوں میں سے تھے اور آپ کی بہت سی حدیثیں یاد کئے ہوئے تھے، انہوں نے جب رسول اسلام کو دودھ سے سیراب کیا تھا تو رسول اسلام نے ان کے لئے دعا کی تھی اور فرمایا تھا خداوند اسے اس کی جوانی سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔(۲)
- ان افراد کی آشنائی سے ہمیں دوسرے جلاوطن افراد کی شناسائی ہوتی ہے، کیونکہ بحکم "الانسان علی دین خلیلہ" یہ سب کے سب ایک ہی فکر و نظر رکھتے تھے اور متحد تھے اور خلیفہ وقت کی غلط روش اور اس کے کارندوں پر ہمیشہ تنقید و اعتراض کیا کرتے تھے ان تمام افراد کی زندگی کے حالات اور ان کے علمی ، سیاسی اور معنوی مقامات کا تذکرہ کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ بحث طولانی ہو جائے گی، لہذا اپنی گفتگو کو مختصر کر رہے ہیں اور دوسرے افراد جو جلاوطن ہوئے ہیں ان کی اہم خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔
- کعب بن عبدہ نے اپنی دستخط کے ساتھ خلیفہ سوم کو خط لکھا اور اس میں کوفہ کے حاکم وقت کے برے کاموں کی شکایت لکھی، اور خط کو ابو ربیعہ کے حوالے کیا، جس وقت قاصد نے خط، عثمان کے سپرد کیا فوراً اسے گرفتار کر لیا گیا۔ عثمان نے کعب کے تمام ہمفکروں کو جنھونے (بغیر دستخط کے) اجتماعی طور پر خط لکھا تھا اور ابو ربیعہ کو دیا تھا اس سے پوچھا لیکن اس نے ان لوگوں کا نام بتانے سے انکار کیا۔ خلیفہ نے قاصد کو سزا دینے کے لئے کہا: لیکن علی علیہ السلام نے اسے اس کام سے روک دیا۔ پھر عثمان نے اپنے کوفہ کے حاکم سعد بن العاص کو حکم دیا کہ کعب کو ۲۰ تازیانے مارو جائے اور اسے رے جلاوطن کر کے بھیج دو۔(۳)
- عبدالرحمن بن حنبل جمحی، پیغمبر کے صحابی کو مدینہ سے خیبر کی طرف جلاوطن کر دیا گیا ، ان کا جرم یہ تھا کہ خلیفہ کے عمل پر ، یعنی وہ مال غنیمت جو افریقہ سے آیتھا اور اسے مروان کو دیدیا، اعتراض کیا تھا اور اس سلسلے میں یہ شعر بھی کہا تھا۔

- (۱) معارف ابن قتیبہ ص ۱۷۶۔  
 (۲) تاریخ بغداد ج ۸ ص ۴۳۹۔  
 (۳) انساب ج ۵ ص ۴۳۔ ۴۱؛ تاریخ طبری ج ۳ ص ۳۷۳۔ ۳۷۲۔

و اعطیت مروان خمس الغنیمۃ  
 اثرته و حمیت الحمی

مال غنیمت کا ۱۵ حصہ مروان کودیدیا اور اسے دوسروں پر مقدم سمجھا اور اپنے رشتہ داروں کی حمایت کی یہ مرد مجاہد جب تک عثمان زندہ رہا خیبر میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ (۱)

(۱) تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۵۰۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

دوسری فصل  
 مقدمہ کا واقعہ اور عثمان کا قتل

پانچ عوامل کا عکس العمل

جو پانچ وجہیں ہم نے بیان کیں ان کی وجہ سے تمام اسلامی مملکتوں سے اعتراضات ہونے لگے اور خلیفہ اور اس کے تمام نمائندوں پر الزامات لگنے لگے ان تمام لوگوں پر یہ الزام لگایا گیا کہ سب کے سب صحیح اسلامی راستے سے منحرف ہو گئے ہیں۔

یہی وجہ تھی کہ صحابیوں اور مسلمانوں نے ہمیشہ خلیفہ سے درخواست کیا کہ اپنی روش کو بدل دیں یا یہ کہ مسند خلافت سے دور ہو جائیں۔

اس مخالفت و اعتراض کی عظمت اس وقت ظاہر ہوگی جب ہم بعض اعتراض کرنے والوں کے نام اور ان کی گفتگو سے آشنا ہوں۔

۱۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عثمان کے طور طریقہ پر بہت زیادہ گفتگو کی ہے، چاہے وہ قتل سے پہلے ہو یا قتل کے بعد۔ انہی میں سے ایک یہ ہے جو امام کا خلیفہ کے کاموں سے متعلق یہ نظریہ ہے جس دن آپ نے مہاجرین کے فرزندوں کو شامیوں کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی، تو آپ نے فرمایا:

"يَا اَبْنَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَنْفِرُوا عَلٰى اَئِمَّةِ الْكُفْرِ وَ بَقِيَّةِ الْاَحْزَابِ وَ اَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ اَنْفِرُوا اِلَى مَنْ يَقَاتِلُ عَلِيَّ دَمَ حَمَلِ الْخَطَايَا فَوَ اللّٰهِ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسْمَةَ اَنْهُ لِيَحْمِلَ خَطَايَا هُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئاً" (۱)

اے مہاجرین کے بیٹو! کفر کے سرداروں اور شیطان کے باقی بچے ہوئے دوستوں اور گروہوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ معاویہ سے جنگ کرنے کے لئے اٹھ جاؤ تاکہ اس کو قتل کر سکو جس کی گردن پر بہت سے گناہ ہیں (یعنی عثمان کو قتل کیا ہے) اس خدا کی قسم کہ جس نے دانہ کو شگافتہ اور انسان کو پیدا کیا وبقیامت تک دوسروں کے گناہوں کو اپنے ذمہ لیتا رہے گا جب کہ دوسروں کے گناہوں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۲، ص ۱۹۴، (طبع جدید)

امام نے اپنی خلافت کے دوسرے دن ایک تقریر کے دوران فرمایا:

"ألا ان كل قطعها عثمان و كل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال" (۱)

ہر وہ زمین جسے عثمان نے دوسروں کو دیدیا ہے اور ہر وہ مال جو خدا کے مال میں سے ہے اور وہ کسی کو دیا ہے ضروری ہے کہ وہ بیت المال کو واپس کیا جائے۔  
امام کا یہ کلام اور دوسرے کلام خلیفہ کے کاموں کو روشن کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ واضح و ہ کلمات ہیں جو آپ نے خطبہ ششقیہ میں بیان کیا ہے۔

"الی ان قام ثالث القوم نافجاً حَضْنِيهِ، بَيْنَ نَثِيلِهِ وَ مَعْتَلْفِهِ، وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضُمُونَ مَالَ اللَّهِ خَضْمَ الْإِبِلِ نَيْتَةَ الرَّبِيعِ" (۲)  
(غرض اس قوم کا تیسرا آدمی پیٹ پھیلانے اپنے گوبر اور چارے کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے بھائی بند کھڑے ہوئے جو خدا کا مال اس طرح خوش ہو کر کھا رہے تھے جیسے اونٹ موسم بہار کی گھاس خوش ہو کر کھاتے، رضوی)

۲۔ پیغمبر اسلام کی بیوی، نے سب سے زیادہ عثمان کے کاموں کو غلط بتاتی تھیں، جب عمار پر عثمان کی طرف سے ظلم و ستم ہوا اور عائشہ کو اس کی خبر ملی تو پیغمبر کے لباس اور نعلین کو باہر لائیں اور کہا کہ ابھی پیغمبر کا لباس اور جوتیاں پرانی نہیں ہوئی ہیں تم نے ان کی سنت کو فراموش کر دیا ہے۔

ان دنوں جب مصریوں اور کچھ صحابیوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا اس وقت عائشہ مدینہ چھوڑ کر خدا کے گھر کی زیارت کے لئے روانہ ہو گئیں جب کہ مروان بن حکم، زید بن ثابت اور عبد الرحمن بن عتاب نے عائشہ سے درخواست کی تھی کہ اپنا سفر ملتوی کر دیں کیونکہ مدینہ میں ان کے رہنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ عثمان کے سر سے یہ بلا تُل جائے۔

(۱) نہج البلاغہ عیدہ، خطبہ ۱۴۔

(۲) نہج البلاغہ عیدہ، خطبہ ۳۔

عائشہ نے نہ صرف ان کی درخواست کو ٹھکرا دیا، بلکہ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ کاش تمہارے اور تمہارے دوست جن کی تم مدد کر رہے ہو، کے پیر میں پتھر ہوتا تو تم دونوں کو دریا میں ڈال دیتی، یا اسے ایک بوریہ میں رکھ کر دریا میں ڈال دیتی۔ (۱)

عثمان کے بارے میں عائشہ کی باتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں جنہیں ہم نے پیش کیا ہے۔  
بس اتنا کافی ہے کہ جب تک وہ عثمان کے قتل اور علی کی بیعت سے باخبر نہ تھیں مستقل عثمان پر اعتراض و تنقید کر رہی تھیں، لیکن جب حج کے اعمال سے فارغ ہوئیں اور مدینہ کا سفر کیا اور درمیان راہ "سرف" نامی مقام پر عثمان کے قتل اور بیعت علی سے باخبر ہوئیں تو فوراً نظریہ کو بدل دیا اور کہا کاش آسمان میرے سر پر گر جاتا، یہ جملہ کہا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے مکہ واپس لے چلو کیونکہ خدا کی قسم عثمان مظلوم مارا گیا ہے اور میں اس کا بدلہ لوں گی۔ (۲)  
۳۔ عبدالرحمن بن عوف بھی عثمان پر اعتراض کرنے والوں میں سے ہیں وہ ایسا شخص ہے کہ چھ آدمیوں پر مشتمل شوریٰ میں عثمان کی کامیابی اسی کے مکرو فریب سے ہوئی تھی۔

جس وقت عثمان نے اپنے تعہد کو جو سنت پیغمبر اور شیخین کی روش پر چلنے کے لئے کیا تھا اس کو توڑ ڈالا، تو لوگوں نے عبد الرحمن پر اعتراض کیا اور کہا یہ سب خرابیاں تمہاری وجہ سے ہیں تو اس نے جواب میں کہا مجھے اس بات کی امید نہ تھی کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، اب میں اس سے کبھی گفتگو نہیں کروں گا اور پھر عبد الرحمن نے اس دن سے آخر دم تک عثمان سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ جب عثمان، عبد الرحمن کی حالت بیماری میں عیادت کرنے آئے تو اس وقت عبد الرحمن نے خلیفہ کی طرف سے اپنے چہرے کو موڑ لیا اور ان سے بات نہیں کی۔ (۳)

جی ہاں، وہ افراد جنہوں نے خلیفہ کے خلاف اعتراضات کئے اور ان کے قتل کے مقدمات فراہم کئے بہتر ہے ان کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے جن کا ذکر کیا ہے دو اہم چیزوں کا ذکر کرنا مناسب ہے وہ یہ کہ طلحہ و زبیر سب سے زیادہ ان پر اعتراض کرتے تھے، بہر حال، لوگوں کا نام اور مخالفین کی گفتگوؤں اور خلیفہ کو ان کے منصب سے گرانے والے افراد کے نام کے لئے تاریخی کتابوں کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہمارا مقصد عثمان کی خلافت کی معزولی کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر کیسے بیعت کی؟

- (۱) الانساب ج ۵ ص ۴۸۔  
 (۲) تاریخ طبری ج ۳ ص ۴۷۷۔  
 (۳) انساب الاشراف، ج ۵، ص ۴۸۔

عثمان کے گھر کا محاصرہ

شورش کی پانچوں عوامل نے اپنا کام کر دکھایا اور عثمان کا اپنے نقائص اور خلافت پر اعتراض سے بے توجہی سبب بنی کہ اس وقت کے اسلام کے اہم مراکز، مثلاً کوفہ، بصرہ اور مصر کچھ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور خلیفہ کو کتاب الہی اور سنت پیغمبر و سیرت شیخین کی مخالفت سے روکنے کے لئے مدینہ روانہ ہوں کہ مدینے میں رہنے والے اپنے ہمفکروں کے ساتھ کوئی راہ حل تلاش کریں خلیفہ توبہ کریں اور حقیقی اسلام کی طرف پلٹیں، یا مسند خلافت سے دور ہو جائیں۔

بلاذری اپنی کتاب "انساب الاشراف" میں لکھتے ہیں:

۳۴ھ میں خلیفہ کی سیاست سے مخالفت کرنے والے تین شہروں کوفہ، بصرہ اور مصر سے مسجد الحرام میں جمع ہوئے اور عثمان کے کاموں پر گفتگو کرنے لگے۔ اور سب نے ارادہ کیا کہ خلیفہ کے برے کاموں پر گواہ و شاہد بن کر اپنے اپنے شہر واپس جائیں اور جو لوگ اس سلسلے میں ان کے ہم خیال ہیں ان سے گفتگو کریں، اور آئندہ سال انہی دنوں میں ملاقات کریں اور خلیفہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ اگر وہ اپنے غلط کاموں سے باز آجائیں تو اس کے حال پر چھوڑ دیں، لیکن اگر باز نہ آئے تو اسے اس منصب سے الگ کر دیں۔

اسی وجہ سے دوسرے سال (۳۵ھ) مینمالک اشتر کی سرداری میں کوفہ سے ایک ہزار کا لشکر، حکیم بن جبہ عبدی کی سرداری میں بصرہ سے ڈیڑھ سو آدمیوں کا لشکر، کنانہ بن بشر سکونی تجیبی اور عمر اور بدیل خزاعی کی سرپرستی میں مصر سے چار سو یا اس سے زیادہ افراد کا لشکر مدینہ میں داخل ہوا۔ اور مہاجر و انصار کے بہت سے افراد جو خلیفہ کے طریقہ کے مخالف تھے وہ بھی ان سے ملحق ہو گئے۔ (۱)

(۱) الغدير، ج ۹، ص ۱۶۸۔

مسعودی لکھتا ہے:

چونکہ عبد اللہ بن مسعود، عمار یاسرا و محمد بن ابی بکر، خلیفہ کی نظر میں بے توجہی کا شکار تھے، قبیلہ "بنی زہر" عبد اللہ کی حمایت میں اور "بنی مخزوم" عمار کی حمایت میں اور تیم، محمد بن ابی بکر کی وجہ سے اور ان تین گروہوں کے علاوہ دوسرے افراد بھی انقلابیوں کے ساتھ مل گئے اور خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ مصریوں نے خلیفہ کو جو خط لکھا اس کا مضمون یہ ہے:

اما بعد: خداوند عالم کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ خود اس کو بدل ڈالیں، خدا کے واسطے، خدا کے لئے، پھر خدا کے واسطے آخرت میں اپنے حصہ کو فراموش نہ کرو، خدا کی قسم، ہم لوگ خدا کے لئے غضبناک ہوتے ہیں اور خدا ہی کے لئے خوشحال ہوتے ہیں، ہم اپنی اپنی تلواروں کو اپنے کاندھوں سے اتار کر زمین پر نہیں رکھیں گے جب تک تمہارے سچے توبہ کی خبر ہم تک نہ پہنچ جائے یہی ہمارا پیغام ہے۔ (۱)

(۱) مروج الذهب ج ۳ ص ۸۸ طبع بیروت سال ۱۹۷۰۔

مخالفوں کے سامنے خلیفہ کا تعہد

گھر کا محاصرہ سبب بنا خلیفہ اپنے کاموں پر سنجیدگی سے سوچنا اور محاصرہ ختم کرنے کی سبیل نکالیں لیکن وہ شورش

کی تہ سے آگاہ نہیں تھے اور معاشرے کے اچھے لوگوں کو برے لوگوں کے درمیان تشخیص نہیں دے پارہے تھے، انہوں نے گمان کیا کہ شاید مغیرہ بن شعبہ یا عمرو عاص کے وسیلے سے یہ ناگہانی بلا ٹل جائے گی، اس وجہ سے اس نے ان دونوں کو انقلابیوں کی آگ خاموش کرنے کے لئے گھر کے باہر بھیجا، جب انقلابی لوگوں نے ان منحوس چہروں کو دیکھا تو ان کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ اور مغیرہ سے کہا: اے فاسق و فاجر واپس جا واپس جا، اور عمرو عاص سے کہا: اے خدا کے دشمن واپس چلا جا کہ تو امین و ایماندار نہیں ہے اس وقت عمر کے بیٹے نے خلیفہ سے حضرت علی کی عظمت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ صرف وہی اس شورش کی آگ کو خاموش کر سکتے ہیں لہذا خلیفہ نے حضرت سے درخواست کی کہ اس گروہ کو کتاب خدا اور سنت پیغمبر کی دعوت دیجئے۔ امام نے اس کی درخواست کو اس شرط پر قبول کیا کہ جن چیزوں کی میں ضمانت لوں خلیفہ اس پر عمل کرے، علی علیہ السلام نے ضمانت لی کہ خلیفہ، کتاب خدا اور سنت پیغمبر پر

عمل کریں انقلابیوں نے حضرت علی علیہ السلام کی ضمانت قبول کر لیا اور وہ سب آنحضرت کے ساتھ عثمان کے پاس آئے اور ان کی سخت مذمت کی انہوں نے بھی ان لوگوں کی باتوں کو قبول کر لیا اور یہ طے پایا کہ عثمان تحریری طور پر تعہد دیں۔

چنانچہ تعہد نامہ اس طرح سے لکھا گیا:

"یہ خط خدا کے بندے امیر المومنین عثمان کی طرف سے ان لوگوں کے نام ہے جن لوگوں نے ان پر تنقید کی ہے، خلیفہ نے یہ عہد کیا ہے کہ خدا کی کتاب اور پیغمبر کی سنت پر عمل کرے گا، محروموں کی مدد کرے گا ڈرے اور سہمے افراد کو امان دیں گے، جلاوطن کئے ہوئے لوگوں کو ان کے وطن واپس بلائے گا، اسلامی لشکر کو دشمنوں کی سرزمین پر نہیں روکے گا،... علی علیہ السلام مسلمانوں اور مومنوں کے حامی ہیں اور عثمان پر واجب ہے کہ اس تعہد پر عمل کرے۔" زبیر، طلحہ، سعد و قاص، عبد اللہ بن عمر، زید بن حارث، سہل بن حنیف، ابو ایوب وغیرہ نے گواہ کے طور پر اس تعہد نامہ کے نیچے دستخط کئے یہ خط ذیقعدہ ۳۵ھ میں لکھا گیا اور ہر گروہ کو اسی مضمون کا خط ملا اور وہ اپنے اپنے شہر واپس چلا گیا اس طرح خلیفہ کے گھر کا محاصرہ ختم ہو گیا اور لوگ آزادانہ طور پر آنے جانے لگے۔ (۱)

انقلابیوں کے چلے جانے کے بعد، امام نے دوبارہ خلیفہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا: تم پر ضروری ہے کہ تم لوگوں سے بات کرو تاکہ وہ لوگ تمہاری باتوں کو سنیں اور تمہارے حق میں گواہی دیں، کیونکہ انقلاب کی آواز تمام اسلامی ملکوں تک پہنچ چکی ہے اور بعید نہیں کہ دوسرے شہروں سے پھر کئی گروہ مدینہ پہنچ جائیں اور پھر دوبارہ تم مجھ سے درخواست کرو کہ میں ان سے بات کروں۔ خلیفہ کو حضرت علی کی صداقت پر پورا بھروسہ تھا لہذا گھر سے باہر آئے اور اپنے بے جا کاموں کی وجہ سے شرمندگی کا اظہار کیا۔

امام نے اتحاد مسلمین اور مقام خلافت کی عظمت کے لئے بہت بڑی خدمت انجام دی، اگر عثمان اس کے بعد حضرت علی کی ہدایت و رہنمائی پر عمل کرتے تو کوئی بھی واقعہ ان کے ساتھ پیش نہ آتا، لیکن افسوس خلیفہ ارادے کے ضعیف اور بے جا بولنے والے تھے اور ان کو مشورہ دینے والے حقیقت شناس اور سچے نہ

(۱) الانساب ج ۵ ص ۶۲۔

تھے اور مروان بن حکم جیسے افراد نے ان کی عقل و دور اندیشی کو چھین لیا تھا لہذا مصریوں کے چلے جانے کے بعد خلیفہ نے مروان کے شدید اصرار پر بہت ہی غیر شائستہ فعل انجام دیا، عثمان نے چاہا کہ مصریوں کے ساتھ اپنی ملاقات کو دوسرے انداز سے پیش کریں اور اس طرح سے بیان کریں کہ مدینہ سے مصر شکایتیں پہنچی تھیں اور وہ لوگ یہاں تحقیق کرنے کے لئے آئے تھے اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ تمام شکایتیں بے اساس ہیں تو وہ لوگ اپنے وطن واپس چلے گئے۔

جب یہ بات لوگوں نے خلیفہ کی زبان سے سنی تو مخالفین کی طرف سے اعتراض و تنقید ہونے لگی، سب ان سے کہہ رہے تھے کہ خدا سے ڈرو! توبہ کرو! اعتراض اتنا شدید تھا کہ خلیفہ نے دوسری مرتبہ پھر اپنی باتیں واپس لے لیں، اور قبلہ کی طرف دونوں ہاتھ بلند کیا اور کہا:

"پروردگار! میں پہلا وہ شخص ہوں جو تیرے پاس واپس آؤں گا" (۱)

(۱) تاریخ طبری ج ۳ ص ۳۸۵، طبع اعلمی بیروت.

انقلابیوں کے سرداروں کو قتل کرنے کا حکم دینا

قریب تھا کہ مصریوں کی آفت جائے کیونکہ وہ لوگ مدینے سے مصر کی طرف روانہ ہوچکے تھے لیکن راستے میں "ایلہ" نامی مقام پر لوگوں نے عثمان کے غلام کو دیکھا کہ مصر کی طرف جا رہا ہے، ان لوگوں کو شک ہوا کہ شاید وہ عثمان کا خط لے کر مصر کے حاکم عبداللہ بن ابی سرح کے پاس جا رہا ہے اسی وجہ سے اس کے سامان کی تلاشی لینے لگے، اس کے پانی کے برتن میں سے رانگے (قلع) کا ایک پائپ نکلا جس کے اندر خطر رکھا تھا، خط میں حاکم مصر کو خطاب کرتے ہوئے لکھا تھا جیسے ہی عمر و بن بدیل مصر میں داخل ہو اسے قتل کر دینا، اور کنانہ، عروہ، اور ابی عدیس کے ہاتھوں کو کاٹ دینا اور اسی طرح خون میں تڑپتا ہوا چھوڑ دینا اور پھر ان لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دینا۔ خط دیکھنے کے بعد مصری اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے، اور سب کے سب آدھے ہی راستے سے مدینہ واپس آگئے۔ اور علی علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں خط دکھایا۔ علی علیہ السلام خط لے کر عثمان کے گھر آئے اور اسے دکھایا عثمان نے قسم کھا کر کہا کہ یہ تحریر ان کے کاتب کی اور مہر انہی کی ہے لیکن وہ اس سے بے خبر ہیں، حقیقت میں بات یہی تھی کہ خلیفہ اس خط سے بالکل بے خبر تھے اور ان کے ساتھیوں مثلاً مروان بن حکم کا کام تھا خلیفہ کی مہر حمران بن ابان کے پاس تھی کہ اس کے بصرہ جانے کے بعد مہر مروان کے پاس تھی۔ (۱) مصریوں نے خلیفہ کے گھر کا دوبارہ محاصرہ کر لیا اور ان سے ملاقات کرنے کو کہا اور جب لوگوں نے عثمان کو دیکھا تو اس سے پوچھا: کیا تم نے اس خط کو لکھا ہے؟ عثمان نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، گروہ کے نمائندہ نے کہا: اگر ایسا خط تمہاری اطلاع کے بغیر لکھا گیا ہے تو تم خلافت اور مسلمانوں کے امور کی ذمہ داری لینے کے لائق نہیں ہو، لہذا جتنی جلدی ہو خلافت سے کنارہ کشی اختیار کر لو، خلیفہ نے کہا کہ خدا نے جو لباس میرے بدن پر ڈالا ہے اسے میں ہرگز اتار نہیں سکتا، مصریوں کے انداز گفتگو نے بنی امیہ کو ناراض کر دیا، لیکن بجائے اس کے کہ اصلی علت کو بیان کریں، علی کے علاوہ انہیں کوئی اور نظر نہیں آیا اور مصریوں کی طرف سے مقام خلافت پر ہونے والی جسارت کا الزام ان پر لگایا، امام نے ان لوگوں کو تیز ڈانٹا اور کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اس وادی میں میرے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے یعنی مرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے اس وقت کہا:

(۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۴۴۔

محاصرہ میں خلیفہ کا مختلف لوگوں کو خط بھیجنا

عثمان نے محاصرہ کے ایام میں معاویہ کو خط لکھا کہ مدینے کے لوگ کافر ہو گئے ہیں اور بیعت کو توڑ دیا ہے لہذا جتنی جلدی ہو سکے اچھے جنگ کرنے والوں کو مدینہ روانہ کرو، لیکن معاویہ نے عثمان کے خط کو کوئی اہمیت نہ دی، اور کہا کہ میں پیغمبر کے صحابیوں کی مخالفت نہیں کروں گا۔ خلیفہ نے مختلف خط یزید بن اسد بجلی کو شام اور عبد اللہ بن عامر کو بصرہ بھیجا اور اسی طرح حج کے موسم میں تمام حاجیوں کے نام خط لکھا، اس سال حاجیوں کے سرپرست ابن عباس تھے، لیکن کوئی بھی مؤثر ثابت نہ ہوا، کچھ لوگ خلیفہ کی مدد کے لئے گئے لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کے قتل سے آگاہ ہو گئے۔

عثمان کے قتل میں جلدی، مروان کی غلط تدبیر کا نتیجہ تھا

محاصرہ کرنے والے خلیفہ کے گھر پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان لوگوں کی صرف یہ کوشش تھی کہ کھانا پانی گھر میں نہ پہنچے تاکہ خلیفہ اور ان کے ساتھی محاصرہ کرنے والوں کی بات مان لیں، لیکن مروان کی یہ غلط تدبیر کہ انقلابیوں پر حملہ کر کے ایک شخص یعنی عروہ لیثی کو اپنی تلوار سے قتل کر ڈالنا یہی سبب بنا کہ تمام محاصرین خلیفہ کے گھر میں داخل ہو جائیں۔ اس اجتماعی ہجوم میں خلیفہ کے تین ساتھی عبد اللہ بن وہب، عبد اللہ عوف اور عبد اللہ بن عبدالرحمن مارے گئے۔ ہجوم کرنے والے عمر و بن حزم انصاری کے گھر سے دار الخلافہ پر چڑھے اور خلیفہ کے آنگن میں اتر گئے، گھر کے اندر عثمان کا غلام ناقل، مالک اشتر اور عمر و بن عبید کے ہاتھوں مارا گیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ بنی امیہ، جو خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت کرنے والے تھے سب کے سب بھاگ گئے اور رسول کی بیوی ام حبیبہ

(ابوسفیان کی بیٹی) نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں چھپالیا، اسی لئے تاریخ میں یہ حادثہ "یوم الدار" کے نام سے مشہور ہے، خلیفہ کا قتل محمد بن ابی بکر، کنانہ بن بشر تحیبی، سودان بن حمر ان مرادی، عمر و بن حرق اور عمیر بن صابی کے ہاتھوں ہوا۔ خلیفہ کے قتل کے وقت ان کی بیوی نائلہ نے اپنے کو اپنے شوہر کے زخمی نیم جان بدن پر گرا دیا جس کی وجہ سے ان کی دو انگلیاں کٹ گئیں لیکن انہوں نے عثمان کا سر جدا ہونے سے بچالیا مگر ہجوم کرنے والوں کی تلواروں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اور کچھ لمحوں بعد ان کا بے روح جسم گھر کے گوشے میں گرا پڑا تھا۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### تیسری فصل

قتل عثمان کے بعد لوگوں کا حضرت علی - کی بیعت کرنا

خلیفہ سوم کا پیغمبر کے صحابیوں کے ساتھ ناروا سلوک اور لوگوں کو بے جا تحفہ و ہدیہ دینا، اور حکومت کے امور کو بنی امیہ کے غیر شائستہ افراد کے ہاتھوں میں دینا وغیرہ یہ سب ان کے قتل کا سبب بنی۔ ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ ھ کو عثمان مصر اور عراق کے انقلابیوں اور پیغمبر کے صحابیوں کے ہاتھوں خود اپنے ہی گھر میں قتل کیا گیا اور اس کے اصلی ساتھی اور محافظ انہیں تنہا چھوڑ کر مکہ فرار ہو گئے۔ (۱)

خلیفہ سوم کے قتل کی خبر مدینہ اور اس کے اطراف کے مسلمانوں کے لئے بہت تعجب خیز تھی اور ہر شخص آئندہ کی رہبری کے لئے فکر مند تھا اور صحابہ میں سے کچھ لوگ مثلاً طلحہ و زبیر اور سعد وقاص وغیرہ اپنے آپ کو خلیفہ کے لئے نامزد کئے ہوئے تھے اور دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھ رہے تھے۔

انقلابیوں کو معلوم تھا کہ عثمان کے قتل کی وجہ سے اسلامی ملکوں کی حالت درہم برہم ہو جائے گی اسی وجہ سے ان لوگوں نے چاہا کہ جتنی جلد ممکن ہو اس خلاء کو پورا کر دیں اور خلیفہ چننے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے اپنے وطن واپس نہیں جائیں۔ وہ لوگ ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو ان پچیس سال میں اسلامی تعلیمات اور سنت پیغمبر کا وفادار رہا ہو اور وہ حضرت علی کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، کیونکہ دوسرے لوگ کسی نہ کسی طرح سے اپنے کو حُب دنیا سے آلودہ چکے تھے اور کسی نہ کسی جہت سے عثمان کے کمزور پہلوئوں میں مشترک تھے، طلحہ و زبیر اور ان کی طرح دوسرے افراد نے خلیفہ سوم کے زمانے میں دنیاوی امور تک پہنچے اور مال و دولت جمع کرنے اور اس شہر مینا اور اس شہر میں قصر حاصل کرنے میں مصروف تھی اور پیغمبر کی سنت بلکہ شیخین کی سنت کو بھی نظر انداز کر چکے تھے۔

باوجودیکہ حضرت علی کا نام سب سے زیادہ لوگوں کی زبان پر تھا اور جب خلیفہ کے گھر کو انقلابیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا امیر المومنین پیغام پہنچانے کے لئے دونوں گروہوں کے درمیان مورد اعتماد تھے اور

(۱) تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۵۶ طبع بولاق۔

سب سے زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہو جائے کہ اور دونوں گروہ راضی ہوں، لیکن جو علت سقیفہ کے ماجرے میں علی کو دور کرنے کی سبب بنی تھی، سب کے سب (غیر از جوانی) اسی حالت پر باقی تھی اور اگر انقلابیوں کا مصمم ارادہ اور لوگوں کا دبائونہ ہوتا تو وہی چیز چوتھی مرتبہ بھی امام کو اس مسئلہ سے جدا کر دیتی اور خلافت کسی بزرگ صحابی کو مل جاتی اور معاشرہ کو الہی و حقیقی حکومت سے محروم کر دیتی۔

اگر عثمان کی موت فطری ہوتی اور مدینہ کی فضا اچھی ہوتی تو کبھی بھی بزرگ صحابہ جو عثمان کی خلافت کے زمانے میں بہت زیادہ مال و مقام کے مالک بن گئے تھے، حکومت علی کی تائید نہیں کرتے اور جو شوریٰ بنائی جاتی مل جل کر اس میں رخنہ اندازی کرتے، بلکہ سیاسی کھلاڑی ایسا رول ادا کرتے کہ شوریٰ بننے کی نوبت نہیں آتی اور خلیفہ وقت کو مجبور کرتے کہ جن کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں اسے خلیفہ بنائے جس طرح عمر کو ابوبکر نے خلافت کے لئے چنا تھا۔

یہ گروہ جانتا تھا کہ اگر علی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگئی تو ان کے تمام مال کو جمع کرالیں گے اور ان میں سے کسی کو کوئی کام نہیں سونپیں گے، ان لوگوں نے اس حقیقت کو امام کی نورانی پیشانی میں پڑھ لیا تھا اور حضرت کے مزاج سے پوری طرح واقف تھے لہذا جب آنحضرت نے طلحہ و زبیر کو کسی کام میں شامل نہیں کیا تو ان دونوں نے فوراً اپنے وعدے کو توڑ دیا اور جنگ جمل کا محاذ قائم کر دیا

جن وجوہات کی بنا پر امام کوسقیفہ میں حکومت سے دور کیا گیا وہ درج ذیل ہیں:

۱- حضرت علی کے ہاتھوں صحابہ کرام کے رشتہ داروں کا قتل۔

۲- بنی ہاشم اور دوسرے قبیلے خصوصاً بنی امیہ کے درمیان پرانی دشمنی۔

۳- حضرت علی کا سختی سے حدود الہی کاجاری کرنا۔

قتل عثمان کے بعد نہ صرف یہ وجوہات اپنی جگہ پر باقی تھیں بلکہ دوسری وجہیں بھی جو قدرت کے اعتبار سے ان سے کم نہ تھیں وہ بھی شامل ہو گئیں اور اس سے بھی اہم یہ تھا کہ پیغمبر کی بیوی عائشہ نے امام کی مخالفت کی تھی۔ عثمان کی حکومت کے زمانے میں عائشہ ایک اہم سیاسی شخصیت کی مالک تھیں۔ انہوں نے لوگوں کو کئی مرتبہ عثمان کو قتل کرنے کے لئے کہا تھا اور شاید اسی وجہ سے وہ کبھی پیغمبر کا لباس صحابہ کو دکھاتیں اور کہتیں تھیں کہ ابھی یہ لباس پرانا نہیں ہوا ہے لیکن ان کے دین میں تبدیلیاں ہوگئی ہیں۔ (۱)

مسلمانوں کے درمیان جو عائشہ کا احترام تھا اور بہت زیادہ حدیثیں جو پیغمبر سے نقل کی تھیں وہ ان کے سیاسی فائدے ہونے کے لئے کافی تھیں اور اس شخص کے لئے زحمت کا باعث تھیں جو ان کی مخالفت کرتا تھا۔

عائشہ کی مخالفت حضرت علی علیہ السلام سے درج ذیل امور کی بنا پر تھی:

۱- علی نے داستان "افک" میں عائشہ کے طلاق کے بارے میں اپنی رائے دی تھی۔

۲- پیغمبر کی بیٹی اور فاطمہ کو حضرت علی سے کئی فرزند ہوئے لیکن پیغمبر کے ذریعے عائشہ کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔

۳- عائشہ کو معلوم تھا کہ علی ان کے باپ کی خلافت سے راضی نہیں ہیں اور انہیں خلافت و فدک کا غاصب مانتے ہیں۔

ان کے علاوہ قبیلہ تیم سے طلحہ عائشہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور زبیر ان کا بہنوئی (اسماء کے شوہر) تھے اور یہ دونوں خلافت پر قبضہ کرنے کے لئے پوری کوشش کر رہے تھے۔

حضرت علی کی حکومت سے عائشہ کی ناراضگی پر یہ درج ذیل داستان جسے طبری نے نقل کیا ہے بہت واضح و روشن ثبوت ہے۔

جب عثمان کا قتل ہوا تو عائشہ مکہ میں تھیں اور اعمال حج انجام دینے کے بعد مدینہ روانہ ہوئیں، آدھے راستہ میں "سرح" نامی جگہ پر عثمان کے قتل اور مہاجرین و انصار کا علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی انہیں خبر ملی اور یہ خبر سن کر وہ اس قدر ناراض ہوئیں کہ موت کی آرزو کرنے لگیں اور کہا: اے کاش آسمان میرے سر پر گرجاتا، پھر وہیں سے مکہ واپس چلی گئیں اور کہا: عثمان مظلوم قتل ہوا ہے خدا کی قسم میں اس کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اقدام کروں گی۔ عثمان کے قتل کی خبر دینے والے نے جرأت دکھاتے ہوئے کہا: آپ تو کل تک لوگوں سے کہتی تھیں کہ عثمان کو قتل کر دو وہ کافر ہو گیا ہے، کس طرح آج انہیں مظلوم سمجھ رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا:

(۱) تاریخ ابو الفداء ج ۱ ص ۱۷۲۔

بلوانیوں نے پہلے ان سے توبہ کرائی ہے اور پھر انہیں قتل کیا ہے۔ (۱)

انقلابیوں کی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت

عوامل مذکور کی بنا پر مبین تھا کہ امام کو چوتھی مرتبہ بھی خلافت سے محروم کر دیا جائے، انقلابیوں کی قدرت اور لوگوں کے دباؤ نے ان منفی عوامل کو بے اثر کر دیا اور پیغمبر اسلام کے صحابہ گروہی شکل میں علی کے گھر آئے اور آنحضرت سی کہا کہ خلافت کے لئے آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ (۲)

ابو مخنف کتاب "الجمل" میں لکھتا ہے:

عثمان کے قتل کے بعد مسلمانوں کا ایسا عظیم اجتماع مسجد میں ہوا کہ مسجد لوگوں سے بھر گئی، اس اجتماع کا مقصد خلیفہ کا انتخاب تھا، مہاجرین و انصار کی عظیم شخصیتوں مثلاً عمار یاسر، ابو الہیثم بن یہان، رفاعہ بن رافع، مالک بن عجلان اور ابو ایوب انصاری وغیرہ نے رائے پیش کی کہ علی کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے۔ سب سے پہلے عمار نے



حضرت علی کے بارے میں جو گفتگو کی وہ یہ تھی "تم لوگوں نے پچھلے خلیفہ کا حال دیکھ لیا ہے اگر تم نے جلدی نہیں کیا تو ممکن ہے پھر ایسی ہی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ اس منصب کے لئے علی سب سے زیادہ شائستہ ہیں۔ اور تم سب ان کے فضائل اور سوابق سے آگاہ ہو، اس وقت پورے مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا ہم ان کی ولایت و خلافت پر راضی ہیں اس وقت سب وہاں سے اٹھے اور حضرت علی کے گھر گئے۔ (۳)

تمام افراد امام کے گھر جس انداز سے آئے تھے اس کی توصیف امام یوں بیان کرتے ہیں: "فتداکوا علی تداک الابل الہیم یوم وردبا و قدارسلہا راعیہا و خلعت مٹانیہا حتی ظننت انہم قاتلی او بعضہم قاتل بعض ولد"

ان لوگوں کا اڑدحام پیاسے اونٹ کی طرح تھا جسے شتر بان نے رسی کھول کر آزاد کر دیا ہو اسی طرح ہم پر ہجوم لائے کہ میں نے گمان کیا کہ شاید مجھے قتل کر دیں یا ان میں سے بعض لوگ میرے سامنے بعض لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ (۴)

- (۱) تاریخ طبری ج ۵ ص ۷۳، طبع بولاق۔  
 (۲) تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۵۲ طبع بولاق۔  
 (۳) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۸۔  
 (۴) نہج البلاغہ خطبہ ۵۳۔

آنحضرت خطبہ شمشقہ میں گھر میں داخل ہوتے وقت مہاجرین و انصار کے اڑدحام کی اس طرح وضاحت کی ہے۔  
 "الوگ بجو (ایک درندہ جانور ہے) کی گردن کے بال کی طرح میرے اطراف جمع تھے اور ہر طرف سے مجھ پر ہجوم کئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حسن و حسین بھیڑ میں دب گئے اور میرا لباس اور ردا پھٹ گئی اور چاروں طرف سے بکریوں کے گلہ کی طرح مجھے گھیر لیا، تاکہ میں ان کی بیعت کو قبول کروں۔ (۱)

جی ہاں، امام نے ان کی درخواست کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: تمہارا حاکم بننے سے بہتر یہ ہے کہ تمہارا مشاور بنوں، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا اور کہا، جب تک آپ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر لیں گے آپ کو جانے نہیں دیں گے، امام نے کہا: جب تم لوگ اتنا اصرار کر رہے ہو تو ضروری ہے کہ بیعت مسجد مینانجام دی جائے، کیونکہ میری بیعت مخفیانہ اور بغیر تمام مسلمانوں کی مرضی کے نہیں ہونی چاہئے۔

مجمع کے آگے آگے چلتے ہوئے امام علی مسجد پہنچے مہاجرین و انصار نے ان کی بیعت کی، پھر دوسرے گروہ بھی مسجد میں پہنچے اور بیعت کی سب سے پہلے جن لوگوں نے امام کی بیعت کی وہ طلحہ و زبیر تھے پھر ان کے بعد ہر ایک نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، صرف چند لوگوں نے بیعت نہیں کیا۔ (۲)

سب کے سب آپ کی خلافت و رہبری پر راضی تھے لوگوں نے ۲۵ ذی الحجہ کو امام کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ (۳)

- (۱) نہج البلاغہ، خطبہ ۳۔  
 (۲) وہ لوگ یہ ہیں محمد بن مسلمہ، عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، سعد وقاص، کعب بن مالک، عبد اللہ بن سلام، طبری کے مطابق یہ سب کے سب عثمانی اور ان کے چاہنے والے تھے (تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۵۳؛ اور بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان لوگوں نے بیعت کیا تھا لیکن جنگ جمل میں شرکت نہیں کیا)  
 (۳) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۴، ص ۸۹۔

#### حقیقی بیعت

اسلامی خلافت کی تاریخ میں کوئی بھی خلیفہ حضرت علی کی طرح تمام لوگوں کی رائے سے منتخب نہیں ہوا، ان کا انتخاب مہاجرین و انصار میں سے صحابہ، قرّائ، صلحاء، فقہا و غیرہ کے ذریعے نہیں ہوا تھا، یہ صرف امام کی واحد شخصیت ہے جو سب کی مرضی سے منتخب ہوئے دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ خلافت و رہبری اس طرح سے حضرت علی تک پہنچی۔

امام اپنے ایک کلام میں بیعت کرنے والوں کے اڑدحام اور لوگوں کی طرف سے بہترین استقبال اور بیعت کے متعلق

فرماتے ہیں:

"حتى انقطعت النعل و سقط الرداء و وُطئ الضعيف و بلغ من سرور الناس ببيعتهم اياى ان ابتهج بها الصغير و بدج اليها الكبير و تحامل نحويا العليل و حسرت اليها الكعاب" (۱)

جوتے کا بند (فینا) ٹوٹ گیا، عبا کاندھوں سے گر گئی، او رکمزور لوگ بھیڑ میں دب گئے اور میرے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے بعد لوگوں کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ بچے خوش ہوئے اور بوڑھے اور ناتواں میری بیعت کے لئے آئے اور لڑکیوں نے اس بیعت کا منظر دیکھنے کے لئے اپنے چہروں سے نقابیں ہلٹ دیں۔

عبد اللہ بن عمر نے امام کی بیعت نہیں کی، اسے کیا معلوم کہ خلافت لینا امام کا ہدف و مقصد نہیں ہے اور کبھی بھی اس کے لئے جنگ و جدال نہیں کیا بلکہ صرف اور صرف حق کے قیام اور عدالت کو جاری کرنے اور مجبوروں اور لاچاروں کے حقوق کی ادنیٰ کی کے لئے منصب خلافت کو قبول کیا ہے۔

بیعت کے دوسرے دن یعنی ۲۶ ذی الحجہ ۳۵ ھ کو عبد اللہ امام کے پاس اس ارادے سے آیا کہ شک و وسوسہ کے ذریعہ امام کو خلافت سے دور کر دے۔ اس نے کہا: بہتر ہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں اور شوریٰ کے حوالے کر دیں کیونکہ تمام لوگ آپ کی خلافت پر راضی نہیں ہیں۔

امام نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا: تجھ پر افسوس، میں نے ان لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ میری بیعت کریں۔ کیا تم نے ان لوگوں کا اڑدحام نہیں دیکھا؟ اے نادان اٹھ اور دور ہوجا۔ عمر کے بیٹے نے جب مدینہ کے حالات کو اپنے لئے بہتر نہ پایا تو مکہ چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مکہ خدا کا حرم اور جائے امن ہے اور امام وہاں کا ہمیشہ احترام کریں گے۔ (۲)

(۱) شرح نہج البلاغہ، عیدہ خطبہ، ۲۲۴۔

(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۱۰۔

صحیح تاریخ اور امام کے اقوال اس بات کی حکایت کرتے ہیں کہ امام - کی بیعت کرنے میں لوگوں پر کوئی جبر و زبردستی نہیں تھی اور بیعت کرنے والوں نے اپنی پوری رضایت سے، اگرچہ مختلف اہداف کے تحت، علی کے ہاتھوں پر بعنوان ربیب بیعت کی، خود طلحہ و زبیر، جو اپنے کو حضرت کا مثل سمجھتے تھے، بیعت سے استفادہ کرنے یا لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے مہاجر و انصار کے ساتھ امام - کے ہاتھوں پر بیعت کی، طبری نے ان دونوں کی بیعت کے سلسلے میں دو طرح کی روایت نقل کی ہے، لیکن وہ روایتیں جو اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے امام کے ہاتھوں پر بیعت اپنی رضایت سے کیا تھا دوسری طرح کی روایت سے زیادہ اور شاید یہی وجہ ہوئی کہ اس عظیم مورخ نے دوسری روایت سے زیادہ پہلی روایت پر اعتماد کیا ہے۔ (۱)

امام کا کلام پہلی روایت کو ثابت کرتا ہے جس وقت ان دو آدمیوں نے اپنے عہد و پیمانہ کو توڑا اور سنگین جرم کے مرتکب ہوئے تو ان دونوں نے لوگوں کے درمیان مشہور کر دیا کہ ہم لوگوں نے شوق و رغبت سے بیعت نہیں کی تھی۔ امام نے دونوں کا جواب دیا:

"زبیر کی فکر یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بیعت کی ہے نہ کہ اپنے دل سے، ہرگز ایسا نہیں تھا بلکہ اس نے بیعت کا اعتراف کیا اور اپنی رشتہ داری کا دعویٰ کیا۔ اسے چاہئے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر دلیل پیش کرے، یا یہ کہ جس بیعت کو اس نے توڑ دیا ہے دوبارہ اس بیعت کو انجام دے۔ (۲)

امام نے طلحہ و زبیر کے ساتھ گفتگو کر کے اس مسئلہ کو اور بھی واضح کر دیا ہے اور لوگوں نے جو بیعت کے لئے اصرار کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا:

"والله ما كانت لي في الخلافة رغبة و لا في الولاية اربة و لكنكم دعوتوني اليها و حملتموني عليها" (۳)

خدا کی قسم مجھے خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس میں میرا کوئی مقصد نہ تھا تم لوگوں نے اس کے لئے دعوت دی۔ اور خلافت لینے کے لئے بہت اصرار کیا۔

(۱) تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۵۳۔ ۱۵۲، طبع بولاق، اس مطلب کو تین طریقے سے نقل کیا ہے۔

(۲) شرح نہج البلاغہ، عیدہ، خطبہ، ۷۔

(۳) شرح نہج البلاغہ، عیدہ، خطبہ ۲۰۰۔

## جھوٹی تاریخ

سیف بن عمر ان جھوٹے مؤرخوں میں سے ہے جس نے اپنی روایتوں میں تاریخی چیزوں کو جعلی اور بے اساس مطالب سے بدلنے کی کوشش کی ہے وہ اس سلسلے میں کہتا ہے کہ طلحہ و زبیر نے مالک اشتر کی تلوار سے ڈر کر بیعت کی تھی۔ (۱)

یہ مطلب ، طبری کے اس مطلب سے بالکل برعکس ہے جسے اس نے پہلے نقل کیا ہے اور خود امام کے کلام سے مطابقت نہیں رکھتا، آزادی اور امام علیہ السلام کی حکومت کے بالکل خلاف ہے جن چند لوگوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی امام نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور ان سے کوئی واسطہ نہ رکھا، یہاں تک کہ جب امام - سے کہا گیا کہ کسی کو ان کے پاس بھیجیں تو امام نے جواب دیا۔ مجھے ان کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ (۲)

تاریخ طبری "مستند" ہے اور ان روایتوں کی سندیں مشخص ہیں لہذا جھوٹی اور بے اساس روایت کی شناخت ممکن ہے، اس طرح کی روایتوں کا بیرونی سیف بن عمر ہے جس کا مقصد خلفاء ثلاثہ کے لئے فائدہ پہنچانا اور خاندان رسالت کو نقصان پہنچانا ہے -

ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب "تہذیب التہذیب" میں سیف ابن عمر کے بارے میں لکھا ہے :  
 "وہ جعلی اور جھوٹی خبریں گڑھنے والا آدمی ہے، دانشمندی کی نظر میں اس کی بیان کردہ تمام باتیں غیر معتبر اور تمام حدیثیں بے کار ہیں اور اس پر زندق ہونے کا الزام بھی ہے۔ (۱)  
 لیکن افسوس کہ اس کی جعلی روایتیں تاریخ طبری کے علاوہ تمام تاریخی کتابوں مثلاً تاریخ ابن عساکر، کامل ابن اثیر، البدایہ و النہایہ اور تاریخ ابن خلدون وغیرہ میں موجود ہیں۔ بغیر تحقیق کے طبری کی پیروی کی ہے ان لوگوں نے خیال کیا ہے کہ جو کچھ طبری نے نقل کیا ہے وہ عین حقیقت ہے۔"

(۱) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۵۷۔

(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۴، ص ۹۔

(۳) تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۲۹۶۔

## اختلافات کی جڑ

امام کو عثمان کی تیرہ سالہ حکومت سے جو چیز ملی وہ بہت زیادہ نعمتیں اور مال غنیمت تھے جو مسلمانوں کو مختلف ملکوں سے حاصل ہوتے تھے، علی علیہ السلام کے لئے مال غنیمت اور زیادہ نعمتیں ایسی مشکل نہ تھی کہ امام اسے حل نہیں کر سکتے تھے بلکہ مشکل یہ تھی کہ انہیں کیسے تقسیم کیا جائے ، کیونکہ خلیفہ دوم کی حکومت کے آخری زمانے اور عثمان کے دور حکومت میں پیغمبر کی سنت اور خلیفہ اول کے طور و طریقے میں تبدیلی آگئی تھی۔ اور ایک گروہ نے زور زبردستی یا خاندان خلافت سے وابستگی کی بناء پر مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ رکھا تھا جس کی وجہ سے شدید طبقاتی اختلاف اور عجیب و نراضگی رونما ہوگئی تھی۔

پیغمبر اسلام کے زمانے اور خلیفہ اول کے زمانے میں ۱۵ھ (۱) یا ۲۰ھ (۲) تک مال غنیمت جمع نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ فوراً ہی اسے مسلمانوں کے درمیان مساوی تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن خلیفہ دوم نے بیت المال تاسیس کیا، اور لوگوں کا حسب مراتب و وظیفہ معین کیا اور اس کام کے لئے ایک خاص رجسٹر بنایا گیا ابن ابی الحدید نے مسلمانوں کے حقوق کی مقدار کو اس طرح بیان کیا ہے۔

پیغمبر کے چچا حضرت عباس کے لئے ہر سال ۱۲ ہزار ، پیغمبر کی ہر بیوی کے لئے ۱۰ ہزار اور عائشہ کے لئے ۲ ہزار اضافی، مہاجرین میں سے اصحاب بدر کے لئے ۵ ہزار ، اور انصار کو ۴ ہزار اصحاب احد اور حدیبیہ کے لئے ۴ ہزار اور حدیبیہ کے بعد کے اصحاب کے لئے ۳ ہزار ، اور جن لوگوں نے پیغمبر کے انتقال کے بعد جنگوں میں شرکت کی تھی رتبے کے اعتبار سے ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ وظیفے معین ہوئے۔ (۱)

عمر کا یہ دعویٰ تھا کہ اس طرح سے ہم اشراف کو اسلام کی طرف جذب کریں گے ، لیکن اپنی عمر کے آخری سال میں کہا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو جس طرح سے پیغمبر مال و دولت کو برابر برابر تقسیم کرتے تھے میں بھی اسی طرح مساوی تقسیم کروں گا۔ (۲)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن الحدید طبع مصر ج ۳ ص ۱۵۴۔

(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۴۳۔

عمر کے اس کام سے اسلام میں طبقاتی نظام پیدا ہو گیا اور عثمان کے دور میں یہی نظام بہت زیادہ اور اختلاف بہت عمومی ہو گیا۔

علی علیہ السلام جو ایسے ماحول میں خلیفہ منتخب ہوئے تھے چاہتے تھے کہ لوگوں کو پیغمبر کی روش کی طرف دوبارہ واپس پلٹا دیں اور طبقاتی نظام کو لوگوں کے درمیان سے ختم کر دیں اور مال غنیمت کو برابر برابر تقسیم کریں۔ یقیناً آپ کو اس سلسلے میں بہت زیادہ مشکلیں پیش آئیں، کیونکہ مال غنیمت کو لوگوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کرنے سے کچھ لوگوں کے منافع خطرے میں پڑ جاتے۔

### فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

#### چوتھی فصل

حضرت علی علیہ السلام سے مخالفت کے اسباب

امام علی کے انتخاب کے بعد مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف و جدائی پیدا ہوئی وہ بالکل الگ تھی اور خلفاء ثلاثہ کے دور اقتدار میں کبھی بھی ایسا اختلاف نہیں تھا، یہ بات حقیقت ہے کہ خلیفہ اول اختلاف اور جھگڑے کے ذریعے منتخب ہوئے اور انہیں لوگوں کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا جو خلافت کو خدا کی جانب سے انتصابی مقام جانتے تھے لیکن زیادہ دنوں تک یہ سلسلہ باقی نہ رہا اور حالات ٹھیک ہو گئے اور مخالف گروہوں نے اسلام کی عالیترین مصلحتوں کے مد نظر اپنی زبانوں کو بند کر رکھا اور اپنے حقوق کو نظر انداز کر دیا۔

خلیفہ اول و دوم کا انتخاب اگرچہ بغیر اختلاف کے نہ تھا مگر کچھ ہی دنوں میں شور و غل ختم ہو گیا اور دونوں خلیفہ نے حالات پر قابو پایا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ بننے کے بعد ایک گروہ کھلا مخالفت کرنے لگا اور امت کے درمیان سخت ترین شگاف پیدا کر دیا۔

حضرت علی علیہ السلام کی حکومت سے مخالفت کی وجہ بہت قدیمی تھی مخالفوں کے رشتہ دار حضرت علی کے ہاتھوں جنگوں میں مارے جا چکے تھے۔ بیعت کے دن ولید بن عتبہ نے علی علیہ السلام سے کہا، میرے باپ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے اور کل تم نے میرے بھائی عثمان کی حمایت نہیں کی اور اسی طرح سعید بن العاص کا باپ بھی جنگ بدر کے دن تمہارے ہاتھوں قتل ہوا ہے اور تم نے مروان کو عثمان کے سامنے بیوقوف اور کم عقل بتایا ہے۔ لیکن اصل میں جن چیزوں کو مخالفین نے بہانہ بنایا وہ دو مسئلے تھے:

۱۔ بیت المال کے تقسیم کرنے میں تبعیض اور فرق کو ختم کرنا۔

۲۔ خلیفہ سوم کے غیر شائستہ نمائندوں کو معزول کرنا۔

یہی دو موضوع سبب بنے کہ دنیا پرست اور جاہ و مقام پرست گروہ امام کی مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اپنے مال و دولت کو جو ناحق طریقے سے جمع کیا تھا علی کی جمع آوری سے محفوظ کر لیں۔

امام - چاہتے تھے کہ اپنے زمانہ حکومت کو رسول اسلام کے دور حکومت کی طرف پلٹا دیں، اور آپ کی سیرت و رہبری کو مکمل طور پر زندہ کریں۔ لیکن افسوس رسول خدا کے زمانے کا تقویٰ اور پرہیزگاری لوگوں کے درمیان سے ختم ہو چکا تھا۔ اخلاق عمومی بدل چکا تھا اور لوگ پیغمبر کے طور طریقے کو بھول گئے تھے معاشرے اور لوگوں کے درمیان غیر مناسب تبعیض رسوخ کر چکی تھی اور حکومت کی باگ ڈور ناشائستہ اور غیر صالح افراد کے ہاتھوں میں تھی۔

عمر کی معین کردہ شوریٰ میں قریش کے سرمایہ دار عبد الرحمن بن عوف نے علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اگر

خدا کی کتاب اور سنت پیغمبر اور شیخین کی سیرت پر عمل کریں تو میں آپ کی بیعت کروں گا۔ لیکن حضرت علی نے اس شرط کو قبول نہیں کیا اور اس سے کہا: خدا کی کتاب اور سنت پیغمبر اور اپنی تشخیص پر عمل کرونگا نہ کہ سابق کے دونوں خلیفہ کی سیرت پر۔ امام کا عبدالرحمن بن عوف کی پیشنہاد کو نہ ماننا سبب بنا کہ حضرت بارہ سال تک حکومت سے محروم رہیں اور عثمان حکومت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لیں۔

اب جب کہ حکومت امام کے ہاتھوں میں تھی، وقت آگیا تھا کہ بیت المال کی تقسیم میں پیغمبر اسلام کی سنت کو زندہ کیا جائے، بیت المال کے سلسلے میں پیغمبر کا طریقہ کار یہ تھا کہ کبھی بھی مال کو ذخیرہ نہیں کرتے تھے بلکہ تمام مال کو برابر مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے اور عجم، عرب، کالے، گورے مینکوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔

بیت المال تقسیم کرنے سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ:

حضرت علی علیہ السلام نے بیت المال کو تقسیم کرنے کا حکم دینے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا :  
 "اے لوگو! کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ سے غلام اور کنیز پیدا نہیں ہوا بلکہ سب کے سب آزاد پیدا ہوئے ہیں خداوند عالم نے تم میں سے بعض کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور جو مشکلوں میں گرفتار ہے اسے چاہئے کہ صبر و تحمل سے کام لے اور صبر و تحمل کے ذریعہ خدا پر احسان نہ کرے، اس وقت بیت المال ہمارے سامنے حاضر ہے اور اسے کالے، گورے، دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کروں گا"۔ (۱)  
 جب امام کا بیان یہاں تک پہنچا تو مروان نے طلحہ و زبیر سے کہا: علی کے اس کلام سے مراد تم لوگ ہو اور تمہارے اور دوسروں میں کوئی فرق نہ ہوگا۔

(۱) اصول کافی، ج ۸، ص ۶۸۔

اسکافی نے اپنی کتاب "نقض عثمانیہ" جو کتاب عثمانیہ (تالیف جاحظ) پر نقد ہے میں امام کے کلام کو مکمل وضاحت کے ساتھ نقل کیا ہے، وہ لکھتا ہے:

علی بیعت کے دوسرے دن یعنی ۱۹ ذی الحجہ ۳۵ ھ بروز شنبہ منبر پر گئے اور ایک مفصل تقریر کرتے ہوئے فرمایا:  
 "اے لوگو! میں تمہیں پیغمبر کے بہترین راستے پر گامزن کروں گا اور معاشرے میں اپنے قانون کو نافذ کروں گا۔ جو کچھ میں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اسے انجام نہ دو (پھر منبر ہی پر سے آپ نے داہنے اور بائیں طرف نگاہ کی اور فرمایا)

اے لوگو! جب بھی میں اس گروہ کو جو دنیا کی محبت میں غرق ہے اور بہت زیادہ مال و دولت، پانی و سواری اور غلاموں اور خوبصورت کنیزوں کا مالک ہے اگر اسے دنیاوی محبت سے نکال کر شرعی حقوق سے آشنا کروں تو وہ لوگ مجھ پر اعتراض نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ ابوطالب کے بیٹے نے ہم لوگوں کو اپنے حقوق سے محروم کر دیا ہے جو لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ پیغمبر کی ہمنشینی کی وجہ سے دوسروں پر فضیلت رکھتے ہیں تو انہیں جان لینا چاہئے کہ ملاک فضیلت کوئی اور چیز ہے صاحب فضیلت وہ شخص ہے جو خدا اور پیغمبر کی آواز پر لبیک کہے اور قوانین اسلام کو قبول کرے ایسی صورت میں تمام لوگ حقوق کے اعتبار سے دوسروں کے برابر ہو جائیں گے تم لوگ خدا کے بندے ہو اور مال، خدا کا مال ہے اور تم لوگوں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اور کوئی بھی کسی دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا، کل تم لوگوں کے درمیان بیت المال تقسیم ہوگا اس میں عرب و عجم دونوں برابر ہوں گے۔ (۱)

بیت المال تقسیم کرنے کا طریقہ

امام نے اپنے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع (۲) کو حکم دیا کہ مہاجرین و انصار میں سے ہر ایک کو تین تین دینار دیدو۔

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۷، ص ۳۷۔

(۲) ابو رافع کا گھر اصل شیعہ اور بزرگ خاندان میں سے ہے جو ابتدا سے خاندان رسالت سے محبت کرتا ہے اور ابو رافع خود پیغمبر کے صحابیوں میں سے ہے اور علی کا چاہنے والا ہے۔

اس وقت سہل بن حنیف انصاری نے اعتراض کیا اور کہا: کیا یہ بات مناسب ہے کہ ہم اس کالے آدمی کے برابر و مساوی

ہونجو کل تک ہمارا غلام تھا؟

امام - نے اس کے جواب میں کہا کہ قرآن کریم میں اسماعیل (عرب) کے فرزندوں اور اسحاق کے فرزندوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

گذشتہ حکمرانوں کی معزولی

امام - کا اہم ترین سیاسی فیصلہ یہ تھا کہ پچھلے خلیفہ کے معین کردہ حاکموں کو جن مینسز فہرست معاویہ تھا کو معزول کر دیں۔ جب سے حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کو قبول کیا اسی دن سے سوچ لیا تھا کہ عثمان کے زمانے کے جتنے بھی حکمرانوں نے بیت المال اور دوسری چیزوں کو اپنے خاص سیاسی مقصد اور غرض کے لئے استعمال کیا یا اسے اپنے یا اپنے بیٹوں سے مخصوص کر دیا تھا اور قیصر و کسریٰ کی طرح حکومت قائم کر لی تھی ان سب کو معزول کر دیں گے۔ امام - کا عثمان پر یہ اعتراض تھا کہ اس نے معاویہ کو حکومت شام کے لئے باقی رکھا تھا اور لوگوں نے کئی مرتبہ اس اعتراض کو امام - سے سنا تھا، امام - ۳۶ ھ کے اوائل ہی میں صالح اور متدین افراد کو اسلام کے بزرگ شہروں کے لئے معین کر دیا تھا۔ عثمان بن حنیف کو بصرہ ، عمار بن شہاب کو کوفہ ، عبیداللہ بن عباس کو یمن ، قیس بن سعد کو مصر اور سہل بن حنیف کو شام کے لئے معین کیا اور سہل بن حنیف جو آدھے راستے سے واپس آ گیا اس کے علاوہ سبھی اپنے اپنے علاقوں میں پہنچے اور حکومت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ (۱)

گذشتہ حکمرانوں خصوصاً معاویہ کی معزولی کا چرچا اسی زمانے میں اور بعد میں بھی تھا، ناآگاہ افراد اس معزولی کو امام - کی سیاسی غلطی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ علی سیاسی مکرو فریب سے دور تھے اور جھوٹ اور رظاہر سازی کو خداوند عالم کی مرضی کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے معاویہ اور اس جیسوں کو حکومت سے معزول کر دیا ، جس کے نتیجے میں تلخ حوادث سے دوچار ہوئے لیکن اگر آپ پچھلے حکمرانوں کو معزول نہ کرتے اور ان کو ایک زمانے تک باقی رکھتے اور پھر انہیں معزول کرتے تو کبھی بھی جمل، صفین نہروان کی جنگ سے سامنا نہیں کرتے ، اور اپنی حکومت میں کامیاب ہوتے۔ یہ کوئی نئی بات

(۱) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۶۱۔

نہیں ہے بلکہ امام - کی حکومت کے اوائل ہی میں بعض لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی لیکن آپ نے ان کی باتوں کو نہیں مانا تھا۔

مغیرہ بن شعبہ جو عرب کے چار سیاسی لوگوں میں سے ایک تھا جب امام - کے ارادے سے باخیر ہوا تو امام - کے گھر آیا اور آپ سے چپکے سے کہا: مصلحت یہی ہے کہ عثمان کے حکمرانوں کو ایک سال تک ان کے منصب پر باقی رہنے دیں۔ اور جس وقت لوگوں سے آپ بیعت لیں اور آپ کی حکومت، خاور سے باختر " تک قائم ہو جائے، اور مکمل طریقے سے حکومت کے حالات پر مسلط ہو جائیں اس وقت جس کو چاہے معزول کر دیں اور جس کو چاہیں اس کے مقام پر باقی رکھیں۔ امام - نے اس کے جواب میں کہا: "واللہ لا اذابن فی دینی ولا اعطی الدنی فی امری" یعنی خدا کی قسم میں دین میں سستی نہیں کروں گا اور حکومت کے امور کو پست افراد کے ہاتھوں نہیں دوں گا۔

مغیرہ نے کہا: اگر آپ اس وقت میری بات عثمان کے تمام حکمرانوں کے متعلق قبول نہیں کرتے تو کم از کم معاویہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے تاکہ وہ شام کے افراد سے آپ کی بیعت لے، اور پھر اپنے اطمینان و سکون کی خاطر معاویہ کو اس کے منصب سے معزول کر دیجیئے گا امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم، دودن کے لئے بھی اجازت نہیں دوں گا کہ معاویہ لوگوں کی جان و مال پر مسلط ہو۔

مغیرہ علی کا جواب سن کر مایوس ہو گیا اور آپ کے گھر سے چلا گیا دوسرے دن پھر امام - کے گھر آیا اور معاویہ کو معزول کرنے پر آپ کے نظریہ کی تائید کی اور کہا: آپ کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ زندگی میں مکرو فریب سے داخل ہوں۔ جتنی جلدی ہو معاویہ کو بھی اس کے منصب سے معزول کر دیں۔

ابن عباس کہتے ہیں: میننے علی علیہ السلام سے کہا کہ اگر مغیرہ نے معاویہ کو اس کے منصب پر باقی رہنے کی درخواست کی ہے تو اس کا مقصد صرف اچھائی اور بہترین مصلحت کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن اپنی دوسری درخواست میناس کے برخلاف ہدف رکھتا ہے لیکن میری نظر میں مصلحت یہی ہے کہ معاویہ کو اس کے منصب سے دور نہ کریں۔ اور جب تمہاری بیعت کر لے اور شام کے لوگوں سے تمہارے لئے بیعت لے تو میں خود اسے شام سے باہر کر دوں گا، لیکن

امام - نے ان کی درخواست کو بھی قبول نہیں کیا۔ (۱)  
 اب وقت آگیا ہے کہ خلیفہ سابق کے حکمرانوں کی معزولی، خصوصاً معاویہ کی معزولی کو سیاسی، سماجی اسلامی معاشرے کی مصلحت، اسی طرح خود امام - کی مصلحتوں کا جائزہ لیں۔  
 اس سے بٹ کر کہ غیر صالح سابقہ حکمرانوں کو باقی رکھنا اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف تھا کیا سیاسی اصول اور مملکتی امور کی تدبیر حکمرانوں کے باقی رکھنے میں تھی یا یہ کہ یہاں تقویٰ اور سیاست ایک تھی۔ اور اگر امام - کے علاوہ کوئی اور مسند خلافت پر بیٹھتا جب بھی سابق حکمرانوں کی معزولی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا؟ اگر عثمان کے بعد معاویہ خلافت کے لئے منتخب ہوتا، تب بھی سابق حکمرانوں کی معزولی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا؟

(۱) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۶۰۔

معاویہ کی معزولی مینامام - کی عجالت کی وجہ

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض لوگ مثلاً معاویہ جیسے افراد کو منصب پر باقی رکھنا تقویٰ اور طہارت و پاکیزگی کے برخلاف تھا اور امام - تمام چیزوں سے باخبر تھے لیکن اصل بحث یہ ہے کہ ایسے افراد کا باقی رکھنا سیاست و تدبیر اور دور اندیشی کے مطابق تھا؟ اگر فرد غیر متقی، امام - کی جگہ ہوتا اور اسی گروہ کے ذریعہ منتخب ہوتا جس کے ذریعے امام منتخب ہوئے تو کیا ایسے افراد کو اس کے مقام و منصب پر باقی رکھتا؟ یا یہ کہ امام - کی دور اندیشی اور شخصی مصلحت (تقویٰ اور اسلام کے عالی مصلحت کے علاوہ) کا بھی تقاضا تھا کہ ایسے افراد کو ان کے منصب و مقام سے دور کر دیا جائے اور اسلام کے حساس شعبوں کو ایسے افراد کے سپرد کیا جائے جو مسلمانوں اور انقلابیوں کی مرضی کے مطابق ہو؟

بعض لوگ پہلے نظریہ کے موافق بینان کا کہنا ہے کہ امام - کے تقویٰ کی وجہ سے لوگ اسلامی منصب سے دور ہوئے، ورنہ امام - کی شخصی مصلحت کا تقاضا تھا کہ معاویہ کو نہ چھیڑیں اور مدتوں اس کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے رہیں تاکہ جنگ صفین و نہروان جیسے حادثوں سے روبرو نہ ہوں۔

لیکن دوسرے محققین مثلاً مصر کے عظیم دانشور عباس محمود عقاد مؤلف "کتاب عقبیۃ الامام علی" اسی طرح اس دور کے اہل قلم حسن صدر دوسرے نظریہ کی تائید کرتے ہیں اور دلیلوں کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ اگر امام - اس کے علاوہ کوئی صورت اپناتے تو بہت زیادہ مشکلات سے دو چار ہوتے اور معاویہ اور اس کے مانند افراد کی معزولی امام - کے تقویٰ کے مطابق تھی، بلکہ حکومت کی دور اندیشی اور آئندہ نگرانی اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ ایسے فاسد عناصر کو خلافت سے دور کر دیں۔

یہ بات صحیح ہے کہ معاویہ کو معزول کرنے کے بعد امام - شامیوں کی مخالفت کی وجہ سے بہت سی مشکلوں سے روبرو ہوئے لیکن اگر اس کو معزول نہ کرتے تو صرف شامیوں کی ہی مخالفت سے دو چار نہ ہوتے بلکہ مظلوم انقلابیوں کی مخالفت سے امام - کو روبرو ہونا پڑتا اور یہی سبب بنتا کہ دن بہ دن مخالفتیں بڑھتی رہیں اور اسلامی معاشرہ میں اس سے بھی زیادہ اختلاف ہوتا۔

یہاں مناسب ہے کہ ان دلیلوں کو بھی پیش کر دوں۔

۱۔ امام - محروم اور مظلوم انقلابیوں کے ذریعے منصب خلافت پر آئے تھے جو عثمان کے ظلم و بربریت سے تنگ آکر مدینہ میں جمع ہو گئے تھے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا مظلوم انقلابیوں کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ طلحہ و زبیر جیسے افراد کو بھی خاموش کر دیا تھا اور حضرت علی کی بیعت کے لئے آمادہ کر لیا تھا۔  
 اس انقلابی گروہ نے امام - کے ہاتھوں پر اس مقصد کے تحت بیعت کی تھی کہ اسلامی ملک میں ہٹ دھرمی، خود غرضی اور انانیت کا خاتمہ ہو جائے اور فساد و تباہی برپا کرنے والوں کو حکومت متزلزل ہو جائے۔  
 اس گروہ کے ساتھ محترم و متدین صحابہ بھی تھے جو پچھلے خلیفہ سے مکمل طور پر ناراض تھے لیکن خاموشی اور کنارہ کشی اختیار کئے ہوئے تھے اور خلیفہ کے قتل ہونے کے بعد امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا۔  
 ادھر معاویہ کا ظلم و جور کسی پر پوشیدہ نہ تھا اگر علی علیہ السلام نے اس سلسلے میں کوتاہی یا بے توجہی کی ہوتی تو آپ کا کام معاویہ کے ساتھ ایک سازش اور انقلابیوں اور متدین صحابہ کے اہداف کی پامالی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، معاویہ



جیسے افراد کی وضعیت امام - کے مومن فداکاروں کی نظر میں ایک سیاسی مصلحت اور ریاکاری شمار ہوتی اور جتنا زیادہ معاویہ اس کام کو اپنی پاکیزگی کے لئے استفادہ کرتا علی علیہ السلام کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا۔ لوگوں کے تند احساسات اور طوفان کو صرف معاویہ کی معزولی ہی ختم کرسکتی تھی اگر امام - معاویہ کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے تو اپنی حکومت کے آغاز ہی میناپنے اکثر طرفداروں کو کھو دیتے، اور دوبارہ وہ لوگ گناہوں اور سرکشی کے لئے آمادہ ہو جاتے اور علی علیہ السلام کی مخالفت کے لئے کھڑے ہو جاتے اور بہت ہی کم لوگ وفاداروں میں باقی رہتے جو ہر حال میں امام - کے نظریات پر باقی رہتے اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلام کی مرکزی حکومت میناختلاف اور جدائی پیدا ہو جاتی اور وہ گروہ جو امام - کی پوشیدہ طور پر مخالفت کر رہا تھا وہ مخالف و موافق گروہوں کی شکل میں ابھر کر سامنے آجاتا اور امام - کی حکومت کی عمر کا چراغ پہلے ہی دن خاموش ہو جاتا۔

۲۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ جوشیلے انقلابی امام - کی معاویہ کے ساتھ ہمرابی کو قبول کر لیتے اور امام کے لشکر میں اختلاف و جدائی بھی نہیں ہوتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ معاویہ امام - کی رحمدلی اور دعوت کے مقابلے میں کیساعکس العمل پیش کرتا۔ کیا علی کی دعوت کو قبول کرتا؟ اور شام کے لوگوں سے ان کی بیعت کراتا، جس کی وجہ سے امام - شام کی طرف سے مطمئن ہو جاتے؟ یا یہ کہ معاویہ اپنی چالاک اور سیاسی چالوں سے یہ سمجھ لیتا کہ ہمرابی اور نیکی چند دنوں سے زیادہ کی نہیں ہے اور علی علیہ السلام حکومت پر مکمل قبضہ پانے کے بعد تمام اسلامی حکومتوں سے اسے دور کر دیں گے اور اس کی خود غرضی کو ختم کر دیں گے؟

معاویہ کی شیطانی حرکتیں اور دور اندیشی کسی پر پوشیدہ نہیں وہ حضرت علی کو تمام لوگوں سے زیادہ پہچانتا تھا۔ اور وہ جانتا تھا کہ ان کی حکومت میں خود غرضی اور بیت المال کو اپنی سیاسی غرض میں خرچ نہیں کرسکتا اور اگر امام اس کو ہمکاری کے لئے دعوت دے رہے ہیں تو صرف وقتی طور پر دوستی اور مصلحت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور بعد میں اس کے مشن کو قلع و قمع کریں گے اور شام جیسی بزرگ سرزمین پیغمبر کے صحابیوں اور نیک لوگوں کے ہاتھوں میں سپرد کر دیں گے۔

ان باتوں کی روسے معاویہ برگز امام علی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ ان سے عثمان کے پیراہن کی طرح، شامیوں کے درمیان اپنی شخصیت کو مستحکم کر نے اور قتل عثمان میں علی کی شرکت کا الزام لگانے کے لئے لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔

ابن عباس جانتے تھے کہ امام - معاویہ کے ساتھ زیادہ نہیں رہ سکتے تھے بلکہ اس وقت تک کے لئے جب تک حضرت حالات پر قابو پالیتے، معاویہ خوب جانتا تھا کہ علی کی اس کے ساتھ مصلحت وقتی طور پر ہے لہذا وہ قطعی طور پر امام - کی دعوت کو قبول نہ کرتا بلکہ مکروفریب سے کام لیتا۔

بہترین موقع جو چھوٹ جاتا

معاویہ کے پاس جو سب سے بڑا بہانہ اور حربہ تھا وہ عثمان کے خون کا بدلہ تھا اگر وہ ابتدا ہی میناس موقع سے استفادہ نہ کرتا، تو اس حربہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔

معاویہ نے عثمان کے خون آلود پیراہن کو عثمان کی بیوی "نانلہ" کی انگلیوں کے ساتھ جو شوہر کے دفاع میں کٹ گئیں تھیں شام کے منبر کے اوپر لٹکا دیا تاکہ شامیوں کو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے آمادہ کرے جس کے لئے معاویہ نے دعویٰ کیا تھا کہ علی کے اشارے پر ہی عثمان کا قتل ہوا ہے اگر وہ ابتدا ہی میں حضرت علی کی دعوت کو قبول کر لیتا تو ہرگز وہ عثمان کے قتل کو امام - سے منسوب نہ کر پاتا اور عثمان کی مظلومیت کو امام - کے خلاف بیان نہ کرتا، معاویہ کے پاس عثمان کا قتل ایک ایساقوی حربہ تھا جو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف استعمال کرتا، اور اس حربہ کا استعمال اس صورت میں ممکن تھا کہ جب علی کی دعوت کو قبول نہ کرتا کیونکہ امام کی بیعت کرنے کی صورت مینامام - کی رہبری کو صحیح ثابت کرتا اور ادھر عثمان کا خون بھی خشک ہو جاتا اور اس طرح وہ بہترین موقع گنوا بیٹھتا۔

موروثی حکومت کی برقراری

کئی سال سے معاویہ نے اپنی چالاک اور بے حساب و کتاب تحفے تحائف کے ذریعے، عظیم اور بزرگ شخصیتوں کو جلا وطن کر کے جو اس کی حکومت کے خلاف تھے اور بہت زیادہ تبلیغ کر کے اور خلیفہ وقت کی نظر عنایت کو جذب کر کے ایک موروثی سلطنت و حکومت کا مقدمہ فراہم کر لیا تھا اور وہ عثمان کے قتل یا موت کا منتظر تھا کہ اپنی دیرینہ آرزوں کو عملی جامہ پہنا سکے۔

یہی وجہ ہے کہ جب انقلابیوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور معاویہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے کوئی مدد نہ



کی تاکہ جتنی جلدی ہو عثمان کا سایہ اس کے سر سے دور ہو جائے اور وہ اپنی آرزو تک پہنچ جائے، ایسا شخص کبھی بھی امام - کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس سے اپنے فائدے اور امام - کے نقصان کے لئے استفادہ کرتا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ خلیفہ وقت نے معاویہ سے مدد طلب کی مگر اس نے حالات آگاہی کے باوجود بھی ان کی مدد کے لئے قدم نہ بڑھایا۔

امیر المومنین - نے اپنے ایک خط میں معاویہ کو لکھا "تم نے عثمان کی اس وقت مدد کی جب مدد کرنے میں تیرا فائدہ تھا اور اس دن تم نے اسے ذلیل و خوار کر دیا کہ جس دن مدد کرنے میں صرف اس کا فائدہ تھا" (۱)

امیر المومنین - پھر اپنے ایک خط میں معاویہ کو لکھتے ہیں کہ "خدا کی قسم، تمہارے چچا زاد بھائی کو تمہارے علاوہ کسی نے قتل نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ تجھے اس کے گناہوں کی طرح اس سے ملحق کر دوں"۔ (۲)

ابن عباس اپنے خط میں معاویہ کو لکھتے ہیں "تمہیں عثمان کے مرنے کا انتظار تھا تو اس کی بربادی کا خواہاں تھا تو نے اس کی مدد کرنے سے لوگوں کو منع کر دیا اس کا خط اور مدد کی درخواست اور استغاثہ کی آواز تجھ تک پہنچی لیکن تونے کوئی توجہ نہ دی، جب کہ تو جانتا تھا کہ جب تک لوگ اسے قتل نہ کر لیں نہ پہنچھوڑیں گے، وہ قتل کر دیا گیا اور جب کہ تو بھی یہی چاہتا تھا۔ اگر عثمان مظلوم قتل ہوا تو سب سے بڑا ظلم کرنے والا تو تھا۔

کیا ایسی حالت میں جب کہ وہ ہمیشہ عثمان کی موت یا اس کے قتل کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنی آرزو کو پہنچ جائے، وہ امام - کی دعوت کو قبول کرتا؟ اور جو موقع اسے بہت ہی مشکلوں سے حاصل ہوا تھا، اسے گنوا دیتا؟

(۱) نہج البلاغہ نامہ ۳۷۔  
(۲) العقد الفرید، ج ۲، ص ۲۲۳۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### پانچویں فصل

#### خلافت، معاویہ کی دیرینہ آرزو

گذشتہ دلیلوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ معاویہ جیسوں کو خلافت کے امور سے معزول کر دینا نہ صرف پرہیزگاری کا تقاضا تھا بلکہ دور اندیشی، مستقبل، سیاست و درایت اور بہت کم نقصان کے تحمل کا تقاضا تھا اور امام - کی راہ صحیح ترین راہ تھی جو ایک واقعے میں سیاستمدار منتخب کر سکتا تھا اور معاویہ کے ساتھ نرمی و مدارا کرنے میں زیادہ نقصان کے سوا کچھ نہ تھا۔

اگر ابن عباس نے امام - سے کہا کہ اپنے دیرینہ دشمن کے ساتھ ہمدردی کریں تو ان کا یہ مشورہ عاقلانہ نہ تھا اور اگر عرب کا معروف و مشہور سیاستمدار مغیرہ بن شعبہ نے امام - کو جو مشورہ دیا کہ معاویہ کو اس کے منصب سے معزول نہ کر دیں اور پھر دوسرے دن اس کے برعکس نظریہ پیش کیا اور کہا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ اسے اس کے منصب سے معزول کر دیں، تو معلوم نہ ہوسکا کہ مغیرہ ان دونوں نظریوں میں سے کس میں سچا تھا۔

نادان افراد جو یہ سوچتے ہیں کہ معاویہ کو اس کے مقام پر باقی رکھنے میں علی کے لئے فائدہ تھا انہیں معلوم ہونا چاہیے چونکہ امام - ان افراد میں سے تھے جو حق کی پیروی کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے نتیجے کی فکر کئے بغیر، اور سیاسی اور فوجی نقصان کے محاسبہ کے بغیر معاویہ کو معزول کرنے کا حکم صادر فرمایا، وہ لوگ معاویہ کے بدترین ارادے اور خلافت تک پہنچنے کی اس کی دیرینہ خواہش جس کی کوشش خلیفہ سوم کے زمانے ہی سے شروع ہو چکی تھی اور عثمان کے قتل کے بعد اور امام کی طرف سے معزولی کا حکم پہنچنے سے پہلے تمام جگہوں پر اس کا خط بھیجنا ایسے مسائل ہیں جن سے آگاہ نہیں ہیناور انہوں نے قضیہ کو سطحی نظر سے دیکھا ہے۔

یہاں کچھ تاریخی ثبوت پیش کر رہے ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں کہ معاویہ کا مقصد ایک ظاہری اسلامی حکومت کے سوا کچھ نہ تھا اور اگر امام - شام کی حکومت اس کے سپرد کر دیتے تو وہ صرف اسی پر قناعت نہ کرتا بلکہ اس سے سوء استفادہ بھی کرتا۔

۱۔ خلیفہ کے قتل کے بعد، نعمان بن بشیر عثمان کی بیوی کا خط اور اس کا خونی پیراہن لے کر شام کے لئے روانہ ہوا اور مدینہ کے حالات سے باخبر کیا، معاویہ منبر پر گیا اور عثمان کے پیراہن کو ہاتھ میں لے کر لوگوں کو دیکھا یا اور عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگ خلیفہ کے خونی پیراہن کو دیکھ کر رونے لگے اور کہا تم اس کے چچا زاد بھائی اور اس کے شرعی طور پر ولی ہو، ہم لوگ بھی تمہاری ہی طرح اس کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں پھر اسے شام کا امیر مان کر اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔

معاویہ نے شام میں رہنے والی بزرگ شخصیتوں کے حالات جاننے کے لئے چند لوگوں کو بھیجا اور شہر حمص کے بااثر شخص شرحبیل کندی کے پاس خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ شام کے حاکم کے عنوان سے میری بیعت کرے۔ اس نے جواب میں لکھا "تم بہت بڑی غلطی کت مرتکب ہو رہے ہو تم مجھ سے درخواست کرتے ہو کہ بعنوان حاکم شام تیری بیعت کروں، خلیفہ سابق کے خون کا انتقام صرف وہ لے سکتا ہے جو خلیفہ مسلمین ہو نہ کہ کسی ایک علاقہ کا امیر، اس وجہ سے مینتمہیں خلیفہ مسلمین سمجھ کر بیعت کر رہا ہوں۔"

جب شرحبیل کا خط معاویہ کے پاس پہنچا تو وہ بہت خوش ہوا، اور تمام لوگوں کے سامنے اس کے خط کو پڑھا اور پھر ان لوگوں سے خلیفہ مسلمین کے عنوان سے بیعت لی، پھر علی سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ (۱)

تاریخ کا یہ حصہ اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ خلافت قبول کرنے کے لئے معاویہ کا مزاج اس قدر آمادہ تھا کہ صرف شہر حمص کے اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کی بیعت پر اس نے خود کو خلیفہ مسلمین قرار دیا اور شام میناپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور بجائے اس کے کہ انقلابیوں خصوصاً مہاجرین و انصار کی حضرت علی کے ہاتھوں پر بیعت کی فکر کرتا خود اپنی بیعت کرائی۔ گویا اس نے کئی سال سے اپنے لئے زمین ہموار کر لی تھی کہ صرف ایک مرتبہ میں بیعت کی بات کر کے لوگوں سے بیعت حاصل کر لی۔

۲۔ جب معاویہ کو اس بات کی خبر ملی کہ مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو قبل اس کے کہ امام کا خط اس کے پاس پہنچتا اس نے دو خط، ایک زبیر اور دوسرا طلحہ کے نام لکھا۔ اور دونوں کو عراق کے دو بڑے شہروں یعنی کوفہ اور بصرہ پر قبضہ کرنے کے لئے ترغیب دلائی۔ اس نے زبیر کو اس طرح خط لکھا "میں نے شام کے لوگوں سے تمہارے لئے بیعت لے لی ہے لہذا جتنی جلدی ہو کوفہ اور

(۱) الامامة والسياسة، ج ۱، ص ۶۹۔ ۱۰۔

بصرہ پر حکومت کرنے کے لئے اپنے کو آمادہ کر لو اور میننے تمہارے بعد طلحہ کی بیعت لی جتنی جلد ہوسکے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے قیام کرو اور لوگوں کو اس کام کی دعوت دو۔"

زبیر خط کا مضمون پڑھ کر بہت خوش ہوا اور طلحہ کو اس سے باخبر کیا اور دونوں نے کہ امام کے خلاف قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

معاویہ نے دوسرا خط طلحہ کے نام لکھا، جس کا مضمون زبیر کے خط سے بالکل الگ تھا اس نے خط میں لکھا کہ "میں نے خلافت کو تم دونوں کے لئے ہموار کیا ہے تم میں جو بھی چاہے خلافت کو ایک دوسرے کے حوالے کرے اور اس کے مرنے کے بعد دوسرا شخص خلیفہ مسلمین بن جائے گا۔ (۱)

اس میں کوئی شک نہیں کہ طلحہ و زبیر کو خلافت اور کوفہ و بصرہ پر قبضہ کرنے کے لئے برانگیختہ کرنے کا مقصد صرف امام کی حکومت کو ضعیف و کمزور کرنا اور اپنی حکومت کو شام میں مضبوط کرنا تھا تاکہ امام کے چاہنے والوں میں اختلاف ہو جائے اور ان دونوں کی مدد سے حکومت کی باگ ڈور کو حضرت علی کے ہاتھوں سے لے لے۔ اور اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیتا تو طلحہ و زبیر (پیغمبر کے یہ دو سادہ لوح اور دنیا طلب صحابی) پر کامیابی پانا آسان ہو جائے گا۔

۳۔ معاویہ نے ابتدائے خلافت اور جنگ صفین ختم ہونے سے پہلے امام سے درخواست کی کہ شام اور مصر کی حکومت کو آزادانہ طور پر مجھے سونپ دیں اور ان دو علاقوں کا جزیہ اس کے اختیار میں ہو اور امام کے بعد وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو، اس کی وضاحت و تشریح اس طرح ہے:

امام نے اپنی خلافت کے آغاز ہی میں عظیم شخص جریر بجلي کو خط دے کر شام روانہ کیا اس خط میں لکھا تھا:

"وہ گروہ جس نے ابوبکر و عمر و عثمان کی بیعت کی تھی اس نے ہمارے ہاتھوں پر بھی بیعت کی ہے، لہذا مہاجرین و انصار کی میرے ہاتھوں پر بعنوان خلیفہ بیعت کے بعد کسی کو بھی دوسرا خلیفہ منتخب کرنے کا حق نہیں ہے چاہے وہ بیعت

کے وقت مدینہ میں موجود ہو یا نہ ہو۔"  
جریر امام کا خط لیکر شام پہنچے اور خط معاویہ کے سپرد کیا لیکن وہ جواب دینے میں تذبذب میں پڑ گیا

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۷۔

اور عقبہ اور عمر و عاص جیسے افراد کے ساتھ مشورہ کیا اور بالآخر امام کے قاصد سے اپنے دل کی باتیں کہیں کہ اگر علی شام اور مصر کو نظر انداز کر دیں اور وہاں کی آمدنی کو اس کے سپرد کر دیں تو ایسی صورت میں وہ انہیں خلیفہ تسلیم کر لے گا۔

امام کے سفیر نے معاویہ کے نظریہ کو امام کے سامنے پیش کیا امام نے اس کے جواب میں کہا کہ معاویہ چاہتا ہے کہ میری بیعت نہ کرے اور اپنے مقصد کو پہنچ جائے اور وقت گزارنے اور اپنے مقصد کی کامیابی کے لئے شام اور مصر کی حکومت کو مضبوط کر لے اس بنا پر اگر اس نے بیعت کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ فوراً شام کو چھوڑ دے اور جتنی جلدی ہو میرے پاس آجائے۔ (۱)

امام کے اس جواب سے واضح ہوتا ہے کہ اس درخواست سے معاویہ کا مقصد یہ تھا کہ علی کی بیعت اور اطاعت اس پر واجب نہ ہو اور وہ ایک آزاد حاکم کی طرح دو بزرگ و عظیم شہروں پر حکومت کرے اور اس کے حساب و کتاب اور اس کے ساتھیوں کے متعلق امام کوئی مداخلت نہ کریں، خدا جانتا ہے کہ اس کے بعد اور ان دونوں شہروں پر مستحکم و مضبوط قبضہ کرنے کے بعد معاویہ امام کی حکومت کو گرانے کے لئے کیا کیا تدبیریں کرتا، اس کے علاوہ یہ وہی دو سر داری ہے جسے عقل و شریعت میں سے کوئی بھی قبول نہیں کرتی اور حکومت اسلامی کے دو ٹکڑوں میں بٹنے کے سوا کوئی اور نتیجہ نہیں نکلتا۔

اس بات پر واضح دلیل کہ معاویہ خلافت کا خواہاں تھا نہ کہ امام کی نمائندگی، مولا کا ایک جملہ ہے جس کو آپ نے اپنے خط میناس کے لئے تحریر کیا تھا۔

وَ أَعْلَمُ يَا مُعَاوِيَةَ إِنَّكَ مِنَ الطُّغَاةِ الَّذِينَ لَا تَجِلُّ لَهُمُ الْخِلَافَةُ وَ لَا تُعْهَدُ مَعَهُمُ الْأَمَانَةُ وَ لَا تُعْرَضُ فِيهِمُ الشُّورَى۔ (۲)

اے معاویہ جان لے، تو آزاد شدہ لوگوں میں سے ہے اور ان لوگوں کے لئے خلافت جائز نہیں ہے اور ان کے بیعت کرنے سے کسی کی خلافت ثابت نہیں ہوتی اور شوریٰ کی نمائندگی کا بھی حق نہیں رکھتے۔

(۱) الامامة و السياسة، ج ۱، ص ۸۷۔

(۲) "طغای" یا آزاد شدہ وہ لوگ ہیں جنہیں فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر نے معاف کر دیا تھا۔

قاتلان عثمان کے نام بہانہ

بہترین دلیل اس بات پر کہ معاویہ خلافت کا متمنی تھا یہ ہے کہ اس نے امام کی حکومت کے زمانے میں تمام چیزوں سے زیادہ عثمان کے قاتلوں کے بارے میں گفتگو کی تھی اور علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ثابت ہو جائے کہ امام ان سے مرتبط نہیں تھے۔

وہ خوب جانتا تھا کہ عثمان کے قاتلوں میں ایک یا دو شخص شامل نہیں ہیں کہ امام انہیں گرفتار کر کے اس کے حوالے کر دیں کیونکہ حملہ کرنے والوں میں مدینے کے لوگ بھی شامل تھے اور بہت زیادہ تعداد میں مصر اور عراق کے افراد شامل تھے جنہوں نے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا اور انہیں قتل کیا تھا اور ایسے گروہ کی شناخت بہت مشکل کام ہے خود معاویہ بھی اس مشکل کو سب سے زیادہ جانتا تھا اور اس کا مقصد تمام حملہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا تھا نہ کہ جن لوگوں نے خلیفہ کو قتل کیا تھا۔

اس کے علاوہ اس واقعہ کی چھان مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے نہ کہ خلیفہ کے کئی واسطوں سے چچازاد بہائی کی اور امام کے خلیفہ کے قاتلوں کو معاویہ کے حوالے کرنا خود معاویہ کی خلافت کو قبول کرنا تھا۔

امام نے اپنے ایک خط میں معاویہ کو لکھا :

"عثمان کے قاتلوں کے بارے میں بہت زیادہ اصرار کر رہے ہو، اگر تم اپنی بے جا رائے سے باز آ جاؤ تو میں تمہارے اور دوسروں کے ساتھ خدا کی کتاب کے مطابق پیش آؤں لیکن جو چیز تم چاہتے ہو (شام کو تمہارے حوالے کرنا) اس کی مثال

ایسی ہی ہے کہ بچے کو پستان مادر سے دھوکہ دیا جائے۔

امام - ایک اور خط میں معاویہ کو لکھتے ہیں :

"جس چیز کو تو بڑی خواہش و آرزو سے طلب کر رہا ہے تو جان لے کہ یہ چیز آزاد شدہ لوگوں تک نہیں پہنچے گی کہ وہ مسلمانوں کا رہبر ہو اور اسی طرح ان کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ خلافت کی شوری کے ممبر منتخب ہوں۔"

عثمان کے خون کا بدلہ اور قاتلوں کو گرفتار کر کے اس کے حوالے کرنا صرف اور صرف ایک بہانہ تھا اور معاویہ اس کی آڑ میں خلافت و زعامت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس مسئلہ پر سب سے واضح و روشن دلیل یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوگئی اور معاویہ نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی جس چیز کے بارے میں اس نے کوئی بحث نہ کی وہ عثمان کے خون کا بدلہ اور اس کے قاتلوں کی گرفتاری تھی۔ یہاں تک کہ جب عثمان کی بیٹی نے معاویہ کا دامن پکڑ کر کہا کہ میرے باپ کے قاتلوں سے ان کے خون کا بدلہ لو تو اس نے کہا : یہ کام میرے بس میں نہیں ہے اور تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ تم خلیفہ مسلمین کی بھتیجی رہو۔

### چھٹی فصل

#### ناکثین سے جنگ (جنگ جمل)

مہاجرین و انصار میں سے پیغمبر کے صحابیوں کا امام - کی بیعت کے لئے ہجوم کرنا اور حق و عدالت کی حکومت کو واپس لانے کی درخواست کرنا یہ سبب بنا کہ امام - امور حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لیں تاکہ اسلامی قوانین اور سنت کے مطابق لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔

امام - کے بیت المال تقسیم کرنے کی روش دیکھ کر ایک گروہ بہت ناراض ہوا وہ گروہ جو ہمیشہ عدالت اور سنت حسنہ کے احیاء سے ناراض ہو وہ تبعیض اور خواہشات نفسانی اور بے جا آرزوں اور غیر محدود آرزوں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ امام - اپنے پانچ سالہ دور حکومت میں تین سرکش گروہوں سے روبرو ہوئے جن کی سرکشی حد سے بڑھی ہوئی تھی اور ان کی آرزو صرف عثمان کی حکومت کی طرح فضا بنانا اور بے جا تحفہ و اخراجات اور اسراف کرنا اور معاویہ اور پچھلی حکومت کے معین کردہ حاکموں کی طرح نالائق افراد کی حکومت کو مضبوط بنانی تھی۔

ان جنگوں میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، پیغمبر کے صحابیوں کا گروہ جو بدرو احد کی جنگوں میں بھی تھا یعنی تاریخ اسلام کے حساس موقعوں پر پیغمبر کی رکاب میں رہ کر تلواریں چلائی تھیں اس مرتبہ وہ لوگ پیغمبر کے اصلی اور سچے جانشین کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور امام - کے اہداف کی ترقی کی خاطر اپنی جان کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔

اس کے علاوہ ، امام - کا قیمتی وقت جو لوگوں کی تربیت ، امت کی ہدایت اور اسلامی معارف و تعلیم میں صرف ہوتا وہ ان تینوں گروہوں کے دفع کرنے میں صرف ہو گیا جو امام - کے مقدس ہدف کے خلاف تھا اور بالآخر قبل اس کے کہ امام - اپنے مقصد تک پہنچتے یعنی ہمیشہ کے لئے ایک ایسی حکومت قائم کرتے جو اسلام کے اصولوں اور سنتوں پر قائم ہوتی ، آپ کی حکومت کا سورج پانچ سال نوارانی شعاعیں بکھیرنے کے بعد غروب ہو گیا اور آپ کی شہادت کے بعد حکومت اسلامی موروثی سلطنت میں تبدیل ہوگئی اور بنی امیہ اور بنی عباس کی اولادینایک کے بعد ایک اس پر قابض ہوتی گئیں اور مومنین کے دلونمیں حکومت اسلامی ایک آرزو بن کر رہ گئی۔

وہ تین گروہ یہ تھے :

#### ۱ : ناکثین "یا عہد و پیمان توڑنے والا گروہ"

اس گروہ کے سردار خصوصاً طلحہ اور زبیر نے جو پیغمبر کی بیوی عائشہ کے احترام کی آڑ میں اور بنی امیہ کی بے انتہا مدد کی وجہ سے صرف اس لئے کہ امام - کی حکومت میں ان کے اختیارات بہت کم ہو گئے تھے ، بہادر سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر کوفہ و بصرہ پر قبضہ جمانے کے لئے تیار کیا اور خود بصرہ پہنچ بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ امام - بھی اپنا لشکر لے کر گئے اور پھر دونوں گروہوں میں جنگ شروع ہوئی اور طلحہ و زبیر اس جنگ میں مارے گئے اور ان کی فوج بھاگ گئی اور کچھ قیدی بنائے گئے اور بعد میں امام - نے انہیں معاف کر دیا۔

#### ۲ : فاسطین "یا ظالمین اور حقیقت سے دور رہنے والا گروہ"

اس گروہ کا سردار معاویہ تھا جس نے مکر و فریب اور دھوکہ دینے والی باتوں سے دو سال ، بلکہ امام - کی عمر کے آخری لمحہ تک آپ کو مشکلات سے دوچار کرتا رہا ، عراق و شام کے وسط میں امام اور اس کے درمیان جنگ صفین ہوئی جس

میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا لیکن امام - اپنے آخری مقصد تک نہ پہنچ سکے اگرچہ معاویہ شام میں نظروں سے گر گیا۔

۳: مارقین "یا دین سے خارج ہونے والا گروہ"

یہ افراد، گروہ "خوارج" میں سے ہیں یہ لوگ جنگ صفین کے آخری مرحلے تک امام - کے ہمراہ تھے اور حضرت کی طرف سے جنگ کر رہے تھے ، لیکن معاویہ کے دھوکہ دینے والے کاموں کی وجہ سے یہ لوگ امام کے خلاف شورش کرنے لگے اور ایک تیسرا گروہ بنایا جو معاویہ اور امام دونوں کے خلاف تھا ، اور اسلام و مسلمین اور امام - کی حکومت کے لئے دونوں گروہوں سے زیادہ خطرناک تھا ، اس گروہ سے امام - کا مقابلہ "نہروان" نامی جگہ پر ہوا اور امام نے ان کو مار بھگایا اور قریب تھا کہ دوسری مرتبہ شام سے فساد و سرکشی کی جڑ کو ختم کرنے کے لئے خود کو آمادہ کریں کہ خوارج میں سے ایک شخص حملہ آور ہوا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور انسانیت نے پیغمبر کے بعد ایک شریف اور عزیز ترین شخص اور اسلام کی بہترین و شائستہ فرد کو کھو دیا اور اسلامی عدالت کی حکومت کا چاند حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک کے لئے بدلی میں چلا گیا۔

امام - ان جان لیوا حادثوں کے رونما ہونے کے پہلے ہی سے ان کے بارے میں آگاہ تھے ، اسی وجہ سے عثمان کے قتل کے بعد جب انقلابی ، امام - کے گھر پر جمع ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں تاکہ بیعت کریں تو آپ نے فرمایا:

"دَعَوْنِي وَ التَّمَسُّوا غَيْرِي فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَّهُ وَجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَنْبُتُ عَلَيْهِ الْعُفُولُ" (۱) مجھے چھوڑ دو کسی دوسرے کے پاس جاؤ کیونکہ ہمیں مختلف حوادث کا سامنا ہے ایسے حوادث جن سے دل ٹکڑے ہو جائیں گی اور عقلمندانہ برداشت کرنے سے قاصر ہیں ان حوادث سے آگاہ ہونے کا ایک منبع خود پیغمبر اسلام کا ان چیزوں کے بارے میں خبر دینا تھا اسلامی محدثین نے پیغمبر اسلام (ص) کا ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے:

"يا علي تقاتل الناكثين و الفاسطين و المارقين" (۲)

اے علی تم عہد و پیمانہ توڑنے والوں ، ظالموں اور دین سے منحرف ہونے والوں کے ساتھ جنگ کرو گے۔ یہ حدیث مختلف طریقوں سے حدیث و تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے مگر سب کا مفہوم ایک ہے ، ان جنگوں کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔

صرف حضرت علی علیہ السلام ہی ان جان لیوا اور تاسف بار حادثوں سے آگاہ نہ تھے بلکہ ناکثین کے سرداروں (جسے تاریخ "اصحاب جمل" کے نام سے جانتی ہے) نے بھی حضرت رسول خدا سے اپنے اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہونے کے متعلق سنا تھا اور پیغمبر نے زبیر اور عائشہ کو اس سلسلے میں بہت سخت تاکید کی تھی ، لیکن افسوس کہ باطل حکومت سے محبت کی وجہ سے یہ مادی اموال پر فریفتہ ہو گیا اور دنیا کی لالچ میں اس طرح ضم ہو گیا کہ واپسی کی کوئی امید باقی نہ رہی اور وہ راستہ اختیار کیا جس میں گناہ اور خدا کا غضب تھا۔ جنگ جمل کے حادثہ کے بارے میں پیغمبر اسلام کے بیان کو مناسب موقع پر پیش کریں گے۔

(۱) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۵۶۔

(۲) مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۱۴۰۔

بہت زیادہ تعجب کا مقام ہے کہ اسلام کے پروان چڑھنے کے دوران اور اس وقت جب کہ حق اپنے محور پر واپس آ گیا اور حکومت کی باگ ڈور ایسے شخص کے ہاتھوں میں آگئی جسے ابتداء خلقت ہی میں پیشوائی و رہبری کے لئے منتخب کیا گیا تھا اور اس بات کی امید تھی کہ اس زمانے میں اسلامی زندگی میں عظیم معنوی اور مادی ترقی مسلمانوں کو نصیب ہوگی اور اسلامی حکومت مکمل طور پر امام - کے ہاتھوں میں دوبارہ واپس آجائے تاکہ آپ کی حکومت آئندہ کے لئے بہترین نمونہ عمل ہو سکے۔ ایک گروہ امام - کی مخالفت کے لئے آمادہ ہوا اور علم جنگ امام - کے خلاف بلند کیا۔ امام - نے اپنے ایک خطبہ میں اس سلوک پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے فرمایا:

"فَلَمَّا نَهَضَتْ بِالْأَمْرِ نَكَنَتْ طَائِفَةً وَ مَرَقَتْ أُخْرَى وَ قَسَطَ آخِرُونَ - كَانَهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا كَلَامَ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" (۱)

جب تمام امور کو میننے اپنے ہاتھوں میں لیا اس وقت کچھ لوگوں نے میری بیعت سے منہ موڑ لیا اور کچھ گروہ قوانین الہی

سے خارج ہو گئے اور بعض گروہ حق کی راہ سے دور ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کے کلام کو نہیں سنا کہ ارشاد قدرت ہے کہ آخرت ان لوگوں کے لئے ہمیشگی کا گھر ہے جو سرکش نہ ہوں اور زمین پر فساد برپا نہ کریں۔ جی ہاں، خدا کی قسم۔ ان لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا اور انہیں یاد بھی تھا لیکن ان کی آنکھوں میں دنیا کی چمک دمک سما گئی تھی اور اس کی چمک نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا۔

(۱) نہج البلاغہ، خطبہ ۴۔

بچہ گانہ عذر

عہد و پیمان توڑنے والا گروہ یعنی طلحہ و زبیر اور ان کے چاہنے والوں نے باوجود اس کے کہ امام - کے ہاتھوں پر دن کے اجالے میں بیعت کیا تھا، اور مہاجرین و انصار اور لوگوں کے ہجوم نے انہیں بیعت کے لئے آمادہ کیا تھا۔ اور جب مخالفت کا پرچم بلند کیا تو اس بات کا دعویٰ کرنے لگے کہ ہم نے زبانی اور ظاہری طور پر بیعت کی تھی اور دل کی گہرائیوں سے علی کی حکومت کو قبول نہیں کیا تھا۔

امام - اپنی ایک تقریر میں ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

"فَقَدْ أَقْرَبَ بِالْبَيْعَةِ وَ ادَّعَى الْوَلِيَّةَ فَلَيَاتِ عَلِيًّا بِأَمْرٍ يُعْرَفُ وَ إِلَّا فَلْيَدْخُلْ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ"۔ (۱)

انہوں نے خود اپنی بیعت کا اعتراف کیا لیکن اب ان کا دعویٰ ہے کہ باطنی طور پر ہم اس کے مخالف تھے وہ لوگ اس بات پر شاہد و گواہ پیش کریں یا یہ کہ اپنی بیعت پر باقی رہیں۔

نفاق و منافقت

طلحہ و زبیر امام - کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم نے آپ کی بیعت اس لئے کی کہ آپ کی رہبری میں شریک رہیں۔ امام نے ان کی شرط کو جھوٹی قرار دیا اور کہا تم لوگوں نے میری بیعت کی تاکہ مشکل کے وقت میری مدد کرو۔ (۲)

ابن قتیبہ نے اپنی کتاب "خلفاء" میں امام - اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علی کی طرف رخ کر کے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کس بنیاد پر آپ کی بیعت کی ہے؟

امام نے فرمایا: ہاں میں جانتا ہوں، تم نے ہماری اطاعت کی وجہ سے بیعت کی ہے اسی طرح جس طرح تم نے ابوبکر و عمر کی اطاعت کے لئے بیعت کیا تھا۔

زبیر کو یہ گمان تھا کہ امام - عراق کی حاکمیت کو اس کے حوالے کر دیں گے اور اسی طرح طلحہ یہ سوچ رہا تھا کہ یمن کی حکومت اس کے حوالے کر دیں گے (۳) لیکن بیت المال تقسیم کرنے کی روش اور دوسرے اسلامی شہروں کی رہبری اور مسلمانوں کے امور کے لئے دوسرے افراد کو بھیجنے کی وجہ سے ان کی آرزوئیں خاک میں مل گئیں، لہذا ارادہ کر لیا کہ مدینہ سے بھاگ جائیں اور امام - کی مخالفت کرنا شروع کر دیں۔

مدینہ چھوڑنے سے پہلے زبیر نے قریش کے عمومی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کیا ہماری یہی سزا ہے؟

(۱) نہج البلاغہ کلمات قصار شماره ۱۹۸۔

(۲) نہج البلاغہ خطبہ ۸۔

(۳) تاریخ خلفاء طبع مصر، ج ۱، ص ۴۹۔

ہم نے عثمان کے خلاف قیام کیا اور اس کے قتل کا زمینہ فراہم کیا جب کہ علی گھر میں بیٹھے تھے اور جب حکومت کی ذمہ داری قبول کی تو کام کی ذمہ داری دوسروں کو سونپ دی۔ (۱)

(۱) تاریخ خلفاء طبع مصر ج ۱ ص ۴۹۔

## ناکثین کے قیام کرنے کی علت

جب طلحہ و زبیر امام - کی حکومت میں کسی بھی شہر میں منصوب نہ ہوئے اور اس سے مایوس و ناامید ہوئے اور دوسری طرف معاویہ کی جانب سے دونوں کے پاس ایک ہی مضمون کا خط پہنچا جس میں اس نے ان دونوں کو "امیر المومنین" کے خطاب سے نوازا تھا اور لکھا تھا کہ شام کے لوگوں سے تم لوگوں کے لئے بیعت لے لی ہے اور تم لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو کوفہ و بصرہ شہر پر قبضہ کرلو، اس سے پہلے کہ ابوطالب کا لال ان دونوں پر مسلط ہو اور ہر جگہ ان لوگوں کا نعرہ یہ ہو کہ ہم لوگ عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اس کے خون کا بدلہ لینے کے لئے دعوت کر دیں۔

یہ دونوں سادہ لوح صحابی معاویہ کا خط پڑھ کر دھوکہ کھا گئے اور چاہا کہ مدینہ سے مکہ جائیں اور وہاں لوگوں کو تربیت دینا اور انہیں جنگ کے لئے آمادہ کریں۔ وہ لوگ معاویہ کے امور کو اجراء کرنے کے لئے امام کے پاس گئے اور کہا: آپ نے عثمان کی ستمگری کو ولایت و حکومت جیسے امور میں مشاہدہ کیا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی نگاہ میں بنی امیہ کے علاوہ کسی کی کوئی اہمیت نہ تھی، اب جب کہ خدا نے آپ کو منصب خلافت پر فائز کیا ہے ہم لوگوں کو کوفہ و بصرہ کا حاکم معین کیجئے۔ امام نے فرمایا: جو کچھ خدا نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ میں اس موضوع کے متعلق فکر کروں، یہ بات جان لو کہ میں ان لوگوں کو حکومت کے لئے منتخب کروں گا جن کے دین اور امانت پر مجھے اطمینان اور ان کی طینت سے واقف ہوں گا۔

دونوں یہ کلام سن کر پہلے سے بھی زیادہ مایوس ہو گئے امام - نے ان کا امتحان لیا ان دونوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ ان دونوں پر اعتماد نہیں رکھتے لہذا ان دونوں نے بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم عمرہ کرنے کے لئے مدینہ سے مکہ جائیں - امام - نے فرمایا عمرہ کی آڑ میں تمہارا ہدف کچھ اور ہے ان لوگوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ عمرہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔

امام - نے فرمایا: تم لوگ دھوکہ اور بیعت توڑنے کی فکر میں ہو، ان لوگوں نے پھر قسم کھائی اور دوبارہ امام - کی بیعت کی جب وہ دونوں امام - کے گھر سے نکلے تو امام نے حاضرین جلسہ سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں فتنہ کی وجہ سے قتل ہوں گے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا انہیں سفر پر جانے سے منع کر دیجئے امام نے کہا قسمت کا لکھا اور خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

ابن قتیبہ لکھتے ہیں:

دونوں علی کے گھر سے نکل کر قریش کے پاس آئے اور ان لوگوں سے کہا یہ ہم لوگوں کا اجر تھا جو علی نے ہمیں دیا ہے ہم نے عثمان کے خلاف قیام کیا اور اس کے قتل کا زمینہ فراہم کیا جب کہ علی اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور اب جب منصب خلافت پر بیٹھے گئے تو دوسروں کو ہم لوگوں پر ترجیح دے رہے ہیں۔

اگرچہ طلحہ و زبیر نے امام - کے گھر میں شدید قسمیں کھائی تھیں لیکن مدینہ سے نکلنے کے بعد مکہ کے راستے میں جس سے بھی ملاقات ہوئی حضرت علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کیا۔ (۱)

(۱) تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۶۳؛ الامامة و السياسة ج ۱ ص ۴۹؛ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۲۳۲۔ ۲۳۱۔

عائشہ کا مدینہ کے نیم راہ سے مکہ واپس جانا

اس کے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب عراقی اور مصری انقلابیوں کی طرف سے عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا تو عائشہ مدینہ سے حج کرنے مکہ چلی گئیں اور مکہ ہی میں تھیں کہ عثمان کے قتل ہونے کی خبر سنی لیکن اس بات کی خبر نہ ملی کہ عثمان کے قتل کے بعد خلافت کسے ملی، اسی وجہ سے ارادہ کیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کا سفر کریں۔ مکہ سے واپس آتے وقت "سرف" نامی مقام پر ایک شخص سے جس کا نام ام ابن کلاب تھا ملاقات ہوئی تو اس سے مدینہ کے حالات معلوم کئے اس نے کہا ۸۰ دن تک خلیفہ کا گھر محاصرہ میں تھا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا پھر لوگوں نے چند دن

کے بعد علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔

جب عائشہ نے سنا کہ مہاجرین و انصار دونوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو انہیں سخت تعجب ہوا اور کہا: اے کاش آسمان میرے سر پر گر جاتا، پھر انہوں نے حکم دیا کہ میری سواری کو مکہ کی طرف موڑ دو جب کہ عثمان کے متعلق انہوں نے اپنے نظریہ کو بدل دیا تھا انہوں نے کہا خدا کی قسم، عثمان مظلوم قتل کیا گیا ہے اور میناس کے قاتلوں سے ضرور انتقام لوں گی۔

خبر دینے والا شخص عائشہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ آپ وہ پہلی فرد تھیں جس نے لوگوں سے کہا تھا کہ عثمان کافر ہو گیا ہے اور اس کی شکل و صورت یہودی کی طرح ہے اسے ضرور قتل کر دیا جائے۔

اب کیا ہو گیا ہے کہ اپنے پہلے نظریہ کو بدل دیا؟ انہوں نے ایسا جواب دیا گویا کوئی تاریکی میں تیر رہا کریں، عثمان کے قاتلوں نے پہلے اس سے توبہ کرائی پھر اسے قتل کیا اور عثمان کے بارے میں سبھی نے کچھ نہ کچھ کہا اور ہم نے بھی کہا لیکن میرا یہ آخری کلام میرے پہلے کلام سے بہتر ہے۔

ابن کلاب نے عائشہ کے اس رویہ کو دیکھ کر اشعار کہے جن میں سے کچھ اشعار کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں:

"تم نے خلیفہ کے قتل کا حکم دیا اور پھر ہم سے کہا کہ وہ خدا کے دین سے خارج ہو گیا ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے اسے قتل کرنے میں تمہارے حکم کی پیروی کی ہے اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس کا قاتل وہ شخص ہے جس نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے (گویا قاتل خود عائشہ ہیں)۔"

عائشہ مسجد الحرام کے سامنے اپنی سواری سے اتریں اور حجر اسماعیل کے پاس گئیں اور وہاں ایک پردہ لٹکایا۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا کہ اے لوگو عثمان کو ناحق قتل کیا گیا ہے اور میں اس کے خون کا بدلہ لوں گی۔ (۱)

(۱) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۷۲۔

امام - کے مخالفوں کا مرکز

عثمان کے قتل اور امام - کی بیعت کے بعد مکہ کی سرزمین حضرت علی کے مخالفوں کا مرکز شمار ہونے لگی اور جو لوگ علی کے مخالف تھے وہ ان کے فیصلوں سے بہت خوفزدہ تھے خاص کر عثمان کے معین کردہ حاکم وغیرہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام ان لوگوں کو ان کے مقام سے معزول کر رہے ہیں اور جو ان لوگوں نے خیانتیں کی ہیں ان کی وجہ سے انہیں اپنی عدالت میں طلب کر رہے ہیں۔ سب کے سب حرم کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے مکہ میں پناہ لئے ہوئے تھے اور جنگ جمل کا نقشہ تیار کرنے میں مشغول ہو گئے تھے۔

جنگ جمل کے اخراجات

جنگ جمل کے خرچ کو عثمان کے حاکمون نے دیا تھا جسے انہوں نے عثمان کی حکومت کے زمانے میں بیت المال کو غارت کر کے بہت زیادہ مال و ثروت جمع کر لیا تھا اور ان لوگوں کا ہدف یہ تھا کہ علی کی تازہ اور جوان حکومت کو سرنگون کر دیں تاکہ پھر گذشتہ کی طرح حالات پیدا ہو جائیں۔

جن لوگوں نے جنگ جمل کے سنگین خرچ کو برداشت کیا تھا ان میں سے کچھ لوگوں کے نام یہ ہیں:

۱: عبد اللہ بن ابی ربیعہ، صنعا (يمن کے ایک شہر کا نام) کا حاکم جو عثمان کی طرف سے منصوب تھا، وہ صنعا سے عثمان کی مدد کرنے کے لئے نکلا اور جب آدھے راستے میں اسے عثمان کے قتل کی خبر ملی تو وہ مکہ چلا گیا اور جب اس نے سنا کہ عائشہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں تو مسجد میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہا جو شخص بھی عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اس جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہے میں اس کے خرچ کو برداشت کروں گا اس طرح اس نے بہت زیادہ لوگوں کو جنگ میں جانے کے لئے جمع کر لیا۔

۲: یعلیٰ بن امیہ، عثمان کی فوج کا ایک سردار، اس نے عبداللہ کی پیروی کرتے ہوئے اس راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کیا اس نے چھ سو اونٹ خریدے (۱) اور مکہ کے باہر جنگ پر جانے کے لئے آمادہ کیے اور ایک گروہ کو اس پر سوار کیا



اور دس ہزار دینار ان لوگوں کو دیئے۔

جب امام - یعلیٰ کے اس خرچ و بخشش سے آگاہ ہوئے تو فرمایا: امیہ کے بیٹے کے پاس دس ہزار دینار کہاں سے آئے؟ سوائے اس کے کہ اس نے بیت المال سے چوری کیا ہو؟ خدا کی قسم اگر وہ اور ابی ربیعہ کا بیٹا مجھے مل جائے تو اس کی ساری دولت جمع کر کے بیت المال میں واپس ڈال دوں گا۔ (۲)

۳: عبد اللہ بن عامر، بصرہ کا حاکم، بہت زیادہ مال و دولت لے کر بصرہ سے مکہ بھاگ گیا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے بصرہ پر قبضہ کرنے کا نقشہ تیار کیا تھا اور طلحہ و زبیر اور عائشہ کو اس شہر پر قبضہ کرنے کی ترغیب دلائی

(۱) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۶۶۔

(۲) الجمل ص ۱۲۴-۱۲۳؛ بناء بر نقل ابن قتیبہ (خلفاء ص ۵۶) اس نے ۶۰ ہزار دینار زبیر اور ۴۰ ہزار دینار طلحہ کو دیا تھا۔

تھی۔ (۱)

مکہ میں عثمان کے بھاگے ہوئے تمام گورنر ایک جگہ جمع ہو گئے اور عبد اللہ بن عمر اور اس کا بھائی عبید اللہ اور اسی طرح مروان بن حکم اور عثمان کے بیٹے اس کے غلام اور بنی امیہ کے کچھ گروہ بھی ان لوگوں سے ملحق ہو گئے۔ (۲) ان سب باتوں کے باوجود، اس گروہ کی دعوت پر (جب کہ انہیں سبھی پہچانتے تھے) مکہ اور مکہ کے راستوں میں سے کسی نے بھی امام - کی مخالفت کا اظہار نہیں کیا۔ اس وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو گئے کہ اس فوج کے ساتھ جو عثمان کے دور حکومت کے معزول گورنروں اور بنی امیہ کے خرچ پر بنائی گئی تھی، ایک معنوی سہارا بھی ہو، لہذا یہی وجہ ہے کہ وہ اعرابی جو اس راستے میں زندگی بسر کر رہے تھے ان کے دینی احساسات کو برانگیختہ کرنے کے لئے عائشہ اور حفصہ کو دعوت دی تاکہ اس گروہ کی معنوی رہبری کی ذمہ داری لیں اور لوگوں کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔

یہ بات صحیح ہے کہ عائشہ نے مکہ میں قدم رکھتے ہی علی علیہ السلام کے خلاف آواز بلند کی تھی لیکن ہرگز اپنے نظریہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کوئی نقشہ تیار نہیں کیا تھا۔ اور ہرگز ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ فوج کی رہبری کریں گی اور بصرہ جائینگا، لہذا جب زبیر نے اپنے بیٹے عبد اللہ کو (جو عائشہ کا بھانجا تھا) عائشہ کے گھر بھیجا تاکہ عائشہ کو جنگ کے لئے اور بصرہ جانے کے لئے آمادہ کرے تو انہوں نے عبد اللہ کا جواب دیتے ہوئے کہا: میں نے ہرگز لوگوں کو جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا میں مکہ صرف اس لئے آئی تھی کہ لوگوں کو یہ اطلاع دوں کہ ان لوگوں کا امام کس طرح مارا گیا ہے اور ایک گروہ نے خلیفہ سے توبہ کرا یا پھر اسے قتل کر دیا تاکہ لوگ اس کے خلاف قیام کریں ان لوگوں نے خلیفہ پر حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا اور بغیر کسی رائے مشورے کے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ عبد اللہ نے کہا: اس وقت جب تمہارا نظریہ علی اور عثمان کے قاتلوں کے بارے میں یہ ہے تو پھر کیوں علی کی مخالفت میں مدد اور کمک کرنے کے

(۱) الجمل ص ۱۲۱۔

(۲) الامامة والسياسة، ج ۱، ص ۵۵؛ تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۶۶۔

لئے یہاں بیٹھی ہو؟ جب کہ مسلمانوں کے بعض گروہوں نے علی کی مخالفت میں جنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے عائشہ نے جواب دیا: تھوڑی دیر صبر کرو تاکہ میں اس مسئلے میں تھوڑا سا غور و فکر کروں۔ عبد اللہ نے ان کی باتوں سے اس کی رضایت کا احساس کیا۔ لہذا جب اپنے گھر واپس آیا تو زبیر اور طلحہ سے کہا کہ ام المومنین نے ہماری درخواست کو قبول کر لیا ہے اور اپنی بات کو مستحکم کرنے کے لئے دوسرے دن پھر عائشہ کے پاس گیا اور انہیں مکمل اور قطعی طور پر راضی کر کے واپس آگیا اور اس بات کے اعلان کے لئے ایک منادی سے مسجد اور بازار میں طلحہ و زبیر کے ساتھ عائشہ کی روانگی کا اعلان کرا دیا۔ اور اس طرح سے علی کی مخالفت میں قیام اور بصرہ پر قبضہ کرنے کا خیال قطعی اور یقینی ہو گیا۔ (۱)

طبری نے مکہ سے خارج ہونے والوں کی ندا کی عبارت کو اس طرح نقل کیا ہے:

"خبر دار ہو جاؤ کہ ام المومنین (عائشہ) اور طلحہ و زبیر بصرہ کے لئے روانہ ہو رہے ہیں جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اسلام کو عزیز رکھے اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھا ہے جنگ کرے، اور وہ شخص

جو یہ چاہتا ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے وہ اس گروہ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے۔ اور جس شخص کے پاس سواری اور سفر کے اخراجات نہینہینتو ان کی سواری اور سفر کا خرچ ہمارے پاس ہے"۔ (۲)

سیاست کے کھلاڑی دینی الفت و عطوفت کو برانگیختہ کرنے کے لئے پیغمبر کی دوسری بیوی حفصہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا: ہم عائشہ کے پیرو ہیں۔ جب وہ سفر کے لئے آمادہ ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن جب وہ جانے کے لئے تیار ہوئیں تو ان کے بھائی عبد اللہ نے انہیں روک دیا اور حفصہ نے عائشہ کے پاس پیغام بھیجا کہ، میرے بھائی نے تمہارے ساتھ جانے سے مجھے روک دیا ہے۔

(۱) الجمل، ص ۱۲۳۔  
(۲) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۶۷۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

#### ساتویں فصل

ناکثین کی گرفتاری کے لئے امام۔ کا خاکہ

امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی حکومت کے ابتدائی دور میں سب سے پہلے جس کام کو انجام دیا وہ یہ تھا کہ اسلامی معاشرے کو ایسے خود غرض حاکموں سے پاک کر دیں جو مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر سمجھ بیٹھے ہیں بیت المال کے اہم حصہ کو خزانہ کے طور پر اپنے پاس ذخیرہ کر لیا ہے اور دوسرے حصہ کو اپنے شخصی امور میں خرچ کرتے ہیں اور ہر شخص اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں خود مختار و آزاد حاکم بنا بیٹھا ہے اور غارتگری کرتا ہے ان میں سب کا سردار ابوسفیان کا بیٹا معاویہ ہے جو خلیفہ دوم کے زمانے سے اس بہانہ سے کہ وہ قیصر کا پڑوسی ہے قیصری محلوں میں ناز و نعمت میں غرق تھا اور جو بھی اس کے خلاف کچھ کہتا اسے فوراً جلا وطن یا ختم کر دیا جاتا تھا۔ جب شام کے خود غرض حاکم کی سرکشی کی خبر امام۔ کو ملی تو آپ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ چاہا کہ معاویہ کی سرکشی کا پوری طرح سے جواب دیں، ابھی اسی فکر میں تھے کہ اچانک حارث بن عبد المطلب کی بیٹی ام الفضل کا خط ایک معتبر قاصد کے ہمراہ امام۔ کے پاس پہنچا اور امام۔ کو خبر دی کہ طلحہ و زبیر نے آپ کی بیعت توڑ دی اور وہ لوگ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ (۱)

خط ملنے کے بعد امام۔ کا ارادہ بدل گیا اور یہ خط سبب بنا کہ امام۔ جس گروہ کو لیکر شام جانا چاہتے تھے اسے بصرہ لے جائیں تاکہ عہد و پیمان توڑنے والوں کو درمیان راہ ہی گرفتار کر لیں اور فتنہ کو جڑ سے ختم کر دیں، اس وجہ سے عباس کے ایک بیٹے "تمام" کو مدینہ کا حاکم اور دوسرے بیٹے "قثم" کو مکہ کا حاکم معین کیا۔ (۲) اور سات سو آدمیوں (۳) فداکاروں کو مدینہ سے بصرہ کی طرف روانہ کیا جب "ربذہ" پہنچے تو معلوم ہوا کہ عہد و پیمان توڑنے والوں نے پہلے ہی اپنی گرفتاری کا احتمال پیش کیا تھا اور پہچان کے لہذا کچھ

(۱) تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۶۷، طبع مصر۔  
(۲) تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۶۹، طبع مصر۔  
(۳) الامامة والسياسة، ص ۵۱، بناء بر نقل طبری، ج ۵، ص ۱۶۹ ان کی تعداد ۹ سو افراد پر مشتمل تھی۔

راستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان راستوں سے بصرہ کی طرف چلے گئے۔ (۱)

اگر امام۔ کو ان لوگوں کے بصرہ جانے کی خبر پہلے ملی ہوتی تو درمیان راہ سے ہی انہیں گرفتار کر لیتے اور ان کو گرفتار کرنا بہت آسان تھا اور پھر ان سے مقابلے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ زبیر کا اتحاد طلحہ کے ساتھ ظاہری اتحاد تھا ان میں سے ہر ایک کی آرزو یہی تھی کہ حکومت خود سنبھالے، اور دوسرے کو اس سے بے دخل کر دے ان دونوں کے

اندر اس قدر نفاق تھا کہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت دونوں کے درمیان اختلاف ظاہر ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ بصرہ جاتے وقت نماز کی امامت کے لئے دونوں میں اختلاف ہوا اور دونوں یہی چاہتے تھے کہ امامت کی ذمہ داری خود اس کے ذمے ہو اور راسی اختلاف کی وجہ سے عائشہ کے حکم سے دونوں جماعت کی امامت سے محروم ہو گئے اور امامت کی ذمہ داری زبیر کے بیٹے عبداللہ کو مل گئی۔ معاذ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ دونوں علی پر کامیابی حاصل کر لیتے تو خلافت کے مسئلے میں کبھی بھی متحد نہ ہینہوتے۔ (۲)

امام - کے بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ طلحہ و زبیر کا پیچھا نہ کریں لیکن امام - نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ علی علیہ السلام نے اس وقت ایک خطبہ دیا جسے ہم یہاں نقل کر رہے ہیں:

"وَاللَّهِ لَا أَكُونُ كَالصَّبْعِ تَنَامَ عَلَى طُولِ اللَّدْمِ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا وَ يَخْتَلِبُهَا رَاصِدُهَا. وَ لَكِنِّي أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبِرِ عَنْهُ وَ بِالسَّمْعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِي الْمُرِيْبِ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَ عَلِيَّ يَوْمِي" (۳)

خدا کی قسم، اب میناس بجو کی طرح (خاموش) نہ بیٹھوں گا جو مسلسل تھپتھپایا جاتا ہے کہ وہ سو جائے تاکہ اس کا طلب گار پہنچ جائے اور دھوکہ دیکر اچانک اس پر قابو پالے، بلکہ میں حق کی طرف بڑھنے والوں اور میری آواز سن کر اطاعت کرنے والوں کو ساتھ لیکر حق سے پیٹھ پھیرنے والے نافرمانوں پر جو شک میں مبتلا ہیں ان پر ہمیشہ اپنی تلوار چلاتا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت کا دن آجائے۔

علی نے اپنے اس کلام سے اپنے پروگرام کا اعلان کر دیا اور سرکشوں باغیوں کے مقابلے میں خاموش نہ رہنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کی کامیابی کے لئے دوبارہ اپنی فوج بنانے کا سوچنے لگے۔

(۱) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۶۹۔

(۲) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۶۹۔

(۳) نہج البلاغہ، خطبہ ۶۔

فوج کو دوبارہ جمع کرنا

امام - کو جب ناکثین کے فرار ہونے کی خبر ملی تو آپ نے ارادہ کیا کہ بصرہ تک ان کا پیچھا کریں لیکن، جو گروہ امام کے ہمراہ تھا اس کی تعداد سات سو یا نو سو سے زیادہ نہ تھی اگرچہ اس میں اکثر ریذہ کے مہاجرین و انصار کے بہادر سپاہی تھے جس میں سے بعض نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی تھی لیکن یہ تعداد اس گروہ کے مقابلے کے لئے جو جنگ کرنے کے لئے آمادہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ اطراف کے قبائل کو بھی ملایا گیا تھا، بہت کم تھی، یہی وجہ تھی کہ امام - نے چاہا کہ اپنی فوج کو دوبارہ جمع کریں اور وہ قبائل جو اطراف میں رہتے تھے اور امام - کے مطیع و فرمانبردار تھے ان سے مدد لیں۔ اسی لئے عدی بن حاتم خود اپنے قبیلے (طی) گئے اور ان لوگوں کو پیمان شکنوں کی نافرمانی اور علی علیہ السلام کی روانگی کی خبر دی اور قبیلے کے سرداروں کی بزم میں یہ کہا:

"اے قبیلہ طی! تم لوگوں نے پیغمبر کے زمانے میں ان کے ساتھ جنگ کرنے سے پرہیز کیا اور خدا اور اس کے پیغمبر کی واقعہ "مرتدان" میں مدد کی، آگاہ ہو جاؤ کہ علی تمہارے پاس آئے والے ہیں، تم نے جاہلیت کے دور میں دنیا کے لئے جنگ کیا اور اب اسلام کے دور میں آخرت کے لئے جنگ کرو، اگر دنیا چاہتے ہو تو خدا کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہے، میں تم لوگوں کو دنیا و آخرت کی دعوت دیتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں علی علیہ السلام اور اسلام کے بزرگ مجاہدین، مہاجر و انصار جنگ بدر میں شرکت کرنے والے اور شرکت نہ کرنے والے تمہاری طرف والے ہیں، تاخیر نہ کرو جلدی سے اٹھ جاؤ اور امام کے استقبال کے لئے جلدی دوڑ پڑو۔"

عدی کی تقریر نے لوگوں میں ایک عجیب شور و بجان پیدا کر دیا اور ہر طرف سے لیبیک لیبیک کی صدا بلند ہونے لگی اور سب نے امام - کی نصرت و مدد کرنے کے لئے اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا، جب امام - ان کے پاس پہنچنے تو ایک ضعیف شخص حضرت کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اس طرح سے آپ کو خوش آمدید کہا:

"مرحبا اے امیر المومنین! خدا کی قسم۔ اگر ہم آپ کی بیعت نہ بھی کرتے جب بھی آپ کو پیغمبر کا عزیز اور آپ کے روشن و منور ماضی کی وجہ سے آپ کی مدد کرتے، آپ جنگ کرنے کے لئے نکلیں اور قبیلہ طی کے تمام افراد آپ کے ہمراہ ہیں اور ان میں سے کوئی بھی شخص آپ کی فوج میں شامل ہونے سے دریغ نہیں کرے گا۔"

عدی کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قبیلہ طی کے افراد امام - کی فوج سے ملحق ہو گئے اور آپ کی فوج نے دوبارہ ایک بڑے لشکر کی شکل اختیار کر لی۔

قبیلہ طی کے نزدیک ہی قبیلہ بنی اسد رہ رہا تھا اس قبیلہ کا ایک سردار جس کا نام "زفر" تھا اور مدینہ میں امام - کا ملازم تھا اس نے امام - سے اجازت لی تاکہ وہ بھی اپنے قبیلے میں جائے اور لوگوں کو امام علیہ السلام کی نصرت کے لئے آمادہ کرے، اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے گفتگو کی اور کامیاب ہو گیا اور ایک گروہ کو امام - کی نصرت کے لئے تیار کر لیا اور اپنے ساتھ امام کے لشکر میں لایا، لیکن زفر کی محنتوں کا نتیجہ کامیابی کے اعتبار سے عدی کی طرح نہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عدی اپنے گھرانے اور اپنے باپ حاتم کے جود و سخاوت کی وجہ سے اپنی قوم میں بہت زیادہ مشہور اور محترم جانا جاتا تھا جب کہ زفر کی شخصیت ایسی نہ تھی، اس کے علاوہ قبیلہ طی کے لوگوں نے "حادثہ مرتدان" مینا اپنے محکم عقیدے اور اسلامی طور و طریقے کا خوب مظاہرہ کیا تھا۔ اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان میں سے ایک بھی آدمی مرتد نہ ہوا، جب کہ قبیلہ بنی اسد کے کافی لوگ مرتد ہو گئے تھے اور دوسری مرتبہ قبیلہ طی کی کوششوں سے وہ اسلام کی طرف واپس آئے تھے۔ (۱)

(۱) الامامة و السياسة، ص ۵۴۔۵۳.

بصرہ کے راستے میں ناکثین کی سرگذشت

طلحہ و زبیر پیغمبر (ص) کے صحابیوں میں سے تھے لیکن ان کی شخصیت و قدرت اتنی معروف نہ تھی کہ وہ تنہا مرکزی حکومت کے خلاف اقدام کرتے اور مکہ سے بصرہ تک سپاہیوں کی رہبری کرتے اگر رسول خدا کی بیوی (عائشہ) ان کے ہمراہ نہ ہوتیں اور اگر امویوں کی بہت زیادہ دولتیں ان کے پاس نہ ہوتیں تو مکہ ہی میں انکی سازشیں ناکام اور ان کے ارادے خاک میں مل جاتے۔

جی ہاں، وہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے مکہ سے بصرہ کے لئے روانہ ہوئے تھے کہ علی ہی ان کے قاتل ہیں یا قاتلوں کو رغبت دلائی تھی اور راستہ بھر "یالنارات عثمان" کا نعرہ لگا رہے تھے لیکن یہ نعرہ اتنا مضحکہ خیز تھا کہ خود عثمان کے قریبی ساتھی بھی سن کر ہنس رہے تھے ذیل کے دو واقعے اس بات پر شاہد و گواہ ہیں:

سعید بن عاص نے "ذات عرق" میں ناکثین کے قافلے جس کے سردار طلحہ و زبیر تھے سے ملاقات کیا۔ سعید جو خود بنی امیہ کی آل سے تھا مروان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ مروان نے جواب دیا: ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے جا رہے ہیں۔ سعید نے کہا: کیوں اتنی دور جا رہے ہو، کیونکہ عثمان کے قاتل وہی لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں (یعنی طلحہ و زبیر)۔ (۱)

ابن قتیبہ نے اس واقعہ کو اور بھی زیادہ واضح لفظوں میں لکھا ہے، وہ لکھتا ہے: جب طلحہ و زبیر اور عائشہ سرزمین "ابو طاس" پر خیبر کی طرف سے پہنچے، تو سعید بن عاص مغیرہ ابن شعبہ کے ساتھ کالے کمان کے ہمراہ عائشہ کے پاس گیا اور کہا: کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا: بصرہ۔

سعید نے کہا: وہاں کیا کریں گی؟

اس نے کہا: عثمان کے خون کا بدلہ لوں گی۔

سعید نے کہا: اے ام المومنین! عثمان کے قاتل آپکی رکاب مینہیں۔ پھر وہ مروان کے پاس گیا اور یہی گفتگو اس سے بھی کی اور کہا کہ عثمان کے قاتل یہی طلحہ اور زبیر ہیں جو اس کو قتل کر کے حکومت اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے ہیں اس لئے چاہتے ہیں کہ خون کو خون سے اور گناہ کو توبہ سے دھو ڈالیں۔

مغیرہ بن شعبہ، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کا داہنا بازو سمجھا جاتا تھا (جنگ جمل سے پہلے) ایک دن لوگوں کے مجمع میں گیا اور کہا: اے لوگو! اگر ام المومنین کے ہمراہ باہر نکلے ہو تو ان کے لئے نیک نتیجہ کی دعا کرو اور اگر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے نکلے ہو تو عثمان کے قاتل یہی تمہارے سردار ہیں۔ اور اگر علی پر تنقیدو اعتراض کے لئے نکلے ہو تو ان پر تم نے کیا اعتراض کیا ہے تم لوگوں کو خدا کا واسطہ، تم لوگوں نے جو ایک سال سے دو فتنے (عثمان کا قتل اور علی کے ساتھ جنگ) پیدا کر رکھے ہیں ان سے پرہیز کرو۔ لیکن

سعیدو مغیرہ میں سے کسی کا کلام بھی ان پر مؤثر نہ ہوا، لہذا سعیدین کی طرف اور مغیرہ طائف کی طرف چلا گیا اور دونوں میں سے کسی نے بھی جنگ جمل اور صفین میں شرکت نہیں کی۔

(۱) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۴۷۲۔

تیز تیز قدم بڑھانا

طلحہ و زبیر نے امام - کی گرفتاری سے بچنے کے لئے مکہ اور بصرہ کے درمیان کے راستے کو بہت تیزی سے طے کرتے تھے اسی وجہ سے تیز رفتار اونٹ کی تلاش میں تھے تاکہ جتنی جلد ہو عائشہ کو بصرہ پہنچا دیں۔ درمیان راہ "قبیلہ عربینہ" کے ایک عرب کو دیکھا جو ایک تیز رفتار اونٹ (نر اونٹ) پر سوار ہے اس سے کہا کہ تم اپنا اونٹ بیچ دو اس نے اونٹ کی قیمت ایک ہزار درہم بتائی - خریدنے والے نے اعتراض کیا اور کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کہاں ایک اونٹ کی قیمت ایک ہزار درہم ہے؟ اونٹ کے مالک نے کہا: تم اس کے کمالات سے باخبر نہیں ہو کوئی بھی اونٹ تیز چلنے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا - خریدنے والے نے کہا: اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ کس کے لئے یہ اونٹ خرید رہے ہیں تو تم بغیر درہم لئے ہی اسے ہدیہ کر دو گے اس نے پوچھا: کس کے لئے خرید رہے ہو؟ اس نے کہا: ام المومنین عائشہ کے لئے۔ اونٹ کے مالک نے پیغمبر (ص) کے احترام میں بڑے ہی خلوص کے ساتھ اونٹ کو ہدیہ کر دیا اور اس کے بدلے میں کوئی چیز نہ لی۔

خریدار اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے اسے اس جگہ پر لایا جہاں پر عائشہ کا قافلہ تھا اور اس اونٹ کے بدلے میں اسے ایک مادہ اونٹ اور چار سو یا چھ سو درہم دیا اور اس سے درخواست کی کہ اس بیابانی راستے طے کرنے میں کچھ دور تک ہماری مدد کرے، اس نے ان کی درخواست کو قبول کیا۔

راہنما، جو اس سرزمین کے متعلق سب سے زیادہ معلومات رکھتا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم جس آبادی اور کنوئیں کے پاس سے گزرتے تھے عائشہ اس کا نام پوچھا کرتی تھیں یہاں تک کہ جب ہم سرزمین "حواب" سے گزرے تو کنوئیں کے بھونکنے کی آواز بلند ہوئی۔ ام المومنین نے عماری سے سر باہر نکالا اور پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا: یہ حوآب ہے عائشہ نے جیسے ہی میری زبان سے حوآب کا نام سنا چیخ پڑیں اور فوراً اونٹ کے بازو کو تھپتھا کر اسے بٹھا دیا اور کہا: خدا کی قسم، میں وہی عورت ہوں جو سرزمین حوآب سے گزر رہی ہے تو اور وہانکے کتے اس کے اونٹ پر بھونک رہے ہیں، اس جملے کو تین مرتبہ دہرایا اور چیخ کر کہا مجھے واپس لے چلو - عائشہ کے رکنے کی وجہ سے قافلہ بھی ٹھہر گیا اور اونٹ کو بٹھا دیا گیا، لوگ چلنے کے لئے اصرار کرتے رہے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور عائشہ دوسرے دن بھی وہیں ٹھہری رہیں، بالآخر ان کے بھانجے عبد اللہ بن زبیر نے آکر کہا، جتنی جلدی ہو یہاں سے چلنے کیونکہ علی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ ہم لوگ گرفتار ہو جائیں۔ (۱)

طبری نے تعصب اور واقعہ پر پردہ ڈالتے ہوئے اس واقعے کو دوسرے انداز سے لکھا ہے لیکن ابن قتیبہ جو اس سے پہلے گزرا ہے (وفات ۲۷۶ھ) اس نے لکھا ہے:

"جس وقت ام المومنین سر زمین حوآب کے نام سے باخبر ہوئیں تو طلحہ کے بیٹے سے کہا: میں واپس جانا چاہتی ہوں کیونکہ رسول خدا نے اپنی بیویوں کے درمیان جن میں بھی موجود تھی کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے ایک عورت سرزمین حوآب سے گزر رہی ہے اور وہاں کے کتے اس پر بھونک رہے ہیں" پھر میری طرف رخ کر کے کہا: حمیرا وہ عورت تم نہ ہونا" اس وقت طلحہ کے بیٹے نے دوبارہ چلنے کے لئے اصرار کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا ان کے بھانجے عبد اللہ ابن زبیر نے منافقانہ قسم کھائی کہ "اس سرزمین کا نام حوآب نہیں ہے اور ہم پہلی ہی رات حوآب سے گزر چکے ہیں اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ صحرا میں رہنے والے ایک گروہ کو لائے اور سب نے جھوٹی گواہی دی کہ یہ سرزمین حوآب نہیں ہے، اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی جھوٹی گواہی ہے پھر قافلہ بصرہ کی جانب چلنے لگا اور پھر بصرہ کے نزدیک اس شہر پر قبضہ کرنے کے لئے روک دیا گیا، عثمان بن حنیف علی کی طرف سے وہانکے حاکم تھے۔ (۲)

(۱) تاریخ طبری ج ۳ ص ۹۷۵  
(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۹، ص ۳۱۲۔

عہد و پیمان توڑنے والے بصرہ کے قریب:

جب ناکثین کا کاروان بصرہ کے قریب پہنچا تو قبیلہ تمیم کے ایک شخص نے عائشہ سے درخواست کی کہ بصرہ میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کے حاکم کو اپنے ہدف و مقصد سے آگاہ کر دیجئیے، اس وجہ سے عائشہ نے بصرہ کی اہم شخصیتوں کے نام خط لکھا اور خود "حفیر" نامی جگہ پر قیام کیا اور اپنے خط کے جواب کا انتظار کیا۔

ابن ابی الحدید، ابو مخنف سے نقل کرتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر نے بھی بصرہ کے حاکم عثمان بن حنیف کو خط لکھا اور ان سے درخواست کیا کہ دار الامارہ کو ان کے حوالے کر دیں۔ جب ان لوگوں کا خط عثمان بن حنیف کے پاس پہنچا تو انہوں نے احنف بن قیس کو بلایا اور اسے خط کے مضمون سے آگاہ کیا احنف نے بطور مشورہ کہا، ان لوگوں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اقدام کیا ہے جب کہ خود انہی لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے اور میری رائے تو یہی ہے کہ ان سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں۔ تم حاکم ہو اور لوگ تمہارے حکم کو مانیں گے لہذا اس سے پہلے کہ وہ لوگ تمہاری طرف بڑھیں تم خود ان کی طرف جاؤ۔ عثمان نے کہا: میرا بھی نظریہ یہی ہے لیکن مینامام۔ کے حکم کا منتظر ہوں۔

احنف کے جانے کے بعد حکیم بن جبلة عبدی آیا عثمان نے طلحہ و زبیر کا خط اس کے سامنے پڑھا اس نے بھی احنف ہی کی بات دہرائی اور کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان سے مقابلہ کرنے کے لئے جاؤں۔ اگر ان لوگوں نے امیر المومنین کی اطاعت کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایسا نہ کیا تو ان سے جنگ کریں گے۔ عثمان نے کہا: اگر ان سے مقابلہ کرنے کی بات ہے تو میں خود اس کام کے لئے سب سے زیادہ سزاوار ہوں۔ حکیم نے کہا: جتنی جلدی ہو اس کام کو کر ڈالیئے کیونکہ اگر ناکثین بصرہ میں داخل ہو گئے تو چونکہ ان کے ہمراہ پیغمبر کی بیوی ہیں، ان کی وجہ سے تمام لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کو اس مقام سے معزول کر دیں گے۔

انہی حالات میں امام۔ کا خط عثمان بن حنیف کے پاس پہنچا جس میں آپ نے طلحہ و زبیر کے عہد و پیمان توڑنے اور بصرہ کی طرف سفر کرنے کے متعلق لکھا تھا اور حکم دیا کہ ان لوگوں کو اپنے عہد و پیمان بجالانے کی دعوت دیں اگر ان لوگوں نے قبول کر لیا تو ان لوگوں سے اچھے برتاؤ کریں اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جنگ کے لئے آمادہ ہو جائیں کہ خدا دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے امام۔ نے خط "ریذہ" سے بھیجا تھا اور وہ خط حضرت کے حکم سے آپ کے منشی عبد اللہ نے لکھا تھا۔ (۱)

(۱) الامامة و السياسة، ج ۱، ص ۵۹۔

حاکم بصرہ نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور امام۔ کا خط ملنے کے بعد فوراً ہی بصرہ کی دو عظیم شخصیتوں، عمران بن حصین اور ابو الاسود دونلی (۱) کو بلایا اور ان لوگوں کو ذمہ داری سونپی کہ بصرہ سے باہر جائیں اور جس جگہ ناکثین نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں جا کر طلحہ و زبیر سے ملاقات کریں اور ان سے بصرہ میں لشکر لانے کی وجہ دریافت کریں، وہ لوگ فوراً ہی ناکثین کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے اور عائشہ، طلحہ اور زبیر سے ملاقات کی۔ عائشہ نے ان لوگوں کے جواب میں کہا کہ ایک گروہ نے مسلمانوں کے امام کو بغیر کسی غلطی کے قتل کر ڈالا اور محترم و ناحق خون بہا یا اور حرام مال کو برباد کر دیا اور محترم مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا میں یہاں اس لئے آئی ہوں تاکہ اس گروہ کے جرم کا پردہ فاش کروں اور لوگوں سے کہوں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ (۲)

(ایک قول کی بنا پر کہا کہ) میں یہاں اس لئے آئی ہوں تاکہ فوج اور سپاہیوں کو تیار کروں، اور ان کی مدد سے عثمان کے دشمنوں کو سزا دوں۔

یہ دونوں ام المومنین کے پاس سے اٹھے اور طلحہ و زبیر کے پاس گئے اور ان لوگوں سے کہا کس لئے آئے ہو؟ جواب دیا عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لئے۔ حاکم بصرہ کے لوگوں نے پوچھا کیا آپ لوگوں نے علی کی بیعت نہیں کی ہے؟

جواب دیا ہم لوگوں نے مالک اشتر کی تلوار کے خوف سے بیعت کی تھی اس کے بعد حاکم کے نمائندے حاکم کے پاس واپس آئے اور انھیں عہد و پیمانہ توڑنے والوں کے ہدف سے باخبر کیا۔  
امام - کے گورنر نے ارادہ کیا کہ لوگوں کی مدد سے دشمن کو بصرہ میں داخل ہونے سے روکیں، اس وجہ سے شہر اور اطراف میں اعلان کیا گیا کہ تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، حاکم بصرہ کے مقرر نے اپنے آپ کو اجنبی ظاہر کرتے ہوئے کوفہ کے قبیلہ "قیس" کا رہنے والا بتایا اور کہا:  
"اگر اس گروہ کا کہنا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے بصرہ آئیں ہیں تو وہ غلط بیانی سے کام

(۱) حضرت علی کے خاص شاگرد اور علم نحو کے موجد۔

(۲) تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۷۴۔

لے رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ حرم الہی (مکہ) میں تھے جہاں فضا میں رہنے والے پرندے بھی امن و امان میں رہتے ہیں اور اگر یہاں عثمان کے خون کا بدلہ لینے آئے ہیں تو عثمان کے قاتل بصرہ میں نہیں ہیں کہ ان سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ اے لوگو! ہم پر واجب ہے کہ ان کے مقابلے کے لئے اقدام کریں اور وہ لوگ جہاں سے آئے ہیں انہیں وہیں واپس کر دیں۔ اسی دوران اسود نام کے ایک شخص نے اٹھ کر کہا وہ لوگ ہمیں عثمان کا قاتل نہیں سمجھتے بلکہ وہ لوگ یہاں اس لئے آئے ہیں کہ ہم سے مدد طلب کریں اور عثمان کے خون کا بدلہ لیں۔ اگرچہ اسود کی بات کی اکثر لوگوں نے مخالفت کی مگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ بصرہ میں بھی طلحہ وزبیر کے حامی اور چاہنے والے موجود ہیں۔  
ناکثین کا قافلہ اپنے پڑائو سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا اور عثمان بن حنیف بھی اپنا لشکر لے کر چلے تاکہ انہیں بصرہ سے روک دیں اور "مرید" نامی جگہ پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ طلحہ و زبیر کے سپاہی دا بنی طرف اور عثمان بن حنیف اور ان کے ساتھی بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ طلحہ وزبیر نے عثمان کی مظلومیت اور اس کے فضائل بیان کئے اور لوگوں کو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے دعوت دیا ان کے چاہنے والوں نے ان کی تصدیق کی۔ لیکن عثمان بن حنیف کے ساتھی دونوں کی باتوں کو جھٹلانے کے لئے کھڑے ہوئے اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا، لیکن عثمان کے ساتھیوں کے درمیان ذرہ برابر بھی شکاف پیدا نہ ہوا۔

جب عائشہ نے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے تقریر مینکھا:

"لوگ ہمیشہ عثمان کے نمائندوں کی شکایت کرتے تھے اور تمام باتیں مجھ سے آکر کہتے تھے لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور اسے ایک متقی و پرہیزگار اور وفادار اور شکایت کرنے والوں کو دھوکہ باز اور جھوٹا پایا اور جب اعتراض کرنے والے طاقت ور ہو گئے تو ان کے گھر پر حملہ کر دیا اور حرمت کے مہینے مہینے گناہ ان کو قتل کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ جو کچھ تمہارے لئے شانستہ ہے اور تمہارے غیر کے لئے شانستہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ قاتلوں کو پکڑ لو اور ان پر خدا کا حکم جاری کرو (پھر اس آیت کو پڑھا:

﴿لَمْ تَرَىٰ لِيَ الدِّينِ وَتَوَّابًا نَّصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ لِي كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ (۱)

عائشہ کی تقریر نے حاکم بصرہ کے دوستوں کے درمیان شکاف پیدا کر دیا، ایک گروہ عائشہ کی باتوں کی تصدیق تو دوسرا گروہ ان کی باتوں کو جھٹلا رہا تھا خود عثمان بن حنیف کے لشکر نے ایک دوسرے پر اینٹ پتھر پھینکنے شروع کر دیئے اس کے بعد عائشہ "مرید" سے "دباغین" کی طرف چلی گئیں جب کہ عثمان کے ساتھی دو حصوں میں بٹ گئے اور بالآخر اس میں سے ایک گروہ ناکثین سے مل گیا۔

ناکثین کی باز پرس :

جس جگہ عائشہ نے قیام کیا تھا وہاں قبیلہ بنی سعد کے ایک شخص نے ان سے کہا "اے ام المومنین! قتل عثمان سے بڑھ کر اس ملعون اونٹ پر بیٹھ کر آپ کا گھر سے نکلنا ہے، خدا کی جانب سے آپ کے لئے حجاب اور احترام تھا مگر آپ نے اس کو چاک اور اپنا احترام کھو دیا، اگر آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں تو یہیں سے واپس چلی جائیے اور اگر مجبور کر کے آپ کو لایا گیا ہے تو اس سلسلے میں لوگوں سے مدد لیجئے۔

اسی قبیلہ کا ایک جوان طلحہ و زبیر کی طرف مخاطب ہوا اور کہا:

اے زبیر، تم تو پیغمبر کے حواریوں میں سے ہو اور اے طلحہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو آسیب (دکھ درد) سے بچایا تمہاری ماں (عائشہ) کو تمہارے ہمراہ دیکھ رہا ہوں کیا تم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو؟ انہوں نے جواب



دیا نہیں، اس نے کہا: اس وقت میں تم سے الگ ہو رہا ہوں پھر اس کے بعد چند اشعار کہے جس کا پہلا شعر یہ ہے:

صننتم حلائلکم و قد تم أمکم

بذا لعمرک قلة الانصاف

اپنی بیویوں کو پردہ میں چھپا رکھا ہے لیکن اپنی ماں (عائشہ) کو بازار میں لانے ہو تمہاری جان کی قسم یہ بے انصافی کی علامت ہے۔ (۲)

اس وقت حکیم بن جبلة عبدي نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاکم بصرہ کی مدد کرنے کے لئے اقدام کیا اور اس کے اور طلحہ و زبیر کی فوج کے درمیان زبردست جنگ ہوئی عائشہ نے دونوں گروہوں کو جدائی کا حکم دیا اور کہا کہ یہاں سے اٹھ کر قبرستان "بنی مازن" کی طرف چلے جائیں اور جب وہاں پہنچے تو رات کی تاریکی دونوں گروہوں کے درمیان حائل ہو گئی اور حاکم بھی شہر واپس آگئے۔  
عائشہ کے ساتھی "دار الرزق" نامی جگہ پر جمع ہوئے اور اپنے کو جنگ کے لئے آمادہ کیا دوسرے دن حکیم بن جبلة عبدي نے ان پر حملہ کر دیا، شدید جنگ ہوئی دونوں فوج کے درمیان، دونوں گروہ کے کچھ لوگ قتل اور زخمی ہوئے۔

(۱) سورة آل عمران، آیت ۲۳۔

(۲) تاریخ طبری ج ۳ ص ۸۲، الکامل بن اثیر، ج ۳ ص ۲۱۴-۲۱۳۔

دونوں گروہوں کے درمیان وقتی صلح

اس واقعہ کے مؤرخین نے یہاں تک متفقہ طور پر وہی لکھا ہے جسے ہم نے تحریر کیا ہے لیکن اصل گفتگو، بعد کے واقعہ سے متعلق ہے کہ کس طرح ان دو گروہوں نے جنگ روکی اور نتیجے کا انتظار کرنے لگے، یہاں پر طبری اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے جزری نے "کامل" میں اس واقعہ کو دو طریقے سے لکھا ہے لیکن دوسری صورت حقیقت سے زیادہ قریب لگتی ہے ہم دونوں صورتوں کو تحریر کر رہے ہیں۔

الف: طلحہ و زبیر کی بیعت کے بارے میں استفسار

طبری لکھتا ہے کہ دونوں گروہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مدینہ کے لوگوں کے پاس خط لکھا جائے اور طلحہ و زبیر کی حضرت علی کے ہاتھوں پر بیعت کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا جائے، اگر مدینہ کے لوگوں نے گواہی دی کہ طلحہ و زبیر کی بیعت آزادانہ اور اختیاری تھی تو لازم ہے کہ یہ دونوں افراد مدینہ واپس جائیں اور عثمان بن حنیف کے لئے مزاحمت ایجاد نہ کریں اور اگر ان لوگوں نے گواہی دی کہ ان دونوں نے خوف و ڈر اور مجبوری کی حالت میں بیعت کیا تھا تو اس صورت میں عثمان بصرہ کو چھوڑ دیں اور دار الامارہ اور بیت المال اور جو بھی چیزیں حکومت سے مربوط ہیں طلحہ و زبیر کے حوالے کر دیں۔

طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں اس صلح نامہ کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ کعب بن سور کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی اور وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جمعہ کے دن مسجد نبوی میں تمام اہل مدینہ کو اہل بصرہ کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا لیکن اسامہ کے علاوہ کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا اسامہ نے کہا: ان لوگوں کی بیعت اختیاری نہیں تھی بلکہ خوف و ڈر اور مجبوری کی وجہ سے تھی، اس وقت لوگ بہت سخت ناراض ہوئے اور چاہا کہ اسے قتل کر دیں اگر صہیب و محمد ابن مسلمہ وغیرہ اسے نہ بچاتے تو لوگ اسے قتل کر ڈالتے، کعب نے مسجد نبوی میں جو کچھ بھی دیکھا تھا بصرہ آکر لوگوں کو بتادیا یہ واقعہ سبب بنا کہ طلحہ و زبیر نے عثمان کے پاس پیغام بھیجا کہ دار الامارہ کو چھوڑ دیں کیوں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان دونوں کی بیعت شوق و رغبت کی بنیاد پر نہ تھی۔

اس واقعہ کی بنا پر صلح کا ہونا بہت بعید لگتا ہے، یہ واقعہ کی جہات سے حقیقت سے بعید معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ:

۱۔ اس کا نقل کرنے والا سیف بن عمر ہے اور محققین اسے صالح اور سچا نہیں سمجھتے، لیکن افسوس کہ تاریخ طبری میں (۱۱ ہجری سے ۳۶ ہجری تک کے واقعات) اسی کے نقل سے بھرے پڑے ہیں۔

۲۔ بصرہ سے مدینہ اور پھر مدینہ سے بصرہ واپس آنے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور ناکٹین جانتے تھے کہ امام - مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور ان کے تعاقب میں ہیں، اس بنا پر ہرگز عہد و پیمانہ توڑنے والوں کے لئے مصلحت نہ



تھی کہ ایسے حساس خطرے کے ماحول میں ایسی شرط قبول کریں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور شہر پر قبضہ کرنے اور حاکم بصرہ کو معزول کرنے سے باز آجائیں اور جواب کا انتظار کریں۔

۳۔ ایسے لوگ ایسی شرطوں کو قبول کرتے ہیں جو مطمئن ہوتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابی ان کی بیعت کو خوف و ڈر اور مجبوری کی بیعت قرار دیں گے۔ جب کہ ایسا اطمینان ان کے اندر موجود نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ قضیہ برعکس تھا، لہذا سیف بن عمر سے منقول طبری کی روایت کے مطابق صرف ایک آدمی نے وہ بھی امام کی بیعت سے منہ موڑنے والے نے ان دونوں کے لئے گواہی دی اور خود بقول سیف، دوسرے لوگ خاموش رہے۔

۴۔ سب سے اہم دلیل اس بات پر کہ ان کی بیعت مجبوری کی بنا پر نہ تھی یہ ہے کہ ایک گروہ مثلاً سعد و قاص، عبد اللہ بن عمر، اسامہ اور حسان وغیرہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا تھا اور تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی مگر کسی نے بھی ان پر اعتراض نہیں کیا لہذا اگر طلحہ و زبیر بھی بیعت نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی بیعت نہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتے، چنانچہ جب امام - اس واقعے سے آگاہ ہوئے تو زبیر کے بارے میں فرمایا:

"زبیر خیال کرتا ہے کہ اس نے ہاتھ پر بیعت کیا ہے لیکن دل سے بیعت کا مخالف تھا بہر حال اس نے اپنی بیعت کا خود اقرار کیا ہے لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دل میں مخالفت کو چھپائے ہوئے تھا تو ضروری ہے کہ وہ اپنے اس دعوے پر گواہ پیش کرے اور اگر گواہ نہ لائے تو اس کی بیعت باقی ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ مطیع و فرمانبردار رہے" (۱)

عہد و پیمانہ توڑنے والوں کے مارے جانے کے بعد امام - نے ان دونوں کے بارے میں اس طرح اظہار خیال کیا ہے:

"اللَّهُمَّ إِنِّي مَقْتَلٌ عَلَى ظُلْمَانِي وَ ظَلَمَانِي وَ نَكْتًا بِيَعْتِي وَ أَلْبَا النَّاسَ عَلَى فَاحِشَلِّ مَا عَقَدَا وَ لَا تَحْكُمْ لِهَمَا مَا أُبْرِمَا وَ أُرِيْمَا الْمَسَائِدَ فَيَمَّا أَمَلَا وَ عَمَلَا وَ لَقَدْ اسْتَنْبَيْتُهُمَا قَبْلَ الْقِتَالِ وَ اسْتَنْبَيْتُ بِهِمَا أَمَامَ الْوُقَاعِ فَعَمَطَا النِّعْمَةَ وَ وَرَدَا الْعَافِيَةَ" (۲)

خداوند! ان دونوں نے (جان بوجھ کر) مجھ سے قطع رحم کیا اور دونوں نے مجھ پر ظلم کیا اور میری بیعت توڑ دی اور لوگوں کو میرے خلاف اکسایا۔

خداوند! انہوں نے جو گریں لگائی ہیں انہیں کھول دے اور انہوں نے جو کیا ہے اسے مضبوط نہ ہونے دے اور ان کی امیدوں اور کرتوتوں کا برا نتیجہ دکھادے مینے جنگ چھڑنے سے پہلے ان سے بیعت پر استقلال چاہا اور انہیں موقع دیتا رہا لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور عافیت کو ٹھکرا دیا۔

ب: امام - سے مسئلہ کا حل دریافت کرنا

صلح کی دوسری صورت یہ لکھی ہے کہ عثمان بن حنیف نے ناکثین سے یہ کہا کہ میں امام - کے حکم کا پابند ہوں اور کسی بھی صورت میں ان کی باتوں کو قبول نہیں کروں گا مگر یہ کہ یہ لوگ امام - کو خط لکھیں اور ان سے مسئلہ کا حل دریافت کریں۔ (۳)

(۱) نہج البلاغہ عبدہ، خطبہ، ۸۔

(۲) نہج البلاغہ عبدہ خطبہ ۱۳۳۔

(۳) تاریخ طبری ج ۳ ص ۴۸۶؛ کامل ج، ص ۲۱۶؛ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۹ ص ۳۱۹؛ ابن الحدید نے صلح کی قرارداد بھی لکھا ہے۔

ابن قتیبہ اپنی کتاب "الامامة و السياسة" میں مزید لکھتا ہے کہ دونوں گروہوں نے آپس میں طے کیا کہ عثمان بن حنیف اپنے منصب پر باقی رہیں اور دار الامارہ اور بیت المال بھی انہی کے اختیار میں رہے اور طلحہ و زبیر جہاں بھی چاہیں رہیں یہاں تک کہ امام - کی طرف سے کوئی پیغام آجائے۔ اگر امام - سے توافق ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو ہر شخص آزاد ہے کہ جس راہ کو چاہے انتخاب کرے اس بات پر عہد و پیمانہ لیا گیا اور دونوں طرف سے کچھ لوگوں کو اس پر گواہ بنایا گیا۔ (۱)

قتیبہ کا اس طرح سے نقل کرنا صحیح لگتا ہے البتہ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ واقعاً ناکثین نے تہہ دل سے توافق کیا تھا بلکہ وہ لوگ ظاہری طور پر توافق کر کے دار الامارہ پر اسی رات حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتے تھے تاکہ بصرہ پر عثمان بن حنیف کی حکومت بصرہ کمزور ہو جائے۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ عائشہ نے زید بن صوحان کو خط لکھا اور اس خط میں اسے اپنا خاص بیٹا کہا اور درخواست کیا کہ ان کے لشکر سے ملحق ہو جائے یا کم از کم اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے اور علی کی مدد نہ کرے۔ زید نے ان کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا خدا کی رحمت ام المؤمنین کے شامل حال ہو انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھیں اور ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جہاد کریں انہوں نے اپنا فریضہ چھوڑ دیا ہے

اور ہم لوگوں کو اپنے فریضے (گھر میں بیٹھنے) کو انجام دینے کے لئے دعوت دیتی ہیں اور وہ چیز جو ہم لوگوں پر فرض تھی خود اس پر اقدام کیا ہے اور ہم لوگوں کو اپنے وظیفے پر عمل کرنے سے منع کر رہی ہیں۔  
ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں کہ ناکثین کے سردار آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اگر علی سپاہ لے کر یہاں پہنچ گئے تو ہم سب کا خاتمہ کر دیں گے، اسی وجہ سے اطراف کے قبیلوں کے سردار کے پاس خط لکھا اور بعض قبیلوں کی موافقت (مثلاً ازد، ضبہ اور قیس بن غیلان) حاصل کر لی لیکن بعض قبیلے امام - بی کے وفادار رہے۔ (۲)

(۱) الامامة و السياسة ج ۱ ص ۶۴۔  
(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۹ ص ۳۲۱۔ ۳۲۰۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

#### آٹھویں فصل

##### خونریز پوزش

ایسے حالات ہو گئے تھے کہ ناکثین کے سردار اپنے کو طاقتور سمجھنے لگے اور ابھی عثمان کے پاس خط بھیجے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک سردرات میں نماز عشاء کے وقت یا ایک قول کی بنا پر نماز صبح کے وقت مسجد اور دار الامارہ پر حملہ کر دیا اور مسجد و دار الامارہ اور زندان کے محافظوں کو قتل کر کے (کہ جن کی تعداد میں اختلاف ہے) شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا اور پھر لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کے لئے تمام سرداروں نے تقریریں کیں۔  
طلحہ نے مقتول خلیفہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا: خلیفہ نے گناہ کیا تھا مگر پھر توبہ کر لیا تھا ہم نے ابتداء میں چاہا تھا کہ ان کو سمجھائیں، لیکن ہمارے نادان لوگوں نے ہم پر غلبہ پیدا کر کے ان کو قتل کر دیا ابھی یہیں تک کہنے پائے تھے کہ لوگوں نے کہا: تم نے جو خطوط خلیفہ کے متعلق لکھے تھے اس کا مضمون اس کے برعکس تھا، تم نے تو ہم لوگوں کو ان کے خلاف اقدام کرنے کی دعوت دی تھی۔

اس وقت زبیر اٹھا اور اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا: میری طرف سے تو کوئی خط تم لوگوں تک نہیں پہنچا اس وقت قبیلہ "عبد القیس" کا ایک شخص کھڑا ہوا اور چاروں خلیفہ کی خلافت کی سرگذشت بیان کی اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام خلفاء کا انتخاب تم لوگوں یعنی مہاجرین و انصار نے کیا اور ہم لوگوں سے مشورہ تک نہیں لیا یہاں تک کہ تم لوگوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پھر بھی ہم لوگوں سے مشورہ نہیں لیا بات ہوئی کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو؟

کیا انہوں نے مال و دولت دبا لیا ہے کیا حق کے خلاف عمل کیا ہے؟ یا خلاف شرع قدم اٹھایا ہے؟ اگر یہ کچھ نہیں ہے تو یہ شور و ہنگامہ کیسا ہے؟

اس کی ٹھوس اور منطقی بات نے دنیا پرستوں کے غصے کو اور زیادہ کر دیا اور انہوں نے چاہا کہ اسے قتل کر دیں لیکن اس کے قبیلے والوں نے اسے بجالایا لیکن دوسرے دن حملہ کر کے اسے اور اس کے ستر ساتھیوں کو قتل کر دیا اور حکومتی امور کو یعنی نماز جماعت سے لے کر بیت المال تک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے مقصد میں کچھ حد تک کامیاب ہو گئے۔ (۱)

حاکم بصرہ کا انجام

حاکم بصرہ کا امام - کے بارے میں ثابت قدم رہنا ناکثین کے سخت غصہ کا سبب بنا، لہذا جیسے ہی عثمان کے پاس پہنچے تو انہیں مارا پیٹا اور ان کے سر اور داڑھی کے بال اکھیڑ ڈالے، پھر انکو قتل کرنے کے لئے مشورہ کرنے لگے اور آخر میں یہ طے کیا کہ انہیں رہا کر دیں، کیونکہ ان لوگوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان کا بھائی سہیل بن حنیف مدینہ میں سخت انتقام لے گا۔

عثمان بن حنیف مولائے کائنات سے ملنے کے لئے بصرہ سے روانہ ہوئے اور جب امام نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو مذاق میں کہا جب تم یہاں سے گئے تھے تو بوڑھے تھے اور اب ایک خوبصورت جوان کی طرح واپس ہوئے ہو عثمان نے تمام واقعات سے امام - کو باخبر کیا جو افراد اس خونریز یورش میں قتل ہوئے ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، طبری نے اپنی تاریخ اور جزری نے اپنی کتاب کامل میں مرنے والوں کی تعداد ۴۰ لکھی ہے لیکن ابن ابی الحدید نے ان کی تعداد ۷۰ اور ابو مخنف نے (اپنی کتاب جمل میں) ان کی تعداد ۴۰۰ تحریر کی ہے۔ (۲)

اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ناکثین کے گروہ نے اس گروہ پر جو مسجد، دارالامارہ اور قیدخانہ کے محافظ تھے، دھوکہ اور فریب سے حملہ کیا اور تمام لوگوں کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔

(۱) تاریخ طبری ج ۳ ص ۴۸۵؛ کامل ج ۳ ص ۲۱۷؛ الامامة والسياسة ج ۱ ص ۶۵۔  
(۲) شرح ابن ابی الحدید ج ۹ ص ۳۲۱۔

### حکیم بن جبلة کا اقدام

اسی دوران حکیم بن جبلة کو عثمان کے اس دردناک واقعہ اور دار الامارہ کے محافظوں کے دردناک قتل نے سخت رنجیدہ کر دیا۔ چنانچہ قبیلہ عبدالقیس کے تین سو افراد کے ساتھ ارادہ کیا کہ (طلحہ و زبیر کے لشکر سے) جنگ کرنا چاہا اسی وجہ سے انہوں نے چار گروہ اپنے تین بھائیوں کی ہمرابی اور ہر گروہ کے لئے ایک کمانڈر (سردار) معین کیا تاکہ ناکثین پر حملہ کریں۔ ناکثین نے حکیم سے مقابلہ کرنے کی تشویق دلانے کے لئے پہلی مرتبہ رسول خدا کی بیوی کو اونٹ پر بٹھایا اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف جذب کر لیا یہی وجہ ہے کہ حکیم کے قیام کرنے والے دن کو "جمل کے دن" سے تعبیر کیا ہے اور اس کی اہمیت کے لئے اس جمل کے پہلے مشہور دن کو چھوٹی صفت اور دوسرے جمل کے دن کو بڑی صفت سے منسوب کیا ہے۔

اس جنگ میں حکیم کے تمام تین سو سپاہی اور ان کے تینوں بھائی قتل ہو گئے اس طرح سرزمین بصرہ کی حکومت بغیر کسی اختلاف کے طلحہ و زبیر کے ہاتھوں میں آگئی، لیکن ان میں سے ہر ایک حکومت و حاکمیت چاہتا تھا نماز جماعت کی اقتدا کے سلسلے میں بہت سخت اختلاف ہو گیا کیونکہ اس وقت جس کی اقتدا میں نماز ہوتی لوگ اس کی حکومت تصور کرتے جب عائشہ کو ان دونوں کے اختلاف کی خبر ملی تو حکم دیا کہ دونوں اس مسئلہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور نماز کی امامت کی ذمہ داری طلحہ و زبیر کے بیٹوں کو سونپ دی۔ لہذا ایک دن عبداللہ بن زبیر اور دوسرے دن محمد بن طلحہ نماز کی امامت کرتے تھے۔

اور جب بیت المال کے دروازے کو کھولا گیا اور ان لوگوں کی نگاہیں مسلمانوں کی بے انتہا دولت پر پڑی تو زبیر نے اس آیت کی تلاوت کی:

"وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَكُمْ بِذِهِ"۔ (۱)

خداوند عالم نے بے شمار مال غنیمت کا تم سے وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کر رہے ہو اور اس مال و دولت کو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔

پھر کہتا ہے: بصرہ کے لوگوں سے زیادہ اس دولت کے ہم سزاوار اور حقدار ہیں اس وقت تمام مال کو ضبط کر لیا۔ اور جب امام - نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تو تمام مال کو "بیت المال" میں واپس کر دیا۔ (۲)

(۱) سورہ فتح، آیت ۲۰۔  
(۲) شرح نہج البلاغہ ج ۹ ص ۳۲۲؛ تاریخ طبری ج ۳ کامل، ج ۳

حضرت علی علیہ السلام کا اس حملہ سے باخبر ہونا

ربذہ کی سرزمین حادثات و واقعات کی آماجگاہ ہے، امام - کو اس علاقہ کے متعلق کافی معلومات تھی خصوصاً اس دن سے جب ربذہ پیغمبر اسلام کے اہم صحابیوں خصوصاً پیغمبر کے عظیم صحابی جناب ابوذر کو جلا وطن کر کے وہاں بھیجا گیا جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ تبعیض اور اسراف وغیرہ کے خلاف بولتے تھے کئی سال بعد خداوند عالم نے مولائے کائنات کو یہ موقع فراہم کیا کہ عہد و پیمان توڑنے والوں کو اس سرزمین پر گرفتار کریں۔ امام - اس سرزمین پر موجود تھے کہ عہد و پیمان توڑنے والوں کے خونی حملہ کی خیر ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ طلحہ و زبیر بصرہ شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور مسجد، دار الامارہ اور قیدخانہ کے محافظوں کو قتل کر دیا ہے اور سیکڑوں افراد کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور امام - کے نمائندے کو زخمی کرنے کے بعد ان کے سر اور داڑھی کے بال اکھاڑ ڈالا اور انہیں شہر سے باہر نکال دیا اور بے ہودہ خبریں پھیلا کر بصرہ کے قبیلوں سے بعض گروہ کو اپنی طرف جذب کر لیا ہے۔

اس سلسلے میں امام - کا نظریہ تھا کہ ناکٹین کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے کوفہ والوں سے مدد لی جائے، کیونکہ سرزمین عراق پر صرف آپ کا ایک علاقہ باقی تھا اور وہ شہر کوفہ اور اس کے اطراف کے قبیلے والے تھے لیکن اس راہ میں کوفہ کا حاکم ابو موسیٰ اشعری مانع تھا۔ کیونکہ ہر طرح کے قیام کو فتنہ کا نام دینا اور لوگوں کو امام - کی مدد کرنے سے روکتا تھا۔

مہاجرین و انصار کی بیعت سے پہلے ابو موسیٰ اشعری امام - کے ساتھ رہتے ہوئے کوفہ کا حاکم تھا اور جب امام - کی حکومت آئی تو مالک اشتر کے مشورے سے اسے اس کے منصب پر باقی رکھا، مالک اشتر کے نظریہ کے علاوہ ابو موسیٰ اشعری کا طریقہ و روش بیت المال میناسراف اور ناخوابشات کے مطابق خرچ کرنا تھا یہی وجہ تھی جس نے عثمان کے تمام حاکموں سے اسے الگ کر رکھا تھا۔

جی ہاں، امام - نے مناسب سمجھا کہ کچھ اہم شخصیتوں کو کوفہ روانہ کرینا اور اس سلسلے میں ابو موسیٰ اور کوفہ کے لوگوں کے پاس خط بھیجیں تاکہ اپنے لشکر کے افراد کے لئے زمینہ ہموار کرینا اور اگر ایسا نہ ہو تو حاکم کو معزول کر کے اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو معین کریں اس سلسلے میں امام - نے جو کارنامے انجام دیئے اس کی تفصیل یہ ہے:

#### ۱۔ محمد بن ابوبکر کو کوفہ بھیجنا

امام - نے محمد بن ابوبکر اور محمد بن جعفر کو خط دے کر کوفہ روانہ کیا تاکہ ایک عمومی مجمع میں کوفہ کے لوگوں سے امام - کی مدد کے لئے لوگوں کو آمادہ کریں، لیکن ابو موسیٰ کی ضد نے ان دونوں آدمیوں کی محنت کو بے نتیجہ کر دیا جس وقت لوگوں نے ابو موسیٰ کے پاس رجوع کیا تو اس نے کہا: "الْقَعْدُ سَبِيلُ الْآخِرَةِ وَالْخُرُوجُ سَبِيلُ الدُّنْيَا" (۱) یعنی گھر میں بیٹھنا راہ آخرت ہے اور قیام کرنا راہ دنیا ہے (جس کو تم چاہو انتخاب کر لو) اسی وجہ سے امام - کے نمائندے بغیر کسی نتیجہ کے کوفہ سے واپس آگئے اور "ذی قار" نامی جگہ پر امام - سے ملاقات کیا اور تمام حالات امام - سے بیان کئے۔

#### ۲۔ ابن عباس اور مالک اشتر کو کوفہ روانہ کرنا

امام - کی دوسرے امور کی طرح اس امر میں بھی یہی کوشش تھی کہ یہ سلسلہ رک نہ جائے اور اس سے زیادہ شدید اقدام نہ کرنا پڑے لہذا مصلحت دیکھی کہ ابو موسیٰ کو روانہ کرنے سے پہلے دو عظیم و مشہور شخصیتوں یعنی ابن عباس اور مالک اشتر کو کوفہ روانہ کریں تاکہ گفتگو کے ذریعے مشکل کا حل نکال لیں، مالک اشتر سے فرمایا کہ جس کام کو تم نے انجام دیا ہے اور اس کا نتیجہ غلط نکلا ہے ضروری ہے کہ اس کی اصلاح کرو اس کے بعد یہ دونوں کوفہ کے لئے روانہ ہو گئے اور ابو موسیٰ سے ملاقات اور گفتگو کی۔

اس مرتبہ ابو موسیٰ نے اپنی گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے ان لوگوں سے کہا:

"بِذِهِ فِتْنَةُ صَمَائِ، النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ وَ الْيَقْظَانُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ وَ الْقَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَ الْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الرَّكْبِ وَ الرَّكْبُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي" (۲)

یہ فتنہ ہے کہ سوتا ہوا انسان جاگتے ہوئے انسان سے بہتر ہے اور جاگنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہے اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑا ہونے والا سوار سے بہتر اور سوار ساعی (یعنی کوشش کرنے والے یا قوم کے سردار) سے بہتر ہے۔

پھر اس نے کہا: اپنی تلواروں کو میان میں رکھ لو۔

اس مرتبہ بھی امام - کے نمائندے بہت زیادہ تلاش و کوشش کے باوجود مایوس امام کے پاس لوٹ آئے اور ابو موسیٰ اشعری کی دشمنی اور بغض و حسد سے امام - کو باخبر کیا۔

(۱) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۳۹۳۔۹۶

(۲) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۹۶۔

۳۔ امام حسن - اور عمار یاسر کو کوفہ روانہ کرنا

اس مرتبہ امام - نے ارادہ کیا کہ اپنا پیغام بھیجنے کے لئے اس سے بھی زیادہ عظیم المرتبت شخصیتوں سے مدد لیں اور سب سے زیادہ شائستہ افراد اس کام کی انجام دہی کے لئے آپ کے عظیم المرتبت فرزند امام حسن مجتبیٰ - اور عمار یاسر تھے، پہلی شخصیت پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا (س) کے فرزند تھے جو ہمیشہ آپ کی محبت و عطاقت کے سائے میں رہتے تھے اور دوسری شخصیت اسلام قبول کرنے والوں میں سبقت کرنے والے کی تھی جس کی تعریف مسلمانوں نے رسول اسلام سے بہت زیادہ سنی تھی۔ یہ دونوں شخصیتیں امام - کا خط لے کر کوفہ میں وارد ہوئے سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ - نے لوگوں کے سامنے امام - کا خط پڑھ کر سنایا جس کا مضمون یہ تھا۔

یہ خط خدا کے بندے امیر المومنین علی کی طرف سے (اہل کوفہ کے نام) ہے۔

اہل کوفہ (۱) جو انصار کا چہرہ مہرہ اور عربوں کی سر بلندی کا سہرا ہیں۔ اما بعد: میں تمہیں عثمان کے معاملے (قتل) سے یوں آگاہ کرتا ہوں جیسے تم اس واقعہ کو سن ہی نہیں رہے ہو بلکہ دیکھ بھی رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ تمام لوگوں نے انہیں مورد الزام ٹھہرایا باوجود ان تمام حالات کے، مہاجرین میں فقط مینہی ایک واحد مرد تھا جس سے وہ سب سے زیادہ مطمئن اور خوش تھے اور فقط مجھ ہی پر ان کا عتاب سب سے کم تھا حالانکہ طلحہ و زبیر کا ان کی مخالفت میں یہ عالم تھا کہ ان دونوں کی ہلکی سی ہلکی چال بھی ان کے خلاف سر پٹ دوڑ کا حکم رکھتی تھی اور (اس دوڑ میں) ان دونوں کی دھیمی سے دھیمی آواز بھی بانگ درشت سے بازی لے گئی تھی۔ اس پر عائشہ کے غضب کے لاوے نے اچانک پھوٹ کر عثمان کے خلاف جلتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ اب کیا تھا (ایک دو تین نہیں) اچھی خاصی جمعیت ان کے خلاف تیار کر لی گئی چنانچہ اسی جمعیت نے عثمان کو قتل کر ڈالا اور تمام لوگوں نے کسی مجبوری و اکراہ سے نہیں، بلکہ رضا و رغبت اور پورے اختیار سے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا (یعنی بیعت کی)۔

(۱) امام - کے خط میں یہاں پر لفظ "جبهة الانصار" استعمال ہوا ہے اور جبہ کے معنی پیشانی اور گروہ کے بینا اور انصار سے مراد یاور و دوست ہیں نہ کہ مہاجر کے مقابلے میں لفظ انصار ہے، کیونکہ امام - کا مدینہ سے کوفہ ہجرت کرنے سے پہلے اس شہر کو "مرکز انصار" کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا۔

اے لوگو! دار الہجرت کے مکین و مکان ایک دوسرے کو دور پھینک رہے ہیں اور شہر (کا خون) یوں کھول رہا ہے جیسے دیگ جوش کھاتی ہے غرض فتنہ کی چکی کا پاٹ اپنی کیلی سے پیوست ہو چکا ہے (اور چکی چلنے کو تیار ہے) لہذا اپنے امیر کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے آؤ اور اپنے دشمن سے جہاد کے لئے آگے بڑھو"۔ (۱)

جب امام حسن -، امام کا خط لوگوں کو پڑھ کر سنا چکے تو اب امام - کے نمائندوں کی نوبت آئی کہ وہ گفتگو کریں اور لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کریں جس وقت امام حسن - نے تقریر شروع کی اس وقت سب کی نگاہیں ان کی طرف متوجہ تھیں اور تمام سننے والوں کے لبوں پر ان کے لئے دعائیں تھیں اور خدا سے دعا کر رہے تھے کہ ان کے ارادوں کو قائم کر دے، حضرت مجتبیٰ - نے نیزہ یا عصا پر تکیہ کرتے ہوئے اس طرح سے اپنی گفتگو شروع کی۔

"اے لوگو! ہم لوگ یہاں اس لئے آئیں کہ تم لوگوں کو قرآن مجید اور پیغمبر کی سنت اور سب سے زیادہ دانا اور صحیح فیصلہ کرنے والے، اور سب سے شائستہ فرد کی مسلمانوں سے بیعت لیں اور تم لوگوں کو ایسے شخص کی دعوت دیں جس پر قرآن نے اعتراض نہیں کیا ہے اور اس کی سنت کا انکار نہیں کیا اور ایمان میں جو شخص آپ (پیغمبر) سے دو نسبت رکھتا تھا (ایمان اور رشتہ داری) سب میں سبقت رکھتا تھا اور کبھی بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا جس دن لوگ انہیں اکیلا چھوڑ کر بہت دور چلے گئے تھے تو خدا نے اس کی مدد کو کافی جانا اور وہ پیغمبر اسلام (ص) کے ساتھ نماز پڑھتا تھا جب کہ دوسرے افراد مشرک تھے۔

اے لوگو! ایسی شخصیت تم سے مدد مانگ رہی ہے اور تمہیں حق کی طرف بلا رہی ہے اور اس کی آرزو ہے کہ تم اس کی پشتپناہی کرو اور وہ گروہ جس نے تم سے اپنے عہد و پیمانہ کو توڑ دیا ہے اور اس کے متقی و متدین ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے اور اس کے بیت المال کو برباد کر دیا ہے تم لوگ اس کے مقابلے میں قیام کرو۔ اٹھو اور بیدار ہو جاؤ کہ خدا کی رحمت تم پر سایہ فگن ہے تم لوگ اس کی طرف بڑھو اور اچھے کام کا حکم دو اور بری چیزوں سے لوگوں کو منع کرو اور جس چیز کو صالح افراد آمادہ کر رہے ہیں انہیں تم بھی آمادہ کرو۔

## (۱) نہج البلاغہ، نامہ ۱۔

ابن ابی الحدید نے مشہور و معروف مؤرخ ابو مخنف سے امام حسن - کی دو تقریریں نقل کی ہیں اور ہم نے صرف ایک کے ترجمہ پر ہی اکتفاء کیا ہے امام حسن مجتبیٰ - کی دو نون تقریریں امام علی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے لطف و محبت کی وضاحت کرتی ہیں جو کہ حیرت انگیز ہے۔ (۱)

جب امام حسن - کی تقریر ختم ہوئی اس وقت عمار یاسر اٹھے اور خدا کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر سلام و درود کے بعد لوگوں سے اس طرح مخاطب ہوئے:

اے لوگو! پیغمبر کا بھائی تمہیں خدا کے دین کی مدد کے لئے آواز دے رہا ہے تم پر لازم ہے کہ وہ امام جس نے کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ وہ ایسا دانشمند ہے جسے تعلیم کی ضرورت نہیں، اور ایسا بہادر جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور اسلام کی خدمت کرنے میں اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کرسکتا، اگر تم لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو تو پوری حقیقت سے تم لوگوں کو آگاہ کر دے گا۔

پیغمبر کے فرزند اور عظیم المرتبت صحابی کی تقریر و نونے لوگوں کے قلوب کو بیدار اور ان کے ذہنوں کو جلا بخش دی اور وہ کام جسے سادہ لوح حاکم نے روک کر رکھا تھا اس سے دور ہو گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تمام لوگوں کے اندر جوش و خروش پیدا ہو گیا، خصوصاً اس وقت جب زید بن صوحان نے عائشہ کا خط کوفیوں کو پڑھ کر سنایا اور سب کو حیرت میں ڈال دیا، اس نے زید کے لئے خط میں لکھا تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور علی کی مدد نہ کرو، زید نے خط پڑھنے کے بعد بلند آواز سے کہا: اے لوگو! ام المومنین کا فریضہ گھر میں بیٹھنا ہے اور میرا فریضہ میدان جنگ میں جہاد کرنا ہے اس وقت وہ ہمیں اپنے فریضے کی طرف بلا رہی ہیں اور خود ہمارے فریضے پر عمل کر رہی ہیں۔

ان تمام واقعات کی وجہ سے لوگوں نے امام - کے حق میں اپنے نظریے کو بدل دیا اور بہت سے گروہ نے امام - کی مدد کرنے کے لئے اپنی آمدگی کا اعلان کر دیا۔ اور تقریباً بارہ ہزار افراد اپنے گھر اور زندگی چھوڑ کر امام - کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔

ابو الطفیل کہتا ہے: امام - نے کوفہ کے اس گروہ کے پہنچنے سے پہلے مجھ سے کہا میرے چاہنے والے جو کوفہ سے میری طرف آرہے ہیں ان کی تعداد بارہ ہزار ایک آدمی پر مشتمل ہے جب یہ لوگ امام کے

## (۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۴۔ ۱۱؛ تاریخ طبری ج ۳ ص ۵۰۰۔ ۴۹۹۔

پاس پہنچ گئے تو ہم نے شمار کرنا شروع کیا تو کل تعداد بارہ ہزار ایک تھی، نہ ایک آدمی کم تھا نہ ایک آدمی زیادہ۔ (۱)

لیکن شیخ مفید نے ان سپاہیوں کی تعداد جو کوفہ سے امام کی طرف آئی تھی کل چھ ہزار چھ سو لکھا ہے اور مزید کہتے ہیں امام - نے ابن عباس سے کہا کہ دو دن میں (چھ ہزار چھ سو افراد) لوگ میری طرف آئیں گے اور طلحہ و زبیر کو قتل کر دیں گے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ہم نے سپاہیوں کو شمار کیا تو ان کی تعداد چھ ہزار چھ سو افراد پر مشتمل تھی۔ (۲)

ابوموسیٰ اشعری کی ناکام کوشش

ابوموسیٰ کوفہ کے حالات بدلنے کی وجہ سے بہت سخت ناراض ہوا اور عمار یاسر کو مخاطب کر کے کہا: "میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ بہت جلد ہی فتنہ برپا ہوگا جس میں بیٹھنے والے کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوں گے اور یہ دونوں سوار افراد سے بہتر ہوں گے اور خداوند عالم نے ہمارے خون اور مال کو ایک دوسرے پر حرام قرار دیا ہے۔"

عمار کے دل و دماغ میں ابو موسیٰ اشعری کے خلاف جو نفرت بھری تھی اس بنا پر کہا: ہاں، پیغمبر خدا نے تجھے مراد لیا ہے اور تیرے بارے میں کہا ہے اور تیرا بیٹھنا تیرے قیام سے بہتر ہے نہ کہ دوسرے افراد کا۔ (۳)

یہاں پر اس حدیث کے سلسلے میں تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔

اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ پیغمبر نے ایسی حدیث بیان فرمائی ہے لیکن یہ کیسے معلوم کہ پیغمبر کا مقصد جمل کا واقعہ ہے؟ کیا ایسے گروہ کا مقابلہ کرنا جس نے چار سو لوگوں کے سروں کو بکریوں کی طرح جدا کر دیا ہے ایسا فتنہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے!؟

پیغمبر کی وفات کے بعد بہت سارے واقعات رونما ہوئے، مثلاً سقیفہ سے عثمان کے قتل تک، ممکن ہے پیغمبر کی حدیث اس واقعے کے متعلق ہو!؟ اگر تاریخ کے اوراق کا جائزہ لیں اور ۱۱ھ سے ۳۵ھ تک کے واقعات کو نظر میں رکھیں تو معلوم ہوگا کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو بہت زیادہ افسوس کے لائق ہیں کیما مالک بن نویرہ کے تلخ واقعہ کو ایک معمولی واقعہ سمجھ سکتے ہیں؟ خلیفہ سوم کے زمانے کے حادثوں کو اور اسی طرح مومن و متدین افراد پر ظلم و ستم اور انہیں جلا وطن کرنا وغیرہ، کیا انہیں فراموش کیا جاسکتا ہے؟ اور کیوں یہ حدیث معاویہ اور مروان اور عبد الملک کے خلافت کے زمانے سے مخصوص نہ ہو؟

اس کے علاوہ، اسلام کے پاس ایسے اصول ہیں جنہیں کسی وقت بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور انہیں میں سے ایک اولی الامر کی اطاعت ہے۔ خلیفہ منصوص (اللہ کا منتخب کردہ) یا مہاجرین و انصار کی طرف سے منتخب خلیفہ کی اطاعت ایک اسلامی فریضہ ہے جس کی تمام لوگوں نے تائید کی ہے اور ابو موسیٰ اشعری نے بھی امام - کو "ولی امر" مانا ہے کیونکہ اس نے حضرت کے حکم کو قبول کیا ہے اور کوفہ کی حکومت پر حاکم کے طور پر باقی رہا ہے اور اس کے بعد جو بھی کام انجام دیتا تھا وہ علی کے والی و حاکم کے عنوان سے انجام دیتا تھا۔ ایسی صورت میں حدیث مجمل کو اس آیت کریمہ "اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم" کے مقابلے قرار نہیں دینا چاہئے اور نص قرآنی کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے۔

- (۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۴، ص ۱۴۰، ۱۱۰؛ تاریخ طبری ج ۳ ص ۵۰۰، ۴۹۹۔  
 (۲) جمل ص ۱۵۷۔  
 (۳) تاریخ طبری ج ۳ ص ۴۹۸۔

ابوموسیٰ اشعری کی معزولی

متعدد نمائندوں کو بھیجنے کے بعد اور تمام کوششوں کے بے اثر ہونے کی وجہ سے امام - کے لئے ضروری تھا کہ ابوموسیٰ اشعری کو اس کے منصب سے معزول کر دیں۔ امام - نے اس کے پہلے بھی کئی خط لکھ کر اس پر اپنی حجت تمام کر دی تھی، آپ نے اسے لکھا تھا کہ "میں نے ہاشم بن عبتہ کو روانہ کیا ہے کہ وہ تمہاری مدد سے مسلمانوں کو میری طرف روانہ کرے، لہذا تم اس کی مدد کرو اور میننے تمہیں اس منصب پر باقی رکھا کہ حق کے مددگار رہو۔

جب امام - خط بھیجنے اور عظیم شخصیتوں کو روانہ کرنے کے بعد حاکم کوفہ کی فکر و نظر بدلنے سے مایوس ہوئے تو امام حسن - کے ہمراہ ابوموسیٰ اشعری کو ایک خط بھی لکھا اور باقاعدہ طور پر اسے ولی عہدی سے معزول کر دیا اور قرظہ بن کعب کو اس کی جگہ منصوب کر دیا۔ امام کے خط کی عبارت یہ ہے: "فقد كنت أرى أن تعزب عن هذا الأمر الذي لم يجعل لك منه نصيباً سيمنعك من ردّ أمرى وقد بعثت الحسن بن عليّ و عمار بن ياسر يستنفران الناس وبعثت قرظة بن كعب والياً على المصرفا عتزل عملنا مذموماً مدحوراً "

"اسی میں مصلحت دیکھتا ہوں کہ تم اپنے منصب سے کنارہ کشی اختیار کر لو اس مقام کے لئے خداوند عالم نے تمہارا کوئی حصہ نہیں رکھا ہے اور خدا نے تمہاری مخالفت سے مجھے روک دیا ہے؟ میننے حسن بن علی اور عمار یاسر کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو ہماری مدد کے لئے آمادہ کریں اور قرظہ بن کعب کو والی شہر قرار دیا ہے تم ہمارے امور سے دور ہو جاؤ تم سب کی نگاہوں سے گر چکے ہو اور لعنت کے مستحق ہو۔"

امام - کے خط کے مضمون سے شہر کے سارے لوگ باخبر ہو گئے اور کچھ ہی دنوں بعد مالک اشتر نے کوفہ جانے کی درخواست کی اور امام - نے انہیں کوفہ روانہ کر دیا اور دار الامارہ کو اپنے قبضے میں لے کر نئے والی شہر کے حوالے



کردیا اور ابو موسیٰ کوفہ میں ایک رات رہنے کے بعد شہر سے چلا گیا۔ (۱)

(0) تاریخ طبری ج ۳ ص ۵۰۱۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### نویں فصل

امام - کی "ذی قار" سے بصرہ کی طرف روانگی

علی علیہ السلام ربذہ میں تھے کہ ناکثین کے خونی حملہ سے باخبر ہوئے اور ذی قار میں تھے جب آپ نے مخالفوں کو سزا دینے کا قطعی فیصلہ کیا۔

عظیم شخصیتوں مثلاً امام حسن مجتبیٰ - اور عمار یاسر کو کوفہ بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ کوفہ کے لوگوں میں ایک بیجانی کیفیت پیدا ہو گئی اور یہی سبب بنا کہ لوگ امام - کے لشکر میں شامل ہونے کے لئے ذی قار کی طرف دوڑ پڑے، لہذا علی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ منطقہ ذی قار سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

امام - نے پیغمبر کی طرح جنگ کرنے سے پہلے مخالفوں پر اپنی حجت کو تمام کر دیا اگرچہ حقیقت ان لوگوں پر واضح تھی یہی وجہ ہے کہ ناکثین کے سردار یعنی طلحہ و زبیر اور عائشہ کے پاس الگ الگ خط لکھا اور تینوں خط میں ان کے کارناموں کو لکھا اور دار الامارہ اور بصرہ کے محافظوں کے قتل کرنے پر سخت اعتراض کیا اور عثمان بن حنیف پر جو ظلم و ستم کیا تھا اس کی سخت مذمت کی۔ امام نے تینوں خط صعصعہ بن صوحان کے ہمراہ روانہ کیا وہ کہتے ہیں :

سب سے پہلے ہم نے طلحہ سے ملاقات کی اور امام - کا خط اسے دیا اس نے خط پڑھنے کے بعد کہا: کیا اس وقت جب علی کے خلاف جنگ کی پوری تیاری ہو چکی ہے اس سے منہ موڑ رہے ہیں اور نرمی دکھا رہے ہیں؟ پھر زبیر سے ملاقات کی تو اسے طلحہ سے کچھ نرم پایا - پھر عائشہ کو امام کا خط دیا لیکن دوسروں سے زیادہ انہیں فتنہ و فساد اور جنگ کرنے پر آمادہ پایا انہوں نے کہا: میننے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اقدام کیا ہے اور خدا کی قسم اس کام کو میں ضرور انجام دوں گی۔

صعصعہ کہتے ہیں: اس کے پہلے کہ امام - بصرہ میں داخل ہوتے ، میں ان کی خدمت میں پہنچ گیا امام - نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ میں نے کہا: میننے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپ سے جنگ کرنے کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے امام - نے فرمایا: و اللہ المستعان (۱)

جب علی علیہ السلام ناکثین کے سرداروں کے قطعی ارادے سے باخبر ہوئے تو آپ نے ابن عباس کو بلایا اور ان سے کہا: ان تینوں آدمیوں سے ملاقات کرو اور میری بیعت کی وجہ سے جو ان پر میرا حق ہے اس کے بارے میں احتجاج کرو۔ جب انہوں نے طلحہ سے ملاقات کیا اور امام - کی بیعت اسے یاد دلائی تو اس نے ابن عباس کا جواب دیا: میننے بیعت ایسے حالات میں کیا تھا کہ میرے سر پر تلوار تھی۔

ابن عباس نے کہا کہ میننے خود تمہیں دیکھا کہ تم نے مکمل آزادی کے ساتھ بیعت کی تھی اور اس پہ دلیل پیش کی کہ بیعت کے وقت، علی نے تم سے کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری بیعت کرو لیکن تم نے کہا نہیں میں آپ کی بیعت کروں گا۔ طلحہ نے کہا: صحیح ہے کہ یہ بات علی نے کہی تھی لیکن اس وقت تمام گروہوں نے بیعت کی تھی اور مخالفت کا امکان نہین تھا۔

پھر اس نے کہا: ہم عثمان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں اور اگر تمہارے چچازاد بھائی تمام مسلمانوں کے خون کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو عثمان کے قاتلوں کو ہمیں سونپ دیں اور خود بھی خلافت کو چھوڑ دیں تاکہ خلافت شوری کے اختیار میں آجائے اور شوری جسے چاہے منتخب کرے اگر ایسا نہ ہوا تو ان کے لئے ہماری تلوار ہدیہ ہے۔

ابن عباس نے موقع غنیمت جانا لہذا حقیقت کو اور واضح کرتے ہوئے کہا شاید اسی وجہ سے تونے عثمان کے گھر کا دس دن تک محاصرہ کیا اور ان کے گھر میں پانی پہنچانے سے منع کیا اور جس وقت کہ علی نے تم سے گفتگو کی کہ اجازت



دو کہ عثمان کے گھر پانی پہنچایا جائے تو تم نے ان کی موافقت نہ کی اور جب مصریوں نے اتنا زبردست پہرہ دیکھا تو اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور اسے قتل کر دیا اور اس وقت لوگوں نے اس شخص کے ہاتھوں پر بیعت کی جس کا ماضی تابناک، اس کے فضائل روشن، اور پیغمبر کا سب سے قریبی عزیز تھا اور تم نے اور زبیر نے بغیر کسی مجبوری اور دباؤ کے بیعت کی اور اس وقت اس بیعت کو توڑ دیا۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ تم خلفاء ثلاثہ کی خلافت کے دوران کتنے سکون و آرام سے تھے لیکن جب خلافت علی تک پہنچی تو اپنی اوقات سے باہر ہو گئے خدا کی قسم علی تم لوگوں سے کم نہیں ہیں اور جو تمہارا یہ کہنا ہے کہ علی ان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کریں تو تم اس کے قاتلوں کو اچھی طرح سے پہچانتے ہو اور تمہیں اس کی بھی خبر ہے کہ علی تلوار سے نہیں ڈرتے۔

## (۱) الجمل ص ۱۶۷۔

طلحہ ابن عباس کی منطقی گفتگو سن کر بہت شرمندہ ہوا اور خاموش ہو گیا اس کے بعد گفتگو کو ختم کرنے کے لئے کہا: ابن عباس اس لڑائی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔

ابن عباس کہتے ہیں: میں فوراً ہی علی کے پاس گیا اور اپنی گفتگو کا سارا نتیجہ بیان کیا، حضرت نے مجھے حکم دیا کہ عائشہ سے گفتگو کرو۔ اور ان سے کہو، فوج جمع کرنا عورتوں کی شان نہیں ہے اور تم ہرگز اس کام کے لئے مامور نہیں کی گئی ہو تم نے اس کام کے لئے قدم نکالا ہے اور دوسروں کے ساتھ بصرہ آگئی اور مسلمانوں کو قتل کر دیا اور کام کرنے والوں کو نکال دیا اور لوگوں کو راستہ دکھایا اور مسلمانوں کے خون کو مباح سمجھا جب کہ تم خود عثمان کی سب سے بڑی دشمن تھی۔

ابن عباس نے امام - کے پیغام کو عائشہ تک پہنچایا انہوں نے جواب دیا: تمہارے چچا زاد بھائی کا خیال ہے کہ تمام شہروں پر ان کا قبضہ ہے خدا کی قسم، اگر کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہے تو اس سے زیادہ چیزیں میرے اختیار میں ہیں۔ ابن عباس نے کہا: علی کے لئے فضیلت اور اسلام کے لئے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور انہوں نے اس راہ میں بہت زیادہ زحمات برداشت کی ہیں انہوں نے کہا: طلحہ نے بھی جنگ احد میں بہت زیادہ رنج و مصیبت برداشت کیا ہے۔ ابن عباس نے کہا: میرے خیال میں پیغمبر کے صحابیوں کے درمیان علی سے زیادہ کسی نے رنج و مصیبت برداشت نہیں کی ہے۔ اس وقت عائشہ نے انصاف کی بات کی اور کہا اس کے علاوہ علی کی دوسری بھی فضیلتیں ہیں۔ ابن عباس نے موقع غنیمت سمجھ کر فوراً کہا: تمہیں خدا کا واسطہ مسلمانوں کا خون بہانے سے پرہیز کرو انہوں نے جواب دیا: مسلمانوں کا خون اس وقت تک بہایا جائے گا جب تک علی اور ان کے ساتھی خود کو قتل نہیں کر لیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں عائشہ کی غیر منطقی باتیں سن کر مسکرایا اور رکھا علی کے ہمراہ صاحبان بصیرت لوگ ہیں جو اس راہ میں اپنے خون کو بہا دیں گے پھر ان کے پاس سے اٹھ کر واپس چلے آئے۔ ابن عباس کہتے ہیں:

علی نے مجھے حکم دیا کہ زبیر سے بھی گفتگو کروں اور رحتی الامکان اس سے تنہائی میں ملاقات کرونا اور اس کا بیٹا عبداللہ وہاں موجود نہ ہو۔ میں اس خیال سے کہ اس سے تنہائی میں ملاقات کروں دوبارہ اس کے پاس گیا لیکن اسے تنہا نہیں پایا تیسری مرتبہ اسے مینے تنہا دیکھا، اس نے اپنے غلام "سرحش" کو بلایا اور اس سے کہا کہ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دینا، میں نے گفتگو کا آغاز کیا، شروع میں اسے بہت غصے میں پایا لیکن دھیرے دھیرے اسے ٹھنڈا کر دیا جب اس کے خادم نے میری باتیں سنیں تو فوراً اس نے زبیر کے بیٹے کو خبر کر دی اور جیسے ہی وہ اس جلسہ میں وارد ہوا میں نے اپنی گفتگو قطع کر دی، زبیر کے بیٹے نے اپنے باپ کے اقدام کو عثمان کے خون کا بدلہ لینے اور ام المومنین کی موافقت سے صحیح ثابت کیا مینے اس کا جواب دیا خلیفہ کا خون تمہارے باپ کی گردن پر ہے یا تو اسے قتل کیا ہے یا اس کی مدد نہیں کی ہے اور ام المومنین کی موافقت اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہے اسے گھر کے باہر لائے جب کہ رسول اکرم نے ان سے کہا تھا عائشہ ممکن ہے ایک دن ایسا آئے کہ تم پر حواب کے کتے بھونکیں، بالآخر مینے زبیر سے کہا: خدا کی قسم، میں نے ہمیشہ تمہیں بنی ہاشم میں شمار کیا تم ابوطالب کی بہن صفیہ کے بیٹے اور علی کے پھوپھی زاد بھائی ہو، جب عبد اللہ بڑا ہو گیا تو اپنے رشتہ کو ختم کر دیا۔ (۱)

لیکن علی علیہ السلام کے کلام (نہج البلاغہ) سے استفادہ ہوتا ہے کہ وہ طلحہ کی طرف سے مکمل طور سے مایوس ہو چکے تھے اسی لئے ابن عباس کو حکم دیا کہ صرف زبیر سے ملاقات کر کے گفتگو کریں اور شاید یہ ابن عباس کو دوسری مرتبہ حکم دیا تھا۔ اس سلسلے میں امام - کا بلیغ کلام ملاحظہ کیجیے۔

"لا تلتقین طلحة فانك ان تلقه تجده كالثور عاقصاً قرنہ، یركب الصعب و یقول ہو الذلول! و لكن الق الزبیر فانه ألین عربكۃ فقل له یقول ابن خالک عرفنتی بالحجاز و انكرتتی بالعراق ، فما عدا مما بدأ؟" (۲)

طلحہ سے ملاقات نہ کرنا اگر اس سے ملو گے تو اسے ایک بیل (۳) کی طرح پاؤ گے جس کی سینگ ٹیڑھی ہے وہ سرکش سواری پر سوار ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ آرام سے ہے، البتہ زبیر سے ملاقات کرنا کہ وہ نرم مزاج ہے اور اس سے کہنا کہ تمہارے ماموں زاد بھائی نے کہا ہے کہ تم حجاز میں مجھے پہچانتے تھے اور عراق میں آکر بھول گئے حقیقت ظاہر ہونے کے بعد کس چیز نے اسے پھیر دیا؟

- (۱) الجمل، ص ۱۷۰ و ۱۶۷۔  
 (۲) نہج البلاغہ، خطبہ نمبر ۳۱۔  
 (۳) یعنی جس طرح بیل اپنی نوک دارسینگ سے ہر کسی کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح تم طلحہ کو فتنہ میں مبتلا پاؤ گے۔ رضوی۔

قعقاع بن عمرو کو روانہ کرنا

پیغمبر اسلام کے معروف و مشہور صحابی قعقاع بن عمرو کوفہ میں رہتے تھے اور اپنے قبیلے میں ایک اہم اور قابل احترام شخصیت کے مالک تھے، انہیں امام - کا حکم ملا کہ ناکثین کے سرداروں سے ملاقات کریں۔ ان کے اور ناکثین کے سرداروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے طبری نے اپنی تاریخ میناور جزری نے "کامل" میں نقل کیا ہے انہوں نے ایک خاص منطقی طریقے سے ناکثین کے بارے میں فکر کی تاکہ ان لوگوں کو امام - سے صلح کرنے کے لئے آمادہ کریں اور جب علی کی پاس واپس ہوئے اور اپنی گفتگو کا نتیجہ امام - سے بیان کیا تو امام - ان کے نرم رویہ پر بہت متعجب ہوئے۔ (۱) اس موقع پر بصرہ کے لوگوں کا ایک گروہ امام - کی خدمت میں پہنچا تاکہ آپ کے نظریہ اور ان کوفیوں کے نظریہ سے باخبر ہوں جو امام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ اور جب وہ لوگ بصرہ واپس چلے گئے تو امام - نے اپنے نمائندوں کے درمیان تقریر کی اور پھر اس منطقہ سے روانہ ہو گئے اور "زاویہ" نامی مقام پر قیام کیا۔ طلحہ و زبیر اور عائشہ بھی اپنی جگہ سے روانہ ہوئے اور اس علاقے میں آکر ٹھہرے، جہاں بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کا محل بنا اور امام - کے مقابلے ٹھہر گئے۔ دونوں لشکر بڑے ہی اطمینان سے تھا امام - نے کچھ لوگوں کو بھیجا تاکہ باغیوں کے مسئلہ کو گفتگو کے ذریعے حل کریں۔ یہاں تک کہ پیغام بھی بھیجا کہ جو وعدہ ان لوگوں نے قعقاع سے کیا ہے اگر اس پر باقی ہیں تو تبادلہ نظر کریں۔ لیکن حالات ایسے تھے کہ یہ مشکل سیاسی گفتگو سے حل نہیں ہوسکتی تھی اور اس فتنہ کو ختم کرنے کے لئے ضروری تھا کہ اسلحہ اٹھایا جائے۔

(۱) تاریخ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۲۲۹۔

دشمن کی فوج کم کرنے کے لئے امام - کی سیاست

احنف بن مالک اپنے قبیلہ کا سردار تھا اس کے علاوہ اپنے اطراف کے قبیلوں میں بھی اہم مقام رکھتا تھا جب عثمان کے گھر کا لوگوں نے محاصرہ کیا تھا اس وقت وہ مدینے میں تھا اور اس وقت اس نے طلحہ و زبیر سے پوچھا تھا کہ عثمان کے بعد کس کی بیعت کی جائے دونوں افراد نے امام - کی بیعت کے لئے کہا تھا، جس وقت احنف حج کے سفر سے واپس ہوا اور دیکھا کہ عثمان قتل کر دیئے گئے ہیں تو اس نے امام - کی بیعت کی۔ اور بصرہ واپس آگیا اور جب طلحہ و زبیر کے متعلق اسے یہ خبر ملی کہ انہوں نے اپنے عہد و پیمانہ کو توڑ دیا ہے تو بہت تعجب میں پڑ گیا اور جب عائشہ کی طرف سے اسے بلایا گیا کہ ان کی مدد کرے تو اس نے اس درخواست کو رد کر دیا اور کہا، میں نے ان دونوں کے کہنے سے علی کی بیعت کی ہے اور میں برگز پیغمبر کے چچا زاد بھائی کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا مگر ان سب سے دور

رہوں گا - اسی وجہ سے وہ امام - کی خدمت میں آیا اور کہا ہمارے قبیلے والے کہتے ہیں کہ اگر علی کامیاب ہو گئے تو ہمارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنالیں گے - امام - نے اس سے کہا: مجھ جیسے شخص سے ہرگز نہ ڈرو جب کہ یہ مسلمانوں کا گروہ ہے۔ احنف نے یہ جملہ سن کر امام - سے کہا ان دو کاموں میں سے ایک کام میرے لئے معین فرمائیں یا آپ کے ہمراہ رہ کر جنگ کروں یا دس ہزار تلوار چلانے والوں کے شر کو آپ سے دور کروں۔ امام - نے فرمایا: کتنا بہتر ہے کہ جو تم نے بے طرفی کا وعدہ کیا ہے اس پر عمل کرو۔ احنف نے اپنے قبیلے اور اطراف میں رہنے والے قبیلوں کو جنگ میں شرکت کرنے سے روک دیا اور جب علی کامیاب ہو گئے۔ تو تمام لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ کے ہمراہ ہو گئے۔

امام - کی طلحہ اور زبیر سے ملاقات

جمادی الثانی ۳۶ ھ مینامام - نے دو نون لشکر کے درمیان ناکثین کے سرداروں سے ملاقات کی اور دونوں لشکر والے اتنے نزدیک ہو گئے تھے کہ گھوڑوں کے کان ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ امام - نے سب سے پہلے طلحہ پھر زبیر سے گفتگو کی جس کی تفصیل یہ ہے:

امام - : تم نے اسلحہ اور پیدل اور سوار فوج کو اکٹھا کر لیا ہے اگر اس کام کے لئے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کی مخالفت سے پرہیز کرو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے دھاگوں کو خراب کر دیا ہے۔ کیامیں تمہارا بھائی نہ تھا اور تمہارے خون کو حرام قرار نہیں دیا تھا اور تم نے بھی میرے خون کو محترم نہیں سمجھا تھا؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اس وقت میرے خون کو حلال سمجھ رہے ہو؟

طلحہ: آپ نے لوگوں کو عثمان کے قتل کرنے پر اکسایا۔

امام -: اگر میں نے ایسا کام ہے تو خداوند عالم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا تک پہنچائے گا اور اس وقت لوگوں پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اے طلحہ! کیاتو عثمان کے خون کا بدلہ طلب کر رہا ہے؟ خدا عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرے، تم پیغمبر کی بیوی کو لائے ہو کہ اس کے زیر سایہ جنگ کرو جب کہ اپنی بیوی کو گھر میں بٹھا رکھا ہے کیا تم نے میری بیعت نہیں کی تھی؟

طلحہ: مینے آپ کی بیعت کی اس لئے کہ میرے سر پر تلوار تھی۔

پھر امام - زبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا۔ اس نافرمانی کی کیا وجہ ہے؟

زبیر: میں تمہیں اس کام کے لئے اپنے سے زیادہ بہتر نہیں سمجھتا۔

امام -: کیامیناس کام کے لئے سزاوار نہیں ہوں؟ (زبیر نے چھ افراد پر مشتمل شوری میں علی کو خلیفہ معین کرنے کے لئے رائے دی تھی) مینے تمہیں عبدالمطلب کی اولاد میں شمار کیا لیکن جب تیرا بیٹا عبد اللہ بڑا ہوا تو ہم لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی۔ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جس دن پیغمبر اسلام قبیلہ بنی غنم سے گزر رہے تھے رسول اسلام اور میں دونوں ہنس رہے تھے، تم نے پیغمبر سے کہا کہ علی مذاق کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں اور پیغمبر نے تم سے کہا: خدا کی قسم، اے زبیر تو اس کے ساتھ جنگ کرے گا اور اس وقت تم ستم کرنے والے ہو گے۔

زبیر: یہ بات صحیح ہے اگر یہ واقعہ میرے ذہن میں ہوتا تو اس طریقے سے پیش نہ آتا خدا کی قسم میں تم سے جنگ نہیں کروں گا۔

زبیر ، امام - کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا اور عائشہ کے پاس گیا اور پورا واقعہ بیان کیا مگر جب عبد اللہ اپنے باپ کے ارادے سے باخبر ہوا تو بہت زیادہ ناراض ہو کر کہنے لگا ان دو گروہ کو یہاں جمع کیا ہے اور اس وقت کہ ایک گروہ طاقتور ہوا ہے دوسرے والے گروہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خدا کی قسم! علی نے جو تلوار بلند کی ہے تم اس سے ڈر رہے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان تلواروں کو بہادر اٹھاتے ہیں۔

زبیر نے کہا: مینے قسم کھائی ہے کہ علی سے جنگ نہیں کروں گا اب میں کیا کروں؟

عبد اللہ نے کہا: اس کا حل کفارہ ہے، بہتر ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، اس بناء پر زبیر نے اپنے غلام "مکحول" کو آزاد کر دیا۔

یہ واقعہ زبیر کی سطحی ذہنیت پر دلالت کرتا ہے وہ پیغمبر اسلام کی حدیث کو یاد کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے کہ علی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا لیکن اپنے بیٹے کے غلط بہکانے پر پیغمبر کی حدیث کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنی قسم کو کفارہ دے کر بے اہمیت کر دیتا ہے۔

حالات سے معلوم ہو گیا ہے کہ جنگ کا ہونا یقینی ہے لہذا ناکثین نے ارادہ کیا کہ اپنی فوج کو مزید مضبوط اور منظم کریں۔ ایسے علاقوں میں جہاں لوگ قبیلانی نظام کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں وہاں کے سارے امور قبیلہ کے سردار کے

ہاتھ میں ہوتے ہیں اور اسے ہر شخص قبول کرتا ہے۔ بصرہ کے قبیلوں کے اطراف میں ایک شخصیت احنف نام کی بھی ہے، اگر وہ ناکثین کے گروہ میں مل جاتا تو اس کی فوج بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی اور چھ ہزار سے بھی زیادہ لوگ ناکثین کے زیر پرچم جمع ہو جاتے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا لیکن احنف نے اپنی ہوشیاری اور عقلمندی سے سمجھ لیا کہ ان کا ساتھ دینا خواہشات نفسانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس نے اپنی ذہانت سے سمجھ لیا کہ عثمان کا خون صرف ایک بہانہ ہے اور اصل حقیقت، حکومت حاصل کرنا ہے اور علی کو منصب سے دور کرنے اور خلافت پر قبضہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے امام - کے حکم کے مطابق اس نے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنے قبیلے اور اطراف کے قبیلے سے چھ ہزار آدمیوں کو ناکثین کے گروہ میں شامل ہونے سے بچا لیا۔

احنف کا ایسے وقت میں کنارہ کشی اختیار کرنا ناکثین کو بہت ناگوار گزرا، اس کے علاوہ ان کی امیدیں بصرہ کے قاضی، کعب بن سور پر تھیں لیکن جب اس کے پاس پیغام بھیجا تو اس نے بھی ناکثین کا ساتھ دینے سے پرہیز کیا اور جب لوگوں کو خبر ملی کہ اس نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے تو ارادہ کیا کہ اس سے ملاقات کریں اور روبرو اس سے گفتگو کریں لیکن اس نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اب ان کے پاس عائشہ سے توسل کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا تاکہ وہ اس سے ملنے جائیں۔

عائشہ خچر پر سوار ہوئیں اور بصرہ کے لوگوں کا ایک گروہ ان کی سواری کے اطراف میں چلنے لگا وہ قاضی کے گھر گئیں قاضی سب سے بڑا قبیلہ "ازد" کا سردار تھا اور یمنی لوگوں کی نگاہ میناس کا ایک خاص مقام تھا، عائشہ نے گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کی اور انہیں اجازت ملی، عائشہ نے اس کی معزولی کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب دیا۔ لازم نہیں ہے کہ میں اس فتنہ میں شریک رہوں، عائشہ نے کہا: میرے بیٹے اٹھو کیونکہ میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہی ہوں جسے تم نہیں دیکھ رہے ہو (ان کا مقصد یہ تھا کہ فرشتے مومنین یعنی ناکثین کی حمایت کیلئے آئے تھے!) پھر انہوں نے کہا میں خدا سے خوف محسوس کر رہی ہوں کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے اس طرح بصرہ کے قاضی کو ناکثین کا ساتھ دینے کے لئے راضی کر لیا۔

زبیر کے بیٹے کی تقریر اور امام حسن مجتبیٰ - کا جواب

زبیر کا بیٹا اپنی فوج کو منظم کرنے کے بعد تقریر کرنے لگا اور اس کی آواز امام - کے دوستوں کے درمیان پہنچی اس وقت امام حسن - نے خطبے کے ذریعے عبداللہ کی باتوں کا جواب دیا پھر ایک کہنے مشق شاعر نے امام حسن - کی شان میں قصیدہ پڑھا جس نے موجودہ لوگوں کے جذبات کو ابھار دیا امام مجتبیٰ - کا نوارنی کلام اور شاعر کا کلام ناکثین کے گروہ میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ پیغمبر اسلام کی بیٹی کے فرزند نے عثمان کے سلسلہ میں طلحہ کے کردار کو آشکار کر دیا یہی وجہ ہوئی کہ طلحہ تقریر کرنے کے لئے کھڑا ہوا اور وہ قبیلے جو حضرت علی کے پیرو تھے انہیں منافق کہا، طلحہ کی تقریر ان لوگوں کے رشتہ داروں پر جو کہ طلحہ کی فوج میں تھے بہت گراں گزری، اچانک ایک شخص نے اٹھ کر کہا: اے طلحہ تم مضر، ربیعہ اور یمن کے قبیلے والوں کو گالی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم، ہم لوگ ان سے اور وہ لوگ ہم سے ہیں زبیر کے پاس موجود لوگوں نے چاہا کہ اسے گرفتار کریں لیکن قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے منع کیا مگر بات یہیں پر ختم نہ ہوئی بلکہ ایک دوسرا شخص اسود بن عوف کھڑا ہوا اور اس نے بھی پہلے والے شخص کی بات کو دہرایا۔ یہ تمام باتیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ طلحہ جنگجو تھا لیکن ایسے حساس موقع پر سیاست کے اصولوں سے باخبر نہ تھا۔

حضرت علی علیہ السلام کی تقریر

امام ایسے حالات میں اٹھے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ان چیزوں کو بیان کیا:

"طلحہ اور زبیر بصرہ میں داخل ہوئے جب کہ بصرہ کے لوگ میرے مطیع و فرمانبردار اور میری بیعت میں تھے ان لوگوں نے ان کو میری مخالفت کے لئے اکسایا اور جس نے بھی ان کی مخالفت کی اسے قتل کر دیا تم سب لوگ اس بات سے واقف ہو کہ انہوں نے حکیم بن جبلة اور بیت المال کے محافظوں کو قتل کر ڈالا اور عثمان بن حنیف کو ناگفتہ بہ صورت میں بصرہ سے نکال دیا جب ان کی حقیقتوں کا پردہ چاک ہو گیا ہے تو جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے ہیں۔

امام - کی تقریر کے بعد حکیم بن مناف نے امام - کی شان میں اشعار پڑھ کر امام کی فوج میں نئی روح پھونک دی اس کا دو شعر یہ ہے:

أبا حسن أ يقظت من كان نائماً  
و ما كل من يدعى الى الحق يسمع

اے ابو الحسن! خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کر دیا ورنہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو حق کی دعوت دی جائے وہ اس کو سنے۔

و أنت امرء أعطيت من كل وجهه  
محاسنہا و اللہ يعطى و يمنع

آپ ایسے شخص ہیں کہ ہر بہترین کمال آپ کو عطا ہوا ہے اور خدا جسے بھی چاہے عطا کرے یا عطا نہ کرے۔ امام - نے ناکٹین کو تین دن کی مہلت دی کہ شاید مخالفت کرنے سے باز آجائیں اور آپ کی اطاعت کرنے لگیں لیکن جب ان کے حق کی طرف آنے سے مایوس ہو گئے تو اپنے چاہنے والوں کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ناکٹین کے دردناک واقعات کو بیان کیا جب امام - خطبہ دے چکے تو شداد عبدی اٹھا اور مختصر طور پر اہل بیت پیغمبر سے اپنی صحیح شناخت کو اس طرح بیان کیا :

"جب گناہگار زیادہ ہو گئے اور دشمن مخالفت کرنے لگے اس وقت ہم نے اپنے پیغمبر کے اہلبیت کے پاس پناہ لی۔ اہل بیت وہ ہیں جن کی وجہ سے خدا نے ہم لوگوں کو عزیز و محترم بنایا اور گمراہی سے ہدایت کی طرف راستہ دکھایا۔ اے لوگو! تم پر لازم ہے ان لوگوں کا دامن تھام لو۔ اور جو ادھر ادھر بہک گئے ہیں ( اور ان سے منہ موڑ لیا ہے) انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ ضلالت و گمراہی کے کھنڈر میں چلے جائیں۔(۱)

(۱) الجمل، ص ۱۷۹-۱۷۸۔

امام - کا آخری مرتبہ اتمام حجت کرنا

۱۰ جمادی الاول ۳۶ ھ جمعرات کے دن امام - اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا: جلدی نہ کرو میں آخری مرتبہ اس گروہ پر اپنی حجت تمام کر دوں۔ اس وقت ابن عباس کو قرآن دیا اور کہا یہ قرآن لے کر ناکٹین کے سرداروں کے پاس جاؤ اور ان لوگوں کو اس قرآن کی دعوت دو اور طلحہ و زبیر سے کہو کیا ان لوگوں نے میری بیعت نہیں کی تھی؟ تو پھر کیوں بیعت کو توڑ دیا؟ اور ان سے کہنا کہ یہ خدا کی کتاب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ ابن عباس سب سے پہلے زبیر کے پاس گئے اور امام - کے پیغام کو ان تک پہنچایا اس نے امام - کا پیغام سن کر جواب دیا۔ میری بیعت اختیاری نہ تھی اور مجھے قرآن کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ابن عباس طلحہ کے پاس گئے اور اس سے کہا امیر المومنین نے کہا ہے کہ کیوں تم نے بیعت کو توڑ ڈالا؟ اس نے کہا: میں عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔

ابن عباس نے کہا: عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے عثمان کا بیٹا "آبان" سب سے زیادہ سزاوار ہے۔ طلحہ نے کہا: وہ کمزور آدمی ہے اور ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں۔ سب سے آخر میں ابن عباس عائشہ کے پاس گئے دیکھا کہ وہ اونٹ کے کجاوہ پر سوار بیٹھی ہیں اور اونٹ کی مہار بصرہ کا قاضی کعب بن سور پکڑے ہوئے ہے اور قبیلہ ازد اور ضبہ کے لوگ اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں جب عائشہ کی نظر ابن عباس پر پڑی تو کہا: کس لئے آئے ہو؟ جاؤ اور علی سے کہو کہ ان کے اور ہمارے درمیان تلوار کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ابن عباس امام - کی خدمت میں آئے اور پورا ماجرا بیان کیا امام - نے چاہا کہ دوسری مرتبہ اتمام حجت کریں تاکہ واضح و روشن دلیل کے ساتھ تلوار اٹھائیں لہذا آپ نے اس مرتبہ فرمایا: تم میں سے کون حاضر ہے جو اس قرآن کو اس گروہ کے پاس لے جائے۔ اور انہیں دعوت دے اور اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں تو اسے دوسرے ہاتھ میں لے لے۔ اور اگر دونوں ہاتھ کاٹ دیں تو اسے دانتوں سے پکڑ لے؟

ایک جوان نے اٹھ کر کہا: اے امیر المومنین میں اس کام کے لئے حاضر ہوں۔ امام - نے پھر اپنے دوستوں کے درمیان آواز دی لیکن اس نوجوان کے علاوہ کسی نے امام - کی آواز پر لبیک نہ کہا، لہذا امام - نے قرآن اسی جوان کو دیا اور کہا قرآن لے کر ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ کتاب ابتدا سے انتہا تک ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہے۔ وہ نوجوان امام - کے حکم کے مطابق قرآن لے کر دشمنوں کو پاس گیا دشمنوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا اس نے قرآن کو دانتوں سے دبایا یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔(۱)

اس واقعہ نے جنگ کو قطعی اور ناکٹین کی دشمنی کو واضح کر دیا، اس کے باوجود امام - نے اپنا لطف و کرم دکھایا اور

حملہ کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا:  
 "میں جانتا ہوں کہ طلحہ و زبیر جب تک لوگوں کا خون نہیں بہالیں گے اپنے کام سے باز نہیں آئیں گے لیکن تم لوگ اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا جب تک وہ جنگ شروع نہ کریں ، اگر ان میں سے کوئی بھاگے تو اس کا پیچھا نہ کرنا، زخمیوں کو قتل نہ کرنا، اور دشمنوں کے بدن سے کپڑے نہ اتارنا"۔ (۲)

(۱) تاریخ طبری ج ۳ ص ۵۲۰۔  
 (۲) کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۲۴۳۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

#### دسویں فصل

حضرت علی - کے سپاہیوں کی بہادری

کائنات کے تمام حاکموں میں کوئی بھی حاکم علی جیسا نہیں جو دشمن کو اتنی زیادہ مہلت دے اور عظیم شخصیتوں اور قرآن کو فیصلہ کے لئے بھیجے اور جنگ شروع کرنے میں صبر و تحمل سے کام لے ، یہاں تک کہ دوستوں اور مخلصوں کی طرف سے شکوہ اور اعتراض ہونے لگے ، یہی وجہ ہے کہ امام - مجبور ہوئے کہ اپنی فوج کو منظم کر کے اپنے سرداروں کو درج ذیل مقامات پر معین کریں:

ابن عباس کو اگلے دستے کا سردار اور عمار یاسر کو تمام سواروں کا سردار اور محمد بن ابی بکر کو پیدل حملہ کرنے والوں کا سردار معین کیا اور اس کے بعد مذحج، ہمدان ، کندہ ، قضاہ، خزاعہ، ازد، بکر، اور عبد القیس کے قبیلے کے سواروں اور پیدل چلنے والوں کے لئے علمبردار معین کیا اس دن جتنے افراد چاہے پیدل چاہے سوار، امام - کے ہمراہ جنگ کرنے کے لئے آمادہ تھے ان کی تعداد کل سولہ ہزار (۱۶۰۰۰) تھی۔ (۱)

(۱) الجمل ص ۱۷۲۔

ناکثین کی طرف سے جنگ کا آغاز:

ابھی امام - اپنی فوج کو منظم اور جنگ کے اسرار و رموز سمجھانے میں مشغول تھے کہ اچانک دشمن کی طرف سے امام کے لشکر پر تیروں کی بارش ہونے لگی جس کی وجہ سے امام کی فوج کے کئی افراد شہید ہو گئے - انہی میں سے ایک تیر عبد اللہ بن بدیل کے بیٹے کو لگا اور اسے شہید کر دیا۔

عبد اللہ اپنے بیٹے کی لاش لے کر امام کے پاس آئے اور کہا: کیا اب بھی ہم صبر و حوصلے سے کام لیں تاکہ دشمن ہمیں ایک ایک کر کے قتل کر ڈالیں؟ خدا کی قسم اگر مقصداتمام حجت ہے تو آپ نے ان پر اپنی حجت تمام کر دی ہے۔

عبد اللہ کی گفتگو سن کر امام - جنگ کے لئے آمادہ ہوئے ، آپ نے رسول اسلام کی زرعہ پہنی اور رسول اکرم کی سواری پر سوار ہوئے اور اپنی فوج کے درمیان کھڑے ہوئے۔

قیس بن سعد بن عبادہ (۱) جو امام - کا بہت مخلص (گہرا) دوست تھا حضرت کی شان اور جو پرچم اٹھائے ہوئے تھا اس کے لئے اشعار پڑھا جس کا دو شعر یہ ہے:

بذا اللواء الذی کنا نحف بہ  
 مع النبی و جبرئیل لنا مدداً

ما ضرمن كانت الانصار عبيته

أن لا يكون له من غير با أحداً

"یہ پرچم جس کو ہم نے احاطہ کیا ہے یہ وہی پرچم ہے جس کے سایہ میں پیغمبر کے زمانے میں جمع ہوئے تھے اور اس دن جبرئیل نے ہماری مدد کی تھی وہ شخص کہ جس کے انصار راز دار ہوں کوئی نقصان نہیں ہے کہ اس کے لئے دوسرے یاور و مددگار نہ ہوں۔"

امام - کی منظم فوج نے ناکثین کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور رعائشہ جس اونٹ پر سوار تھیں اسے میدان جنگ میں لائے اور اس کی مہار کو بصرہ کے قاضی کعب بن سور کے ہاتھوں میں سونپ دی اس نے قرآن اپنی گردن میں لٹکایا اور قبیلہ ازد اور ضبہ کے افراد نے اونٹ کو چاروں طرف سے اپنے احاطہ میں لے لیا عبد اللہ بن زبیر عائشہ کے سامنے اور مروان بن حکم اونٹ کے بائیں طرف کھڑے ہوئے فوج کی ذمہ داری زبیر کے ہاتھوں میں تھی اور طلحہ تمام سواروں کا سردار اور محمد بن طلحہ پیدل چلنے والوں کا سردار تھا۔

امام - نے جنگ جمل میں محمد بن حنفیہ کو علم لشکر دے کر آداب حرب کی تعلیم دی اور فرمایا:  
" تزول الجبال و لاتزل، عض علی ناجذک ، اعر اللہ جمجمتک ، تد فی الارض قدمک، ارم ببصرک اقصی القوم و غض بصرک و اعلم ان النصر من عند اللہ سبحانہ"۔ (۲)

پھاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا دانتوں کو بھیج لینا، اپنا کاسہ سر خدا کو عاریۃ دیدینا، اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا، دشمن کی آخری صف پر نظر رکھنا (دشمن کی بیبت و کثرت سے) آنکھیں بند رکھنا اور اس بات کا یقین رکھو کہ خدا کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔

(۱) شیخ مفید اپنی کتاب جمل میں تحریر کرتے ہیں کہ قیس بن سعد وارد ہوا اور شاید اس سے مراد قیس بن سعد بن عبادہ ہے۔  
(۲) نہج البلاغہ، خطبہ ۱۱۔

امام - کے دہن اقدس سے نکلا ہوا ہر جملہ بہترین شعار ہے جو تازگی عطا کرتا ہے یہاں پر اس کی شرح کرنا ممکن نہیں ہے۔

جب لوگوں نے محمد بن حنفیہ سے کہا کہ کیونامام - نے انہیں میدان جنگ میں بھیجا اور حسن و حسین کو اس کام سے روکے رکھا۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں اور وہ ان کی آنکھیں ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ (۱)

ابن ابی الحدید نے اس واقعہ کو مدائنی اور رواقدی جیسے مؤرخین سے اس طرح نقل کیا ہے:

"امام اس گروہ کے ساتھ جسے "کتیبۃ الخضرای" کہتے ہیں اور جس کے افراد مہاجرین و انصار سے تھے اور حسن و حسین اس کے اطراف کا احاطہ کئے ہوئے تھے ، ارادہ کیا کہ دشمن پر حملہ کریں۔ علم لشکر محمد بن حنفیہ کے ہاتھوں میں دیا اور آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: اتنا آگے بڑھو کہ پرچم کو اونٹ کی آنکھ میں گاڑو دو امام کے بیٹے نے آگے بڑھنا شروع کیا لیکن تیروں کی بارش نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا وہ تھوڑی دیر تک ٹھہرے رہے یہاں تک کہ تیروں کی بارش کم ہو جائے ، امام - نے اپنے بیٹے کو دوبارہ حملہ کرنے کا حکم دیا لیکن جب آپ نے احساس کیا کہ وہ تاخیر کر رہے ہیں تو ان کے حال پر افسوس کیا اور علم لشکر ان سے لے لیا اور اپنے دہانے ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں علم لیا اور خود حملہ کرنا شروع کر دیا اور قلب لشکر میں داخل ہو گئے۔

چونکہ آپ کی تلوار لڑتے لڑتے کج ہو گئی تھی لہذا اسے سیدھی کرنے کے لئے اپنی فوج میں واپس آگئے ، آپ کے ساتھیوں مثلاً عمار یاسر ، مالک اشتر اور حسن و حسین نے آپ سے کہا ہم لوگ حملہ کریں گے اور آپ یہیں پر رک جائیں امام نے نہ ان لوگوں کا جواب دیا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا بلکہ شیر کی طرح ٹکار رہے تھے اور آپ کی پوری توجہ دشمن کی طرف تھی کسی کو بھی اپنے پاس نہیں دیکھ رہے تھے پھر آپ نے اپنے بیٹے کو دوبارہ علم دیا اور پھر دوسری مرتبہ حملہ کیا اور قلب لشکر میں داخل ہو گئے اور جو بھی آپ کے سامنے آتا اسے بچھاڑ دیتے دشمن انہیں دیکھ کر بھاگ جاتے اور ادھر ادھر پناہ لیتے تھے۔ اس حملہ میں امام - نے اتنے لوگوں کو قتل کیا کہ زمین دشمنوں کے خون سے رنگین ہو گئی، پھر اپنی فوج کی طرف واپس آگئے اور



آپ کی تلوار پھر ٹیڑھی ہوگئی آپ نے اسے اپنے زانو پر رکھ کر سیدھا کیا، اس وقت آپ کے ساتھیوں نے آپ کو حلقے میں لے لیا اور خدا کی قسم دے کر کہا کہ اب آپ خود حملہ نہ کیجئے کیونکہ آپ کی شہادت کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے گا نیز مزید کہا: اے علی! ہم آپ کے لئے ہیں۔

امام - نے فرمایا: میں خدا کے لئے جنگ کر رہا ہوں اور اس کی رضا کا طالب ہوں۔ پھر اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرمایا دیکھو اس طرح سے حملہ کیا جاتا ہے، محمد نے کہا: اے امیر المومنین آپ کی طرح سے کون حملہ کر سکتا ہے۔ اس وقت امام نے مالک اشتر کو حکم دیا کہ دشمن کے لشکر کے بائیں طرف حملہ کرو جس کا سردار ہلال تھا، اس حملے میں ہلال مارا گیا اور بصرہ کا قاضی کعب بن سور جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی اور عمر بن یثربی ضبی جو لشکر جمل کا سب سے بہادر سپاہی تھا اور بہت دنوں تک عثمان کی طرف سے بصرہ کا قاضی تھا مارے گئے۔ بصرہ کے لشکر والوں کی کوشش یہ تھی کہ عائشہ کا اونٹ کھڑا (صحیح و سالم) رہے کیونکہ وہی ثبات و استقامت کا نشان تھا، اس وجہ سے امام کے لشکر نے پہاڑ کی طرح جمل پر حملہ کیا اور دشمنوں نے بھی پہاڑ کی طرح حملہ کا دفاع کیا، اس کی حفاظت کے لئے ناکثین کے ستر لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیئے۔ (۱)

اس وقت سرگردنوں سے کٹ کر گر رہے تھے، ہاتھ جوڑوں سے کٹ رہے تھے، دل اور انتڑیاں پیٹ سے باہر نکل رہی تھیں، ان سب کے باوجود تمام ناکثین ٹڈیوں کی طرح جمل کے اطراف میں ثابت قدم تھے اس وقت امام - نے فریاد بلند کی: "ولکم اعقروا الجمل فانہ شیطان، اعقروہ و الا فئیت العرب لایزال السیف قائماً و راکعاً حتی یہوی ہذا البعیر الی الارض" وائے بو تم پر، عائشہ کے اونٹ کو قتل کر دو وہ شیطان ہے اس کو قتل کرو عرب ختم ہو جائیں گے اور تلواریں مسلسل اس وقت تک چلتی رہیں گی جب تک یہ اونٹ کھڑا رہے گا۔ (۲)

- (۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۲۶۵۔  
(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۲۶۷۔۲۵۷۔

امام - کا اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنے کا طریقہ

امام - اپنے لشکر کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے یہ نعرہ لگاتے تھے "یا مَنْصُورُ اَمْتُ" یا کبھی "حم لابنصرن" کہتے تھے اور یہ دونوں نعرہ حضرت رسول اکرم نے لگایا تھا اور مشرکوں سے جنگ کے وقت لگایا جاتا تھا، ان نعروں کی گونج نے دشمن کی فوج میں عجیب لرزہ طاری کر دیا کیونکہ ان لوگوں کو مسلمانوں کا مشرکوں سے جنگ کرنا یاد آگیا یہی وجہ ہے کہ عائشہ نے بھی اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے نعرہ لگایا "یا بنی الکرة الکرة، اصبروا فانی ضامنة لکم الجنة" یعنی اے میرے بیٹو برد بار رہو اور حملہ کرو میں تمہاری بہشت کی ضامن ہوں۔ اس نعرے کی وجہ سے لشکر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اتنا آگے بڑھے کہ امام کا لشکر چند قدم کے فاصلے پر تھا۔

عائشہ نے اپنے چاہنے والوں کے جذبات ابھارنے کے لئے ایک مٹھی مٹی مانگی اور جب انہیں مٹی دی گئی تو انہوں نے امام کے چاہنے والوں کی طرف پھینکا اور کہا: "شابت الوجوه" یعنی تم لوگوں کا چہرہ کالا ہو جائے۔ انہوں پیغمبر کی تقلید کی کیونکہ حضرت نے بھی جنگ بدر میں ایک مٹھی خاک اٹھائی تھی اور دشمنوں کی طرف پھینکی تھی اور یہی جملہ فرمایا تھا اور خدا نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی: "و ما رمیت اذ رمیت و لکن اللہ رمی" (۱) عائشہ کا یہ عمل دیکھنے کے بعد فوراً ہی امام - نے فرمایا: "و ما رمیت اذ رمیت و لکن الشیطان رمی" یعنی اگر پیغمبر کے لئے خدا کا ہاتھ پیغمبر کی آستین سے باہر ہوا تو عائشہ کے لئے شیطان کا ہاتھ اس کی آستین سے ظاہر ہوا ہے۔

اونٹ کا گرنا

عائشہ کا اونٹ ایک بے منہ جانور تھا اور اسے بڑے مقصد تک پہنچنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا اس پر کجاوہ لگا کر بڑے احترام سے عائشہ کو بٹھایا گیا تھا بصرہ کے سپاہی اس کی بڑی شدت سے حفاظت کر رہے تھے اور بہت زیادہ لوگ محافظ تھے جب بھی کوئی ہاتھ کٹتا تو دوسرے ہاتھ مینا اونٹ کی مہار چلی جاتی بالآخر اونٹ کی مہار پکڑنے کے لئے کوئی آگے نہ بڑھا، زبیر کے بیٹے نے سبقت دکھائی اور اونٹ کی مہار پکڑ لی لیکن مالک اشتر نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے



زمین پر پٹک دیا اور اس کی گردن کو پکڑا جب زبیر کے بیٹے کو یہ احساس ہوا کہ وہ مالک اشتر کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا تو اس نے فریاد بلند کی اے لوگو! حملہ کرو اور مالک کو قتل کر دو اگر چہ میں بھی قتل ہو جاؤں۔ (۱)  
 مالک اشتر نے اس کے چہرے پر ایک وار کر کے اسے چھوڑ دیا لوگ عائشہ کے اونٹ کے پاس سے دور ہو گئے امام -  
 نے اس کے پاؤں کاٹنے کا حکم دیا تاکہ دشمن عائشہ کا اونٹ دیکھ کر دوبارہ اس کی طرف واپس نہ آئیں۔ پیر کٹتے ہی  
 اونٹ زمین پر گر پڑا اور کجاوہ بھی گر گیا اس وقت عائشہ کی ایسی فریاد بلند ہوئی کہ دونوں لشکر کے سپاہیوں نے سنا،  
 امام - کے حکم سے محمد بن ابوبکر بہن کے کجاوے کے پاس پہنچے اور اس کی رسیوں کو کھولا۔  
 اس جنگ میں جو گفتگو بہن اور بھائی کے درمیان ہوئی ہم اسے مختصراً نقل کر رہے ہیں:

عائشہ: تم کون ہو؟

محمد بن ابوبکر: تیرے گھر کا ایک شخص جو تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔

عائشہ: تو اسماء خنعمہ کا بیٹا ہے؟

محمد بن ابوبکر: ہاں، لیکن وہ تیری ماں سے کم نہ تھی۔

عائشہ: یہ بات صحیح ہے کہ وہ شریف عورت تھی اس سے کیا بحث، خدا کا شکر کہ تم سالم ہو۔

محمد بن ابوبکر: لیکن تم مجھے سالم دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔

عائشہ: اگر تجھے سالم دیکھنا نہ چاہتی تو ایسی گفتگو نہ کرتی۔

محمد بن ابوبکر: تو اپنی کامیابی چاہتی تھی اگرچہ میں قتل بھی کر دیا جاتا۔

عائشہ: میں جس چیز کو چاہتی تھی وہ میرے نصیب میں نہیں میری آرزو تھی کہ تو صحیح و سالم بچ جائے یہ سب باتیں

چھوڑو اور لعنت و ملامت نہ کرو، جس طرح سے کہ تمہارا باپ ایسا نہ تھا۔

علی عائشہ کے کجاوے کے پاس پہنچے اور اپنے نیزے سے اس پر مارا اور کہا: اے عائشہ، کیا رسول اسلام نے تمہیں

اس کام کو انجام دینے کا حکم دیا تھا؟

اس نے امام - کے جواب میں کہا: اے ابو الحسن اب جب کہ تم کامیاب ہو گئے ہو تو مجھے معاف کر دو۔

(۱) اس نے یہ کہا: اقتلونی و مالکاً، و اقتلوا مالکاً معی۔

تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عمار یاسر اور مالک اشتر بھی وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں کے درمیان درج ذیل گفتگو  
 ہوئی۔

عمار: اماں! آج اپنے بیٹوں کو دیکھا کہ راہ راست پر دین کی راہ میں کس طرح تلواریں چلا رہے تھے؟ عائشہ نے ان سنی  
 کر دیا اور کوئی جواب نہ دیا کیونکہ عمار پیغمبر اسلام کے جلیل القدر صحابی اور قوم کے بزرگ تھے۔

مالک اشتر: خدا کا شکر کہ اس نے اپنے امام کی مدد کی اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا، حق آیا اور باطل مٹ گیا

کیونکہ باطل تو مٹتے ہی والا ہے، اے مادر! آپ نے اپنے کام کو کیسا پایا؟

عائشہ: تم کون ہو تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے؟!

مالک اشتر: میں آپ کا بیٹا مالک اشتر ہوں۔

عائشہ: تم چھوٹ بول رہے ہو میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔

مالک اشتر: آپ میری ماں ہیں اگرچہ آپ قبول نہ کریں۔

عائشہ: تم وہی ہو جو میری بہن اسماء کو ان کے بیٹے (عبد اللہ بن زبیر) کے غم میں بٹھا نا چاہتا تھا؟۔

مالک اشتر: یہ کام میں اس لئے انجام دیتا تاکہ خدا کے سامنے عذر پیش کر سکتا (یہ خدا کے حکم کی بجآوری کے لئے

تھا)۔

پھر عائشہ (جب کہ سوار ہو رہی تھیں) نے کہا: تم نے افتخار حاصل کر لیا اور کامیاب ہو گئے خدا کا کام قابل نتیجہ ہوتا ہے۔

امام - نے محمد بن ابوبکر سے فرمایا: کہ اپنی بہن سے پوچھو کوئی تیر تو نہیں لگا؟ کیونکہ عائشہ کا کجاوہ تیر لگنے سے

سابی کے کانٹے کی طرح ہو گیا ہے۔

اس نے اپنے بھائی کے جواب میں کہا صرف ایک تیر میرے سر پر لگا ہے محمد نے اپنی بہن سے کہا خداوند عالم قیامت

کے دن تمہارے خلاف فیصلہ کرے گا، کیوں کہ تم نے امام کے خلاف قیام کیا اور لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا اور خدا

کی کتاب کو نظر انداز کیا ہے عائشہ نے کہا: مجھے چھوڑ دو اور علی سے کہو مجھے مشکلات و پریشانیوں سے بچائیں

(میری حفاظت کریں)

محمد بن ابوبکر نے امام - کو اپنی بہن کی سلامتی و خیریت سے آگاہ کیا - امام - نے فرمایا: وہ ایک عورت ہیں اور عورتیں منطقی نقطہ نظر سے طاقتور نہیں ہوتیں تم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لو اور اسے عبد اللہ بن خلف کے گھر پہنچا دو تاکہ اس کے بارے میں کوئی تدبیر کریں۔  
عائشہ پر امام - اور ان کے بھائی کا رحم و کرم ہوا مگر عائشہ مسلسل امام - کو برا بھلا کہتی رہیں۔ اور جنگ جمل میں قتل ہونے والوں کی بخشش و مغفرت کی دعا میں مشغول رہیں۔(۱)

(۱) الجمل، ص ۱۹۸۔ ۱۶۶؛ تاریخ طبری، ج ۳، ص ۵۳۹۔

طلحہ و زبیر کا انجام

مؤرخین کا کہنا ہے کہ طلحہ کا قتل مروان کے ہاتھوں ہوا کیونکہ جب طلحہ نے اپنے سپاہیوں کو شکست کھاتے ہوئے دیکھا اور اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھ لیا تو راہ فرار اختیار کیا اس وقت مروان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ عثمان کے قتل کرنے میں سب اہم رول اسی کا تھا لہذا اسے تیر مار کر زخمی کر دیا طلحہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ تیر خود اس کی فوج نے پھینکا ہے لہذا اس نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے جلدی سے یہاں سے دوسری جگہ پر پہنچا دے ، بالآخر طلحہ کے غلام نے اسے "بنی سعد" کے کھنڈر میں پہنچا دیا۔ طلحہ کے بدن سے خون بہ رہا تھا اس نے کہا: کسی بھی بزرگ کا خون ہماری طرح آلودہ نہیں ہوا ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ روح اس کے بدن سے نکل گئی۔

زبیر کا قتل

جنگ جمل کا دوسرے فتنہ پرور زبیر نے جب شکست کا احساس کیا تو مدینہ کی طرف بھاگنے کا ارادہ کیا وہ بھی قبیلہ "احنف بن قیس" کے راستے سے اس قبیلہ نے امام - کے حق جنگ میں شرکت کرنے سے پرہیز کیا تھا، قبیلہ کا سردار زبیر کی اس نامردی پر بہت غضبناک ہوا، کیونکہ اس نے انسانی اصولوں کے خلاف لوگوں کو اپنے مفاد کے لئے قربان کر دیا تھا اور اب چاہتا تھا کہ میدان سے بھاگ جائے۔  
احنف کے ساتھیوں میں سے عمرو بن جرموز نے ارادہ کیا کہ جتنے لوگوں کا خون بہا ہے اس کا بدلہ زبیر سے لے، لہذا اس کا پیچھا کیا اور جب وہ راستے میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا تو پیچھے سے حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا اس کا گھوڑا ، انگوٹھی اور اس کی تلوار ضبط کر لیا اور جو نوجوان اس کے ساتھ تھا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اس جوان نے زبیر کو "وادی السباع" میں سپرد خاک کیا۔(۱)  
عمرو بن جرموز احنف کے پاس واپس آیا اور اس نے زبیر کے حالات سے آگاہ کیا اس نے کہا: مجھے نہیں معلوم کہ تم نے نیک کام انجام دیا یا برا، پھر دونوں امام - کی خدمت میں آئے جب امام - کی نظر زبیر کی تلوار پر پڑی تو آپ نے فرمایا: "طالماً جلی الکرب عن وجہ رسول اللہ" یعنی، اس تلوار نے کئی مرتبہ پیغمبر کے چہرے سے غم کے غبار کو ہٹایا تھا۔ پھر اس تلوار کو عائشہ کے پاس بھیج دیا۔(۲)  
جب حضرت کی نظر زبیر کے چہرے پر پڑی تو آپ نے فرمایا: "لقد كنت برسول الله صحبةً و منه قرابةً و لكن دخل الشيطان منخرک فأوردک هذا المورد" (۳)  
یعنی تو مدتوں پیغمبر کے ہمراہ تھا اور ان کا رشتہ دار بھی تھا لیکن شیطان نے تیری عقل پر غلبہ پیدا کر لیا اور تجھے اس انجام تک پہنچا دیا۔

جنگ جمل میں قتل ہونے والوں کی تعداد

تاریخ نے جنگ جمل میں قتل ہونے والوں کی تعداد کو معین نہیں کیا اور اس سلسلے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے شیخ مفید لکھتے ہیں کہ بعض مؤرخین نے جنگ جمل میں مارے جانے والوں کی تعداد ۲۵ ہزار لکھا ہے جب کہ عبد اللہ بن زبیر (اس معرکہ کا فتنہ پرور انسان) نے قتل ہونے والوں کی تعداد ۱۵ ہزار لکھا ہے اور شیخ مفید نے دوسرے والے قول کو ترجیح دیا ہے اور لکھتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ مارے جانے والوں کی کل تعداد ۱۴ ہزار تھی۔(۴)

طبری نے اپنی کتاب میں مارے جانے والوں کی تعداد ۱۰ ہزار نقل کی ہے جس کی نصف تعداد عائشہ کے لشکر اور نصف تعداد امام - کے لشکر کی ہے - پھر دوسرا نظریہ نقل کرتا ہے جس کا نتیجہ جو کچھ ہم

- (۱) الجمل، ص ۲۰۴؛ تاریخ ابن اثیر، ج ۳، ص ۲۴۴-۲۴۳۔  
 (۲) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۵۴۰؛ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۲۳۵۔  
 (۳) الجمل، ص ۲۰۹۔  
 (۴) الجمل، ص ۲۲۳۔

نے زبیر سے نقل کیا ہے دونوں ایک ہی ہے۔ (۱)

جنگ جمل میں قتل ہونے والوں کی تدفین  
 جنگ جمل کا واقعہ ۱۰ جمادی الثانی ۳۶ ھ کو جمعرات کے دن رونما ہوا اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا (۲) کہ عائشہ کے اونٹ گرنے اور کجاوہ کے ٹیڑھے ہونے سے جنگ ختم ہوگئی اور ایک بھی معقول ہدف نہ ہونے کی وجہ سے غالباً ناکثین نے راہ فرار اختیار کرلی، مروان بن حکم نے قبیلہ "عنزہ" کے گھر میں پناہ لی۔  
 اور نہج البلاغہ میں حضرت علی کے کلام سے استفادہ ہوتا ہے کہ حسنین نے امام - سے اس کی حفاظت کی درخواست کی، لیکن سب سے عمدہ بات یہ کہ جب حسنین نے آپ سے عرض کیا کہ مروان آپ کی بیعت کر لے گا تو امام - نے فرمایا:  
 "اولم یبایعنی بعد قتل عثمان؟ لا حاجة لی فی بیعتہ انہا کف یہودیة لو بایعنی بکفہ لغدر بسبتہ۔ اما ان لہ امرۃ کلعقۃ الکلب أنفہ، و ہو ابو الاکبش الاربعۃ و سنتقی الامۃ منہ و من ولده یوماً أحمر" (۳)  
 کیا عثمان کے قتل کے بعد اس نے میری بیعت نہیں کی تھی اب مجھے اس کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے یہ ہاتھ تو یہودی والا (یعنی مکار ہاتھ ہے، اس لئے کہ یہودی اپنی مکر و حیلہ میں ضرب المثل ہیں مترجم) ہاتھ ہے اگر یہ ہاتھ سے میری بیعت کر لے گا تو ذلت کے ساتھ اسے توڑ بھی دے گا یاد رکھو اسے ایسی حکومت ملے گی جس میں کٹا اپنی ناک چاٹتا ہے اور اس کے چار بیٹے بھی بس اتنی ہی دیر کے لئے حکمران ہوں گے اور وہ دن جلد آنے والا ہے جب امت کو اس کے اور اس کے بیٹوں کے ذریعے سرخ (خونی) دن دیکھنا نصیب ہوگا۔  
 عبداللہ ابن زبیر نے ایک ازدی کے گھر میں پناہ لی تھی اور عائشہ کو اس بات کی خبر دے دی تھی عائشہ

- (۱) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۵۴۳۔  
 (۲) ابن ابی الحدید نے جنگ ہونے کی مدت دو دن لکھی ہے، ج ۱، ص ۲۶۲۔  
 (۳) نہج البلاغہ، خطبہ ۷۱۔

نے اپنے بھائی محمد بن ابوبکر کو جو امام - کے حکم سے عائشہ کی حفاظت کر رہے تھے، عبد اللہ کے پاس بھیجا جہاں وہ پناہ لئے تھا تاکہ اسے عبد اللہ بن احنف کے گھر پہنچا دے، کیونکہ عائشہ بھی وہیں تھیں۔ بالآخر عبد اللہ بن زبیر اور مروان نے بھی وہیں پناہ لی۔ (۱)  
 پھر دن کے باقی حصے میں امام - میدان جنگ میں آئے اور بصرہ کے لوگوں کو بلا تارکھ اپنے مرنے والوں کو دفن کریں۔ طبری کے نقل کر نے کے مطابق، امام نے ناکثین کے گروہ میں شامل بصرہ اور کوفہ کے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی اور جو آپ کے ساتھی جام شہادت نوش کرچکے تھے ان پر بھی نماز پڑھی اور سب کو ایک بڑی قبر میں دفن کر دیا اور پھر حکم دیا کہ لوگوں کے تمام مال و اسباب کو انہیں واپس کر دیں، صرف ان اسلحوں کو واپس نہ کریں جن پر حکومت کی نشانی ہو پھر فرمایا:

"لا یحلُّ لمسلمٍ من المسلم المتوفی شیئ" (۲)

مردہ مسلمان کی کوئی بھی چیز دوسروں کے لئے حلال نہیں ہوگی۔  
 امام - کے بعض ساتھیوں نے بہت اصرار کیا کہ ناکثین کے ساتھ جنگ گویا مشرکوں کے ساتھ جنگ گرنا ہے یعنی جتنے لوگ گرفتار ہوئے بینانہیں غلام بنایا جائے اور ان کا مال تقسیم کر دیا جائے  
 امام - نے اس سلسلے میں فرمایا: "ایکم یأخذ ام المومنین فی سہمہ" (۳) یعنی تم میں سے کون حاضر ہے جو عائشہ کو اپنے

حصے کے طور پر قبول کرے؟ امام جعفر صادق - نے ایک حدیث میں اس گروہ کے متعلق جسے فقہ اسلامی نے "باغی" کے نام سے تعبیر کیا ہے، فرمایا ہے:

"ان علیاً علیہ السلام قتل اہل البصرۃ و ترک أموالہم ، فقال ان دار الشکر یحل ما فیہا و ان دار الاسلام لایحل ما فیہا ان علیاً انما من علیہم کما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اہل مکة"۔ (۴)

امام - نے اہل بصرہ کو ان کی بغاوت کی وجہ سے قتل کیا تھا لیکن ان کے مال و اسباب کو ہاتھ نہ لگایا کیونکہ مشرک کا حکم اور مسلمان باغی کا حکم برابر نہیں ہے اسلامی فوج کو جو کچھ بھی مشرک و کافر کے علاقہ سے ملے اس کا لے لینا حلال ہے لیکن جو کچھ سرزمین اسلام پر پایا جائے حلال نہیں ہوگا جیسا کہ علی نے ان پر احسان کیا جیسا کہ پیغمبر اسلام نے اہل مکہ پر احسان کیا تھا۔

(۱) امام علیہ السلام نے اپنے اس کلام میں غیب کی چند خبروں سے آگاہ کیا تھا۔

(۲) تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۴۳۔

(۳) وسائل الشیعہ، ج ۱۱، باب ۲۵، ابواب جہاد۔

(۴) وسائل الشیعہ، ج ۱۱، باب ۲۵، ابواب جہاد، اس سلسلے میں ابن ابی الحدید کا دوسرا نظریہ ہے وہ کہتا ہے کہ امام نے جو کچھ بھی میدان میں تھا سب کو لے لیا اور اپنے لشکر کے درمیان تقسیم کر دیا۔

حضرت علی - کی مقتولین سے گفتگو

جنگ بدر میں پیغمبر اسلام (ص) نے قریش کے لاشوں کو ایک کنویں میں ڈالا اور پھر ان سے گفتگو کرنے لگے اور جب حضرت سے لوگوں نے کہا کہ کیا مردے بھی زندوں کی باتیں سنتے ہیں تو آپ نے فرمایا: تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ (۱)

امیر المومنین علیہ السلام میدان جمل میں لاشوں کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ عبد اللہ بن خلف خزاعی کو دیکھا جو خوبصورت کپڑے پہنے تھا لوگوں نے کہا وہ ناکثین کے لشکر کا سردار تھا امام - نے فرمایا: ایسا نہیں تھا بلکہ وہ ایک شریف اور اچھا انسان تھا پھر آپ کی نظر عبد الرحمن بن عتاب بن اسید پر پڑی تو آپ نے فرمایا: یہ شخص ناکثین کا سردار اور رئیس تھا پھر آپ قتل گاہ میں ٹہلتے رہے یہاں تک کہ قریش کے گروہ کے کچھ لاشوں کو دیکھا اور فرمایا: خدا کی قسم، تمہاری یہ حالت میرے لئے غم کا باعث ہے لیکن میں نے تم پر حجت تمام کر دی تھی لیکن تم لوگ نا تجربہ کار نوجوان تھے اور اپنے کام کے نتیجے سے باخبر نہ تھے۔

پھر آپ کی نگاہ بصرہ کے قاضی کعب بن سور پر پڑی جس کی گردن میں قرآن لٹکا ہوا تھا آپ نے حکم دیا کہ اس کی گردن سے قرآن نکال کر کسی پاک جگہ پر رکھ دیا جائے پھر فرمایا: اے کعب! جو کچھ میرے خدا نے وعدہ کیا تھا اسے مینے صحیح اور استوار پایا۔ اور کیا تو نے بھی جو کچھ تیرے پروردگار نے تجھ سے وعدہ کیا تھا صحیح پایا؟ پھر فرمایا: "لقد کان لک علم لوفعک ، و لکن الشیطان أضلک فأزلک فجعلک الی النار" (۲)

(۱) سیرۃ ہشام، ج ۱، ص ۶۳۹۔

(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۳۴۸۔

تیرے پاس علم تھا اے کاش (تیرا وہ علم) تجھے فائدہ پہنچاتا لیکن شیطان نے تجھے گمراہ کیا اور تجھے بہلا پھسلا کر جہنم کی طرف لے گیا۔

اور جب امام - نے طلحہ کی لاش کو دیکھا تو فرمایا: اسلام میں تیری خدمات تھیں جو تجھے فائدہ پہنچا سکتی تھیں لیکن شیطان نے تجھے گمراہ کر دیا اور تجھے بہلایا اور تجھے جہنم کی طرف لے گیا۔ (۱)

تاریخ کے اس حصے میں امام - نے باغیوں کی صرف مذمت کی اور اہل جہنم کی شناخت کرائی اس کے علاوہ دوسری چیزیں بیان نہیں کی ہیں لیکن معتزلہ فرقہ کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اپنی موت سے پہلے اپنے کام پر شرمندہ ہوئے تھے اور توبہ کر لیا تھا۔ ابن ابی الحدید جو مذہب معتزلہ کا بہت بڑا مدافع ہے لکھتا ہے کہ بزرگوں سے روایت ہے کہ علی نے فرمایا: طلحہ کو بٹھائو اور اس وقت اس سے کہا:

"یعز علی با ابا محمد ان اراک معفراً تحت نجوم السماء و فی بطن ہذا الوادی۔ ابعث جہادک فی اللہ و ذبک عن رسول اللہ؟"

یہ بات میرے لئے سخت ناگوار ہے کہ تجھے زیر آسمان اور اس بیابان میں خاک آلود دیکھوں کیا سزاوار تھا کہ خدا کی راہ میں جہاد اور پیغمبر خدا سے دفاع کے بعد تم ایسا کام انجام دو؟  
اس وقت ایک شخص امام - کی خدمت میں پہنچا اور کہا: میں طلحہ کے ساتھ تھا جب اسے اجنبی کی جانب سے تیر لگا تو اس نے مجھ سے مدد مانگی اور پوچھا: تم کون ہو؟  
مینے کہا: میں امیر المومنین کے دوستوں میں سے ہوں۔  
اس نے کہا: تم اپنا ہاتھ مجھے دو تاکہ میں تمہارے وسیلے سے امیر المومنین کی بیعت کروں پھر اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔

امام - نے اس موقع پر فرمایا: خدا نے چاہا کہ طلحہ نے جس حالت میں میری بیعت کی ہے اسے جنت میں لے جائے۔ (۲)  
تاریخ کا یہ حصہ افسانہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیا طلحہ امام - کے مقام و منزلت اور آپ کی حقانیت

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۳۴۸۔  
(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۳۴۸۔

و شخصیت سے واقف نہ تھا؟ اس طرح کی توبہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مدتوں جہالت میں زندگی بسر کرتے ہوں اور جب جہالت کا پردہ ان کی آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے تو وہ حقیقت کا نظارہ کرتے ہیں، جب کہ طلحہ شروع سے ہی حق و باطل کے درمیان فرق کو جانتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر اس افسانہ کو صحیح مان بھی لیا جائے تو قرآن کریم کی نظر میں طلحہ کے توبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے:

"و لیست التوبة للذین یعملون السيئات حتی اذا حضر أحدہم الموت قال انی ثبْتُ الآن و لا الذین یموتون و ہم کفار اولئک أعتدنا لہم عذاباً ألیماً" (۱)

اور ان لوگوں کی توبہ جو لوگ برے کام انجام دیتے ہیں اور پھر موت کے وقت کہتے ہیں کہ مینے توبہ کر لیا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے اور ان لوگوں کی توبہ ایسی ہے کہ وہ مرتے ہیں جب کہ ان کی موت کفر کی ہوتی ہے اور ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

بہر حال، کیا صرف امام - کی بیعت کرنے سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے؟ اس نے زبیر اور ام المومنین کی مدد و مشورت سے بصرہ کے میدان میں بہت زیادہ لوگوں کا خون بہایا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے حکم سے بہت سے گروہ مثل گوسفند ذبح کئے گئے ہیں لوگ رسول خدا کے صحابیوں کی اس طرح کی بے فائدہ طرفداری کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب کو عادل مانیں۔

(۱) سورہ نساء، آیت ۱۶۔

بصرہ کی شکست، امام - کا خطوط لکھنا، اور عائشہ کو مدینہ روانہ کرنا

امام - کی فوج اور بصرہ کے بے وفاؤں کے درمیان جنگ کے احتمال کی خبر، تجارت کرنے والے گروہ جو اس راستے سے عراق، حجاز، شام وغیرہ آتے جاتے تھے، کے ذریعے تمام اسلامی ملکوں تک پہنچ گئی اور مسلمان اور عثمان کے کچھ چاہنے والے اس واقعہ کی خبر سننے کے لئے بے چین تھے اور دونوں گروہوں میں سے ایک کی کامیابی اور دوسرے کی شکست بہت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ اسی وجہ سے امام - نے مقتولین دفن کرنے کا حکم دیا، اور میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد، اور بعض قیدیوں کو ان کے خیمہ میں واپس لے جانے کا حکم دینے کے بعد، اپنے کاتب عبد اللہ بن ابی ارفع کو بلایا اور کچھ خطوط املاء کئے (لکھوائے) اور امام کے منشی نے تمام چیزوں کو خط میں لکھا اور خط میں کوفہ اور مدینہ کے مومنین سے مخاطب ہوئے کیونکہ یہی

دو علاقے اس زمانے میں اسلام کے سب سے حساس علاقے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بہن ام ہانی بنت ابو طالب کو بھی خط لکھا۔ امام - نے اس طرح کے خطوط لکھ کر اپنے دوستوں کو خوشحال اور مخالفت کرنے والوں کو ناامید

کر دیا۔

شیخ مفید نے ان تمام خطوط کی عبارت کو اپنی کتاب (۱) میں بطور کامل نقل کیا ہے، لیکن طبری نے تمام خطوط میں سے امام - کے صرف اس خط کو بہت مختصر طریقے سے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جو آپ نے کوفہ کے لوگوں کے نام لکھا تھا، اور چونکہ اس نے اپنی کتاب کے اس حصے کو تحریر کرنے میں سیف بن عمر کی تحریر پر اعتماد و کیا ہے لہذا اس نے حق مطلب ادا نہیں کیا ہے اور حساس مطالب کو فقط سادگی سے نقل کر کے آگے بڑھ گیا ہے۔

امام - نے جو خط (طبری کے نقل کرنے کے مطابق) کوفہ کے لوگوں کے نام لکھا ہے اس میں جنگ کی تاریخ ۱۵ جمادی الثانی ۳۶ھ اور جنگ کی جگہ خربہ لکھی ہے -

جی ہاں امام - دوشنبہ کے دن "خربہ" سے بصرہ روانہ ہوئے تھے اور جب آپ بصرہ کی مسجد میں پہنچے تو آپ نے وہاں دو رکعت نماز پڑھی اور پھر سیدھے عبداللہ بن خلف خزاعی کے گھر پہنچے جس کا گھر بصرہ میں سب سے بڑا تھا اور عائشہ کو اسی گھر میں رکھا گیا تھا۔

عبد اللہ، عمر کی خلافت کے زمانے میں دیوان بصرہ کا کاتب تھا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ اور عثمان کے بھائی جنگ جمل میں مارے گئے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے پیغمبر کا زمانہ بھی دیکھا تھا (۲) اگرچہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔

جب امام - عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئے اس وقت اس کی بیوی صفیہ بنت حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ گریہ و زاری میں مشغول تھی، عبد اللہ کی بیوی نے امام - کی توہین کی اور آپ کو "قاتل الأحياء" اور "مفرق الجمع" کہا۔ لیکن امام - نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عائشہ کے کمرے میں گئے اور انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئے اور صفیہ نے جو اہانت کی تھی اسے بیان کیا۔ یہاں تک کہ جب امام -

عبد اللہ کے گھر سے نکل رہے تھے اس وقت بھی صفیہ نے دوبارہ توہین کی اس وقت امام - کے دوستوں نے برداشت نہ ہوسکا اور عبداللہ کی بیوی کو دھمکی دی -

امام - نے انہیں اس کام سے منع کیا اور کہا کوئی بھی خبر مجھے نہ ملے کہ تم لوگوں نے عورتوں کو انیت دی ہے۔

(۱) الجمل، ص ۲۱۱ و ۲۱۳۔  
(۲) اسد الغابہ، ج ۲، ص ۱۵۲۔

بصرہ میں امام - کی تقریر

امام - عبداللہ کے گھر سے نکلنے کے بعد شہر کے مرکزی مقام پر گئے بصرہ کے لوگوں نے مختلف پرچم کے ساتھ امام - کے ہاتھوں پر دوبارہ بیعت کی یہاں تک کہ زخمیوں اور وہ لوگ جنہیں امان دی گئی تھی ان لوگوں نے بھی دوبارہ حضرت کی بیعت کی۔ (۱)

امام - پر لازم تھا کہ بصرہ کے لوگوں کو ان کے کام کی غلطیوں اور برائیوں سے آگاہ کریں اسی وجہ سے بصرہ کے تمام افراد آپ کی گفتگو سننے کے لئے آمادہ تھے جب کہ عظمت و نورانیت نے آپ کا احاطہ کر رکھا تھا آپ نے اپنی تقریر شروع کی:

"تم لوگ اس عورت اور اونٹ کے سپاہی تھے جب اس نے تمہیں بلایا تو تم نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور جب وہ قتل ہو گیا تو تم لوگ بھاگ گئے تمہارا اخلاق پست اور تمہارا عہد و پیمان عذر و دھوکہ اور تمہارا دین منافقت اور تمہارا پانی کھارا ہے اور جو شخص تمہارے شہر میں زندگی بسر کرنا چاہے گا وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا اور جو شخص تم لوگوں سے دور رہے گا وہ حق کو پالے گا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کا عذاب زمین و آسمان سے تمہارے اوپر آرہا ہے اور میرے خیال سے تم سب لوگ غرق ہو گئے ہو سوائے مسجد کے مناروں کے، اور اسی طرح کشتی کا وسطی حصہ (سینہ) پانی کے اوپر نمایاں و ظاہر ہے۔ (۲)

پھر آپ نے فرمایا: تمہاری سرزمین پانی سے نزدیک اور آسمان سے دور ہے تمہارے چھوٹوں کی کوئی اہمیت نہیں اور تم لوگوں کی فکریں احقرانہ ہیں تم لوگ (ارادہ میں سستی کی وجہ سے) شکاریوں کا ہدف

(۱) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۵۴۵.

(۲) نہج البلاغہ، خطبہ ۱۳۰.

اور رمت خوروں کے لئے لقمہ لذیذ اور ردرندوں کا شکار ہو۔ (۱)  
پھر آپ نے فرمایا: اے اہل بصرہ، اس وقت میرے بارے میں تم لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟  
اس وقت ایک شخص اٹھا اور رکھا: ہم لوگ آپ کے لئے نیکی و خیر کے علاوہ کوئی دوسری فکر نہیں رکھتے، اگر آپ  
ہمیں سزا دیں تو یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم لوگ گناہگار ہیں اور اگر آپ ہمیں معاف کر دیں گے تو خدا کے نزدیک عفو و  
درگذر بہترین و محبوب چیز ہے۔

امام - نے فرمایا: میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فتنہ و غیرہ سے دور رہو تم لوگ پہلے وہ افراد ہو جنہوں نے بیعت کو توڑ  
دیا اور امت کے ستون کو دو حصوں میں کر دیا گناہوں کو چھوڑ دو اور خلوص دل سے توبہ کر لو۔ (۲)

اچھی نیت عمل کی جانشین ہے

اس وقت امام - کے دوستوں میں سے ایک شخص نے کہا: میری خواہش تھی کہ کاش میرا بھائی یہاں ہوتا تاکہ دشمنوں پر  
آپ کی فتح و کامرانی کو دیکھتا اور جہاد کی فضیلت و ثواب میں شریک ہوتا، امام - نے اس سے پوچھا: کیا تمہارا بھائی دل  
اور فکر سے میرے ساتھ تھا؟  
اس نے جواب دیا: جی ہاں۔

امام - نے فرمایا: "فقد شہدنا و لقد شہدنا فی عسکرنا ہذا اقوام فی أصلاب الرجال و ارحام النساء سیر عفُ بہم الزمان و یقوی بہم  
الایمان"۔ (۳)

تمہارا بھائی بھی اس جنگ میں شریک تھا (اور دوسرے شریک ہونے والے سپاہیوں کی طرح اسے بھی اجر و ثواب ملے  
گا) نہ یہ صرف وہ بلکہ وہ لوگ بھی جو ابھی اپنے باپ کے صلب اور اپنی ماؤں کے رحم میں ہیں اور زمانہ انہینان باتوں  
سے بہت جلدی آشکار کر دے گا اور ایمان ان لوگوں کی وجہ سے قوی ہوگا وہ لوگ بھی اس جنگ میں شریک ہیں۔

(۱) نہج البلاغہ، خطبہ ۵۱۴.

(۲) الجمل، ص ۲۱۸.

(۳) نہج البلاغہ خطبہ ۱۲

امام - کا یہ کلام اصل تربیت و اخلاق حسنہ کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ اچھی اور بری نیت جزا اور سزا کے لحاظ  
سے خود اپنے عمل کی جانشین ہوتی ہے نہج البلاغہ میں دوسرے مقامات پر بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے مثلاً آپ فرماتے  
ہیں:

"ایہا الناس انما یجمع الناس الرضا و السخط - و انما عقر ناقة ثمود رجل و احد فعممہم اللہ بالعذاب لما عموہ بالرضا"۔ (۱)  
اے لوگو! لوگ کبھی ایک عمل سے خوش اور کبھی ایک عمل سے ناخوش ہو کر ایک پرچم کے نیچے جمع ہوتے ہیں۔  
ثمود کے ناقہ کو ایک آدمی نے مارتا تھا لیکن جب عذاب آتا تو سب پر آیا کیونکہ سبھی اس عمل پر راضی تھے۔

بیت المال کی تقسیم

امام - کے لشکر کے سپاہی اس جنگ میں کسی بھی چیز کے مالک نہ بنے بلکہ حقیقت میں یہ جنگ سو فیصد الہی جنگ  
تھی۔ لہذا امام - نے دشمن کے اسلحوں کے علاوہ تمام چیزیں خود انہی لوگوں کو واپس کر دیں۔ اس وجہ سے ضروری تھا کہ  
بیت المال ان کے درمیان تقسیم کی جائے۔ جب امام - کی ننگابناس پر پڑیں تو آپ نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارتے  
ہونے کہا: "غری غیری" (یعنی جاؤ دوسروں کو دھوکہ دو) بیت المال مینکل چھ لاکھ درہم تھے، آپ نے تمام درہموں کو اپنے  
سپاہیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ہر ایک کو پانچ سو درہم ملے جب امام تقسیم کر چکے تو پانچ سو درہم باقی بچا اسے  
امام نے اپنے لئے رکھ لیا چنانکہ ایک شخص وارد ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی اس جنگ میں شریک تھا لیکن اس  
کا نام فہرست میں لکھنا رہ گیا تھا۔ امام - نے وہ پانچ سو درہم اسے دے دیا، اور فرمایا: خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس مال

سے میں نے کچھ اپنے لئے حاصل نہیں کیا۔(۲)

(1) نبی البلاغہ خطبہ ۲۰۰  
(2) تاریخ طبری ج ۳، ص ۵۴۷۔

عائشہ کو مدینہ روانہ کرنا

رسول خدا (ص) سے نسبت رکھنے کی وجہ سے عائشہ کا ایک خاص احترام تھا امام - نے ان کے مقدمات سفر، مثلاً سواری، راستے کا خرچ ، آمادہ کیا اور محمد بن ابوبکر کو حکم دیا کہ اپنی بہن کے ساتھ رہیں اور انہیں مدینہ پہنچائیں اور آپ کے جتنے بھی دوست مدینہ کے تھے او مدینہ واپس جانا چاہتے تھے انہیں اجازت دیا کہ عائشہ کے ہمراہ مدینہ جائیں امام - نے صرف اتنا ہی انتظام نہ کیا بلکہ بصرہ کی چالیس عظیم عورتوں کو عائشہ کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔

سفر کی تاریخ پہلی رجب المرجب ۳۶ھ بروز شنبہ معین ہوئی اس مختصر سے قافلے کے روانہ ہوتے وقت اکثر لوگ کچھ دور تک ان کے ساتھ گئے اور خدا حافظی کیا:

عائشہ امام - کی بے انتہا محبت دیکھ کر متاثر ہوئیں اور لوگوں سے کہا: اے میرے بیٹو! ہم میں سے بعض لوگ، بعض لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں لیکن یہ کام زیادہ نہیں ہونا چاہئے خدا کی قسم، میرے اور علی کے درمیان۔ ایک عورت اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگرچہ وہ میرے غیض و غضب کا شکار ہوئے ہیں۔ مگر وہ نیک اور اچھے لوگوں میں سے ہیں۔

امام - نے عائشہ کی بات سن کر شکر یہ ادا کیا اور فرمایا: لوگو وہ تمہارے پیغمبر کی بیوی ہیں پھر آپ نے کچھ دور تک ان کی ہمرابی کی اور خدا حافظ کہا۔

شیخ مفید لکھتے ہیں:

"چالیس عورتیں جو عائشہ کے ہمراہ مدینہ گئیں ظاہراً انہوں نے مردوں کا لباس پہن رکھا تھا تاکہ اجنبی لوگ انہیں مرد سمجھیں اور کسی کے ذہن میں بھی ناروا باتیں ان کے متعلق یا پیغمبر کی بیوی کے متعلق خطور نہ کریں اور عائشہ نے بھی یہی سوچا کہ علی نے مردوں کو ان کی حفاظت کے لئے بھیجا ہے مستقل اس کام کے لئے شکوہ کر رہی تھیں - جب مدینہ پہنچیں اور دیکھا کہ سب عورتیں جنہوں نے مردوں کا لباس پہن رکھا ہے تو اپنے اعتراض کے لئے عذر خواہی کی اور کہا: خدا ابوطالب کے بیٹے کو نیک اجر عطا کرے کہ میرے متعلق رسول خدا کی حرمت کا خیال رکھا۔(۱)

(۱) الجمل ، ص ۲۲۱۔

حاکموں کو منصوب کرنا

عثمان کی خلافت کے دور میں مصر کا حاکم عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح تھا اور مصریوں کی خلیفہ کے اوپر حملہ کرنے کی ایک وجہ اس کے برے اور بے ہودہ اعمال تھے یہاں تک کہ جب وہ مصر سے نکالا گیا اس وقت محمد بن ابی حذیفہ مصر میں تھے اور ہمیشہ حاکم مصر اور خلیفہ پر اعتراض کرتے تھے۔ جب مصر کے لوگوں نے خلیفہ پر حملہ کرنے کے لئے مدینہ کا سفر کیا اس وقت مصر کے تمام امور کی ذمہ داری محمد بن حذیفہ کے حوالے کر دی اور وہ اس منصب پر باقی تھے یہاں تک کہ امام - نے قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر کے امور کی انجام دہی کے لئے منصوب کیا۔

طبری کا کہنا ہے کہ جس سال جنگ جمل ہوئی اسی سال قیس مصر گئے، لیکن بعض مؤرخین مثلاً ابن اثیر (۱) وغیرہ کا کہنا ہے کہ قیس ماہ صفر میں مصر بھیجے گئے اگر اس صفر سے مراد ، صفر ۳۶ھ ہے تو یقیناً قیس واقعہ جمل سے پہلے



گئے اور اگر صفر ۳۷ھ مراد ہے تو وہ واقعہ جمل کے چھ مہینے کے بعد گئے جب کہ طبری نے قیس کے جانے کی تاریخ و سال کو ۳۶ھ ہی لکھا ہے اور یہ واقعہ جمل کا سال ہے۔

جی ہاں، امام - نے خلید بن قرہ یربوعی کو خراسان کا حاکم اور ابن عباس کو بصرہ کا حاکم معین کیا اور پھر ارادہ کیا کہ بصرہ سے کوفہ کا سفر کریں۔

کوفہ جانے سے پہلے آپ نے جریر بن عبداللہ بجلي کو شام روانہ کیا کہ معاویہ سے گفتگو کریں، تاکہ وہ مرکزی حکومت کی پیروی کا اعلان کرے جس حکومت کے رئیس امام - تھے۔ (۲) چونکہ بصرہ کی ایک خاص اہمیت تھی اور شیطان نے وہاں اپنی شیطنیت کا بیج بودیا تھا لہذا امام نے ابن عباس کو حاکم بصرہ اور زیاد بن ابیہ کو جزیہ جمع کرنے کی ذمہ داری اور ابو الاسود دؤلی کو ان دونوں کاجانشین و مددگار قرار دیا۔ (۱)

امام - نے ابن عباس کو لوگوں کے سامنے بصرہ کا حاکم بنانے وقت بہترین اور عمدہ تقریر کی جسے شیخ مفید نے اپنی کتاب "الجمل" میں نقل کیا ہے۔ (۳)

طبری کہتا ہے کہ امام نے ابن عباس سے کہا: "اضرب بمن أطاعک من عصاک و ترک أمرک"۔ (۴)

(۱) تاریخ ابن اثیر، ج ۳، ص ۲۶۸۔

(۲) تاریخ ابن اثیر، ج ۳، ص ۵۶۰۔ ۵۴۶۔

(۳) (۲) تاریخ جمل، ص ۳۲۴۔

(۴) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۵۴۶۔

اطاعت کرنے والوں میں گناہ کرنے والوں کو اور رجو لوگ تمہارے حکم کی پیروی نہ کریں انہیں سخت سزا دینا۔ جس وقت امام - بصرہ سے سفر کر رہے تھے اس وقت خدا سے یہ دعا و مناجات کر رہے تھے، "الحمد لله الذی أخرجنی من أخبث البلاد" خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں خبیث ترین شہر سے دور کر دیا۔

اس طرح امام - کی حکومت سے پہلی مشکل و آفت ختم ہو گئی اور آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ معاویہ کے فاسد نقشوں اور اردوں کو پامال کرنا اور اسلام کی وسیع ترین سرزمین کو فاسد عناصر اور خود غرض لوگوں سے پاک کریں۔

فروع ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### گیارہویں فصل

کوفہ، حکومت اسلامی کا مرکز

اسلام کا سورج مکہ سے طلوع ہوا اور تیرہ سال گذر جانے کے بعد یثرب (مدینہ) میں ظاہر ہوا اور دس سال اپنی نورانی کرنوں کو بکھیرنے کے بعد غروب ہو گیا جب کہ افق کی تازگی شبہ جزیرہ کے لوگوں کے لئے کھلی اور سرزمین حجاز خصوصاً شہر مدینہ دینی اور سیاسی مرکز کے نام سے مشہور ہو گیا۔

پیغمبر اسلام ﷺ کی رحلت کے بعد مہاجرین و انصار کے ذریعے خلفاء کے انتخاب نے ثابت کر دیا کہ مدینہ اسلامی خلافت کا مرکز قرار پائے اور خلفاء اپنے نمائندوں اور حاکموں کو اپنے تمام اطراف و جوانب روانہ کر کے وہاں کے امور کی تدبیر کریں۔ اور ملکوں کو فتح کر کے تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اسلام کو پھیلائیں۔

امیر المومنین -، صاحب رسالت کے منصوب و معین کرنے کے علاوہ، مہاجرین و انصار کے ہاتھوں بھی منتخب ہوئے تھے آپ نے بھی خلفاء ثلاثہ کی طرح مدینہ کو اسلامی مرکز قرار دیا اور وہیں سے تمام امور و احکام کی نشر و اشاعت شروع کی۔ آپ نے اپنی خلافت کے آغاز میں اسی طریقے کو اپنایا اور خطوط بھیجنے، اور عظیم شخصیتوں کو روانہ کر کے، اور دنیا پرستوں کو منصب سے دور کر کے، اور ولولہ انگیز اور تربیتی خطبوں کے ذریعے، اسلامی معاشرے کے

تمام امور کو آگے بڑھایا اور اسلامی نظام میں ۲۵ سال یعنی ابوبکر کی خلافت کے ابتدائی دور سے عثمان کے دور تک جو خرابیاں، انحرافات وغیرہ داخل ہو گئے تھے ان کی اصلاح میں مشغول تھے کہ اچانک مسئلہ ناکثین یعنی ان لوگوں کا عہد و پیمانہ توڑنا جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی بیعت کی تھی، پیش آگیا اور بہت خطرناک اور دل دہلا دینے والی خبریں امام - کو ملیں اور پتہ چلا کہ ناکثین نے بنی امیہ کی مالی مدد اور پیغمبر کی بیوی کے احترام کی بنا پر عراق کے جنوبی حصہ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور بصرہ پر قبضہ کر کے امام - کے بہت سے نمائندوں اور کارمندوں کو ناحق قتل کر دیا ہے۔

یہی چیز سبب بنی کہ امام - ناکثین کی تنبیہ اور ان کی مدد کرنے والوں کو سزا دینے کے لئے مدینہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوں اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بصرہ کے نزدیک پڑاؤ ڈالیں ، جنگ کی آگ حقیقی سپاہیوں اور ناکثین کے باطل سپاہیوں کے درمیان پھیل گئی اور بالآخر حقیقی فوج کامیاب ہو گئی اور حملہ و فساد برپا کرنے والوں کے سردار مارے گئے اور ان میں سے کچھ لوگ بھاگ گئے اور بصرہ پھر حکومت اسلامی کی آغوش میں آ گیا اور وہاں کے تمام امور کی ذمہ داری امام - کے ساتھیوں کے ہاتھ میں آ گئی ، شہر اور لوگوں کے حالات معمول پر آ گئے اور مفسر قرآن اور امام کے ممتاز شاگرد ابن عباس بصرہ کے حاکم مقرر ہوئے۔

ظاہری حالات سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ امام - جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے مدینہ واپس جائیں اور پیغمبر ﷺ کے روضہ اطہر کے کنارے اور بعض گروہوں اور صحابیوں کے رائے و مشورہ سے اسلامی معارف کی نشر و اشاعت ، اور معاشرے میں بیمار افراد کی خیر گیری اور حالات دریافت کریں، اور سپاہیوں کو مختلف شہروں میں روانہ کریں، تاکہ اسلامی قدرت نفوذ کرے۔ اور خلافت کے امور کو انجام دینا اور ایک دوسرے سے ہر طرح کے اختلافات سے پرہیز کریں لیکن یہ ظاہر قضیہ تھا کہ شخص امام علیہ السلام کی ظاہری حالت سے یہی سمجھ رہا تھا خصوصاً اس زمانہ میں مدینہ کچھ زیادہ ہی تقویٰ اور قداست کے لئے معروف تھا کیونکہ اسلام کا واقعی مولد ، اور خدا کا پیغام لانے والے کا مدفن ، اور مہاجرین و انصار میں صحابیوں کا مرکز تھا جن کے ہاتھوں میں خلیفہ کو منتخب کرنا اور معزول کرنا تھا، ان تمام حالات کے باوجود امام علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تا کہ کچھ دن وہاں قیام کریں اور امام علیہ السلام نے جو اپنے دوستوں کے رائے مشورے سے کوفہ کا انتخاب کیا اس کی دو وجہیں تھیں : امام علیہ السلام بہت زیادہ افراد کے ساتھ مدینہ سے چلے تھے اور بعض گروہ درمیان راہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے لیکن آپ کے اکثر سپاہی اور چاہنے والے کوفہ اور اس کے اطراف کے رہنے والے تھے کیونکہ امام علیہ السلام نے ناکثین کو شکست دینے کے لئے پیغمبر کے بزرگ صحابی عمار یاسر اور اپنے عزیز فرزند امام حسن علیہ السلام کے ذریعہ اہل کوفہ سے مدد مانگی تھی اور کوفہ اس وقت عراق کا ایک اہم شہر تھا اور بہت زیادہ گروہ اس علاقے سے امام علیہ السلام کی مدد کیلئے اپنے اپنے نمائندوں کے ہمراہ حاضر ہوئے تھے (۱)۔

(۱) مسعودی لکھتا ہے کہ امام علیہ السلام کے لشکر میں جو کوفہ کے افراد شامل ہوئے ان کی تعداد سات ہزار (۷۰۰۰) تھی اور ایک اور قول کی بناء پر ۶۵۶۰ تھی (مروج الذهب جلد ۲ ص ۳۶۸) یعقوبی نے بھی ان کی تعداد ۶۰۰۰ لکھی ہے (تاریخ یعقوبی ج ۲، ص ۱۸۲) ابن عباس کہتے ہیں . جب ہم لوگ ذی قار پہنچے تو ہم نے امام علیہ السلام سے کہا کہ کوفہ سے بہت کم لوگ آپ کی مدد کیلئے آئے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ۶۵۰ افراد بغیر کسی کمی زیادتی کے میری مدد کرنے آئیں گے، ابن عباس کہتے ہیں . میں نے ان کی تعداد پر تعجب کیا اور ارادہ کیا یقیناً اسے شمار کروں گا ، ۱۵، دن ذی قار میں قیام کیا یہاں تک کہ گھوڑے اور چروں کی آوازیں آنے لگیں اور کوفہ کا لشکر پہنچ گیا ، میں نے انہیں باقاعدہ شمار کیا تو دیکھا ہاں لکل وہی تعداد ہے جسے امام علیہ السلام نے بتایا تھا میں نے تکبیر کہی، اللہ اکبر صدق اللہ رسولہ۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ، ج ۲، ص ۱۸۷۔

اگرچہ بعض گروہ مثلاً ابو موسیٰ اشعری اور اسکے ہم فکروں نے امام کی مدد کرنے سے سے پرہیز کیا اور اپنے قول و فعل سے لوگوں کو جہاد میں جانے سے منع کیا اور جب امام علیہ السلام ناکثین سے جنگ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دشمنوں کو بے بس کر دیا تو اب حق یہ تھا کہ ان لوگوں کے گھریلو حالات اور زندگی سے باخبر ہوں ، اور جنگ اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا شکر یہ اور جہاد میں جانے سے منع کرنے والوں کی مذمت کریں ۔

۲۔ امام علیہ السلام بخوبی اس بات سے باخبر تھے کہ عہدو پیمانہ توڑنے اور شورش کرنے والوں کے گناہ کاسبب معاویہ ہے کیونکہ اسی نے عہدو پیمانہ توڑنے کی رغبت دلائی تھی اور دھوکہ دے کر غائبانہ طور پر ان کی بیعت لی تھی یہاں تک کہ اس نے زبیر کو جو خط لکھا تھا اس میں شورش کے تمام راستوں کو مکمل بیان کیا تھا اور لکھا تھا کہ شام کے

لوگوں سے ہم نے تمہاری بیعت لے لی ہے اور جتنی جلدی ہو کوفہ اور بصرہ پر قبضہ کرلو اور عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے قیام کرو اور کوشش کرو کہ ابو طالب کے بیٹے کا قبضہ ان دونوں شہروں پر نہ ہونے پائے۔  
اب جب کہ اس باغی و سرکش کا تیر نشانے پر نہ لگا اور شورشیں ختم ہو گئیں تو ضروری ہو گیا کہ جتنی جلد سے جلد اس فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور بنی امیہ کے شجرہ ملعونہ کی شاخ کو اسلامی معاشرے کے پیکر سے دور کر دیں، شام سے نزدیک شہر کوفہ ہے اس کے علاوہ، کوفہ عراق کا سب سے زیادہ لشکر خیز اور امام علیہ السلام کے فدائیوں کا مرکز تھا، اور امام علیہ السلام دوسری جگہوں سے زیادہ ان لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے امام \* نے اپنے ایک خطبے میں اس طرف اشارہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں: واللہ ما ائتیکم اختیارا ولكن جنت الیکم سونا" (۱)۔  
یعنی خدا قسم میں اپنی خواہش سے تمہاری طرف نہیں آیا بلکہ مجبوری کی وجہ سے آیا ہوں، یہی دو وجہیں سبب بنیں کہ امام علیہ السلام نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور خلافت اسلامی کے مرکز کو مدینہ سے عراق منتقل کر دیا، اسی وجہ سے آپ ۱۲، رجب ۳۶ھ دوشنبہ کے دن بصرہ کے بعض بزرگوں کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوئے، کوفہ کے لوگ اور ان میں سب سے آگے قرآن کے قاریوں اور شہر کی عظیم شخصیتوں نے امام علیہ السلام کا استقبال کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا اور امام علیہ السلام کے رہنے کے لئے "دارالامارہ" کا

### (۱) نبج البلاغہ خطبہ، ۷۰

انتخاب کیا اور اجازت لی کہ امام علیہ السلام کو وہاں لے جائیں اور امام علیہ السلام وہاں قیام کریں، لیکن امام نے قصر میں داخل ہونے سے منع کیا، کیونکہ اس کے پہلے وہ ظالموں اور ستمگروں کا مرکز تھا، آپ نے فرمایا، قصر تباہی و بربادی کا مرکز ہے، اور بالآخر امام علیہ السلام نے اپنی پھوپھی بیہن جعدہ بنت ہبیرہ مخزومہ کے گھر کو قیام کے لئے چنا (۱)۔  
امام علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ "رحبہ" نامی مقام پر جمع ہوں، کیونکہ وہ ایک وسیع میدان تھا اور آپ بھی اپنی سواری سے وہیں پر اترے، سب سے پہلے آپ نے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی اور پھر منبر پر تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کی اور پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجا اور پھر اپنی تقریر اس طرح شروع کی،  
"اے کوفہ کے لوگو، اسلام میں تمہارے لئے فضیلتیں ہیں مگر شرط یہ ہے کہ اسے تبدیل نہ کرنا، میں نے تم لوگوں کو حق کی دعوت دی اور تم نے اس کا مثبت جواب دیا، برائی کو شروع کیا لیکن پھر اسے بدل دیا... تم لوگ ان کے پیشوا ہو جو تمہاری دعوتوں کو قبول کریں اور جس چیز میں تم داخل ہونے ہو وہ بھی داخل ہوں، سب سے بدترین چیز یجن پر عذاب سے ڈرتا ہوں وہ دو چیز ہیں ایک خواہشات نفس کی پیروی، دوسرے لمبی لمبی امیدیں، خواہشات نفس، پیروی حق سے دور کرتی ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا تیزی سے منہ موڑ چکی ہے اور آخرت سامنے آگئی ہے اور ان میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں تم آخرت کی اولاد بن جاؤ (دنیا کی اولاد نہ بنو) آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں کل حساب کا دن ہوگا عمل کا وقت نہ ہوگا۔  
خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے اپنے ولی کی مدد کی اور دشمن کو ذلیل خوار کیا اور سچے اور ایماندار کو عزیز اور عہدو پیمان توڑنے والوں اور اہل باطل کو ذلیل کیا، تم لوگوں کے لئے لازم ہے کہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو اور اس شخص کی اطاعت کرو جس نے خاندان پیغمبر خدا کی اطاعت کی ہے، کیونکہ یہ گروہ اطاعت کے لئے بہتر اور شانستہ ہیں بہ نسبت ان لوگوں کے جو خود کو اسلام اور پیغمبر سے نسبت دیتے ہیں اور خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سے مقابلے کے لئے قیام کرتے ہیں، اور جو فضیلتیں ہم سے ان تک پہنچی

### (۱) وقعہ صفین، ص ۸۔

ہیں ان سے ہم پر اپنی فضیلت ثابت کرتے ہیں اور ہماری عظمت و رفعت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ خود اپنی سزا کو پہنچیں گے اور بہت ہی جلدی اپنی گمراہی کے نتیجے میں آخرت کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔  
آگاہ رہو کہ تم میں سے بعض گروہوں نے ہماری نصرت و مدد کرنے سے انکار کیا میں ان کی سرزنش و مذمت کرتا ہوں تم

لوگ ان لوگوں سے اپنا رابطہ ختم کر دو اور جس چیز کو وہ دوست نہیں رکھتے ان چیزوں کو ان کے کانوں تک پہنچادو تاکہ لوگوں کی رضایت حاصل کریں، اور خدا کا گروہ شیطان کے گروہ سے پہچانا جاسکے (یعنی دونوں کا فرق واضح ہو جائے) (۱)

(۱) وقعة صفین، ص ۱۳، نبیح البلاغہ عبده خطبہ نمبر ۲۷ و ۴۱، مرحوم مفید کتاب ارشاد، ص ۱۲۴ میں اس خطبے کے ابتدائی حصے کو نقل نہیں کیا ہے۔

### حکمرانوں کا عادلانہ تعین

امام علیہ السلام کا کوفیوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا بعض شدت پسند انقلابیوں کو پسند نہیں آیا اسی وجہ سے امام علیہ السلام کی فوج کا سردار مالک بن حبیب یر بوعی اٹھا اور اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ میری نگاہ میں ان لوگوں کو اتنی ہی سزا دینا کافی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان سب کو قتل کر دوں، امام علیہ السلام نے سبحان اللہ کہتے ہوئے اسے سخت تنبیہ کی اور فرمایا حبیب، تم نے حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے۔ حبیب پھر اٹھا اور کہا حد سے تجاوز اور عمل میں شدت ناگوار حادثوں کو روکنے، اور دشمنوں کے ساتھ نرمی اور ملائمت کرنے سے زیادہ مؤثر ہے۔

امام علیہ السلام نے اپنے منطقی اور حکیمانہ ارشاد سے اس کی ہدایت کی اور کہا: خدا نے ایسا حکم نہیں دیا ہے کہ انسان، انسان کے مقابلے میں مارا جائے گا اب ظلم و تجاوز کی کی پھر کہاں جگہ ہوگی؟ خداوند عالم فرماتا ہے۔

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ نَهْ كَانَ مَنصُورًا (سورة اسراء آية ۳۳)

اور جو شخص مظلوم قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو حق قصاص دیا ہے مگر قتل میں مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرے۔

### سیاسی آزادی

جن مخالفین کوفہ نے امام علیہ السلام اور پولیس کے رئیس کے درمیان ہونے والی گفتگو اور علی علیہ السلام کی عدالت کا مشاہدہ کیا اور سیاست کے کھلے ہوئے ماحول کو دیکھا تو اپنی مخالفت کی علت کو بیان کیا:

۱۔ مخالفوں میں سے ایک شخص ابو بردہ بن عوف اٹھا اور امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل نہ ہونے کی وجہ مقتولین جنگ جمل سے متعلق سوال کے ضمن میں بتائی۔ اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ نے طلحہ و زبیر کے اطرافیوں کے کشتہ شدہ اجسام کو دیکھا ہے؟ وہ کیوں قتل کیے گئے؟ امام علیہ السلام نے علت بیان کرتے ہوئے سائل کے اعتماد کو جذب کرتے ہوئے فرمایا۔ ان لوگوں نے ہماری حکومت کے ماننے والوں اور نمائندوں کو قتل کیا عظیم شخصیت ربیعہ عابدی کو دوسرے دیگر مسلمانوں کے ساتھ قتل کر دیا مقتولین کا جرم یہ تھا کہ ہجوم لانے والوں کو عہدوپیمان توڑنے والا کہا اور کہا کہ اس طرح وہ اپنے عہدوپیمان کو نہیں توڑیں گے اور اپنے امام کے ساتھ اس طرح مکرو فریب نہیں کریں گے، میں نے ناکثین سے کہا کہ ہمارے نمائندوں کے قاتل کو ہمارے حوالے کریں تا کہ ان سے قصاص لیں۔ اور ہمارے اور ان کے درمیان خدا کی کتاب فیصلہ کرے گی لیکن ان لوگوں نے قاتلین کو ہمارے حوالے نہیں کیا اور ہم سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے جبکہ وہ لوگ ہماری بیعت کر چکے تھے اور ہمارے ہزاروں دوستوں کو قتل کر دیا تھامیں بھی ان قاتلوں کا بدلہ لینے اور ناکثین کی شورشوں کو خاموش کرنے کے لئے جنگ پر آمادہ ہو گیا اور ان کی شورشوں کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیا، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ سائل نے کہا میں آپ کی حقانیت کے بارے میں مشکوک تھا لیکن اس بیان کو سننے کے بعد ان لوگوں کی غیر مناسب روش مجھ پر آشکار ہو گئی اور میں نے سمجھ لیا کہ آپ ہدایت یافتہ اور باریک بین ہیں۔ (۱)

سیاست کا کون سا ماحول اس سے زیادہ آزاد ہوگا کہ جہاد کی مخالفت کرنے والے، سرداروں اور امام علیہ السلام کے درمیان اپنی مخالفت کی علت کو، جو حاکم کی حقانیت کے بارے میں مشکوک تھا، بصورت سوال و جواب بیان کرے، اور

اس کا جواب طلب کرے،؟ اس کے با وجود کہ سوال کرنے والا قبل اس کے کہ علوی ہو عثمانی تھا اور بعد میں کئی مرتبہ علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک رہا لیکن باطن میں معاویہ کا

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۱۰۴، وقعہ صفین، ص ۱۰۵

چاہنے والا اور جاسوس تھا لہذا امام علیہ السلام کی شہادت اور معاویہ کا عراق پر قبضہ ہونے کے بعد اپنی خدمتوں کے صلے میں جو اس نے معاویہ کے لئے انجام دی تھی ایک بڑی زمین "فلوجہ" (۱) جیسے منطقہ میں اس کے نام لکھ دی گئی۔ (۲)

۲۔ سلیمان بن صرد خزاعی، جو پیغمبر کے صحابی تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جنگ جمل میں امام علیہ السلام کی حمایت نہیں کی تھی اور مخالفت کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور علی علیہ السلام نے ان کی ملامت کی اور کہا میری حقانیت کے متعلق تم نے شک کیا اور میرے لشکر میں شامل ہو نے سے انکار کر دیا جب کہ میں نے تمہیں بہت اچھا اور بہتر سمجھا تھا کہ تم ہماری خوب نصرت کرو گے، کس چیز نے تمہیں اہل بیت پیغمبر کی مدد کرنے سے روکا ہے اور ان کی نصرت و مدد کرنے سے تمہیں بے رغبت کر دیا ہے؟

سلیمان نے احساس شرمندگی کے ساتھ عذر خواہی کی اور کہا، تمام امور کو پشت پردہ نہ ڈالئیے (اور پچھلی باتوں کو نہ دہرائیے) اور مجھے ان کی وجہ سے شرمندہ اور مذمت نہ کیجئے، میری محبت و مروت کو اپنی نظر میں رکھئیے میں آپ کی مخلصانہ مدد کروں گا ابھی تمام کام ختم نہیں ہوئے ہیں اور ابھی بہت سے امور باقی ہیں جن میں دوست اور دشمن کو پہچان لینگے۔

امام علیہ السلام نے سلیمان کی توقع کے خلاف اور عذر خواہی کے مقابلے میں خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا، سلیمان تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر امام مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے اور کہا امام علیہ السلام کی تنبیہ اور ملامت سے آپ کو تعجب نہیں ہو رہا؟ امام کے دلہند نے بڑی نوازش کی اور بڑے نرم لہجہ میں فرمایا ان لوگوں کی زیادہ سرزنش کی جاتی ہے جن کی دوستی اور مدد کی امید ہو تی ہے، اس وقت اس عظیم صحابی نے دوسری شورشوں کی بھی خبر دی کہ جو امام علیہ السلام کے خلاف برپا ہوگی اور ان دنوں مخلص و پاکیزہ افراد د مثل سلیمان کی زیادہ ضرورت پڑے گی پھر کہا: ابھی وہ واقعہ باقی ہے کہ جس میں دشمن کے نیزے ہوں گے اور تلواریں میانوں سے باہر بوجائیں گی، اس جنگ میں مجھ جیسے افراد کی زیادہ ضرورت ہوگی، اس

(۱) فلوجہ: عراق کا بہترین اور وسیع ترین علاقہ ہے جو عین النمر کے نزدیک ہے اور کوفہ و بغداد کے درمیان میں واقع ہے۔  
(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۱۰۴۔

کسب رضا میں دھوکہ کا تصور نہ کریں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا تجھ پر رحمت نازل کرے ہم ہرگز تم کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے۔ (۱)

سلیمان بن صرد نے اس کے بعد کبھی بھی اہلبیت پیغمبر کے دفاع سے گریز نہیں کیا انہوں نے امام علی علیہ السلام کے ہمراہ جنگ صفین میں شرکت کی اور میدان جنگ میں شام کے سب سے بڑے پہلوان "حوشب" کو قتل کیا، معاویہ کے مرنے کے بعد انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ کو عراق آنے کی دعوت دی اگر چہ انہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے میں کو تابی کی، لیکن اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لئے بعنوان "توابین" چار ہزار کا لشکر تیار کر کے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لئے قیام کیا اور ۶۵ھ میں "عین ابو وردہ" علاقے میں شام کی طرف سے آنے والے عظیم لشکر سے جنگ کی اور شہید ہوئے۔ (۲)

۳۔ محمد بن مخنف کہتے ہیں: امام علیہ السلام کے کوفہ آنے کے بعد میناپنے بابا کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، وہاں پر عراق کی بہت سی شخصیتیں اور قبیلوں کے سردار موجود تھے ان سب نے ناکثین کے مقابلے میں جنگ کرنے سے مخالفت کی تھی، امام علیہ السلام نے ان کی مذمت کی اور کہا تم لوگ اپنے قبیلے کے سردار ہو کیوں تم نے جنگ میں شرکت نہیں کی؟ اگر تم لوگوں کی نیتوں میں کھوٹ تھاتو تم سب نقصان میں ہو اور اگر میری حقانیت اور مدد کے

بارے میں مشکوک تھے تو تم سب ہمارے دشمن ہو، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آپ کے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں۔ پھر اس وقت سب نے اپنا اپنا عذر پیش کیا مثلاً کسی نے بیماری کا بہانہ بنایا تو کسی نے مسافرت کا بہانہ بنایا، امام علیہ السلام نے ان کا عذر سن کر خاموشی اختیار کر لی لیکن میرے بابا کی خدمات کو سراہا اور ہمارے قبیلے کا شکر یہ ادا کیا اور کہا مخنف بن سلیم اور اس کا قبیلہ، اس گروہ کی طرح نہیں ہے جس کی قرآن اس طرح سے توصیف کر رہا ہے:

وَمَنْ مِّنْكُمْ لَمَنْ لَّيْبُطُنَّ فَانْ صَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَمْ كُنْ مَعَهُمْ شَرِيحًا (۷۲) وَلَئِنْ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی ج ۳ ص ۱۰۶۔ مراد الاطلاع۔

(۲) مروج الذهب ج ۳ ص ۱۰۱۔۱۰۲۔

مَوَدَّةً بَالِيَّتِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَافُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. (سورہ نساء آیت ۷۲ و ۷۳)۔ (۱)

اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو (جہاد سے) پیچھے ہٹیں گے پھر اگر (اتفاقاً) تم پر کوئی مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے خدا نے ہم پر بڑا فضل کیا کہ ان میں (مسلمانوں) کے ساتھ موجود نہ ہوا اور اگر تم پر خدا نے فضل کیا (اور دشمن پر غالب آئے) تو اس طرح اجنبی بن گئے گویا تم میں اور اس میں کبھی کی محبت ہی نہ تھی یوں کہنے لگا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔

بالآخر امام علیہ السلام نے ان تمام تحقیق و تفحص اور عذر قبول کرنے یا ان کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنے بعد اعلان کیا کہ اس مرتبہ تم لوگ معاف کر دینے گئے اور تم لوگوں کے عذر کو قبول کر لیا لیکن آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوں، اگر امام علیہ السلام اتنا زیادہ ملامت و سرزنش نہیں کرتے تو ممکن تھا کہ یہ گروہ آئندہ بھی مخالفتیں کرتا۔

(۱) وَقَعَنهُ صَفِين، ص ۱۰، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۱۰۷۔۱۰۶

کوفہ کی نماز جمعہ میں امام علیہ السلام کا پہلا خطبہ

امام علیہ السلام نے کوفہ میں داخل ہونے کے بعد نماز پڑھانا چاہی اور پوری نماز پڑھی اور جمعہ کے دن نماز جمعہ کوفہ کے لوگوں کے ہمراہ پڑھی اپنے خطبے میں کوفیوں سے مخاطب ہوئے اور خدا کی حمد و ثناء اور پیغمبر اسلام (ص) پر درور و سلام کے بعد فرمایا: میں تم لوگوں کو تقویٰ کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ تقویٰ بہترین چیز ہے کہ جس کا خداوند عالم نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور خداوند عالم کی رضایت اور نیکی حاصل کرنے کا یہ بہترین وسیلہ ہے تم لوگوں کو تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے اور تم لوگ خدا کی نیکی اور اس کی اطاعت کرنے کیلئے پیدا کئے گئے ہو۔۔۔

اپنے تمام امور کو خدا کے لئے بغیر کسی ریا اور شہرت طلبی کے انجام دو، جو شخص بھی غیر خدا کے لئے امور انجام دے گا خداوند عالم اسے اسی کے حوالے کرے گا جس کے لئے اس نے وہ کام انجام دیا ہے، اور جو شخص خدا کے لئے کام انجام دے گا خدا خود اس کا اجر عطا کرے گا۔ خدا کے عذاب سے ڈرو کہ تم کو بیہودہ اور عبث پیدا نہیں کیا ہے خدا تمہارے تمام کاموں سے آگاہ ہے اور تمہاری زندگی کے ایام کو معین کیا ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا کیونکہ دنیا اپنے متوالوں کو دھوکہ دیتی ہے اور مغرور وہ شخص ہے جسے دنیا مغرور کر دے۔

دوسری دنیا حقیقی جگہ ہے اگر لوگ جانتے ہوتے۔

خدا سے دعا کرتا ہوں کہ شہداء جیسا مقام اور پیغمبر اسلام کی ہمنشینی اور اچھے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ (۱)

حاکموں کو روانہ کرنا

امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ میں قیام کرنے کے بعد ان اسلامی سرزمینوں پر جن پر اب تک آپ کی جانب سے کوئی

بھی نمائندہ یا حاکم نہیں گیا تھا، صالح و متدین شخص کو وہاں روانہ کیا، تاریخ نے ان افراد کے نام و خصوصیات اور ان کے محل قیام کو اپنے دامن میں درج کیا ہے۔ (۲)

مثلاً خلید بن قرہ کو خراسان روانہ کیا، جب خلید نیشاپور پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ شاہ کسریٰ کے باقی افراد جو اس زمانے میں افغانستان کے شہر کابل میں زندگی بسر کر رہے تھے وہ لوگ فعالیت کر رہے ہیں اور لوگوں کو حکومت اسلامی کے خلاف قیام کرنے کے لئے آمادہ کر رہے ہیں، امام علی - کے نمائندے نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان کو نیست و نابود کیا اور کچھ لوگوں کو اسیر کر کے کوفہ بھیج دیا۔ (۳)

امام - نے تمام اسلامی علاقوں میں اپنے نمائندوں کو بھیجا لیکن شام میں معاویہ کی مخالفت زخم میں ہڈی کی طرح باقی رہی اور ضروری تھا کہ اس سلسلے میں جلد سے جلد کوئی تدبیر کی جاتی۔

قبل اس کے کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت کے اس تاریخی حصے کو بیان کیا جائے کوفہ میں جو بہترین واقعہ پیش آیا اسے بیان کیا جائے، امام علی - نے عراق کے لوگوں سے ملاقات کے بعد ان کے کچھ گروہ کے ساتھ روبرو ہوئے جو مدنوں سے خاندان کسریٰ کے زیر نظر تھے، امام - نے ان سے پوچھا کہ خاندان کسریٰ کے کتنے لوگوں نے تم پر حکومت کیا ہے ان لوگوں نے جواب دیا ۳۲ بادشاہوں نے ہم پر حکومت کی ہے۔ امام - نے ان کی حکومت کرنے کا طور و طریقہ پوچھا ان لوگوں نے جواب دیا، ان سب کی ایک ہی روش تھی لیکن ہرمز کے بیٹے کسریٰ نے ایک خاص روش اختیار کی اس نے ملک کی ساری دولت و ثروت کو اپنے سے مخصوص کر لیا اور ہمارے بزرگوں کی مخالفت کرنے لگا۔ جو چیزیں لوگوں کی ضرورت تھیں انہیں ویران

(۱)، (۲) وقعة صفین ص ۱۴-۱۵؛ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۰۸ تاریخ طبری ج ۳ جزء ۵ ص ۲۳۳۔  
(۳) وقعة صفین، ص ۱۲۔

کردیا اور جو چیز اس کے لئے فائدہ مند تھی اسے آباد کر دیا۔ لوگوں کو حقیر و پست سمجھتا تھا اور فارس کے لوگوں کو ناراض کر دیا لوگوں نے اس کے خلاف قیام کیا اور اسے قتل کر ڈالا ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور بچے یتیم ہو گئے، امام - نے ان کے نمائندہ "نرسا" کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

"ان الله عز و جل خلق الخلق بالحق و لا يرضى من احد الا بالحق و في سلطان الله تذكره مما حوّل الله و انہا لاتقوم مملكة الا بتدبير و لا يد من امارة، و لا يزال امرنا متماسكاً ما لم يشتم آخرنا اولنا، فاذا خالف آخرنا اولنا و افسدوا بلکوا و ابلکوا"

خداوند عالم نے انسانوں کی تخلیق حق پر کی ہے اور ہر انسان کے صرف حقیقی عمل پر راضی ہے سلطنت الہی میں ذکر کے لائق ہے جو چیز خدا نے عطا کیا ہے اور مملکت بغیر تدبیر کی باقی نہیں رہ سکتی۔ اور حتماً لازم ہے کہ حکومت باقی ہو۔ اور ہمارے کام میں اس طرح اتحاد ہوگا کہ آنے والی نسل اپنے اپنے بزرگوں کو برا بھلا نہیں کہے گی، لہذا جب بھی نئی نسل نے اپنی پرانی نسلوں کو برا بھلا کہا اور نیک روش کے ذریعے لوگوں کی مخالفت کی تو وہ خود بھی نابود ہو گئے اور دوسروں کو بھی نابود کر دیا۔

اس وقت امام - نے ان کے بزرگ "نرسا" کو ان لوگوں کا سرپرست و امیر معین کیا۔ (۱)

بعض حاکموں کو امام - کا خط لکھنا

امام - کے کوفہ میں قیام اور مختلف شہروں میں حاکم روانہ کرنے کے بعد معاویہ کی نافرمانی اور سرکشی نے امام کو سب سے زیادہ فکر مند کر دیا، اور آپ مستقل اسی فکر میں تھے کہ جتنی جلد ممکن ہو اس کینسر کو جامعہ اسلامی کے بدن سے دور کر دیں۔ اور دوسری طرف بعض حاکموں کی وضعیت اور محبت کلی طور پر واضح نہ تھی کچھ حاکموں نے اور وہاں کے لوگوں نے امام کی بیعت کا اعلان نہیں کیا تھا۔

اسی بنا پر امام - نے بعض حاکموں کو جو خلیفہ سوم کی طرف سے حاکم معین تھے۔ خط لکھا اور ان سے کہا کہ اپنی اپنی تکلیف کو ظاہر کریں اور اپنی اور لوگوں کی بیعت کا اعلان کریں۔ (۲)

امام - کے خطوط میں دو اہم خط تھے، جن میں سے ایک ہمدان کے حاکم جریر بن عبد اللہ بجلي کو لکھا تھا اور دوسرا خط آذربائیجان کے حاکم، اشعث بن قیس کندی کو لکھا، ان دونوں خط کا خلاصہ ہم یہاں تحریر کر رہے ہیں:

(۱) وقعة صفین، ص ۱۴۔



امام - کا حاکم ہمدان کے نام خط

خداوند عالم کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ لوگ خود اپنی روحی زندگی کو تبدیل کر دیں میں تمہیں طلحہ و زبیر کے حالات کی خبر دیتا ہوں، جب ان لوگوں نے ہماری بیعت کو توڑ دیا اور میرے معین کردہ حاکم عثمان بن حنیف پر حملہ کیا میں مہاجر و انصار کے ہمراہ مدینے سے باہر آیا اور درمیان راہ یعنی "عذیب" نامی جگہ سے اپنے بیٹے حسن، عبد اللہ بن عباس، عمار یاسر اور رقیس بن سعد بن عبادہ کو حکم دیا کہ وہ کوفہ جائیں اور لوگوں کو اسلامی فوج میں داخل ہونے کی دعوت دیں تاکہ عہد و پیمان توڑنے والوں کو سبق سکھائیں، کوفہ کے لوگوں نے میری آواز پر لبیک کہا میں نے بصرہ سے کچھ فاصلے پر قیام کیا اور شورش کرنے والے سرداروں کو اپنی طرف بلایا اور انہیں مجبور سمجھ کر ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا اور پھر میں نے ان لوگوں سے دوبارہ بیعت کرنے کے لئے کہا لیکن ان لوگوں نے جنگ کے علاوہ کوئی کام نہ کیا، میں نے بھی خدا سے دعا کی اور جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ لوگ جنگ میں مارے گئے کچھ لوگ بصرہ بھاگ گئے اس وقت ان لوگوں نے ایسی چیزوں کی مجھ سے درخواست کی جس کو میں نے جنگ سے پہلے ان سے طلب کیا تھا۔ میں نے بھی ان کی سلامتی اور حفاظت کا انتظام کیا اور جنگ صلح میں تبدیل ہو گئی، عبد اللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر معین کیا اور پھر میں کوفہ آگیا اور یہ خط میں تمہیں زحر بن قیس کے ہمراہ بھیج رہا ہوں۔ جو کچھ تمہیں معلوم کرنا ہو اس سے پوچھ لینا۔ (۱)

اس خط میں اور اسی طرح دوسرے خط میں جو اشعث بن قیس کو لکھا گیا اس میں کوشش یہی تھی کہ قریش کے دو بزرگوں اور صحابیوں (طلحہ و زبیر) کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کی وجہ و علت واضح ہو جائے تاکہ امت مسلمہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں نے پہلے، امام - کے ہاتھوں پر بیعت کی اور اپنے عہد و پیمان کو توڑ کر جامعہ کے نظام کو درہم برہم کر دیا اور شورش و انقلاب برپا کر دیا۔

(۱) وقعة صفین ص ۱۹۔ ۲۰، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۷۱۔ ۷۰؛ الامامة و السياسة ص ۸۲۔

جب امام - کا خط ہمدان کے حاکم کے پاس پہنچا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا: اے لوگو! یہ امیر المومنین علی بن ابیطالب - کا خط ہے اور وہ دین و دنیا دونوں میں معتبر اور با اعتماد شخص ہیں۔ اور ہم دشمن پر ان کی کامیابی کے لئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اے لوگو! اسلام پر سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار اور تابعین کے گروہ نے ان کی بیعت کی ہے اور اگر مسئلہ خلافت کو تمام مسلمانوں کے درمیان رکھتے اور سب کو خلیفہ منتخب کرنے کا حق دیتے تو وہ اس کام کے لئے سب سے شائستہ فرد تھے، اے لوگو! زندگی گزارنے کے لئے معاشرہ کے ساتھ مل کر رہنا ضروری ہے جدائی و افتراق فنا و موت ہے، علی (-) جب تک تم لوگ حق پر رہو گے تمہاری رہبری کریں گے اور اگر حق سے منحرف ہو گئے تو تمہیں پھر سیدھے راستے پر لگادیں گے۔ لوگوں نے حاکم وقت کی بات سن کر کہا: ہم نے تمام باتیں سنیں ہم ان کی اطاعت کریں گے اور ہم سب ان کی حکومت پر راضی ہیں اس وقت حاکم نے امام - کے پاس ایک خط لکھا جس میں اپنی اطاعت کرنے اور لوگوں کی اطاعت کے متعلق تحریر کیا۔ (یعنی سب لوگ آپ کے مطیع و فرمانبردار ہیں)۔ (۱)

امام - کا قاصد زحر بن قیس اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور کہا: اے لوگو! مہاجر و انصار نے ان کمال کی وجہ سے جنہیں حضرت علی کے بارے میں جانتے تھے اور ان اطلاعات کی بنیاد پر جو قرآن میں ان کے بارے میں موجود ہے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، لیکن طلحہ اور زبیر نے بغیر کسی وجہ کے اپنے عہد و پیمان کو توڑا اور لوگوں کو بغاوت و شورش کی دعوت دی اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو جنگ کرنے کے لئے آمادہ کر دیا۔ (۲)

ہمدان کے حاکم اور غرب کے لوگوں کی بیعت نے امام - کی حکومت کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حاکم ہمدان نے امام - کی حمایت و اعتماد حاصل کرنے کے لئے کوفہ کا سفر کیا۔ :



(۱) وقعة صفین ص ۱۶ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۷۱-۷۲۔  
(۲) وقعة صفین ص ۱۸-۱۷، الامامة و السياسة ص ۸۳-۸۲۔

آذربائیجان کے گورنر اشعث کے نام امام - کا خط

اشعث بن قیس کا رابطہ پچھلے خلیفہ کے ساتھ بھی بہت گہرا تھا اور اس کی بیٹی خلیفہ کی بہو (عمرو بن عثمان کی بیوی) تھی۔ امام - نے اپنے ایک چاہنے والے ہمدانی (۱)، زیاد بن مرحب (۲) کے ذریعہ خط اس کے پاس بھیجا جس کی عبارت یہ تھی:

اگر تمہیں کوئی مشکل نہ تھی تو میری بیعت کرنے میں سبقت کرتے اور لوگوں سے بھی میری بیعت لیتے اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو بعض چیزیں تمہیں حق کو ظاہر کرنے کے لئے آمادہ کر دیں گی، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ لوگوں نے میری بیعت کی ہے اور طلحہ و زبیر نے بیعت کرنے کے بعد عہد و پیمانہ کو توڑ دیا ہے اور ام المومنین کو ان کے گھر سے بلا کر اپنے ساتھ بصرہ لے گئے۔ میں بھی ان کے پاس گیا اور ان سے کہا

کہ اپنی بیعت پر واپس آ جاؤ لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا میں نے بہت اصرار کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا... (۳)  
پھر امام - نے ایک تاریخی کلام اشعث کے گوش گزار کیا:

"و ان عملک لیس لک بطعمة و لکنہ امانة و فی یدیک مال من مال اللہ و انت من خزائن اللہ علیہ حتی تسلّمہ الی ..."(۴)  
گورنری تمہارے لئے مرغن غذا کالقمہ نہیں ہے، بلکہ ایک امانت ہے اور تمہارے پاس جو مال ہے وہ خدا کا ہے اور تم اس مال کے لئے خدا کی طرف سے خزانہ دار ہو یہاں تک کہ وہ مجھے واپس کر دو، تم جان لو کہ میں تم پر برا حاکم نہیں رہوں گا جب کہ تم سچائی کو اپنا ساتھی بنائے رکھو گے۔

دونوں خط ایک وقت لکھا گیا جب کہ پہلے خط میں الفت و محبت کی چاشنی ہے لیکن دوسرے خط میں الفت و محبت کے ساتھ تندہی اور تنبیہ بھی شامل ہے ان دونوں میں فرق کی وجہ دونوں حاکموں کی روحانی کیفیت ہے اشعث لوگوں سے امام - کی بیعت اور شناخت امام کے لئے بہت زیادہ مائل نہ تھا لہذا امام - کا خط ملنے کے بعد بجائے یہ کہ حاکم ہمدان کی طرح خود اٹھ کر امام - کے فضائل سے لوگوں کو آشنا کراتا اور لوگوں سے

(۱) قبیلہ ہمدان (میم پر ساکن) یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے اور وہاں کے لوگ سچے اور امام سے گہرا تعلق اور محبت رکھتے تھے۔  
(۲) الامامة و السياسة، ص ۳، زیاد بن کعب۔  
(۳) الامامة و السياسة ص ۳ وقعة صفین ص ۲۱-۲۰۔  
(۴) الامامة و السياسة ص ۸۳ وقعة صفین، ص ۲۱-۲۰ جو کچھ وقعة صفین کے مولف نصر بن مزاحم نے لکھا ہے، مرحوم سید رضی نے شروع کے کچھ حصے کو حذف کر دیا ہے۔ نہج البلاغہ، مکتوب نمبر ۵، ابن عبد ربہ عقد الفرید، ج ۳، ص ۱۰۴۔ ابن قتیبہ، الامامة و السياسة ج ۱، ص ۸۳ نے جو کچھ نصر بن مزاحم نے نقل کیا ہے اسے بطور خلاصہ لکھا ہے، رجوع کریں، مصادر نہج البلاغہ ج ۳، ص ۲۰۲ شرح نہج البلاغہ ابن میثم ج ۴، ص ۳۵۰

آپ کی بیعت کا خواستگار ہوتا۔ اس نے خاموشی اختیار کی، یہی وجہ ہے کہ امام - کا قاصد و نمائندہ زیاد بن مرحب اپنی جگہ سے اٹھا اور عثمان کے قتل کی داستان اور طلحہ و زبیر کی بیعت توڑنے کے واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور کہا:

اے لوگو، وہ شخص جسے مختصر کلام قانع نہ کر سکے اسے طولانی کلام بھی قانع نہیں کرے گا، عثمان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے متعلق گفتگو کر کے تمہیں قانع کیا جا سکے یقیناً واقعہ کا سننا دیکھنے کی طرح کبھی نہیں ہوسکتا ہے۔ اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ کہ عثمان کے قتل کے بعد مہاجرین و انصار نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان دو آدمیوں (طلحہ و زبیر) نے بغیر کسی وجہ کے اپنی بیعت سے انکار کر دیا اور بالآخر خدا نے علی کو زمین کا وارث بنا دیا اور نیک اور اچھی عاقبت متقیوں کے لئے ہے۔ (۱)

اس موقع پر اشعث کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا لہذا مجبوراً اس حاکم کی اطاعت کرنے کی بنا پر جنہیں مہاجر و

انصار نے منتخب کیاتھا۔ مختصر طور پر ان کے بارے میں کچھ بیان کرے، لہذا وہ اٹھا اور کہنے لگا: اے لوگو! عثمان نے اس علاقے (آذربائیجان) کی حاکمیت مجھے دی تھی وہ قتل ہوگئے حکومت میرے ہاتھ میں تھی اور لوگوں نے علی کی بیعت کی ان کی اطاعت ہمارے لئے ایسی ہی ہے جس طرح سے ہماری اطاعت پچھلے والوں کے ساتھ تھی، تم نے طلحہ و زبیر سے متعلق ماجرا سنا اور جو کچھ ہم سے پوشیدہ ہے ان امور میں علی مورد اعتماد ہیں۔ (۲) حاکم نے اپنی بات ختم کی اور اپنے گھر چلا گیا اور اپنے دوستوں، چاہنے والوں کو بلایا اور کہا: علی کے خط نے مجھے وحشت میں ڈال دیا ہے وہ آذربائیجان کی دولت و ثروت کو ہم سے لے لیں گے، لہذا ہمارے لئے بہتر ہے کہ ہم معاویہ سے ملحق ہو جائیں، مگر حاکم کے مشاوروں نے اس کی منمت کی، اور کہا: تمہارے لئے موت اس کام سے بہتر ہے کیا تم اپنے قبیلہ اور دیار کو چھوڑ دو گے اور شامیوں کی طرف جاؤ گے؟ اس نے مشاوروں کی بات کو تسلیم کر لیا، اور اپنے روابط کو مستحکم کرنے کے لئے کوفہ روانہ ہو گیا۔ (۳)

(۱) وقعة صفین، ص ۲۱، الامامة و السياسة، ج ۱، ص ۸۳۔ (۱) الامامة و السياسة، ج ۱، ص ۸۴۔ ۸۳، وقعة صفین، ص ۲۱۔  
(۲) الامامة و السياسة، ج ۱، ص ۸۲۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

بارہویں فصل  
جنگ صفین کے علل و اسباب

امام - کا پیغام معاویہ کے نام  
حضرت امیر المومنین - کی الہی و حقیقی حکومت قائم ہونے اور متقی و پرہیزگار حاکموں کو منصوب کرنے اور غیر متدین حاکموں کے معزول کرنے کے بعد سب سے اہم کام یہ تھا کہ امام - شجرہ خبیثہ کے ریشہ کو شام کی سرزمین سے اکھاڑ پھینکیں، اور جامعہ اسلامی سے اس کے شر کو ختم کر دیں، یہ ارادہ اس وقت اور قطعی ہو گیا جب ہمدان کے حاکم جریر کوفہ پہنچ گئے اور جب امام - کے ارادے سے باخبر ہوئے تو امام سے درخواست کی مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا پیغام لے جاؤں اس نے کہا: معاویہ سے میری دوستی بہت پرانی ہے میں اس سے کہوں گا کہ آپ کی حقیقی حکومت کو رسمی طور پر پہچانے اور جب تک خدا کی اطاعت کرے گا اس وقت تک شام کا حاکم رہے گا۔  
امام - نے اس کی آخری شرط کو سن کر خاموشی اختیار کی اور کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جریر کے اندر اس کام کو انجام دینے کی صلاحیت نہیں ہے مالک اشتر نے امام - کی طرف سے نمائندگی اختیار کرنے پر جریر کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ معاویہ کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن امام - ان کی رائے کو نظر انداز کر کے جریر کو اس کام کے لئے چنا، (۱) اور آئندہ اس نے حضرت کے انتخاب کو صحیح ثابت کر دیا، جب امام - نے جریر کو روانہ کیا تو اس سے فرمایا، تم نے دیکھا ہے کہ رسول خدا ﷺ کے تمام اصحاب جو سب کے سب متدین ہیں میرے ساتھ ہیں۔ پیغمبر نے تجھے یمن کا ایک بہترین شخص کہا ہے تم میرا خط لے کر معاویہ کے پاس جاؤ اگر ان چیزوں پر جس میں مسلمانوں کا اتفاق ہے داخل ہوا تو بہتر ہے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس سے کہو کہ اب تک جو خاموشی تھی اب وہ خاموشی ختم ہو جائے گی (۲) اور یہ بات اس تک پہنچا دو کہ میں ہرگز اس کے

(۱) تاریخ طبری ج ۳ جزء ۵ ص ۲۳۵ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۸۴ (مطبوعہ بیروت) کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۱؛ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۷۴۔

(۲) حاکم اسلامی کو چاہئے کہ اعلان جنگ سے پہلے متوجہ کرے کہ جتنی بھی سابقہ امانتیں موجود ہیں وہ ختم ہو گئیں ہیں، قرآن کریم نے اس مسئلہ کو صراحت سے بیان کیا ہے: "و اما نفاقاً من قوم خیانة فاتبذ الیہم علی سوائ" سورہ انفال، آیت ۵۸۔

حاکم ہونے پر راضی نہ تھا۔ اور لوگ بھی اس کی جانشینی پر راضی نہیں ہونگے۔ (۱)  
 جریر امام - کا خط لے کر شام روانہ ہوا، جب معاویہ کے پاس پہنچا تو اس سے کہا: علی کے ہاتھ پر مکہ، مدینہ، کوفہ،  
 بصرہ، حجاز، یمن، مصر، عمان، بحرین اور یمامہ کے لوگوں نے بیعت کی ہے اور سوائے اس قلعہ کے کہ جس میں تو  
 ہے کوئی باقی نہیں ہے، اور اگر وہاں کے بیابانوں سے طوفان جاری ہو تو سب کو غرق کر دے گا میں تمہارے پاس اس لئے  
 آیا ہوں کہ تجھے اس چیز کی دعوت دوں جس میں سچائی ہے اور اس شخص کی بیعت کی رہنمائی کروں۔ (۲)  
 پھر اس نے امام - کا خط معاویہ کے حوالے کیا جس میں تحریر تھا:

مدینے میں (مہاجر و انصار کی میرے ہاتھ پر) بیعت نے شام میں تجھ پر حجت کو تمام کر دیا ہے  
 اور تجھے میری اطاعت کرنے پر مجبور کیا ہے جن لوگوں نے ابوبکر، عمر اور عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی بالکل  
 اسی طرح انہوں نے میری بھی بیعت کی ہے لہذا اس بیعت کے بعد نہ حاضرین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مخالفت کرینے  
 ہی غائبین کو حق ہے کہ بیعت کو چھوڑ دیں۔

شوری (تمہاری رائے کے مطابق) مہاجرین و انصار کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ لوگ کسی کی امامت پر متفق ہو  
 جائیں اور اسے امام کا نام دیں تو یہ کام خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور اگر کوئی ان کے فرمان و حکم کی مخالفت  
 کرے یا تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو اسے اس کی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں اور اگر سرکشی کرے گا تو اس سے غیر  
 مومنین کی راہوں کی پیروی کرنے کے جرم میں جنگ کرتے ہیں اور خدا اسے وسط راہ میں چھوڑ دیتا ہے اور قیامت کے  
 دن جہنم میں ڈال دے گا اور واقعاً یہ کیسا مقدر ہے۔ (۳)

طلحہ و زبیر نے میری بیعت کی پھر خود ہی بیعت کو توڑ دیا، بیعت کو توڑنا بیعت کی مخالفت کرنا ہے (یعنی اے معاویہ  
 تمہاری طرح) یہاں تک کہ حق آگیا اور خدا کا حکم کامیاب ہوا، میرے نزدیک بہترین کام تمہارے

(۱) وقعة صفین ص ۲۸-۲۷ تاریخ طبری ج ۵ ص ۲۳۵۔

(۲) الامامة و السياسة ج ۱ ص ۸۴۷، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۷۵، وقعة صفین ص ۲۸۔

(۳) اس آیت کی طرف اشارہ ہے: " وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ  
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا " (سورۃ نساء، آیت ۱۱۵)

لئے سلامتی و عافیت ہے لیکن اگر تو نے خود کو بلا مینگر فتا رکھا تو تجھ سے جنگ کروں گا اور اس راہ میں خدا سے مدد  
 طلب کروں گا، عثمان کے قاتلوں کے بارے تو نے بہت کچھ کہا تم بھی اسی چیز میں داخل ہو جاؤ جس میں سارے مسلمان  
 داخل ہوئے ہیں اور اس وقت مجھے کوئی واقعہ نہ سناؤ میں تمام لوگوں کو خدا کی کتاب کا پابند کروں گا (جو تو یہ کہہ رہا  
 ہے کہ میں پہلے عثمان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کروں تاکہ تو میری بیعت کرے) تمہاری یہ درخواست ایسی ہی  
 جیسے بچے کو دودھ کے لئے دھوکہ دیا جائے، میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم اپنی عقل کو کام میں لاؤ نہ  
 کہ خواہشات نفس کو، تو مجھے عثمان کے خون کے متعلق پاکیزہ فرد پاؤ گے اور یہ بھی جان لو کہ تم اسلام کے قیدی  
 بننے کے بعد طلقاء اور آزاد شدہ لوگوں میں سے ہو اور ایسے لوگوں کے لئے خلافت حلال نہیں ہے اور شوریٰ کا ممبر  
 بننے کا بھی حق نہیں ہے، میننے تمہارے پاس یا جو لوگ تمہاری طرح دوسرے کاموں میں مشغول ہیں۔ ان کی طرف اپنے  
 نمائندے جریر بن عبد اللہ جو کہ مومن و متدین ہیں روانہ کیا ہے تاکہ بیعت کرو اور اپنی وفاداری کا اعلان کرو۔ (۱)

شام میں امام - کا نمائندہ

انسان کا نمائندہ اور سفیر اس کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے اور اس کا مناسب انتخاب اس کی عقل کا مل کی حکایت کرتا  
 ہے لہذا زمانہ قدیم کے بہت ہی عمیق مفکروں نے کہا ہے:

"حَسُنَ الْإِنتِخَابُ دَلِيلُ عَقْلِ الْمَرِيٍّ وَ مَبْلَغُ رَشْدِهِ"

یعنی اچھی چیز کا انتخاب انسان کی عقلمندی کی دلیل اور اس کے فکر کی میزان ہے۔

امام - نے معاویہ کی معزولی کا فرمان بھیجنے کے لئے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو سیاسی اور حکومتی مسائل میں  
 مہارت رکھتا تھا۔ اور معاویہ کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا اور خود ایک شعلہ ور خطیب تھا اور یہ شخص جریر بن عبد اللہ  
 بجلی تھا (۲) اس نے امام - کا خط معاویہ کو ایک عمومی جگہ پر دیا اور جب وہ خط پڑھ چکا تو جریر

(۱) وقعة صفین ص ۳۰، الامامة و السياسة ج ۱ ص ۸۵، عقد الفرید ج ۴ ص ۳۲۲، تاریخ طبری ج ۳ جزء ۵ ص ۲۳۵ (مطبوعہ لیدن)۔ ابن عساکر تاریخ دمشق میں معاویہ کے حالات کی شرح کرتے وقت اور مرحوم شریف رضی نے نہج البلاغہ میں اس خط کے ابتدائی حصے کو حذف کر دیا ہے۔ نہج البلاغہ، مکتوب نمبر ۶۔

(۲) اگرچہ وہ بعد میں اپنے وظیفے کی انجام دہی میں سستی اور کابلی کی وجہ سے متہم تھا مگر اسکا جرم ثابت نہ تھا اور ہم اسکے بارے میں گفتگو کریں گے۔

امام - کے ترجمان کے طور پر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک بہت ہی عمدہ اور دل کو لہیا دینے والا خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں خدا کی حمد و ثناء اور محمد و آل محمد پر درود کے بعد کہا:

عثمان کے کام (پیغمبر ﷺ کے صحابیوں کے ذریعہ عثمان کا قتل ہونا) نے مدینہ میں حاضر رہنے والے لوگوں کو عاجز و ناتوان کر دیا ہے ان لوگوں کی کیا بات جو واقعہ کے وقت موجود نہ تھے اور لوگوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور طلحہ و زبیر بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن بعد میں بغیر کسی دلیل کے اپنی بیعت کو توڑ دیا، اسلام کا قانون فتنوں کو برداشت نہیں کرتا عرب کے لوگ تلوار کو برداشت نہیں کرتے ابھی بصرہ میں غم انگیز واقعہ رونما ہوا ہے کہ اگر یہ دوبارہ واقع ہو جائے تو کوئی بھی باقی نہ بچے گا جان لو کہ تمام لوگوں نے علی کی بیعت کی ہے اور اگر خدا نے اس کام کی ذمہ داری ہمارے حوالے کی ہوتی تو ہم بھی ان کے علاوہ کسی کو منتخب نہ کرتے، اور جو لوگ بھی عمومی انتخاب کی مخالفت کریں گے ان کو منتخب کیا جائے گا، (کہ وہ بھی لوگوں کے منتخب کردہ حاکم کو قبول کریں)۔

اے معاویہ جس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو بھی اسی طرح داخل ہو جا، اور علی کو مسلمانوں کا رہبر مان لے، اگر تو یہ کہے کہ عثمان نے مجھے اس منصب و مقام پر معین کیا ہے اور ابھی تک معزول نہیں کیا ہے تو یہ ایسی بات ہے کہ اگر اسے مان لیا جائے تو خدا کے لئے کوئی دین باقی نہیں بچے گا، اور ہر شخص کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ (۱)

جب امام - کے نمائندے کی تقریر ختم ہوئی تو اس وقت معاویہ نے کہا، صبر کرو تاکہ میں شام کے لوگوں سے مشورہ کروں اور پھر نتیجے کا اعلان کروں۔ (۲)

(۱) الامامة و السياسة ج ۱ ص ۸۵، وقعة صفین ص ۳۱، ۳۰، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۷۷، ۷۶۔

(۲) شرح نہج البلاغہ، ج ۳، ص ۷۷۔

امام - کا بیعت لینے کا مقصد معاویہ کو معزول کرنا تھا

امام - نے اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں سے ہی کبھی بھی کسی سے بیعت لینے کے لئے اصرار نہیں کیا۔ تو پھر معاویہ سے بیعت لینے کے لئے اتنا اصرار کیوں کیا؟ اس کی علت یہ تھی کہ آپ اس سے بیعت لے کر منصب سے معزول کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کے مال و حقوق کو اس سے واپس لے لیں؛ کیونکہ جن لوگوں نے حضرت علی - کے ہاتھ پر مسلمانوں کے امام کے اعتبار سے بیعت کی تھی ان لوگوں نے شرط رکھی تھی کہ آپ مسلمانوں کی وضعیت کو پیغمبر کے زمانے کی طرح دوبارہ واپس لائینگے۔ اور ان کی مصلحتوں اور اسلام کو ترقی عطا کرنے میں کوتاہی نہ کرینگے، معاویہ جیسے افراد کی موجودگی ایسے کاموں کے لئے رکاوٹ تھی، اصل میں عثمان کے خلاف انقلاب اسی لئے برپا ہوا تھا کہ پچھلے تمام حاکم اور سردار اپنے منصب سے برطرف ہو جائیں اور دنیا پرست اور مالدار لوگ مظلوموں کا حق لوٹنے سے باز آجائیں۔

معاویہ کی جانب سے شامیوں کو اس قضیہ سے آگاہ کرنا ایک دن دربار معاویہ کے منادی نے شام کے کچھ گروہوں کو مسجد میں جمع کیا، معاویہ مبنر پر گیا اور خدا کی حمد و ثنا کی اور سر زمین شام کے صفات اس طرح بیان کئے کہ خدا نے اس سرزمین کو پیغمبروں اور خدا کے صالح بندوں کی زمین قرار دیا ہے اور اس زمین پر بسنے والوں کی ہمیشہ مدد کی ہے اس کے بعد کہا:

(اے لوگو) تمہیں معلوم ہے کہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کا نمائندہ

ہوں، میں نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں اس سے شرمندہ ہوں۔ میں عثمان کا ولی ہوں، جو مظلومیت کے ساتھ مارا گیا ہے اور خدا کہتا ہے کہ "جو شخص مظلوم قتل ہوگا میں اس کے ولی کو طاقت و قوت عطا کروں گا، لیکن قتل کرنے میں اسراف نہ کرو؛ کیونکہ قتل ہونے والا خدا کی طرف سے مدد پاتا ہے۔" (۱)

پھر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں عثمان کے قتل کے بارے میں تم لوگوں کا نظریہ معلوم کروں۔ اس وقت مسجد میں موجود سبھی لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ہم لوگ عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ پھر لوگوں نے اس کام کے لئے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم سب اس راہ میں اپنی جان و مال قربان کر دیں گے۔ (۲)

معاویہ کی گفتگو کا ایک جائزہ

۱۔ معاویہ نے شام کی سرزمین کو انبیاء کی سرزمین اور شام کے لوگوں کو خدا کی شریعت و دین کا دفاع کرنے

(۱) سورہ اسراء، آیت ۳۳۔

(۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۷۸، ۷۷، وقعہ صفین ص ۳۲، ۳۱۔

والا بتایا تاکہ اس کے ذریعے وہ خود کو الہی قانون کا دفاع کرنے والا ثابت کرسکے اور لوگوں کے احساسات و جذبات سے فائدہ اٹھائے اور تمام لوگوں کو آپسی جنگ کے لئے تیار کرے۔

۲۔ مقتول خلیفہ کو مظلوم بتایا کہ ان کا خون ظالموں کے گروہ نے بہایا ہے جب کہ ان کا قتل پیغمبر اسلام کے صحابہ اور تابعین کے ہاتھوں ہوا تھا اور ان کی نظر میں صحابہ اور تابعین راہ حق کی پیروی کرنے والے اور عادل و انصاف پسند ہیں۔

۳۔ اگر ہم فرض کریں کہ عثمان مظلوم قتل کئے گئے لیکن ان کا ولی قاتلوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے اور "ولی الدم" سے مراد مقتول کے مال کا وارث ہے، تو کیا معاویہ ان کے مال کا وارث تھا یا کسی قریبی وارث ہونے کی وجہ سے اس کی نوبت نہیں آتی؟ یہ بات صحیح ہے کہ عثمان عفان کا بیٹا اور وہ ابو العاص بن امیہ کا بیٹا اور معاویہ ابوسفیان کا بیٹا اور وہ حرب بن امیہ کا بیٹا تھا۔ اور سب کا سلسلہ امیہ تک پہنچتا ہے لیکن کیا یہ دوری رشتہ، نزدیکی رشتہ داروں کے باوجود بھی کافی تھا، کہ معاویہ نے اپنے کو عثمان کے خون کا ولی بتایا؟

امیر المومنین - اپنے خط میں معاویہ کو لکھتے ہیں:

"انما انت رجل من بنی امیہ و بنو عثمان اولی بذالک منک" (۱)

تم امیہ کی اولاد سے ہو اور عثمان کے بیٹے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لئے تم سے اولیٰ ہیں۔ یہ سب ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب ابوسفیان کے بیٹے کے ضمیر کا پردہ فاش کر دیں گے، اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ عثمان کے خون کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ حکومت پر قبضہ کر کے امام کو اس سے دور کرنا تھا کہ جس کے ہاتھوں پر مہاجرین و انصار نے بالاتفاق بیعت کیا تھا اور سب سے زیادہ تعجب کی بات اس کا لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، وہ جب لوگوں سے اس سلسلے میں مشورہ لے رہا تھا اسی وقت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اپنی قطعی رائے بھی پیش کی تھی اور اس پر بہت سنجیدہ تھا اس طرح کی صحنہ سازی کی روایت قدیمی ہے اور زبردستی اپنی بات منوانے کو "مشورہ" کانام دیا جاتا ہے۔

تاریخ لکھتی ہے: اگرچہ معاویہ نے لوگوں کا مثبت جواب سنا، مگر اس کے دل میں خوف طاری

(۱) وقعہ صفین، ص ۵۸، الامامة والسياسة، ج ۱، ص ۹۲، ۹۱۔

تھا اور کچھ اشعار وہ خود بخود پڑھ رہا تھا، جس کا آخری شعر یہ ہے:

و انی لارجوا خیر ما نال نائل

و ما انا من ملک العراق بانس (۱)

میں ایک بہترین چیز کا امیدوار ہوں، کہ امید خود اس کی امید وار ہے اور میں ملک عراق سے مایوس نہیں ہوں۔ اس نے اپنے اس مقصد تک پہنچنے کے لئے اپنے لالچی ساتھیوں کو بلایا اور اسی میں سے عتبہ بن ابوسفیان نے اس سے کہا: علی کے ساتھ اگر جنگ کرنا ہے تو اس کے لئے عمرو عاص کو بھی باخبر کرو اور اس کے دین کو خرید لو،

کیونکہ وہ ایسا شخص ہے کہ عثمان کی حکومت سے بھی دور رہا، اور طبعی ہے کہ تمہاری حکومت سے تو بہت دور رہے گا، مگر یہ کہ اسے درہم و دینار دے کر راضی کرلو۔ (۲)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۷۸۔  
(۲) وقعہ صفین ص ۲۳، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۷۹۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

تیرہویں فصل

حضرت علی - سے مقابلے کے لئے معاویہ کے اقدامات

معاویہ کا خط عمرو عاص کے نام

عمرو عاص جو کہ میدان سیاست کا ایک چالاک بھیڑیا تھا اور اس وقت مشہور و معروف فلسطین میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا معاویہ نے اس کو اپنی طرف جذب کرنے کے لئے اسے اس مضمون کا خط لکھا:

"علی اور طلحہ و زبیر کا واقعہ تو نے سنا ہے، مروان بن حکم بصرہ کے کچھ لوگوں کے ہمراہ شام آیا ہے اور جریر بن عبد اللہ علی کی طرف سے نمائندہ بن کر بیعت لینے کے لئے شام آچکا ہے میں نے ہر طرح کا فیصلہ کرنے سے پرہیز کیا ہے تاکہ تمہارا نظریہ معلوم کروں جتنی جلدی ہو شام آجاؤ تاکہ اس سلسلے میں رائے و مشورہ کیا جائے۔ (۱)

جب یہ خط عمرو کے پاس پہنچا تو اس نے اس خط کے مفہوم کو اپنے دونوں بیٹوں عبد اللہ اور محمد کو بتایا، اور ان سے ان کا نظریہ معلوم کیا اس کا بڑا بیٹا جو تاریخ میں اچھے نام سے مشہور ہے (و اللہ اعلم) اس کا کہنا تھا:

جب تک رسول خدا اور ان کے بعد کے دو خلیفہ زندہ تھے سب کے سب تم سے راضی تھے اور جس دن عثمان کا قتل ہوا اس دن تم مدینہ میں نہ تھے۔ اس وقت کتنا بہتر ہے کہ تم خود اپنے گھر میں بیٹھتے اور بہت کم منافع حاصل کرنے کے لئے معاویہ کی حاشیہ نشینی چھوڑ دیتے، کیوں کہ خلافت تمہیں ہرگز نہیں مل سکتی، اور قریب ہے کہ تمہاری عمر کا سورج غروب ہو جائے اور زندگی کے آخری مرحلے میں بدبخت ہو جاؤ۔

لیکن اس کے دوسرے بیٹے نے اپنے بڑے بھائی کے خلاف نظریہ پیش کیا کہ معاویہ کی دعوت کو قبول کرے اور کہا: تم قریش کے بزرگوں میں سے ہو اور اگر اس امر میں خاموشی اختیار کر کے بیٹھ گئے تو لوگوں کی

(۱) الامامة و السياسة ص ۸۴، وقعہ صفین ص ۳۴۔

نگاہوں میں تم ایک معمولی شخص رہو گے، اور حق شام کے لوگوں کے ساتھ ہے ان کی مدد کرو اور عثمان کے خون کا بدلہ لو اور ایسی صورت میں بنی امیہ اس کام کے لئے قیام کریں گے۔

عمرو عاص جو ایک ہوشیار و چالاک شخص تھا اس نے عبد اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارا نظریہ میرے دین کے نفع میں ہے، جب کہ محمد کا نظریہ میرے دنیاوی فائدے کے لئے ہے اس سلسلے میں میں غور و فکر کروں گا، پھر اس نے کچھ اشعار پڑھا اور دونوں بیٹوں کے نظریات کو شعری انداز میں بیان کیا، اس کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے وردان کے سے پوچھا: اس نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہے اس کے بارے میں خبر دوں؟ عمرو نے کہا: بتاؤ تم کیا جانتے ہو اس نے کہا: دنیا و آخرت نے تمہارے دل پر حملہ کر دیا ہے علی کی پیروی آخرت کے لئے سعادت کا باعث ہے جب کہ ان کی پیروی دنیاوی نہیں ہے لیکن آخرت کی زندگی دنیا کی ناکامیوں کے لئے قابل تلافی ہے، جب کہ معاویہ کا

ساتھ دینے میں دنیا ملے گی مگر آخرت سے محرومی ہوگی، اور دنیا کی زندگی آخرت کی سعادتوں کے لئے قابل تلافی نہیں ہے اس وقت تم ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کا انتخاب کرو۔  
 عمرو نے کہا: تم نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہارا نظریہ کیا ہے؟  
 اس نے کہا: اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اگر دین کامیاب ہو گیا تو تم اس کے سائے میں زندگی بسر کرنا اور اگر اہل دنیا کامیاب ہوئے تو وہ لوگ تم سے بے نیاز نہیں ہیں۔  
 عمرو نے کہا: کیا اب اس وقت گھر میں بیٹھوں جب کہ معاویہ کے پاس میرے جانے کی خبر پورے عرب میں پھیل چکی ہے۔ (۱)

وہ اندرونی طور پر ایک دنیا پرست انسان تھا، لہذا معاویہ کا ساتھ دیا لیکن اپنے چھوٹے بیٹے کی گفتگو کو شعری قالب میں ڈھال دیا:

اما علی فدين ليس يشركه

دنیا و ذاک لہ دنیا و سلطان

فاخترت من طمعی دنیا علی بصر

و ما معی بالذی اختار بربان (۲)

علی کی پیروی میں دین ہے لیکن دنیا نہیں ہے جب کہ معاویہ کی پیروی کرنے میں دنیا اور قدرت ہے۔  
 میں نے اپنی لالچ و آرزو کی وجہ سے حقیقت جانتے ہوئے دنیا کو اختیار کیا لیکن اس کے قبول کرنے کے لئے میرے پاس کوئی عذر یا حجت نہیں ہے، پھر وہ شام کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنے پرانے اور قدیمی دوست کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے لگا اور امام علی - کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے ایک نقشہ تیار کیا جسے ہم بعد میں بیان کریں گے۔

(۱) الامامة والسياسة، ص ۸۷۔

(۲) وقعة صفین، ص ۳۶۔

دو کہنہ کار سیاستدانوں کی ہمکاری

بالآخر "بنی سہم" کا پرانا اور قدیمی سیاست دان اور اپنے زمانہ کا معروف و مشہور عمرو عاص نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا اور فلسطین سے شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اس ضعیفی اور بڑھاپے میں دوسری مرتبہ مصر کا حاکم بن جائے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ معاویہ کو اس کی دور اندیشی اور تدابیر کی ضرورت ہے لہذا اس نے سوچا کہ اس کی مدد کرنے کے بدلے اس سے زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرے (۱) اور گفتگو کے دوران مطالب کو وقفہ، وقفہ سے بیان کیا تاکہ معاویہ کی فکر و نظر کو اپنی طرف جذب کر لے۔

گفتگو کی پہلی نشست میں معاویہ نے تین مشکلیں بیان کیں جن میں ایک یہ تھی کہ علی - کی سر زمین شام پر حملہ کرنے کے ارادے نے تمام چیزوں سے زیادہ میرے ذہن کو الجھن میں ڈال دیا ہے یہاں ہم بغیر کسی کمی و زیادتی کے ان دونوں کی گفتگو کو نصر بن مزاحم کی "تاریخ صفین" سے نقل کر رہے ہیں۔

معاویہ: کافی دنوں سے تین چیزوں نے میرے ذہن و فکر کو اپنی طرف مشغول کر رکھا ہے اور میں مسلسل اس بارے میں سوچ رہا ہوں، تم سے درخواست ہے کہ اس مسئلہ کا کوئی حل پیش کرو۔

عمرو عاص: وہ تینوں مشکلیں کیا ہیں؟

معاویہ: محمد بن ابی حذیفہ نے مصر کا قید خانہ توڑ ڈالا ہے اور وہ دین کے لئے آفت ہے (یعنی حکومت معاویہ کیلئے) (وضاحت: عثمان کی خلافت کے زمانے میں مصر کے تمام امور کی ذمہ داری عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح پر

(۱) الامامة والسياسة، ج ۱، ص ۸۷۔

تھی اور محمد بن ابی حذیفہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے لوگوں کو حاکم مصر کے خلاف بغاوت کے لئے آمادہ کیا تھا

عثمان کے قتل کے بعد اس کا حاکم لوگوں کے خوف سے مصر چھوڑ کر چلا گیا اور اپنی جگہ پر اپنے نمائندے کو منصوب کر دیا، لیکن ابو حذیفہ کے بیٹے نے حاکم کے نمائندے کے خلاف لوگوں کو تشویق و رغبت دلائی اور بالآخر اسے مصر سے نکال دیا اور خود وہاں کی ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حضرت علی - کی خلافت کے ابتدائی دور میں مصر کی حاکمیت قیس بن سعد کو دی گئی اور محمد کو

معزول کر دیا گیا، جب معاویہ نے مصر پر قبضہ کیا تو محمد کو قید خانے میں ڈال دیا لیکن وہ اور اس کے ساتھی کسی صورت سے قید خانے سے بھاگ گئے، (۱) جی ہاں، محمد بن ابی حذیفہ بہت زیادہ فعال اور حادثہ کا ایجاد کرنے والا تھا، اور وہ معاویہ کا ماموں زاد بھائی تھا۔

عمر و عاص: اس واقعہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے تم ایک گروہ کو بھیج کر اسے قتل کروا سکتے ہو یا وہ لوگ قید کر کے زندہ تیرے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ اسے گرفتار نہ کر سکے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے کہ تمہاری حکومت کو تم سے چھین لے۔

معاویہ: قیصر روم، رومیوں کے گروہ کے ساتھ شام کی طرف چلنے والا ہے تاکہ شام کی حکومت ہم سے واپس لے لے۔ عمرو عاص: قیصر روم کی مشکلات کو ہدیہ وغیرہ مثلاً روم کے غلاموں اور کنیزوں اور سونے چاندی کے برتن وغیرہ بھیج کر دور کرو، اور اسے صحت و سلامتی کی زندگی دے کر دعوت کرو کہ عنقریب وہ اس کام میں شریک ہوگا۔

معاویہ: علی نے کوفہ میں قیام کیا ہے اور شام کی طرف بڑھ رہے ہیں اس مشکل کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ عمرو عاص: عرب ہرگز تجھے علی جیسا نہیں سمجھتے، علی جنگ کے تمام رموز و اسرار سے آشنا ہیں اور قریش میں ان کی مثال نہیں ہے، وہ اس حق کی بنا پر صاحب حکومت ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہے مگر یہ کہ تم ان پر ظلم و ستم کرو اور ان کے حق کو سلب کرلو۔

(۱) اسد الغابہ، ج ۴، ص ۳۱۶۔ ۳۱۵۔

معاویہ: میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے جنگ کرو کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور خلیفہ کو قتل کر دیا ہے اور فتنہ پیدا کر دیا اور اتحاد کو درہم برہم کر دیا اور رشتہ داری کو توڑ دیا ہے۔

عمر و عاص: خدا کی قسم، تم اور علی ہرگز شرف و فضیلت میں برابر نہیں ہو تم نہ ان کی ہجرت کی فضیلت رکھتے ہو نہ ان کے دیگر سوابق کی فضیلت رکھتے ہو، نہ ان کی طرح تم پیغمبرؐ کے ساتھ رہے ہو نہ تم نے ان کی طرح مشرکوں سے جہاد کیا ہے نہ ان کی طرح تمہارے پاس عقل و دانش ہے، خدا کی قسم علی کی فکر بہت عالی، ذہن بہت صاف اور وہ ہمیشہ سعی و کوشش میں رہے ہیں، وہ با فضیلت اور سعادت مند اور خدا کے نزدیک کامیاب انسان ہیں، ایسے بافضیلت شخص کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے مجھے کیا قیمت دو گے کہ میں تمہارا ساتھ دوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس ہمکاری میں کتنے خطرے موجود ہیں۔

معاویہ: تمہیں اختیار ہے، تمہیں کیا چاہئے؟

عمر و عاص: مصر کی حکومت۔

معاویہ: (جب کہ وہ دھوکہ کھا چکا تھا) اس نے مکاری کے طور پر دنیا و آخرت کے مسئلے کو سامنے رکھا، اور کہا: میں نہیں چاہتا کہ عرب تمہارے بارے میں اس طرح کی فکر کریں کہ تم دنیاوی غرض کے لئے ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے ہو، کتنا اچھا ہوگا کہ وہ لوگ یہ کہیں کہ تم نے خدا کی مرضی اور آخرت کی اجرت لینے کے لئے ہمارا ساتھ دیا، اور کبھی بھی دنیا کی معمولی اور چھوٹی چیز آخرت کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتی۔

عمر و عاص: ان بے ہودہ باتوں کا ذکر نہ کرو۔ (۱)

معاویہ: میں اگر تجھے دھوکہ دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ عمرو عاص: مجھ جیسا آدمی دھوکہ نہیں کھا سکتا، میں اس سے بھی زیادہ چالاک ہوں جتنا تم سوچ رہے ہو۔

معاویہ: میرے نزدیک او تاکہ تم سے اصلی راز بیان کروں۔

(۱) ابن ابی الحدید اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ، ج ۲، ص ۶۵، مطبوعہ مصر، میں لکھتا ہے: میں نے اپنے استاد ابو القاسم بلخی سے کہا کہ یہ عمرو عاص کی گفتگو آخرت پر ایمان نہ رکھنے اور اس کے بے دینی کی وجہ سے نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا: عمرو



عاص نے اصلاً اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، اور اپنے کفر پر باقی تھا۔

عمرو عاص اس کے قریب گیا اور اپنے کان کو معاویہ کے منہ کے پاس لے گیا تاکہ اس کے اصلی راز کو سنے، اچانک معاویہ نے اس کے کان کو زور سے دانتوں میں دبا لیا کہا: کیا تم نے دیکھا میں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں، پھر اس نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ مصر عراق کی طرح ہے اور دونوں بڑے شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ عمرو عاص: ہاں میں جانتا ہوں، لیکن عراق تمہارے قبضے میں آسکی وقت ہوگا جس وقت مصر پر میرا قبضہ جب کہ عراق کے لوگوں نے علی کی اطاعت کی ہے اور ان کی رکاب میں رہتے ہوئے جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہیں۔ اس موقع پر جب کہ دو سوداگر بحث و مباحثہ میں غرق تھے معاویہ کا بھائی عتبہ بن ابوسفیان وہاں آ پہنچا اور کہا: عمرو کو مصر کی سرزمین دے کر کیوں نہیں خرید لیتے؟ کاش کہ یہی حکومت شام تمہارے لئے باقی رہے اور کوئی دوسرا اس میں مداخلت نہ کرے۔ اس وقت اس نے کچھ شعر کہا اور اس میں عمرو عاص کی معاویہ کے ساتھ نصرت و مدد کو ظاہر کیاجس کا ایک شعر یہ ہے:

اعط عمرواً ان عمرواً تارک

دینہ الیوم لدنیا لم تجز (۱)

جو کچھ عمرو کی خواہش ہے اسے دیدو، اس نے آج اپنے دین کو دنیا کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ بالآخر معاویہ نے سوچا کہ جیسے بھی ممکن ہو عمرو کی مدد کو اپنی طرف جذب کرے اور اس کی خواہش کو پورا کرے، لیکن عمرو اس کے مکر و فریب کی وجہ سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاویہ مجھ سے ایک کامیابی کی سیڑھی کی طرح استفادہ کرے اور کام ختم ہوتے ہی اسے اپنے سے دور کر دے، لہذا اس نے معاویہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا ضروری ہے کہ اس نعت اور معاملے کو کاغذ پہ لکھا جائے اور اس کے متعلق شرائط لکھی جائیں اور دونوں آدمی اپنے اپنے دستخط کریں۔

(۱) رسول خداؐ اپنی تقریر میں ایک شرعی مسئلہ کی طرف یاد دہانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: لاتبع ما لیس عندک" یعنی جس چیز کے تم مالک نہیں ہو اسے نہ بیچو، اب اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ عمرو نے مصر کی حکومت کے مقابلے میں کیا چیز بیچی ہے اور کس چیز کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے وہ بقولے ابن ابی الحدید، معاویہ سے معاملہ کرتے وقت بھی بے دین و بے ایمان تھا اور حقیقتاً اس معاملہ کو بھی اس مکر و فریب کے ذریعے انجام دیا تھا، اور بغیر کسی اجرت کے مصر کی حکومت کو خرید لیا تھا۔

تعد نامہ لکھا گیا اور دونوں نے اپنے دستخط کیا لیکن دستخط کرنے والوں نے اپنے دستخط اور مہر کے سامنے ایک ایک جملے کا اضافہ کیا اور اپنے فریب و نفاق کو ظاہر کر دیا۔ معاویہ نے اپنے نام کے پاس لکھا: علیٰ ان لا ینقض شرط طاعة" یعنی، یہ تعد اس وقت تک معتبر ہے جب تک شرط کرنے والی اطاعت کو نہ توڑے، عمرو نے بھی اپنے نام اور مہر کے آگے ایک جملے کا اضافہ کیا، علیٰ ان لا تنقض طاعة شرطاً، (۱) یعنی شرط یہ ہے کہ اطاعت کرنے والا شرط کو نہ توڑے۔

ان دونوں نے یہ دو قیدیوں لگا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دیا اور خلاف ورزی کے راستے کو آشکار کر دیا، کیونکہ اس قید کے لگانے سے معاویہ کا مقصد یہ تھا کہ عمرو نے بغیر کسی شرط و قید کے مطلقاً معاویہ کی بیعت کی ہے اور اگر معاویہ اسے مصر کی حکومت نہ دے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ معاویہ نے اپنے عہد و شرط کی وفا نہیں کی ہے اس بہانے سے اپنی بیعت توڑ دے، لیکن جب اس کا قدیمی دوست معاویہ کے اس مکر و فریب سے آگاہ ہوا تو اس نے اس راہ ہموار پر روک لگادی اور لکھا کہ میری بیعت اس وقت تک معتبر ہے کہ معاویہ اپنی شرط (مصر کی حکومت) کو نہ توڑے اور معاویہ مصر کو عمرو کے حوالے کرے۔

حقیقت میں دونوں سیاست کے میدان میں لومٹری صفت تھے اور کبھی بھی ان کے پاس نہ دینی تقویٰ تھا اور نہ ہی سیاسی تقویٰ تھا۔

عمرو اس معاملے کے بعد پھولے نہیں سما رہا تھا، معاویہ کے گھر سے نکلا اور جو لوگ باہر اس کا انتظار کر رہے تھے ان سے ملاقات کی اور ان کے درمیان درج ذیل سوالات و جوابات ہوئے:

عمرو کے بیٹے: بابا بالآخر کیا نتیجہ نکلا؟

عمرو: مجھے مصر کی حکومت دی ہے۔

عمر کے بیٹے: ملک عرب کی بہادری و طاقت کے مقابلے میں مصر کی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

عمرو: اگر سرزمین مصر سے تم سیر نہیں ہوئے تو خدا تمہیں کسی چیز سے سیر نہ کرے۔(۲)

(۱) وقعة صفین ص ۴۰۔  
(۲) وقعة صفین، ص ۴۰۔ ۳۷، الامامة و السياسة، ص ۸۸۔ ۸۷۔ (تھوڑے فرق کے ساتھ)

عمرو کا بھتیجہ: کس عنوان سے قریش کے درمیان زندگی بسر کرو گے؟ اپنے دین کو بیچ دیا اور دوسرے کی دنیا کا دھوکہ کھا گئے، کیا مصر کے لوگ، علی کے ہوتے ہوئے مصر کو معاویہ کے حوالے کریں گے؟ جب کہ یہ لوگ عثمان کے قاتل ہیں۔ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ معاویہ نے اس سرزمین پر قبضہ کر لیا تو کیا تمہیں اس جملے کی وجہ سے جو کہ تم نے اپنے دستخط کے ساتھ لکھا ہے سرزمین سے دور نہیں کر دے گا؟

عمرو کچھ دیر تک فکر کرنے لگا اور کچھ دیر کے بعد ایمان کی وجہ سے نہیں، بلکہ عربوں کی عادت کی بنا پر کہا: اب سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے نہ کہ علی اور معاویہ کے ہاتھ میں، اگر میں علی کے ساتھ ہوتا تو میرا گھر ہی میرے لئے کافی ہوتا، مگر اب تو میں معاویہ کے ساتھ ہوں۔

عمرو کا بھتیجہ: اگر تم معاویہ سے نہ ملتے تو معاویہ بھی تم سے ملاقات نہ کرتا، تم نے دنیاوی لالچ کی وجہ سے اس سے ملاقات کی اور وہ تمہارے دین کا خریدار بنا۔

چچا بھتیجے کے ساتھ ہونے والی گفتگو جب معاویہ کے کانوں تک پہنچی تو نے چاہا کہ اسے گرفتار کرے لیکن وہ عراق کی طرف بھاگ گیا اور امام علی - کے لشکر سے ملحق ہو گیا اور امام - سے دو بوڑھے سیاسی مکاروں کے درمیان ہوئی گفتگو اور معاملہ کو بیان کیا اور بالآخر امام - کے نزدیک اپنا ایک مقام بنا لیا۔ (۱)

مروان بن حکم بھی جب عمرو عاص اور معاویہ کے درمیان ہوئے سیاسی معاملے سے آگاہ ہوا تو اس نے اعتراض کیا اور کہا: کیوں عمرو کی طرح ہمیں بھی نہیں خریدتے (اور دین اموی کی قیمت کے مقابلے میں اسلامی ملکوں کے بعض حصے کو میرے حوالے کیوں نہیں کرتے؟) جب معاویہ کو اس کی باتوں کا علم ہوا تو اسے تسلی دی اور کہا عمرو جیسے افراد تم جیسوں کے لئے خریدے جا رہے ہیں تاکہ اموی حکومت کو مستحکم کیا جائے جس کا تو بھی ایک حصہ ہے۔ (۲)

(۱) وقعة صفین ص ۴۱، الامامة و السياسة ص ۸۸ پر نصر بن مزاحم نے اس جوان کو عمرو کا چچا زاد بھائی لکھا ہے۔  
(۲) الامامة و السياسة، ص ۸۸۔

عمرو عاص کا شیطانی حربہ

دو چالاک سیاستدانوں کے معاملات ختم ہو گئے اور اب وقت آ پہنچا کہ معاویہ عمرو کے حربے کو استعمال کرے، عمرو جو محمد بن ابی حذیفہ سے مقابلے اور قیصر روم کے شام پر حملہ کرنے کے اندیشہ کے متعلق جو حربہ و منصوبہ تیار کیا تھا وہ بہت ہی دقیق انداز سے انجام دیا گیا، اور دونوں میں کامیابی ملی، لیکن سب سے بڑی مشکل حضرت علی - سے مقابلہ کرنے کی تھی جو شام کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ وہ مشکل ابھی بھی باقی تھی عمرو نے امام علی - سے مقابلہ کرنے کے لئے ایک ایسا پروگرام بنایا جس کی وجہ سے شام کے اکثر افراد اپنی مرضی سے معاویہ کے لشکر میں شامل ہو کر علی - سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ کیسا منصوبہ تھا جس کی وجہ سے شامیوں جیسے آسودہ اور آرام طلب لوگ مثلاً شام سے باہر جانے کے لئے آمادہ ہوئے اور موت کو آسودہ و آرام طلب زندگی پر ترجیح دی۔

"کہتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابی معاویہ کے پاس گئے معاویہ نے ان کا پرتپاک استقبال اور ان کا احترام کیا، وہ عمرو عاص اور معاویہ درمیان کے بیٹھ گئے اور کہا: تم جانتے ہو کہ کیوں میں تم لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ انہوں نے کہا: ایک دن تم لوگ پیغمبر ﷺ کی بزم میں بیٹھے تھے اور آپس میں مخفیانہ گفتگو کر رہے تھے، پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ خداوند عالم اس شخص پر رحمت نازل کرے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے، کیونکہ یہ دونوں خیر پر جمع نہیں ہونگے۔ (۱)

سعی و کوشش کیلئے ایمان سے بہتر کوئی عامل نہیں ہے اس کے باوجود مذہبی احساسات اتنے قوی ہوتے ہیں کہ اگر مفاد طلب زمامداروں کے قبضے میں آجائیں تو ان کے تخریبی اقدامات بیان سے باہر ہو جاتے ہیں۔

عمرو عاص کا حربہ امام علی - سے مقابلے کے لئے یہ تھا کہ شام کے افراد کے دینی جذبہ کو حضرت کے خلاف کردے، اور امام - پر خلیفہ کے قتل کرنے کا الزام لگادے اور اس خبر کو عام کرنے کے لئے معاشرے کے زاہد اور پارسا لوگوں سے استفادہ کرے جو لوگوں کی نظر میں قابل احترام ہیں۔

(۱) بندوشاہ نجوانی، تجارب السلف، بہ تصحیح عباس اقبال ص ۶۴۔

اس کے علاوہ ، معاویہ سے کہا کہ شرحبیل کنڈی (۱) شام کے لوگوں کی نظر میں محترم شخص ہے اور اپنے علاقے میں علی کے نمائندے جریر کا دشمن بھی ہے ۔ اسے ان تمام واقعات سے اس طرح باخبر کرو کہ اسے یقین پیدا ہو جائے کہ علی ، عثمان کے قاتل ہیں اور تمہارے اور اس کے مورد اعتماد جو افراد ہیں انہیں یہ ذمہ داریاں سونپ دو، کہ پورے شام میں اس بات کو عام کر دیں کیونکہ جو چیز شرحبیل کے دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ بہت جلدی نہیں نکلتی۔ (۲)

(۱) کندہ، غبطہ کے وزن پر ہے اور یمن کے ایک قبیلے کا نام ہے جو عربستان کے شبہ جزیرہ کے جنوب میں واقع ہے جہاں یہ لوگ زندگی بسر کرتے تھے پھر وہاں سے بہت زیادہ گروہ شام وغیرہ کی طرف ہجرت کر گئے شرحبیل بھی اسی قبیلے کا رہنے والا تھا اور اس کے اجداد بھی یمن سے شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔  
(۲) وقعة صفین، ص ۴۴، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۲، ص ۷۱۔

معاویہ کا خط شرحبیل کے نام

معاویہ نے شرحبیل کو خط لکھا اور اس نے علی - کے نمائندہ جریر کے آمد کی خبر دی شرحبیل اس وقت شام کے شہر حمص میں رہتا تھا۔ معاویہ نے اس سے درخواست کی کہ جتنی جلدی ممکن ہو شام آ جاؤ ۔ اور اس وقت اپنے دربار کے تمام نمک خواروں کو، جو سب کے سب یمن قحطان کے رہنے والے تھے اور شرحبیل سے لوگوں کے اچھے تعلقات تھے، ذمہ داری سونپی کہ حمص جائیں اور سب مل جل کر ایک آواز سے یہی کہیں کہ خلیفہ سوم کے علی قاتل ہیں۔ جب معاویہ کا خط شرحبیل کو ملا تو اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور معاویہ کی دعوت کو ان کے درمیان میں رکھا ، شام کا سب سے ذہین اور قابل فہم شخص عبد الرحمن بن غنم ازدی اٹھا اور اس نے زاہد و عابد کو اس کام کے برے نتیجے سے آگاہ کیا اور کہا:

تم نے جس دن سے کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کی ہے ہمیشہ لطف الہی تمہارے شامل حال رہا۔ اور جب تک لوگوں کی طرف سے خدا کا شکر منقطع نہ ہو تو خدا کی طرف سے بھی نعمتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور "خداوند عالم پرگز لوگوں کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک لوگ خود اپنے کو بدل نہ ڈالیں" ہمیں عثمان کے قتل کی خبر حضرت علی - ہی کے ذریعے ملی ہے، اگر واقعاً علی نے عثمان کو قتل کیا ہے تو مہاجر و انصار نے ان کی بیعت کیا ہے اور یہ لوگ لوگوں پر حاکم ہیں اور اگر علی نے ان کو قتل نہیں کیا ہے تو کیوں معاویہ کی تصدیق کر رہے ہو؟ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ خود اور اپنے عزیزوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ جریر کسی مقام پر پہنچ جائے گا تو تم بھی علی کے پاس جاؤ اور اپنی قوم اور شام کے لوگوں کے ساتھ ان کی بیعت کرو۔

لیکن اس مرد ازدی کی خیر خواہی مؤثر ثابت نہ ہوسکی اور شرحبیل معاویہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ (۱)

معاویہ کا بزرگان قبیلہ اور خشک زاہدوں سے مدد مانگنا تمام قبائلی نظام میں رئیس قبیلہ کو تصمیم گیری میں مکمل آزادی ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو مان لے تو قبیلے کے افراد اسے مان لیتے ہیں اور در حقیقت یہ ایک رائے تمام افراد کی رائے کی جانشین ہوتی ہے خصوصاً اگر رئیس قبیلہ ظاہری طور پر تقویٰ والا ہو۔

معاویہ شام کے لوگوں اور یمنی مہاجرین جو شام میں زندگی بسر کر رہے تھے کو اپنی طرف جذب کرنے کے لئے ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں تھا، اور اس کی دوسری عقل عمرو عاص نے بھی اسے اس کام کے لئے مشورہ دیا تھا۔ ان افراد میں شرحبیل یمنی (۲) کے اندر دونوں شرائط موجود تھے جو شام کے حمص علاقے میں رہتا تھا شرحبیل خود مقدس بھی تھا اور یمنی مہاجروں میں بزرگ بھی شمار ہوتا تھا اور اس کی نظر کو جذب کرنے سے امام - کے متعلق لوگوں کی فکروں میں تبدیلی لائی جاسکتی تھی۔

اسی وجہ سے معاویہ نے اسے خط لکھا اور شام آنے کی دعوت دی۔ (۳) اور وہ لوگ جو شرحبیل کے معتمد خاص معتمد تھے انہیں حکم دیا کہ مستقل اس سے ملاقات کرتے رہیں اور علی - کو عثمان کے قاتل کے طور پر پہچناتے رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتے رہیں تاکہ اس کے ذہن میں "امام کا قاتل" ہونا اس طرح رچ بس جائے کہ اس کے علاوہ دوسری چیز اس کے ذہن میں نہ آئے۔

- (۱) وقعة صفین ص ۴۵ . ۴۴ ، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۷۱ .  
 (۲) ابن ابی حاتم اپنی کتاب "الجرح و التعديل" (ج، ص ۳۳۸) میں اس کا نام لکھتے ہیں اور بخاری نے اپنی تاریخ (ج ۲، ص ۲۴۹) میں اس کا حال لکھا ہے۔  
 (۳) وقعة صفین ص ۴۵ . ۴۴ ، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۷۱ ، کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۳ .

وہ جب حمص سے شام آیا تو تمام لوگوں نے اس کا بہت احترام کیا معاویہ نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور شام کے زاہد سے یہ کہا: جریر بن عبد اللہ بجلي عراق سے یہاں آیا ہے اور مجھے علی کی بیعت کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور علی بہترین لوگوں میں سے تو ہیں مگر یہ کہ انہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے میں نے کسی بھی طرح کا ارادہ کرنے سے پرہیز کیا ہے کیونکہ میں بھی شام کے لوگوں میں سے ایک ہوں اور جس چیز کے بارے میں وہ رائے دے گئے ہیں وہی رائے دوں گا اور جس چیز کو وہ لوگ پسند نہیں کریں گے میں بھی اس چیز کو پسند نہیں کروں گا۔ شام کے زاہد نے اپنا نظریہ پیش کرنے سے پرہیز کیا اور کہا میں پہلے تحقیق کروں گا پھر کوئی رائے پیش کروں گا لہذا وہاں سے چلا گیا اور تحقیق کرنے لگا۔ (۱) وہ لوگ جنہیں معاویہ نے پہلے ہی سے اسے ذہنی طور پر بہکانے کے لئے معین کیا تھا ان لوگوں نے مختلف طریقوں سے اسے بہکایا اور امام کے ہاتھوں عثمان کے قتل کی تصدیق کی اور علی - کے بارے میں اس کے دل میں شک و شبہ پیدا کر دیا۔

غلط اور جھوٹ پر مبنی باتوں نے اس سادہ لوح زاہد کی فکر کو تبدیل کر دیا اور اسے اتنا بہکایا کہ اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور معاویہ سے زیادہ وہ حسد کرنے لگا۔ لہذا جب وہ دوسری مرتبہ معاویہ سے ملا تو اس سے کہا میں نے صرف لوگوں سے یہی سنا کہ علی عثمان کے قاتل ہیں۔ اس لئے تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کی بیعت کرو اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں شام سے نکال دوں گا یا تمہیں قتل کر دوں گا۔ (۲) معاویہ اس کی باتیں سن کر مطمئن ہو گیا کہ دین فروشوں نے زاہد سادہ لوح کو خوب دھوکہ دیا ہے۔ پھر معاویہ نے اس سے کہا: میں شام کا ایک فرد ہونا اور ہرگز تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ شام کا زاہد وہاں سے اٹھ کر حصین بن نمیر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کسی کو امام - کے نمائندہ جریر کے پاس بھیجو تاکہ اس سے بھی گفتگو کی جائے۔

- (۱) وقعة صفین ص ۴۵ . ۴۴ ، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۷۱ ، کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۳ .  
 (۲) وقعة صفین ص ۴۸ . ۴۷ ، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۷۳ .

زاہد شام کی نمائندہ امام - سے گفتگو

جریر بن عبد اللہ حصین بن نمیر کے ساتھ شرحبیل کے پاس آئے اور تینوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ زاہد شامی نے جریر سے کہا تم صحیح خبر کے ساتھ یہاں نہیں آئے ہو گویا تم چاہتے ہو کہ ہمیں شیر کے منہ میں ڈال دو اور عراق و شام کو آپس میں لڑا دو، علی کی خوب تعریف کرتے ہو جب کہ انہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے اور تم قیامت کے دن خدا کے سامنے جواب دہ ہو گے، جب شرحبیل کی بات ختم ہوئی تو امام کے نمائندے نے اسے یہ جواب دیا:

"میں برگز مہم باتوں کے ساتھ تم لوگوں کے پاس نہیں آیا ہوں کس طرح سے علی کی خلافت مبہم ہوگی، جب کہ مہاجرو انصار نے ان کی بیعت کی ہے اور بیعت توڑنے کی وجہ سے طلحہ و زبیر مارے گئے ہیں؟ تم نے خود اپنے کو شیر کے جال میں ڈالا ہے، مینے ایسا برگز کام نہیں کیا ہے۔ اگر عراق اور شام حق کی حفاظت کرنے کے لئے متحد ہو جائیں تو ایک امر باطل کے لئے جدا ہونے سے بہتر ہے اور تمہارا جو یہ کہنا ہے کہ علی نے عثمان کو قتل کیا ہے تو خدا کی قسم یہ الزام تراشی کا ایک ایسا تیر ہے جو دور سے پھینکنے کے علاوہ کچھ نہیں، تم دنیا کے محبوب ہو گئے ہو اور پہلے بھی سعد و قاص کے زمانے سے کچھ دل میں چھپائے ہو۔ (۱)

گفتگو ختم ہو گئی بعد میں جریر نے ایک قصیدہ اپنے یمنی ہم منصب شرحبیل کے پاس اس پیغام کے ساتھ روانہ کیا۔ "شرحبیل" اے سمط کے بیٹے، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو، کیوں کہ اس دنیا میں دین کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اور حرب کے بیٹے سے کہو کہ اب تمہارا کوئی احترام نہیں ہے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اس تک پہنچ جاؤ، لہذا اس کی امید کو خاک میں ملا دو۔ (۲)

(۱) جریر کی عبارت یہ ہے: "فوا لله ما في يدك في ذالك الا القنف بالغيب من مكان بعيد، اور یہ جملہ اس آیت کا اقتباس ہے کہ ارشاد قدرت ہے، "يُخْفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ" (سورہ نساء، آیت ۵۳) وَقَعَةُ صَفِينِ ص ۴۸ . ۴۷ . (۲) وَقَعَةُ صَفِينِ ص ۴۹ . ۴۸، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج ۲ ص ۸۱ . ۸۰ .

جس وقت جریر کا نصیحت آمیز خط بہترین قصیدہ کے ساتھ شرحبیل کے پاس پہنچا تو اسے ایک جھٹکا لگا اور فکر میں ڈوب گیا اور کہا: یہ بات میرے لئے دنیا و آخرت میں نصیحت ہے، خدا کی قسم میں اپنے ارادے میں جلد بازی سے کام نہیں لوں گا۔

جب معاویہ کو جریر اور زاہد شامی کے درمیان ہوئی گفتگو اور جریر کے پیغام کی خبر ملی تو اس نے امام کے نمائندے کی منمت کی اور جریر کے کلام کو بے اثر کرنے کے لئے ایک گروہ معین کیا تاکہ وہ مسلسل شرحبیل سے ملاقات کرتے رہیں اور علی کے ہاتھوں عثمان کے قتل کی خبر کا اسے یقین دلاتے رہیں، اور اس سلسلے میں جھوٹی گواہی دینے سے بھی پرہیز نہ کریں، اور جھوٹے اور جعلی خطوط لکھ کر اس کے حوالے کریں۔

اس ضمیر فروش گروہ نے اس قدر اسے بہکایا کہ بیدار ضمیر زاہد کو دوبارہ گمراہ کر دیا اور وہ سست جھوٹے گواہوں کے دھوکے میں آ گیا اور اپنے ارادے کو اور مستحکم کر لیا۔ (۱)

جب یمن کے دوسرے قبیلے کے سردار، شرحبیل کے ارادے اور اس کے دھوکے کھانے سے باخبر ہوئے تو ان لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس کے پاس بھیجیں تاکہ وہ اس سے گفتگو کر کے اس مسئلے کو واضح کرے، شام میں وہ اکیلا شخص تھا جس نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور شام کے زاہدوں اور عابدوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔

اس نے معاویہ کے فریب اور دھوکے کا پردہ فاش کر دیا اور اس سے کہا کہ یہ گواہی دینے والے افراد اور یہ خطوط وغیرہ صرف ایک دھوکہ ہے اور ان میں سے کسی کا بھی حقیقت سے واسطہ نہیں ہے۔

جب شام کا عابد اس کے شعر کے مفہوم سے آگاہ ہوا تو کہا: یہ شیطان کا بھیجا ہوا ہے خدا کی قسم اسے شام سے باہر نکال دوں گا مگر یہ کہ وہ میرے بس میں نہ ہو۔ (۲)

معاویہ جو اپنے نمک خواروں کے ذریعے شرحبیل کی فکر کو بدل چکا تھا جب اسے اپنے ارادے میں مستحکم پایا تو اس کے لئے یہ پیغام بھیجا:

"تم نے حق بات پر لبیک کہا اس کا اجر خدا دے گا تم جانتے ہو کہ معاشرے کے تمام صالح افراد

(۱) وَقَعَةُ صَفِينِ ص ۴۹، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج ۳، ص ۸۱ .

(۲) وَقَعَةُ صَفِينِ، ۴۹ . ۵۰ .

نے تمہاری باتوں کو قبول کر لیا ہے لیکن اس گروہ کی رضایت و آگاہی صرف علی سے جنگ کرنے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ علی سے جنگ کرنے کے لئے عمومی رضایت کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ شام کے تمام شہروں میں سفر کرو اور اعلان کرو کہ عثمان کو علی نے قتل کیا ہے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ قاتل

سے اس کے خون کا بدلہ لیں۔"

اس نے شام کے شہروں کا سفر شروع کر دیا سب سے پہلے وہ حمص گیا وہاں اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا: اے لوگو! عثمان کو علی نے قتل کیا ہے اور جو گروہ اس واقعہ پر غضبناک ہوا اسے بھی قتل کر دیا اور اس وقت علی نے تمام اسلامی ملکوں پر قبضہ کر لیا ہے اور صرف شام باقی ہے انہوں نے تلوار اٹھالی ہے اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں اور تم تک پہنچنے والے ہیں مگر یہ کہ خدا کی طرف سے کوئی نیا واقعہ رونما ہو، اور ان سے مقابلے کے لئے معاویہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے اٹھو اور آمادہ ہوجاؤ۔

دھوکہ کھانے ہوئے عابد کی باتوں کا بہت زیادہ اثر ہوا، کیونکہ حمص کے علاقے میں لوگ اسے محبوب رکھتے تھے۔ اور سب نے اس کی دعوت پر لبیک کہا صرف وہانکے زاہد و عابد اس کے بہکانے میں نہیں آئے اور سب نے اس کی مخالفت کی، پھر شرحبیل نے شام کے دوسرے شہروں کا سفر کیا اور لوگوں کو علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی اور سب نے اس سے وعدہ بھی کیا۔

شرحبیل تمام شہروں کا دورہ کر کے دمشق واپس آگیا اور اپنی کامیابی پر فخر کرتا ہوا معاویہ کے پاس پہنچا اور اپنی پرانی باتیں حکمانہ انداز میں دہرائی اور کہا: تم اگر علی اور عثمان کے قاتلوں کے ساتھ جہاد کرو، تو ہم یا ان سے بدلہ لے لیں گے یا اپنے مقصد میں قربان ہو جائیں گے ایسی صورت میں تم اپنی جگہ پر باقی رہو گے اور اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں اس منصب سے معزول کر دیں گے اور کسی دوسرے کو تمہاری جگہ پر معین کر دیں گے تاکہ اس کے زیر نظر جہاد کریں، اور عثمان کے خون کا بدلہ علی سے لے لیں، یا قتل ہو جائیں۔ (۱)

معاویہ زاہد فریب خوردہ کی تند و تیز باتیں سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۸۳-۸۲، وقعہ صفین ص ۵۲-۵۰۔

جریر کی طرف سے اتمام حجت

جریر اس واقعہ سے کہ جس کی اسے توقع نہ تھی بہت ہی ناراض ہوا، او ردوبارہ اپنے قدیمی دوست او رزاہد قبیلہ کے پاس گیا اور اسے برے نتیجوں اور بے جا ارادوں سے باخبر کیا اور کہا:

خداوند عالم نے امت اسلامی کو خونریزی کرنے سے منع کیا ہے اور اختلاف کو دور کر دیا ہے اور ممکن کہ بہت ہی جلد اسلامی حکومتیں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کریں، اور تم ان کے درمیان فساد پھیلانا چاہتے ہو، اپنی باتوں کو پوشیدہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک وہ وقت آ پہنچے کہ تم اپنی باتوں کو واپس نہ لے سکو، شرحبیل نے جواب دیا: نہیں میں ہرگز اپنی باتوں کو پوشیدہ نہیں رکھوں گا، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا او رایک عمومی جگہ پر تقریر کی، لوگوں نے اس کے پہلے کے حالات کی وجہ سے اس کی باتوں کی تصدیق کر دی اس وقت نمائندہ امام - کو بہت ناامیدی ہوئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ (۱)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۸۴، وقعہ صفین ص ۵۲۔

شام میں نمائندہ امام - کی شکست کی وجہ

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام - کا نمائندہ جریر شام میں لوگوں سے بیعت لینے کے لئے گیا تھا اور اپنی ذمہ داری انجام دینے میں وہ ناکام ہو گیا، اس نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ امام - کو معاویہ کے مصمم ارادے سے اس وقت باخبر کیا جب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا معاویہ نے امام - کے خلاف شام کے تمام لوگوں کو جنگ کے لئے آمادہ کر لیا جریر کی کوتاہی یہ تھی کہ جب سے وہ شام میں آیا تھا معاویہ کے آج کل کے بہانے دھوکے کھاتا رہا، اور شام کے معزول حاکم نے اپنے اموی شیطنت کی وجہ سے اپنا نظریہ پیش کرنے سے پرہیز کیا اور امام کے نمائندے کو ناامیدی کے درمیان رکھا جریر نے اس امید میں کہ معاویہ کو بیعت کے لئے آمادہ کر لے اور اختلاف کو ختم کر دے، خاموش رہنے کو ہی بہتر

جانا اور ہمیشہ معاویہ کے قطعی نظریہ کے جاننے کی امید میں تھا۔ معاویہ کے لئے شروع میں اپنی قطعی رائے پیش کرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ البتہ اس کا نظریہ اسی وقت معلوم ہو گیا تھا جب امام کا نمائندہ شام میں پہلی مرتبہ وارد ہوا تھا، یعنی اس کا ارادہ مرکزی حکومت کی مخالفت، نافرمانی اور خراب کاری تھا، لیکن ان دنوں اس کو بیان کرنا سبب یہ بنتا کہ امام کا نمائندہ کوفہ واپس چلا جائے۔ اور معاویہ کی مخالفت کی ساری روداد کو امام - سے بیان کرے جس کی وجہ سے امام - مخالفوں کی سرکوبی کرتے اور اپنے لشکر کو ان کے طرف روانہ کر کے فساد کو جڑ سے ختم کر دیتے۔

جی ہاں، معاویہ نے امام - کے نمائندے کو مختلف بہانوں سے روکے رکھا تاکہ مرکزی حکومت سے جنگ کرنے کے لئے عمرو عاص کو اپنے ساتھ لے سکے اور پھر اس نے پروپیگنڈہ کرنے والوں کو شام کے تمام علاقوں میں روانہ کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں علی کی مخالفت کے شعلے بھڑکا دے۔ اور ان علاقوں سے رسول خداؐ کی خلافت و جانشینی کے لئے اپنے حق میں فائدہ اٹھائے اس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مشہور و معروف زاہد شام شربیل جو کہ لوگوں کے درمیان زیادہ مقبول تھا امام کی مخالفت کرنے کے لئے اپنی طرف جذب کر لیا۔ زاہد فریب خوردہ حضرت علی - کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لئے اس طرح آمادہ ہو گیا کہ اگر اس کام میں معاویہ کوتاہی کرتا تو یہ خود شام کے سادہ لوح لوگوں کو امام - سے مقابلے کے لئے آمادہ کرتا۔

یہ شیطانی حربے کی کامیابی معاویہ کے لئے اتنی مفید ثابت ہوئی کہ امام - کا نمائندہ جریر اپنی اس ماموریت میں جو اس کے ذمے تھی، معاویہ کی ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھا گیا اور امام - کو اس بات پر آمادہ کیا کہ امام اس فساد کے قلعہ کو نیست و نابود کر دیں، اور اس وقت امام - کے پاس واپس آیا جب معاویہ نے اسلامی ممالک کی بہت سی اہم جگہوں پر انتقام عثمان کے نام پر امام سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنی فوج بٹھا رکھی تھی -

#### معاویہ کا آخری حربہ

آخری لمحوں میں معاویہ کا سب سے آخری حربہ امام - کا امتحان لینا تھا اور وہ یہ کہ وہ معلوم کرے کہ کیا امام اسے اس کے منصب سے واقعاً معزول کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ امام کے نمائندے جریر کے گھر گیا اور کہا میرے پاس ایک نئی فکر ہے تم اپنے دوست کے پاس لکھو کہ شام کی حکومت مجھے دیدینا اور مصر سے خراج لینے کی ذمہ داری بھی مجھے سونپ دینا اور رجب ان کا انتقال ہو جائے تو کسی کی بیعت کو میرے اوپر واجب نہ کریں اس صورت میں میں ان کے سپرد ہو جاؤں گا اور ان کی حکومت کی تحریری طور پر تائید کروں گا۔ (۱)

نمائندہ امام نے اس کا جواب دیا کہ تم خط لکھو اور میں اس کی تائید کروں گا بالآخر خط لکھا گیا اور قاصد دونوں خط لے کر کوفہ روانہ ہوا۔

معاویہ کے خط کی عبارت عرب کے تمام قبیلوں میں مشہور ہو گئی، معاویہ کے ہم خیال مثلاً ولید عقبہ نے ایسا خط لکھنے کی وجہ سے معاویہ پر اعتراض کیا ولید نے اس کے ضمن میں معاویہ کو شعر لکھا:

سألت علياً فيه ما لن تناله و لو نلته لم يبق الا لياليا. (۲)

تم نے علی سے وہ چیز مانگی ہے جو تمہیں برگز نہیں مل سکتی اور اگر مل بھی گئی تو چند راتوں کے علاوہ تم اس پر مسلط نہیں رہ سکتے۔

عقبہ کے بیٹے نے پہلے مصرعہ میں حقانیت سے کام لیا ہے کیونکہ امام علی - برگز باطل کے ساتھ دوستی اور معاملہ نہیں کر سکتے لیکن اس کے شعر کا دوسرا مصرعہ بالکل غلط ہے کیونکہ ہر فرض محال اگر مصلحتاً امام - اس بات کو قبول کر لیتے تو برگز اس پر نقض نہیں کرتے، چونکہ امام - نے "حکمین" کے مسئلے میں اپنے تعہد و پیمانہ کو بالکل واضح و روشن کر دیا تھا۔

معاویہ، علی - کو ولید سے زیادہ پہچانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ دونوں صورتوں میں اسی کا فائدہ ہے کیونکہ اگر علی - حکومت اس کے حوالے کر دیتے تو ایک مستقل حکومت بغیر کسی مشکل کے اس کے نصیب میں آجاتی۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو معاویہ اپنے مکر و فریب سے لوگوں کا خون بہاتا اور حجاز و عراق کو مستحکم کر لیتا، اس کے علاوہ امام - کے نمائندے کو دھوکے میں رکھنا خود معاویہ کے فائدے میں تھا، کیونکہ وہ اپنی طاقت میں اضافہ کرتا اور شام کے لوگوں کو امام - سے جنگ کرنے کے لئے زیادہ آمادہ کرتا۔



امام - کا اپنے نمائندہ کو جواب

معاویہ کا مقصد یہ ہے کہ اس پر میری بیعت نہ ہو، تا کہ جس کو بھی چاہے منتخب کر لے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایسے ہی معطل رکھے اور شام کے لوگوں کو جنگ کے لئے آزمائے، ابتدائی ایام میں جب میں مدینہ میں تھا تو مغیرہ بن شعبہ نے مجھ سے کہا کہ میں معاویہ کو اس کے مقام پر باقی رہنے دوں، لیکن میں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، خدا ایسا دن نہ لائے کہ میں گمراہ لوگوں سے مدد طلب کروں، اگر اس نے بیعت کیا (تو کوئی بات نہیں) او راگر ایسا نہ کرے تو تم میرے پاس واپس آ جاؤ۔ (۱)

امام - نے اس خط میں معاویہ کے ایک مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ وہ اس سیاسی چال کے ذریعے وقت گزارنا چاہتا ہے، تاکہ اس عرصے میں خط لکھنے اور اس کا جواب آنے تک اپنی فوج کو جنگ کے لئے اچھی طرح آمادہ کر لے، اور اگر امام - کا جواب "نہیں" کی صورت میں ہو (کہ ضرور ایسا ہی ہوگا) تو پوری قدرت و توانائی کے ساتھ امام - کے سامنے مقابلے کے لئے آجائے۔

جریر پر معاویہ سے دوستی کا الزام

سرزمین شام میں جریر کا زیادہ دن رہنا عراق کے لوگوں کے لئے تشویش کا باعث بنا اسی وجہ سے ان لوگوں نے دشمن کے ساتھ دوستی کرنے کا ان پر الزام لگایا۔ جب لوگوں کی باتیں امام - نے سنیں تو آپ نے اس کے متعلق فرمایا: میں دوبارہ خط لکھوں گا اور اسے شام سے واپس بلالوں گا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ شام میں رہ گیا یا دھوکہ کھا گیا یا میرے حکم کو نظر انداز کر دیا اور میری مخالفت کرنے لگا تب تم کچھ کہنا اسی وجہ سے امام - نے جریر کو دوبارہ خط لکھا:

... "جیسے ہی میرا خط تمہارے پاس پہنچے معاویہ کو آخری فیصلے پر آمادہ کرنا اور ایک قطعی بات پر راضی کرنا اور (جب وہ آمادہ ہو جائے تو) اس سے کہنا کہ دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، گھر سے بے گھر کرنے والی جنگ یا رسوا کرنے والی صلح، پس اگر وہ جنگ کو اختیار کر لے تو صلح کی بات اس کے منہ پر دے مارو، اور اگر صلح کا چناؤ کرے تو بیعت لے لو"۔ (۲)

جب جریر کو امام - کا خط ملا تو اس نے معاویہ کے سامنے اس خط کو پڑھا اور اس سے کہا: انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے اور توبہ کرنے سے دل کھل جاتا ہے اور میری نظر میں تیرا دل بند ہے اور اس وقت تو حق و باطل کے درمیان کھڑا ہے اور اس چیز کی فکر میں ہے جو دوسرے کے ہاتھ میں ہے

(۱) وقعہ صفین ص ۵۲۔

(۲) نہج البلاغہ مکتوب نمبر ۸، وقعہ صفین ص ۵۵، (خط میں کچھ تبدیلی کے ساتھ)

معاویہ نے اس سے کہا: میں دوسری نشست میں اپنی قطعی رائے اور کا اعلان کروں گا، اس نے اپنی قطعی رائے کا اعلان اس وقت کیا جب شام کے لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے اور معاویہ ان لوگوں کو خوب آزما چکا تھا، پھر اس نے امام کے نمائندہ کو شام سے جانے کی اجازت دی کہ وہ امام کے پاس چلا جائے اور امام - کے پاس خط لکھا جسے بعض مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے:

"مہاجرین و انصار نے تمہاری اس وقت بیعت کی جب تم عثمان کے خون سے بری الذمہ تھے اس وقت تمہاری خلافت پچھلے تینوں خلیفہ کی خلافت کی طرح تھی، لیکن تم نے مہاجروں کو عثمان کے قتل کرنے پر آمادہ کیا اور انصار کو اس کی مدد کرنے سے روک دیا نتیجے میں جاہلوں نے تمہاری اطاعت کی اور کمزور لوگ طاقتور ہو گئے شام کے لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ جنگ کریں، تاکہ عثمان کے قاتلوں کو ان کے حوالے کرو، اگر ایسا کیا تو خلافت کا مسئلہ مسلمانوں کی شوری میں رکھا جائے گا، اپنی جان کی قسم میری حالت طلحہ و زبیر جیسی نہیں ہے کیونکہ ان دونوں نے تمہاری بیعت کی تھی لیکن میں نے تمہاری بیعت نہیں کی ہے او راسی طرح شام کے لوگ بصرہ کے افراد کی طرح نہیں ہیں کہ ان لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور تمہارے مطیع و فرمان بردار تھے، جب کہ شام کے لوگوں نے



تمہاری خلافت کو قبول نہیں کیا ہے اور تمہارے مطیع و فرمان بردار نہیں ہیں، لیکن اسلام میں تمہارے افتخارات اور تمہاری رسول خداؐ سے قرابت اور قریش کے درمیان تمہاری عظمت و رفعت کا میں انکار نہیں کر سکتا۔ (۱)

یہ خط جو جھوٹ کی سیلابی سے لکھا گیا تھا معاویہ کی چالاکی و سازش تھی جس نے اپنے مفاد کے لئے اپنے رقیب پر کسی بھی طرح کی تہمت لگانے سے پرہیز نہیں کیا، لیکن امام - نے اپنے خطوط میں تمام حقائق سے مدد لیتے ہوئے اپنے حق کے دفاع کے لئے تمام حقیقتوں کو بیان کیا، حضرت اپنے خط میں معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اس کی لگائی ہوئی تہمت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"میرے پاس ایسے شخص کا خط پہنچا جس کے پاس فکر نہ تھی جو اس کی ہدایت کرتی اور نہ اس کا کوئی پیشوا ہے جو اسے راہ راست پر لاتا، خواہشات نفسانی نے اسے گھیر لیا ہے اور اس نے اسے قبول کر کے اس

(۱) الامامة و السياسة ج ۱ ص ۹۱ کامل مبرد ج ۳ ص ۱۸۴، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۸۸۔

کی پیروی بھی کی ہے کیا تو نے یہ فکر کیا ہے کہ عثمان کے بارے میں میرے کام نے میری بیعت کو تمہارے لئے باطل کر دیا ہے اپنی جان کی قسم، میں بھی مہاجروں کا ایک فرد تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے میں بھی ان کے ہمراہ جاتا اور خدا نے ہرگز انہیں گمراہ نہیں کیا اور ان کے آنکھوں پر پردہ نہیں ڈالا اور عثمان کے قتل کے بارے میں نہ تو میں نے کوئی حکم دیا ہے کہ میرے حکم کی غلطی مجھے مورد سوال قرار دے اور نہ مینے اسے قتل ہی کیا ہے کہ مجھ پر قصاص واجب ہو جائے۔

اور جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ شام کے لوگ اہل حجاز پر حاکم ہیں تو تم اہل شام میں سے کسی کو بھی دکھاؤ کہ جو شوریٰ کا ممبر ہو اور پیغمبر اسلامؐ کی جانشینی کے لئے چنا گیا ہو اگر تم ایسا تصور کرتے ہو، تو مہاجرین و انصار تمہاری باتوں کو جھٹلا دیں گے۔

اور جو تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کروں تو تمہاری یہ بات بالکل بے جا ہے تیرا عثمان سے کیا واسطہ: تم بنی امیہ کی اولاد میں سے ہو اور عثمان کے بیٹے اس کام کے لئے تم سے زیادہ بہتر ہیں اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ ان کے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لئے ان سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے تو، تم میری اطاعت کرو، اور اس وقت اس کے قاتلوں سے شکایت کرو میں تمام لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گا، لیکن تمہارا شام و بصرہ اور طلحہ و زبیر کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اساس ہے اور سبھی ایک حکم میں شام رہتے ہیں کیونکہ وہ ایک اجتماعی اور عمومی بیعت تھی اور اس میں کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور خیا رفسخ بھی نہیں ہے لیکن تیرا یہ اصرار کرنا کہ میں نے عثمان کو قتل کیا ہے تو تم نے بالکل حقیقت سے کام نہیں لیا ہے اور اس کے بارے میں تجھ تک خبر نہیں پہنچی ہے، پیغمبرؐ سے میری قرابت اور فضیلت اور قریش کے درمیان میرے شرف کو تم نے قبول کر لیا ہے اپنی جان کی قسم، اگر تم سے ممکن ہوتا تو تم اس کا بھی انکار کر دیتے۔ (۱)

اس وقت آپ نے اپنے منشی نجاشی کو حکم دیا کہ معاویہ کے خط کو جنگی اشعار کے ساتھ جواب دو اور دونوں کو معاویہ کے پاس بھیج دو۔

(۱) نہج البلاغہ کے چھٹے اور ساتویں مکتوب میں اس کے مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے۔

نمائندہ امام - کی شام سے واپسی:

امام کے نمائندہ جریر کی تقریر، علفندی، بردباری، صبر جو ایک سیاسی نمائندہ میں ہونا چاہئے وہ اس کے اندر موجود تھا اور کسی کو بھی اس میں شک نہیں کہ اس نے بہت کوششیں کیں کہ بغیر خونریزی کے امام - کی نظر کو جذب کرے اور معاویہ کو مرکزی حکومت کی اطاعت کرنے پر مجبور کرے (اس کی ان کوششوں کے بارے میں بھی کسی کو شک نہیں ہے) لیکن اس سے ایک غلطی ہوئی اور وہ یہ کہ بنی امیہ کے دو سیاسی مکاروں کے آج کل کی باتوں میں پڑ کر دھوکہ کھا گیا اور معاویہ نے اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کے لوگوں کو خوب آزما لیا اور ان لوگوں کو امام - کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لئے آمادہ کر لیا اور اس نے اس وقت اپنے آخری فیصلے کا اعلان کیا جب شام کے لوگوں سے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے بیعت کر چکا تھا۔

جریر کی غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام - رجب ۳۶ھ کے شروع ایام میں کوفہ آئے اور اس وقت سے کئی مہینہ تک جریر کے انتظار میں رہے تاکہ معاویہ کے قطعی نظریہ سے آگاہ کرے اور اس کے نتیجے میں معاویہ نے اس مدت میں شامیوں کو خوب مسلح کر دیا اور تمام لوگوں کو امام - سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ کر دیا اور دشمن کی توجہ سے بے خبر ہو گیا۔ کوئی بھی ایسی قطعی و یقینی دلیل نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ جریر نے خیانت کی تھی البتہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ان سے کوتاہی ہوئی جس نے تاریخ اسلام کا نقشہ بدل دیا اور قاسطین کی منحوس حیات کا استمرار اسی کوتاہی کا مرہون منت تھا۔ اس کی غلطی یا قصور نے تاریخ اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ اور قاسطین کی منحوس زندگی کی بقاء ایک حد تک نمائندہ امام کی غلطیوں کی وجہ سے تھی البتہ امام - نے کوفہ میں قیام کے دوران بہت سے کام انجام دیئے اور حاکموں اور نمائندوں کو معزول اور نیک و صالح اور خدمت کرنے والوں کو ان کی جگہ پر منصوب کیا لہذا کوفہ میں امام کے قیام کی علت جریر کی تاخیر سے واپسی نہیں تھی، خاص طور سے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امام - نے کوفہ میں قیام کرنے کے بعد جریر کو ہمدان کی گورنری کے بجائے کوفہ کی اہم گورنری سپرد کی -

اس مدت میں امام - کی مشکلوں میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ نوجوان اور بہادر، دشمن سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ تھے اور آپ سے شام سے جنگ کرنے کی درخواست کر رہے تھے۔ لیکن امام - خونریزی نہیں چاہتے تھے بلکہ یہ چاہتے تھے کہ بغیر لڑائی کے اس واقعہ کا حل نکل جائے چنانچہ ان نوجوانوں کو جانے سے منع کر دیا اور ان سے فرمایا: "تم لوگ ہمارے حکم کے منتظر رہو جب کہ میرا نمائندہ جریر شام میں ہے اگر میں جنگ کا حکم دوں گا تو صلح کے دروازے شام والوں پر بند ہو جائیں گے۔ اگر ان لوگوں کی نیت صحیح ہوگی تو ان کے درمیان سے گزرے گا مینے جریر کو خط لکھا ہے اور اسے وہاں کم رہنے کے لئے کہا اور اگر تاخیر کرے تو یا تو دھوکہ کھایا ہے یا اپنے امام کی مخالفت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کام میں تھوڑا صبر کروں لیکن یہ کام اس چیز سے ممانع نہیں ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے آمادہ ہوں جب چلنے کا حکم دیا جائے تو فوراً چلنے کو تیار ہو جائیں۔ (۱)

#### (۱) نبیح البلاغہ عیدہ خطبہ، ۴۲۔

#### جریر امام کے حضور میں

جریر بہت دنوں کے بعد ناامید امام کے پاس واپس آگئے مالک اشتر نے امام - کے سامنے انہیں پیش کیا اور دونوں کے درمیان تیز و تند گفتگو ہوئی جس کا خلاصہ یہاں بیان کر رہے ہیں:

مالک اشتر: اے امام: اگر اس کی جگہ پر مجھے بھیجتے تو میں کام کو صحیح طور پر انجام دیتا اس شخص نے ہر طرح کی امید کو ناامیدی میں بدل دیا، خاندان امیہ نے اس کے دین کو اسی وقت خرید لیا تھا جب وہ ہمدان کا حاکم تھا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ زمین پر چلے اور اب جب کہ شام سے واپس آیا ہے تو ہمیں ان کی طاقت سے خوف دلاتا ہے، اے امام اگر آپ اجازت دیں تو اس کو اور اس کے ہم خیالوں کو قید کر دوں تاکہ واقعیت روشن و واضح ہو جائے اور ظالم نیست و نابود ہو جائیں۔

جریر: اے کاش میری جگہ تم گئے ہوتے تو میری طرح واپس نہیں آتے اور عمرو عاص یا ذی الکلاع اور حوشب تمہیں قتل کر ڈالتے کیونکہ وہ تمہیں عثمان کا قاتل سمجھتے ہیں۔

مالک اشتر: اگر میں جاتا تو ان کا جواب مجھے مجبور نہیں کرتا میں معاویہ کو کسی نہ کسی طرح دعوت دیتا اور اسے فکر کرنے کا بھی موقع نہیں دیتا۔

جریر: جاؤ اب بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔

مالک اشتر: اب تو وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے اور معاویہ نے سارا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ (۱)

اس میں کوئی شک نہیں کہ مالک اشتر کی گفتگو منطقی تھی اور جریر مالک اشتر کے منطقی اعتراض کا صحیح جواب نہ دے سکا، ایک ایسے سیاسی شخص کے لئے شائستہ تھا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا اور رعدن خواہی کرتا لیکن اس نے مالک اشتر کے اعتراض کا جواب دیا اور دھیرے دھیرے امام سے دور ہونے لگا اور "فرقیسا" (۲) جو کہ فرات کے کنارے تھا وہاں رہنے لگا۔

اگر جریر اس وقت تک جرم کا مرتکب نہ ہوا ہوتا تو اس کی غلطی معافی کے قابل تھی، لیکن اس کے بعد اس کے سارے کام اصول کے خلاف تھے، کیونکہ امام - کی دوستی و ہمرابی کا چھوڑنا اور بہت دور زندگی بسر کرنا عملی طور پر امام - کی حکومت پر اعتراض تھا، اس کے علاوہ جریر کے کنار کش ہونے کی وجہ سے قبیلے کے تعصب نے اپنا کام کر دکھایا اور جریر کے قبیلے سے بہت مختصر لوگ (صرف ۱۹ آدمی) قسر سے جو بجلیہ قبیلے کے اطراف میں رہتے تھے امام - کے ساتھ جنگ صفین کے لئے روانہ ہوئے اگرچہ بجلیہ کے اطراف "احمس" سے سات سو (۷۰۰) لوگوں نے شرکت کی۔ جریر کا عمل ایک قسم کی نافرمانی اور حکومت حقہ کے خلاف خروج تھا اور امام - نے اس کام کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے جریر اور اس کے ہمفکر ثویر بن عامر کے گھر کو ویران کر دیا تاکہ دوسروں کے لئے درس عبرت ہو۔ (۳)

- (۱) وقعة صفین ص ۶۰، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۱۵۔ ۱۱۴۔  
 (۲) رجوع علاقے سے کچھ دوری پر واقع ہے اور خابور کے پاس ہے۔  
 (۳) وقعة صفین ص ۶۱۔ ۶۰۔

معاویہ کے خطوط اسلامی شخصیتوں کے نام

معاویہ نے جنگ صفین پر روانہ ہونے سے پہلے عمرو عاص سے کہا میں چاہتا ہوں تین لوگوں کو خط لکھوں اور ان لوگوں کو علی کے خلاف برانگیختہ کروں وہ تین آدمی یہ ہیں عبد اللہ بن عمر، سعد بن وقاص، محمد بن مسلمہ۔ معاویہ کے مشاورنے اس کے نظریہ کو قبول نہیں کیا اور اس سے کہا یہ تینوں افراد تین حالتوں سے خالی نہیں بینا علی کے چاہنے والے بیناس صورت میں تمہارا خط باعث بنے گا کہ راہ علی پر باقی رہنے میں ان لوگوں کا ارادہ ٹھوس ہو جائے یا عثمان کے چاہنے والے ہیں اس صورت میں ان کے استحکام میں اضافہ نہیں ہو گا اور اگر وہ لوگ کسی بھی طرف نہیں ہیں تو ہرگز تم ان لوگوں کی نظر میں علی سے زیادہ مورد اعتماد نہیں ہو۔ اس لئے تمہارے خط کا اثر ان لوگوں پر نہیں پڑے گا۔ (۱)

معاویہ نے اپنے مشاور کے نظریہ کو قبول نہیں کیا اور اپنی اور عمرو عاص کی دستخط کے ساتھ ایک خط عبد اللہ ابن عمر کو لکھا جس کی عبارت یہ تھی:

"حقائق اگر ہم پر پوشیدہ ہوں تو تم پر پوشیدہ نہیں ہیں، عثمان کو علی نے قتل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو امان دی ہے، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تاکہ حکم قرآن کے مطابق انہیں قتل کریں اور اگر علی عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم ان سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے اور اس وقت خلافت کے مسئلہ کو عمر بن خطاب کی طرح مسلمانوں کے درمیان شوری میں پیش کریں گے ہم ہرگز نہ خلافت کے طلبگار تھے اور نہ ہیں تم سے بس گذارش یہ ہے کہ قیام کرو اور بیماری اس راہ میں مدد کرو، اگر ہم اور تم آپس میں متحد ہو گئے تو علی مرعوب ہو جائیں گے اور پھر اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ (۲)

عبد اللہ بن عمر کا جواب

اپنی جان کی قسم، تم دونوں نے اپنی بصیرت اور حقیقت شناسی کو اپنے باتوں سے کھودیا ہے اور حوادث کو فقط دور سے دیکھ رہے ہو اور تمہارے خط نے شک کرنے والوں کے شک و تردید میں اضافہ کر دیا ہے تم لوگوں کا خلافت سے کیا ربط؟ معاویہ تم ظلیق و آزاد شدہ ہو اور عمرو تم ایک متہم شخص اور غیر قابل اعتماد ہو، اس کام سے باز آجاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ (۳)

عبد اللہ بن عمر نے جو خط معاویہ کو لکھا اس نے عمرو عاص کی مردم شناسی اور دور اندیشی کو ثابت کر دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ معاویہ اپنے قدیمی حریف کے کاموں تک نہیں پہنچ سکا ہے اور اگر بعض سیاسی مسئلوں میں برتری رکھتا ہے (مثلاً کشادہ دلی کے ساتھ مخالف کی بات سنتا اور اگر اس کے سامنے آتا تو گذشتہ کو نظر انداز کر دیتا، اور اگر گفتگو ایک طرف ہو جاتی تو فوراً گفتگو کا عنوان بدل دیتا اور بحث کے اصل موضوع کو دوسرے انداز سے شروع کرتا) اس کے باوجود ابھی پورا مردم شناس نہیں ہو رہے۔

- (۱) الامامة و السياسة ج ۱ ص ۸۸-۸۹۔  
 (۲) وقعة صفین، ص ۶۳، ابن قتیبہ کے نظریہ کے مطابق اس خط کو معاویہ نے اہل مکہ اور مدینہ کے لئے لکھا تھا۔ الامامة و السياسة ص ۸۹۔  
 (۳) وقعة صفین ص ۶۳، لیکن ابن قتیبہ نے معاویہ کے جواب میں ایک دوسرے خط کا ذکر کیا ہے، الامامة و السياسة ص ۸۹-۹۰

### معاویہ کے خط لکھنے کا مقصد

معاویہ کا مختلف لوگوں کو خط لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض شخصیتوں کو متوجہ کرے جو نہ موافقوں کی صف میں تھے نہ ہی مخالفوں کی صف میں۔ یہ لوگ مکہ و مدینہ میں لائق احترام اور با اثر شخصیت کے حامل تھے اور ان کی نظر جذب کرنے کی وجہ سے دو شہروں میں مخالفت ایجاد کرنا تھا جو شوریٰ کے مرکزی افراد اور خلیفہ انتخاب کرنے میں ایک اہمیت رکھتے تھے۔  
 لیکن یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ عقلمند تھے جن لوگوں نے معاویہ سے دھوکہ کھایا اور اس کے ساتھ رہے لہذا دوسروں نے بھی، یعنی سعد وقاص اور محمد بن مسلمہ نے بھی عبد اللہ بن عمر کی طرح جواب دیا۔ (۱)  
 نصر بن مزاحم نے کتاب "وقعة صفین" میں معاویہ کا ایک دوسرا خط نقل کیا ہے جو اس نے عبد اللہ بن عمر کے نام لکھا تھا اور اس پر امام - کی مخالفت کرنے کا الزام لگایا ہے اور اس طرح چاہا کہ مخالفت کا بیج اس کے دل میں بودے اور پھر لکھتا ہے کہ میں خلافت کو اپنے لئے نہیں چاہتا بلکہ تمہارے لئے چاہتا ہوں اور اگر تم نے بھی قبول نہیں کیا تو ضروری ہے کہ مسئلہ خلافت کو مسلمانوں کی شوریٰ میں بیان کیا جائے۔  
 عبد اللہ بن عمر اگر چہ سادگی میں بہت مشہور تھا اس نے معاویہ کا خط پڑھ کر اس کو جواب دیا کہ تم نے لکھا ہے کہ میں نے علی کی نکتہ چینی کی ہے اپنی جان کی قسم میں کہاں اور علی کا سابقہ ایمان، ان کی ہجرت، رسول خدا کے نزدیک ان کی و رفعت و منزلت اور مشرکوں کے مقابلے میں ان کی مقاومت کہاں؟ اگر مینے ان کی موافقت نہیں کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حادثہ میں پیغمبرؐ کی طرف سے کوئی حدیث نہیں

- (۱) معاویہ کے اصل خط کو جو اس نے سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہ انصاری کے نام لکھا تھا اور ان کے جواب کو ابن قتیبہ نے الامامة و السياسة ص ۹۰-۹۱ پر لکھا ہے۔

آئی تھی لہذا ہم نے دونوں میں سے کسی کی طرف بھی رغبت کرنے سے پرہیز کیا۔ (۱)

### معاویہ کا خط سعد بن وقاص کے نام

معاویہ نے فاتح سرزمین ایران سعد وقاص کو خط لکھا:

عثمان کی مدد کے لئے بہترین لوگ قریش کی شوریٰ تھی، ان لوگوں نے اسے چنا اور دوسروں پر مقدم کیا، طلحہ و زبیر نے اس کی مدد کرنے میں جلدی کی اور وہ لوگ تمہاری شوریٰ کے ہمارے اور اسلام میں بھی تمہاری ہی طرح تھے ام المومنین (عائشہ) بھی اس کی مدد کے لئے گئیں تمہارے لئے بہتر نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جس چیز کو پسند کیا ہے تم اسے ناپسند کرو اور جس چیز کو ان لوگوں نے اختیار کیا ہے تم اسے چھوڑ دو، ہمیں چاہیئے کہ ہم خلافت کو شوریٰ کے حوالے کر دیں۔ (۲)

### سعد وقاص کا جواب

عمر بن خطاب نے ایسے افراد کو شوریٰ میں شامل کیا جن کے لئے خلافت جائز تھی، ہم سے زیادہ کوئی بھی خلافت کے لئے بہتر نہ تھا، مگر یہ کہ ہم اس کی خلافت پر راضی رہیں اگر ہم بافضیلت ہیں تو علی بھی اہل فضل میں سے ہیں جب کہ علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور ہمارے فضائل اتنے نہیں ہیں اور اگر طلحہ و زبیر اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھتے تو بہتر تھا، خداوند عالم ام المومنین کو جوانہوں نے کام کیا ہے معاف کر دے۔ (۳)

معاویہ نے کوشش کی تھی کہ شوریٰ کے تمام اراکین سے زیادہ خلیفہ سوم کی فضیلت کو ثابت کرے، لیکن سعد وقاص نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کی حاکمیت اور سب سے آگے بڑھنے کو شوریٰ کے اراکین کی رائے سے توجیہ کیا اور اسی کے ساتھ طلحہ و زبیر پر اعتراض بھی کیا۔

- (۱) وقعة صفین ص ۷۲ . ۷۳  
 (۲) الامامة و السياسة، ج ۱ ص ۹۰ وقعة صفین، ص ۷۴  
 (۲) الامامة و السياسة ج ۱ ص ۹۰، وقعة صفین ص ۷۷ . ۷۵

معاویہ کا خط محمد بن مسلمہ کے نام

معاویہ نے اس خط میں اسے انصار کے فارس (بہادر) سے تعبیر کیا ہے اور رخط کے آخر میں لکھتا ہے:  
 انصار جو تمہاری قوم ہے اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور عثمان کو ذلیل کیا ہے اور خدا تم سے اور ان لوگوں سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ (۱)  
 مسلمہ کے بیٹے نے ایک مقدمہ کے بعد جواب دیا:  
 تم دنیا کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چاہتے اور خوابشات نفسانی کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، عثمان کی موت کے بعد اس کا دفاع کر رہے ہو لیکن اس کی زندگی میں اسے ذلیل و خوار کیا اور اس کی مدد نہیں کی۔ (۲)

- (۱) الامامة و السياسة ج ۱ ص ۹۰، وقعة صفین ص ۷۷ . ۷۵  
 (۲) الامامة و السياسة ج ۱ ص ۹۰، وقعة صفین ص ۷۷ . ۷۵

(۲) معاویہ کے خط کا مفہوم اور اس کا مقصد

معاویہ کے خط کا مفہوم مکمل طور سے اشتعال انگیز تھا اور معاویہ کی یہ کوشش تھی کہ لوگوں کو امام - کی مخالفت کے لئے برانگیختہ کر دے، مثلاً عمر کے بیٹے کو خلافت پر قبضہ کرنے کے لئے بلایا کیونکہ وہ شوریٰ کا ناظر تھا، سعد وقاص چونکہ چھ نفری شوریٰ کا ممبر اور طلحہ و زبیر کے مثل تھا لہذا شوریٰ میں اس کے ممبر ہونے کا تذکرہ کیا اور اسے طلحہ و زبیر کے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور محمد بن مسلمہ کو انصار کا شہسوار اور مہاجروں کو منظم کرنے والا قرار دیا اور یاد دلایا کہ ان لوگوں نے عثمان کی مدد نہیں کی لہذا اس کا جبران کرنے کے لئے فوراً اٹھ جائیں اور اس کی مدد کریں۔

ان تمام خطوط سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معاویہ کا مقصد صرف اسلامی معاشرہ کو درہم برہم کر کے علی - کا مخالف بنانے کے علاوہ کچھ نہ تھا اور بنا بر فرض محال اگر وہ عثمان کا ولی دم تھا تو یہ بات کوئی عقلمند انسان قبول نہیں کرے گا کہ ایک انسان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے تمام مسلمانوں کی جان جو کہم میں ڈال دے -  
 معاویہ کا اصرار تھا کہ خلیفہ کا انتخاب شوریٰ کے ذریعے ہو اور عمر کی شوریٰ کی تعداد چھ آدمیوں سے زیادہ نہ تھی، اگر شوریٰ کا انتخاب تکلیف دہ تھا تو مہاجرین و انصار کا متحد ہونا بدرجہ اولی الزام آور تھا سب لوگ اس سے باخبر ہیں کہ امام - مہاجرین و انصار کے ذریعے اس مقام پر منتخب ہوئے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگ جوق درجوق آپ کے پاس آئے اور بہت زیادہ اصرار کر کے آپ کو مسجد میں لے گئے اور پھر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور چند لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی بیعت کی مخالفت نہیں کی۔

اس کے علاوہ اگر مہاجرین و انصار نے عثمان کی مدد نہیں کی تو خود معاویہ نے بھی تو اس کی مدد نہیں کی جب کہ عثمان کے گھر کا محاصرہ بہت دنوں تک تھا اور وہ اس سے آگاہ بھی تھا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ خلیفہ کی مدد کے لئے جاسکتا تھا، لیکن برگز اس نے ایسا نہیں کیا اور اس کے خون کو بہتا ہوا دیکھتا رہا۔  
 اس کے علاوہ خود عثمان نے شام کے لوگوں اور روہاں کے حاکم معاویہ کے پاس خط لکھا اور ان سے مدد مانگی تھی یہاں تک کہ اپنے خط کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا:

"افیاغوثاہ و لا امیر علیکم دونی ، فالعجل العجل یا معاویة وادرك ثم ادرك و ما اراک تدرک"(۱) ان تمام چیزوں کے باوجود معاویہ نے ان خطوط کو نظر انداز کر دیا اور اپنے خلیفہ کی بالکل بھی حمایت نہیں کی لیکن اس کی موت کے بعد اس کے خون کا بدلہ لینے کی فکر ہو گئی۔

مؤرخین نے عثمان کے دو طرح کے محاصروں کو لکھا ہے اور پہلے محاصرہ اور دوسرے محاصرے کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا، بعض نے محاصرہ کی مدت ۴۹ دن بعض نے ۷۰ دن اور بعض نے ۱ مہینے سے زیادہ لکھا ہے اس لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عثمان کے محاصرے کی خبر معاویہ نے نہ سنی ہو، اور وہ پورے واقعہ سے بے خبر ہو۔

## (۱) الامامة و السياسة ص ۳۸۔

### شام کا خطیب

ہر زمانے اور ہر جگہ پر ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ اپنا کھانا روزانہ کی قیمت سے کھاتے ہیں اور چاہلوسی اور جھوٹی تعریف کرنے والے صاحبان قدرت و ثروت کی خوشامد اور ان کی تعریفیں کیا کرتے ہیں اور حق کو ناحق، اور باطل کو حق دکھاتے ہیں لیکن تاریخ میں ایسے بھی افراد موجود ہیں جو حق و حقیقت کا کسی بھی چیز سے معاملہ نہیں کرتے اور ان کی زبانوں پر کلمہ حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا۔

قبیلہ "طی" کے لوگ جو مدینہ اور شام کے دو پہاڑوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے تھے وہ سب کے سب خصوصاً عدی بن حاتم، علی - کے عاشق تھے۔ عدی امام - کی خدمت میں آئے اور کہا ہمارے قبیلہ کا ایک شخص "خفاف" اپنے چچازاد بھائی "حابس" کی ملاقات کے لئے شام جانے والا ہے، خفاف بہترین خطیب و مقرر اور عمدہ شاعر ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس سے کہیں کہ معاویہ سے ملاقات کرے اور مدینیاور عراق مینآپ کی جو شان و شوکت ہے اسے بیان کر کے، معاویہ اور شامیوں کا حوصلہ پست کرے، امام - نے عدی کی درخواست کو قبول کیا، خفاف شام کی طرف روانہ ہوا، اور اپنے چچازاد بھائی حابس کے پاس گیا اور اس سے کہا میں عثمان کے قتل کے وقت مدینہ میں موجود تھا پھر حضرت علی - کے ساتھ مدینہ سے کوفہ آیا ہوں اور تمام حالات سے باخبر ہوں دونوں چچازاد بھائیوں نے طے کیا کہ دوسرے دن معاویہ کے پاس جائیں اور اسے تمام واقعات سے آگاہ کریں ، دوسرے دن دونوں بھائی معاویہ کے پاس گئے حابس نے اپنے بھائی کا تعارف کرایا اور کہا کہ وہ حادثہ "یوم الدار" اور عثمان کے قتل کے دن موجود تھا اور علی کے ساتھ کوفہ آیا ہے اور اپنی بات میں مکمل یقین و اعتماد رکھتا ہے معاویہ نے خفاف سے کہا، عثمان کے واقعات سے مجھے آگاہ کرو، خفاف نے مختصر طور پر عثمان کے قتل کے واقعات کو اس طرح بیان کیا:

"مکشوح نے اس کا محاصرہ کیا اور حکیم نے حملہ کرنے کا حکم دیا، محمد بن ابوبکر اور رعمار قتل کرنے میں شریک تھے اور تین آدمی عدی بن حاتم، مالک اشتر نخعی اور عمرو بن الحمق اس کارنامے میں بہت فعال تھے اسی طرح سے طلحہ و زبیر قتل کرنے میں بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے، اور اس گروہ سے سب سے جدا رہنے والے علی - تھے جو عثمان کے قتل میں کسی طرح بھی شریک نہیں تھے۔

معاویہ نے کہا: پھر اس کے بعد کیا ہوا؟

خفاف نے کہا: لوگ عثمان کے قتل کے بعد جب کہ ابھی اس کا جنازہ ایسے ہی زمین پر پڑا تھا پروانے کی طرح علی کے پاس اس طرح جمع ہوئے کہ جوتے گم ہو گئے اور رداہیں کاندھوں سے گر گئیں، بوڑھے لوگ مجمع میں دب گئے اور سب نے ربربر اور پیشوا کی حیثیت سے علی - کی بیعت کی، اور جب طلحہ و زبیر نے اپنی بیعت کو توڑ دیا تو امام - سفر کرنے کے لئے آمادہ ہوئے اور مہاجرین و انصار بہت تیزی کے ساتھ آپ کے ہمراہ چلنے کے لئے تیار ہو گئے، اس سفر سے تین لوگ، سعد بن مالک، عبد اللہ بن عمر، محمد بن مسلمہ بہت ناراض ہوئے اور تینوں افراد نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، لیکن علی (علیہ السلام) پہلے گروہ کی وجہ سے ان تینوں سے بے نیاز ہو گئے امام - کا کاروان سرزمین "طی" پہنچا اور میرے قبیلہ سے کچھ لوگ امام کے لشکر سے ملحق ہوئے، اور ابھی بصرہ کا آدھا ہی راستہ طے کیا تھا کہ طلحہ و زبیر کے بصرہ جانے کی خبر ملی، ایک گروہ کو کوفہ روانہ کیا اور ان لوگوں نے بھی ان کی دعوت کو قبول کیا اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے، بصرہ پر حملہ ہوا اور شہر پر ان کا قبضہ ہو گیا پھر کوفہ کی فکر کی، اس شہر میں شور و غل مچ گیا، بچے محل کی طرف دوڑے اور بوڑھے اور نوجوان خوشی خوشی ان کی طرف دوڑ پڑے اس وقت وہ کوفہ میں ہیں

اور شام پر قبضہ کرنے کے علاوہ کوئی اور فکر نہیں کر رہے ہیں، جب خفاف کی گفتگو ختم ہوئی تو معاویہ خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔

اس وقت حابس نے معاویہ سے کہا: میرا چچازاد بھائی خفاف بہت اچھا شاعر ہے میری جب اس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے بہت اچھا شعر پڑھا تھا اور عثمان کے متعلق میری نظر کو بدل ڈالا اور علی کی خوب تعریف کی، معاویہ نے کہا کہ وہ شعر جو تم نے اس کے لئے کہا تھا مجھے سناؤ اس نے وہ اشعار پڑھا، خفاف کا شعر سن کر معاویہ نے سخت لہجہ میں حابس سے کہا: میرے خیال سے یہ شخص علی کاجاسوس ہے جتنی جلدی ممکن ہو اس کو شام سے باہر کر دو، لیکن معاویہ نے اسے دوبارہ اپنے پاس بلایا اور کہا: مجھے لوگوں کے کام وغیرہ سے آگاہ کرو، اس نے پھر وہی باتیں دہرائیں، معاویہ اس کی عاقلانہ باتیں سن کر حیرت میں ڈوب گیا۔ (۱)

(۱) وقعة صفین ص ۶۶، ۶۴، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۱۲، ۱۱۰۔

صحابہ کے بیٹوں کا سہارا

ابو سفیان کا بیٹا اس امام سے مقابلہ کرنے کی کوشش میں تھا جس کا سبقت ایمان اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا روشن و واضح تھا لہذا اس نے بعض صحابیوں اور ان کے بیٹوں کو اپنی طرف جذب کر کے اپنی شخصیت بنانی چاہی جب عیب اللہ ابن عمر حضرت علی کی حکومت سے بھاگ کر شام گیا کیونکہ حضرت ہرمزان کے قتل کی بنا پر اس سے قصاص چاہ رہے تھے اور معاویہ کو یہ خبر ملی تو وہ (۱) خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا لہذا اپنے مشاور اور عقل (عمرو عاص) سے رابطہ کیا اور عیب اللہ کی آمد پر اسے مبارک باد دی اور اسے ملک شام کے اور اپنے پاس رہنے کا وسیلہ سمجھا (۲) پھر دونوں نے ارادہ کیا کہ اس سے درخواست کریں کہ لوگوں کے مجمع میں منبر پر جا کر علی کو برا بھلا کہے، جب عیب اللہ معاویہ کے پاس آیا تو معاویہ نے اس سے کہا اے میرے بھتیجے، تمہارے باپ کا نام (عمر بن الخطاب) تمہارے اوپر لگا ہوا ہے خواب غفلت سے بیدار ہوجاؤ اور مکمل آمدگی کے ساتھ گفتگو کرو، کیونکہ تم لوگوں کے درمیان قابل اعتماد ہو، منبر پر جاؤ علی کو برا بھلا کہو، گالی دو اور گواہی دو کہ عثمان کو علی نے قتل کیا ہے۔

زام حکومت ایسے فتنہ پرور لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جنہوں نے خلفاء کے بیٹوں کو برے اور بیہودہ کاموں کی ترغیب کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعہ امام علیہ السلام کی عظمت کو گھٹادیں، لیکن امام علیہ السلام کی رفعت و عظمت اتنی بلند تھی جس کا دشمن بھی منکر نہیں ہوسکتا۔ عیب اللہ جو امام علیہ السلام کی عدالت کی وجہ سے بھاگ گیا تھا اس نے معاویہ سے کہا، میں علی کو گالی نہیں دے سکتا اور ناسزا نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کے بیٹے ہیں ان کے نسب کے بارے میں میں کیا کہوں؟ ان کی جسمانی اور روحانی طاقت کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ پچھاڑ دینے والے بہادر ہیں، میں عثمان کے قتل کا الزام ہی صرف ان کی گردن پر ڈال سکتا ہوں۔

عمرو عاص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا:

خدا کی قسم، اس وقت زخم نمایاں ہوں گے (بھیجے باہر نکلیں گے) جب عیب اللہ وہاں سے چلا گیا تو

(۱) تاریخ طبری ج ۳، جز ۵ ص ۴۱، ۴۲، کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۴۰

(۲) الامامة والسياسة ج ۱ ص ۹۲

معاویہ نے عمر و عاص سے کہا، اگر وہ ہرمزان کو قتل نہ کرتا اور علی کے قصاص سے نہ ڈرتا تو ہماری طرف کبھی بھی نہ آتا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے علی کی کیسی تعریف کی؟

جی ہاں، عیب اللہ نے تقریر کی اور جب بات علی علیہ السلام تک پہنچی تو اس نے اپنی بات روک دی اور ان کے بارے میں کچھ نہ کہا اور منبر سے اتر گیا۔

معاویہ نے اس کے پاس پیغام بھیجا اور کہا: اے میرے بھتیجے، علی کے بارے میں تمہاری خاموشی دو علتوں کی بناء پر تھی ناتوانی کی وجہ سے یا خیانت کی وجہ سے۔

اس نے معاویہ کو جواب دیا: میں نہیں چاہتا کہ ایسے شخص کے بارے میں گواہی دوں جو عثمان کے قتل میں شامل نہ تھا اور اگر میں گواہی دیتا تو لوگ ضرور قبول کر لیتے، معاویہ اس کا جواب سن کر ناراض ہوا اور اسے نکال دیا اور اس کو



کوئی مقام ومنصب نہیں دیا۔

عبداللہ نے اپنے شعر میں کچھ ترمیم کر کے اس طرح بیان کیا کہ ، اگرچہ علی عثمان کے قتل میں شامل نہ تھے لیکن ان کے قاتلوں نے علی کے پاس پناہ لی اور انہوں نے نہ ان کے کام کو برا کہا اور نہ ہی کہا اور میں عثمان کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اور بعد میں قتل ہوئے۔ (۱) عمر کے بیٹے کا معاویہ کے ساتھ اتنا ہی محبت سے پیش آنا کافی تھا اور اسی محبت کی وجہ سے اس کا دل جیت لیا اور اسے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔

(۱) واقعہ صفین : ص ۸۲، ۸۴

قاتلان عثمان کے کو سپرد کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا

معاویہ نے امام علیہ السلام کے خلاف جو لشکر جمع کیا اس کے لئے سب سے بڑا بہانہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام عثمان کے قاتلوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ عثمان کے قتل کی علتیں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں یہاں پر جس چیز کا تذکرہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہجوم کرنے والوں کی معاشرے میں شخصیت ایسی تھی کہ خود علی علیہ السلام ان لوگوں کو معاویہ کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا اور کچھ نے انہیں قتل کیا تھا لیکن خلفاء کے اموی والیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں یہ گروہ اتنی اہمیت کا حامل ہو گیا تھا کہ ان کا معاویہ کے حوالے کرنا بہت بڑی مشکل کو دعوت دینا تھا، اس سلسلے میں ذیل کے واقعے پر توجہ فرمائیں۔ علی کے ساتھ جنگ کرنا آسان کام نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ یمن کا زابد ابو مسلم خولانی جو کہ شام میں سکونت پذیر تھا، کو جب یہ خبر ملی کہ معاویہ علی کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو قاریوں کے گروہ کے ساتھ معاویہ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا ، کیوں علی کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو جب کہ کسی بھی زاویہ سے تو ان کے برابر نہیں ہوسکتا؟ نہ پیغمبرؐ کے ساتھ ان کی جیسی مصاحبت تجھے نصیب ہے نہ تمہارے پاس سابقہ اسلام ہے، اور نہ ہی ہجرت اور پیغمبرؐ کی خوشاوندی تمہیں حاصل ہے ، معاویہ نے ان لوگوں کے جواب میں کہہ دیا کہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ علی کی طرح میرے فضائل ہیں، لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عثمان کا قتل بے گناہ ہوا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ہاں، پھر اس نے کہا علی عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں ان سے عثمان کے خون کا بدلہ لوں۔ ایسی صورت میں ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔

ابو مسلم اور اس کے ہمفکروں نے معاویہ سے درخواست کی کہ علی کے نام خط لکھے، معاویہ نے اس سلسلے میں خط لکھا اور ابو مسلم کو دیا تاکہ وہ امام تک پہنچا دے ( ہم معاویہ کا خط اور امام علیہ السلام کا جواب بعد میں ذکر کریں گے)۔ ابو مسلم کوفہ میں داخل ہوا اور معاویہ کا خط علی علیہ السلام کے سپرد کر کے کہا: آپ نے ایسا کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ خدا کی قسم مجھے ہرگز پسند نہیں کہ وہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے ذمہ ہو لیکن عثمان جو ایک محترم مسلمان تھے بے گناہ مظلومیت کے ساتھ مارے گئے ان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں آپ میرے پیشوا و حاکم ہیں اگر آپ کی کوئی مخالفت کرے گا تو ہمارے ہاتھ آپ کی مدد کریں گے اور ہماری زبانیں آپ کے لئے گواہی دیں گی اور اس صورت میں آپ پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔

امام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا صرف یہ فرمایا کہ کل آنا اور اپنے خط کا جواب لے لینا دوسرے دن ابو مسلم اپنے خط کا جواب لینے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ بہت بڑا مجمع مسجد کوفہ میں ہے اور سب کے سب اسلحوں سے مسلح ہیں اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں ، ہم عثمان کے قاتل ہیں ابو مسلم نے یہ منظر دیکھا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں جواب کے لئے گیا اور امام سے کہا

میں نے ان لوگوں کو دیکھا کیا یہ آپ کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں؟ امام نے کہا : تم نے کیا دیکھا؟ ابو مسلم نے کہا: ایک گروہ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سب جمع ہو گئے ہیں اور مسلح ہو گئے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ سب کے سب عثمان کے قتل میں شریک ہیں، علی علیہ السلام نے فرمایا:



خدا کی قسم ! میں نے ایک لمحے کے لئے بھی یہ ارادہ نہیں کیا کہ ان لوگوں کو تمہارے حوالے کروں، میں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ تحقیق کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ان لوگوں کو تمہارے یا تمہارے علاوہ کسی کے حوالے کروں۔ (۱)

یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس زمانے میں عثمان کے قاتلین اہم حیثیت کے مالک تھے اور ان لوگوں کو کسی کے حوالے کرنا ایک عظیم خونی جنگ کو دعوت دینے کے برابر تھا۔

لوگوں کا یہ اجتماع ایک فطری امر تھا ورنہ امام علیہ السلام ابو مسلم خولانی کے سوال کا جواب دینے میں لاعلمی کا اظہار نہیں کرتے، یہ ابو مسلم کی سادگی تھی کہ اس نے بھرے مجمع میں اپنے آنے کا سبب بیان کر دیا اور یہ خبر دھیرے دھیرے سب تک پہنچ گئی جس کی وجہ سے انقلابی لوگ جو خلیفہ سوم کے حاکموں کے ظلم و ستم سے تنگ آگئے تھے اسی وجہ سے انہیں قتل کیا تھا، آپس میں متحد ہو گئے، اور اگر امام علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اس مسئلے کی تحقیق کی ہے کہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے کہ ان لوگوں کو شامیوں یا کسی اور کے حوالے کریں تو وہ اسی وجہ سے تھا کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا تمام لوگوں کے اندر اشتعال کا باعث بن جاتا۔

اس کے علاوہ قصاص (خون کا بدلہ) کی درخواست کرنا مرنے والے کے ولی کا حق ہوتا ہے اور وہ عثمان کے بیٹے تھے نہ کہ معاویہ، جو اس کا بہت دور کا رشتہ دار تھا اس نے عثمان کے قتل کو حکومت تک پہنچنے کا ایک بہانہ بنایا تھا۔

(۱) وقعہ صفین ص ۸۶، ۸۵، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۵ ص ۷۴، ۷۵

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

چودھویں فصل

جنگ صفین کے لئے امام کی فوج کی آمادگی

نخلیہ میں امام کی فوج کی پیش قدمی

ابو سفیان کے بیٹے کی وقت برباد کرنے والی سیاست کا خاتمہ ہوا اور خط اور عظیم شخصیتوں کو روانہ کر کے وہ جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا حاصل کر لیا، اس عرصے میں اس نے اپنی فوج کو خوب مضبوط کر لیا اور اپنے جاسوسوں کو چاروں طرف روانہ کر دیا تاکہ امام علیہ السلام کے بعض حاکموں کو دھوکہ دیں اور آپ کی فوج کے اندر پھوٹ ڈال دیں۔ امام علیہ السلام ۲۵ ذی الحجہ ۳۵ ہجری کو رسول خدا (ص) کی طرف سے منصوص خلافت کے علاوہ ظاہری خلافت پر بھی فائز ہوئے (۱) اور تمام مہاجرین و انصار نے آپ کے ہاتھ پر بعنوان خلیفہ مسلمین بیعت کی، آپ نے اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں ہی سبرہ جہمی نامی قاصد کے ہمراہ معاویہ کو خط بھیجا کہ وہ مرکزی حکومت کی اطاعت کرے لیکن اس نے سوائے خود خوابی، خود غرضی، ڈرانے دھمکانے، رعب و دبدبہ، خطوط کے روانہ کرنے اور تہمت لگانے اور قاصد کو بھیجنے اور حضرت علی علیہ السلام کو معطل کرنے کے کچھ نہیں کیا اب وہ وقت آچکا تھا کہ امام علیہ السلام ابو مسلم خولانی کے توسط سے آئے ہوئے خط کا جواب دے کر جنگ کریں اور اس شجرہ خبیثہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، اسی وجہ سے آپ نے شوال ۳۶ء کے اوائل میں فوج روانہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے پہلے مہاجرین و انصار کو بلا لیا اور اس آیت کے حکم کے مطابق "وشاورہم فی الأمر" ان کے بزرگوں سے جو آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے اور آپ کے ہمراہ تھے اس طرح فرمایا:

"انکم میامین الرأی، مراجیح اللحم، مقاویل بالحق، مبارکو الفعل والأمر، وقدأردنا المسیر الی عدونا وعدوکم فأشیروالینا برأیکم" (۲)

تم لوگ بہترین رائے و مشورہ کرنے والے، بردبار و حلیم، حق کہنے والے، اور ہمارے معاشرے

کے بہترین و صاحب کردار ہو، ہم لوگ اپنے اور تمہارے دشمن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تم لوگ اس سلسلے میں اپنا نظریہ بیان کرو۔

مہاجرین کے گروہ میں سے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص اٹھا اور کہنے لگا:

اے امیر المومنین، ہم لوگ ابوسفیان کے خاندان کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں وہ آپ اور آپ کے شیعوں کے دشمن اور دنیا پرستوں کے دوست ہیں، اور حصول دنیا کے لئے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ اس سے آپ کے خلاف آپ سے جنگ کریں گے اس سلسلے میں وہ کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کریں گے اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ان لوگوں نے سیدھے سادھے لوگوں کو بہکانے کے لئے عثمان کے خون کا بہانہ بنایا ہے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں اور اس کے خون کا بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے بلکہ وہ دنیا چاہتے تھے ہم لوگوں کو اجازت دیں کہ ان کے مقابلے کے لئے جائیں اور اگر ان لوگوں نے حق کی باتیں مان لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تفرقہ اور جنگ کرنے کے خواہاں ہوئے اور میرا گمان بھی یہی ہے کہ وہ لوگ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ جنگ کریں۔ اس وقت مہاجرین میں سے ایک اور عظیم شخصیت اٹھی جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے "عمار مع الحق والحق مع عمار یدور معہ حیث مادار" (۱)

اے امیر المومنین: اگر ممکن ہو تو ایک دن بھی دیر نہ کریں ہم لوگوں کو ان کی طرف روانہ کرنا اور قبل اس کے کہ وہ فاسد لوگ جنگ کی آگ روشن کریں اور مقابلہ کرنے کی تیاری اور حق سے جدائی کا ارادہ کریں، ان لوگوں کو جس میں ان کے لئے سعادت ہے اس کی طرف دعوت دیں اگر ان لوگوں نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے اور اگر مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ ہوئے تو ان کے ساتھ جنگ کریں خدا کی قسم ان لوگوں کا خون بہانا اور ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا خدا کا قرب اور اس کی طرف سے ہمارے لئے لطف و کرم ہے۔

مہاجرین کے ان دو اہم افراد کی تقریر نے کچھ حد تک زمینہ فراہم کیا۔ اب وقت تھا کہ انصار کی طرف سے بھی عظیم شخصیتیں اس سلسلے میں اپنا نظریہ پیش کریں۔ اس وقت قیس بن سعد بن عبادہ نے کہا: ہمیں جلد سے جلد دشمن کی طرف روانہ کریں خدا کی قسم، ہمارے لئے ان کے ساتھ جنگ کرنا روم کے

#### (۱) طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۱۸۷ (مطبوعہ لندن)

ساتھ جہاد کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے دین میں مکروفریب کر رہے ہیں اور خدا کے اولیاء (مہاجرین و انصار) اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں انہیں ذلیل و خوار سمجھتے ہیں وہ لوگ ہمارے مال کو حلال اور ہمیں اپنا غلام سمجھتے ہیں۔

جب قیس کی گفتگو ختم ہوئی تو خزیمہ بن ثابت اور ابو ایوب انصاری اس کے جلد بازی کے فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہتر تھا کہ تھوڑا صبر کرتے تاکہ تم سے بزرگ لوگ اپنا نظریہ پیش کرتے، اس وقت انصار کے سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم لوگ اٹھو اور امام علیہ السلام کے سامنے اپنے نظریہ کا اظہار کرو، سہل بن حنیف، جو انصار کی عظیم شخصیت تھی اس نے کہا: اے امیر المومنین: ہم آپ کے اور آپ کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں، ہمارا نظریہ آپ کا نظریہ ہے ہم لوگ آپ کا داہنا بازو ہیں، لیکن ضروری ہے کہ یہ کام کوفہ کے لوگوں کے لئے انجام دیجئے اور ان لوگوں کو جنگ کرنے کی دعوت دیجئیے اور جو فضیلتیں انہیں نصیب ہوئی ہیں ان سے انہیں باخبر کیجئے چاہے وہ لوگ اس سرزمین اور یہاں کے لوگ سمجھے جائیں، اگر وہ لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہیں تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، ہم لوگ ذرہ برابر بھی آپ کے نظریہ کے خلاف نہیں ہیں آپ جب بھی ہمیں بلائیں گے ہم حاضر ہوں گے اور جب بھی کوئی حکم دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ (۱)

سہل کی گفتگو اس کے کامل العقل ہونے کی حکایت کرتی ہے، کیونکہ اگرچہ مہاجرین و انصار امام علیہ السلام کے ہمرکاب تھے اور اسلامی امت کی عظیم شخصیت شمار ہوتے تھے اور ان لوگوں کا اتحاد معاشرہ کی بیداری میں بہترین اثر رکھتا تھا لیکن فی الحال امام علیہ السلام کا لشکر عراقی افراد نے تشکیل دیا تھا اور ان کے درمیان قبیلوں کے بزرگ تھے بغیر ان کے اعلان کئے ایک لاکھ کا لشکر جمع کرنا ممکن نہ تھا لیکن امام علیہ السلام نے سب سے پہلے مہاجرین و

انصار سے کیوں مشورہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ امام علیہ السلام کی حکومت کے بانی اور تمام مسلمانوں کی توجہ کا مرکز تھے اور بغیر ان کو اپنائے ہوئے عراقیوں کو اپنی طرف مائل کرنا ممکن نہ تھا۔

(۱) وقوعہ صفین ص ۹۲، ۹۳

امام علیہ السلام کی تقریر

امام علیہ السلام نے سہل کے مشورہ کے بعد اپنے خصوصی مشاورتی جلسہ کو ایک عظیم اجتماع میں تبدیل کر دیا۔ اس عظیم اجتماع میں اکثر افراد شریک تھے منبر پر تشریف لے گئے اور با آواز بلند فرمایا:

"سیروا لی اعدائ اللہ ، سیروا الی اعدائ السنن والقرآن، سیروا الی بقیۃ الاحزاب، قتلة المهاجرین والانصار"

خدا کے دشمنوں کی طرف حرکت کرو ، قرآن اور پیغمبر کی سنتوں کے دشمنوں کی طرف حرکت کرو اور، بقیہ بچے ہوئے (احزاب) اور مہاجرین و انصار کے قاتلوں کی طرف حرکت کرو۔

اس وقت قبیلہ بنی فزار کے اربد نامی شخص نے اٹھ کر کہا:

آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شام روانہ کریں تاکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگ کریں جس طرح بصرہ بھیجا تھا اور ہم نے اپنے بصری بھائیوں کے ساتھ جنگ کی؟ نہیں ، خدا کی قسم ہم ایسا کام انجام نہیں دیں گے۔

اس وقت مالک اشتر کھڑے ہوئے اور پوچھا یہ کون شخص ہے؟ جیسے ہی مالک اشتر کے منہ سے یہ جملہ نکلا سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ لوگوں کے حملہ کے خوف سے فرار ہو گیا اور مال بیچنے والوں کے بازار میں پناہ لے لی اور لوگ طوفان کی طرح اس کا پیچھا کرنے لگے اور اسے تلوار کے غلاف، ہاتھ پیر سے اتنا مارا کہ وہ مر گیا، جب اس کی موت کی خبر امام علیہ السلام کو ملی تو آپ بہت ناراض ہوئے کیونکہ اس کی گستاخی کی سزا یہ نہیں تھی کہ اسے اس طرح قتل کر دیا جائے ، اسلامی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے قاتل کے بارے میں تحقیق وجستجو کی جائے اور اس تحقیق کا نتیجہ یہ معلوم ہوا کہ وہ "ہمدان" قبیلہ اور کچھ لوگوں کے ذریعہ قتل ہوا ہے اور اس کا کوئی ایک قاتل نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا : یہ اندھا قتل ہے کہ اس کے قاتل کی خیر نہیں ہے لہذا اس کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ (۱)

(۱) وقوعہ صفین ص ۹۴، ۹۵

مالک اشتر کی تقریر

یہ غیر متوقع واقعہ امام علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب بنا اگرچہ آپ نے حکم دیا کہ اس کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے مگر آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات نمایاں تھے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام کے دلغریز اور چاہنے والے مالک اشتر اٹھے اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد کہا:

اس واقعہ سے آپ پریشان نہ ہوں، اس بد بخت خیانت کار کی گفتگو آپ کو مدد و نصرت کرنے والوں سے مایوس نہ کرے، یہ سیلاب کی طرح امڈتا ہوا مجمع جو آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب آپ کے پیرو ہیں اور آپ کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں چاہتے اور آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتے اگر ہمیں دشمنوں کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیجیئے خدا کی قسم اگر کوئی شخص موت سے ڈرتا ہے تو اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا اور جو شخص زندگی چاہتا ہے اسے نہیں دی جائے گی اور ان لوگوں کے ساتھ بدبخت اور شقی شخص کے علاوہ کوئی دوسرا زندگی گزارنا نہیں چاہتا اور ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک موت کی آغوش میں نہیں جاسکتا جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہ آچکا ہو، کس طرح سے ہم ان لوگوں سے جنگ نہ کریں جنہیں آپ نے خدا اور قرآن اور سنت پیغمبر کا دشمن اور مہاجرین و انصار کے قاتل کے طور پر بتایا ہے؟ کل انہیں میں سے کچھ لوگوں نے (بصرہ میں) مسلمانوں کے کچھ گروہ پر حملہ کر کے خدا کو غضبناک کیا تھا اور زمین ان کے برے کاموں کی وجہ سے تاریک ہو گئی تھی ان لوگوں نے اپنے آخرت کے حصے کو اس دنیا کے تھوڑے سے مال و دولت کے لئے بیچ دیا ، امام علیہ السلام مالک اشتر کی تقریر سننے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا:

" الطريق مشترك والناس في الحق سواي ومن اجتهد رأيه في نصيحة العامة فله مانوي وقد قضى ما عليه " یہ راستہ ، عمومی راستہ ہے اور لوگ حق کے مقابلے میں برابر ہیں اور وہ شخص جو خود اپنی نظر و رائے سے معاشرے کے لئے اچھائی کرے تو خدا اس کی نیت کے مطابق اسے جزا دے گا اور وہ کام جو " فزاری " نے انجام دیا وہ ختم ہو گیا۔ (۱) آپ اتنا کہہ کر منبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔

(۱) وقعہ صفین ص ۹۵

امام کے لشکر میں معاویہ کے نفوذ کے عوامل

فوجیوں اور لشکریوں کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنا، گروہ مخالف کے کمانڈروں کو درہم و دینار کے ذریعے خریدنا، بڑی طاقتور کی بڑی پرانی روشن رہی ہے ابو سفیان کا بیٹا اس فن میں ایک نابغہ اور ماہر تھا۔ ایک گروہ کی نظر میں سیاست کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی صورت سے چاہے وہ شرعی اعتبار سے ہو یا غیر شرعی لحاظ سے اپنے مقصد تک پہنچ جائے اور ان لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ مقصد اور ہدف ایک توجیہی وسیلہ ہے سادہ لوح افراد جن لوگوں نے معاویہ کی ظاہری کامیابی کو علی علیہ السلام سے زیادہ سمجھی تھی ان لوگوں نے امام علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ سیاست کے رموز و اسرار سے واقف نہیں ہیں اور معاویہ ان سے زیادہ سیاسی سوچ بوج رکھتا ہے اسی وجہ سے امام علیہ السلام اسلامی سیاست کے تمام اصول و قوانین سے بے بہرہ تنقید کرنے والوں کے سلسلہ میں فرماتے ہیں :

" والله ما معاویة بأدهی منی ولكنہ یغدرُ ویفجرُ ولولا کراهیة الغدر لکنتُ من أدهی الناس ولكنَّ کلَّ غدرةٍ فجرةٌ وکلَّ فجرةٍ ضلالةٌ ولکلِّ ّ غادرٍ لوائٍ یعرفُ بہ یوم القیامة" (۱)

"خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ سیاست مدار نہیں ہے لیکن وہ دھوکہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور اگر دھوکہ بازی اور حیلہ گری میں کراہت نہ ہوتی تو میں لوگوں میں سب سے زیادہ سیاست مدار ہوتا، لیکن ہر طرح کی چالبازی اور فریب گناہ ہے اور ہر گناہ ایک قسم کا کفر ہے اور قیامت کے دن ہر دھوکہ باز کے ہاتھ میں ایک مخصوص قسم کا پرچم ہوگا جس کے ذریعہ سے وہ پہچان لیا جائے گا!"

اس بنا پر کہ ہماری گفتگو دلیل یا شاہد سے خالی نہ ہو معاویہ کی چالبازیوں اور مکاریوں کے چند نمونوں کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں جن کے ذریعہ سے اس نے امام علیہ السلام کی فوج مینفوذ پیدا کیا تھا ۔ معاویہ کے خلاف جنگ کرنے کے سلسلے میں جو امام علیہ السلام کی تقریر کا اثر ہوا اس کی توصیف ممکن

(۱) نہج البلاغہ عہدہ خطبہ ۱۹۵

نہیں ہے، یہاں تک کہ معاویہ کے عوامل نفوذی میں سے ایک بنام "ارد" امام علیہ السلام پر اعتراض کے سبب ، وہ بھی نازک وقت میں لوگوں کے لات و گھونسوں کا نشانہ بنا، اور اس کے قاتل کی پہچان نہ ہوسکی۔ (۱) اس حادثہ کا سبب یہ ہوا کہ دوسرے عوامل نفوذی اپنے امور کو انجام دینے سے باز آجائیں اور امام علیہ السلام کے ارادے کو سست کرنے اور رخنہ اندازی ڈالنے کے لئے کوئی دوسرا طریقہ اپنائیں تاکہ اس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کو جنگ سے روک دیں اور یہ معلوم نہیں کہ کس گروہ کو نفع حاصل ہو ان کو ڈرائیں اسی وجہ سے رخنہ اندازی کرنے والوں میں ایک قبیلہ عیس (شاید غطفان کا باشندہ ) اور دوسرا قبیلہ بنی تمیم سے جن کے نام عبداللہ اور حنظلہ تھے ، نے ارادہ کیا کہ امام علیہ السلام کے دوستوں کے درمیان نظریاتی اختلاف پیدا کریں اور خیر خواہی اور نصیحت کا طریقہ اپنائیں لہذا دونوں نے اپنے قبیلے والوں کو اپنا ہم خیال بنالیا اور پھر امام علیہ السلام کے پاس آئے پہلے حنظلہ تمیمی نے کہا: ہم لوگ خیر خواہی اور بھلائی کے لئے آپ کے پاس آئے ہیں امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو قبول کریں گے، ہم لوگ آپ کے اور ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کے ساتھ ہیں سوچ رہے ہیں کہ اس مرد (معاویہ) سے خط و کتابت کریں اور شامیوں کے ساتھ جنگ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں ۔ خدا کی قسم کوئی بھی نہیں جانتا کہ دونوں گروہوں کے درمیان مقابلے میں کون گروہ کامیاب ہوگا اور کس گروہ کو شکست ہو گی۔

پھر عبید اللہ عیسیٰ اٹھا اور حنظلہ کی طرح اس نے بھی گفتگو کی اور جو لوگ ان دونوں کے ساتھ آئے تھے ان لوگوں نے ان دونوں کی تائید کی ۔

امام علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثناء کے بعد ان لوگوں کے جواب میں فرمایا:

"خداوند عالم انسانوں اور، اس سرزمین کا وارث ہے، آسمانوں اور ساتوں زمین کا پروردگار ہے ہم سب کے سب اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جائیں گے وہ جس شخص کو چاہتا ہے سرداری عطا کرتا ہے، اور جس شخص سے چاہتا ہے سرداری کو روک دیتا ہے، جس شخص کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس شخص کو چاہتا ہے

#### (۱) واقعہ صفین ص ۹۴

ذلیل خوار کر دیتا ہے دشمن کی طرف پشت کرنا گمراہوں اور گنہگاروں کا کام ہے اگرچہ ظاہری طور پر کامیابی اور غلبہ پاجائیں ۔ خدا کی قسم میں ایسے لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں جو ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ اچھائیوں کو پہچانیں اور برائیوں سے انکار کریں" (۱) امام علیہ السلام نے اپنے کلام کے ذریعے ان دونوں جاسوسوں کو جو لوگوں سے اپنے کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کی طرف سے گفتگو کر رہے تھے ذلیل و رسوا کر دیا اور واضح لفظوں میں فرمایا کہ معاویہ کے ساتھ جنگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک حصہ ہے اور کوئی بھی مسلمان اس وجوب سے انکار نہیں کر سکتا اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو معاویہ سے جنگ کرنے کے لئے روک رہے ہیں حقیقت میں وہ اسلام کے ان دو اصولوں کو پامال کر رہے ہیں ۔

پردے فاش ہونے لگے

امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو کا اثر یہ ہوا کہ حقیقت سب پر آشکار ہو گئی اور اسی مجمع میں دونوں جاسوس بے نقاب ہو گئے، لہذا معقل رباحی نے اٹھ کر کہا، یہ گروہ خیر خواہی کے لئے آپ کی طرف نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کو بہکانے کے لئے آئے ہیں ان سے دور رہئے کیونکہ یہ لوگ آپ کے قریبی دشمن ہیں۔ (۲) اسی طرح مالک نامی شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا: حنظلہ کی معاویہ سے خط و کتابت ہے آپ اجازت دیجیئے کہ جنگ شروع ہونے تک اسے قید کر دوں، قبیلہ عیس کے دواہمی، عیاش اور قائد نے کہا: خبر ملی ہے کہ عبداللہ کا معاویہ کے ساتھ راز و نیاز ہے اور دونوں کے درمیان خط و کتابت ہوتی ہے آپ اسے قید کر لیجئے یا اجازت دیجیئے کہ ہم لوگ اسے جنگ شروع ہونے تک قید رکھیں۔ (۳) ان چار افراد کی حقیقت بیانی کا سبب یہ ہوا کہ جاسوس بے سرو پا ہو کر کہنے لگے: یہ اس شخص کی جزا ہے جو آپ کی مدد کے لئے آیا اور اپنے نظریہ کو آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے بارے میں بیان کیا؟ امام علیہ السلام نے ان لوگوں کے جواب میں فرمایا: خدا وند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہے میں تم لوگوں کو اس کے سپرد کر رہا ہوں اور اسی سے مدد حاصل کروں گا جو شخص جانا چاہتا ہے چلا جائے امام نے یہ بات کہی اور لوگ منتشر ہو گئے، چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ حنظلہ اور قبیلہ تمیم کے بزرگوں کے درمیان ایک

(۱) واقعہ صفین ص ۹۶۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۷۵  
(۲)، (۳) واقعہ صفین ص ۹۴۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۷۵

جھڑپ ہوئی جس کی وجہ سے دونوں نفوذی عامل اپنے گروہ کے ساتھ عراق سے شام کی طرف روانہ ہو گئے اور معاویہ سے جا کر مل گئے، امام علیہ السلام نے حنظلہ کی خیانت کی وجہ سے حکم دیا کہ اس کے گھر کو ویران کر دیا جائے تاکہ دوسروں کے لئے درس عبرت ہو۔ (۱)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۷۶۔ واقعہ صفین ص ۹۷

انتظار یا شام کی طرف روانگی

فوج کے تمام سپہ سالار اور امام علیہ السلام کے چاہنے والے ابو سفیان کے بیٹے کو نیست و نابود کرنے کیلئے متفق تھے سوائے چند لوگوں کے مثلاً عبداللہ بن مسعود کے اصحاب جو خود اپنا خاص نظریہ رکھتے تھے ( ان کے نظریات آئندہ بیان ہوں گے)

لیکن انہی افراد کے درمیان امام علیہ السلام کے مورد وثوق اور مخلص لوگ، مثلاً عدی بن حاتم ، زید بن حسین طائی تاخیر کے خواہاں تھے شاید خط و کتابت اور بحث و مباحثے کے ذریعے مشکل ختم ہو جائے ، لہذا عدی نے امام علیہ السلام سے کہا: اے امام! اگر مصلحت ہو تو تھوڑا صبر کیجیے اور ان لوگوں کو کچھ مہلت دیجئے تاکہ ان لوگوں کا جواب آجائے اور آپ کے بھیجے ہوئے افراد ان سے گفتگو کریں اگر قبول کر لیا تو ہدایت پا جائیں گے اور دونوں کے لئے صلح بہتر ہے اور اگر اپنی کٹ جتنی پر اڑے رہے تو ہمیں ان سے مقابلے کے لئے لے چائے۔

لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں علی علیہ السلام کے لشکر کے اکثر سپہ سالار شام جانے کے لئے بیتاب تھے ان میں سے یزید بن قیس ارحبی ، زیاد بن نضر ، عبداللہ بن بدیل ، عمرو بن حمق (دوبزرگ صحابی) اور معروف بابعی حُجر بن عدی بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے اور اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے ایسے نکات کی یاد دہانی کر رہے تھے جو ان کے نظریہ کو صحیح ثابت کر رہے تھے۔

مثلاً عبداللہ بن بدیل کا نظریہ یہ تھا :

وہ لوگ ہم سے دو چیزوں کی وجہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں :

۱۔ وہ لوگ مسلمانوں کے درمیان مساوات سے فرار کر رہے ہیں اور مال و دولت اور منصب میں تبعیض کے قائل ہیں اور جو مقام و منصب رکھتے ہیں اس میں بخل سے کام لیتے ہیں اور جس دنیا کو حاصل کر چکے ہیں اسے گنونا نہیں چاہتے۔

۲۔ معاویہ ، علی علیہ السلام کے ہاتھ پر کس طرح بیعت کرے جب کہ امام علیہ السلام نے ایک ہی دن میں اس کے بھائی ، ماموں اور نانا کو جنگ بدر میں قتل کیا ہے ، خدا کی قسم مجھے امید نہیں ہے کہ وہ لوگ تسلیم ہوں گے مگر یہ کہ ان کے سروں پر نیزے ٹوٹیں اور تلواریں ان کے سروں کو پارہ پارہ کر دیں اور لوہے کی سلاخیں ان کے سروں پر برس پڑیں۔

عبداللہ کی دلیلوں سے یہ بات واضح و روشن ہوتی ہے کہ شام کی طرف روانہ ہونے میں جتنی بھی تاخیر ہوگی اتنا ہی دشمن کو فائدہ اور امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچے گا ، لہذا امام کے ایک چاہنے والے ، یزید ارجی نے امام علیہ السلام سے کہا:

" جنگ کرنے والے افراد سستی اور کابلی سے کام نہیں لیتے اور جو کامیابی انہیں نصیب ہوتی ہے برگز اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے اور اس سلسلے میں آج اور کل پر بات نہیں ٹالتے (۱)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۷۷۔ وقعہ صفین ص ۹۸۔۱۰۲

غیظ و غضب میں بردباری

اسی اثناء میں امام علیہ السلام کو خبر ملی کہ بزرگ صحابی عمرو بن حمق اور حجر بن عدی شام والوں پر لعنت و طعن کر رہے ہیں (۱) امام علیہ السلام نے کسی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو اس کام سے منع کرے وہ لوگ امام علیہ السلام کا پیغام سن کر امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا: کیوں آپ نے ہمیں اس کام سے روکا؟ کیا وہ لوگ اہل باطل سے نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: کیوں نہیں لیکن " مجھے پسند نہیں ہے کہ تم لوگ لعنت کرنے والے اور ربراکہنے والے بنو، گالی نہ دو اور نفرت نہ کرو اگر اس کی جگہ ان کی برائیوں کو بیان کرو تو بہت زیادہ مؤثر ہوگا اور اگر لعنت اور ان سے بیزاری کرنے کے بجائے کہو کہ ، خدا یا ہمارے خون اور ان کے خون کی حفاظت فرما ۔ ہمارے اور ان کے درمیان صلح قرار دے ، ان لوگوں کو گمراہی سے ہدایت عطا کرتا کہ جو لوگ ہمارے فضائل و کمالات سے بے خبر ہیں اس سے وہ باخیر و آشنا ہو جائیں تو یہ میرے لئے خوشی کا باعث اور تمہارے حق میں بہتر ہوگا" (۱)

دونوں افراد نے امام علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کر لیا اور عمرو بن حمق نے امام علیہ السلام سے اپنی الفت و محبت کو ان الفاظ میں بیان کیا:

" میں نے رشتہ داری یا مال و مقام کی لالچ کے سبب آپ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی ہے بلکہ بیعت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے اندر ایسی پانچ اہم صفیتیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے آپ کی محبت کو اپنے اوپر فرض کیا ہے، آپ پیغمبر (ص) کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ ہی سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس امت کی سب سے بہترین اور پاکیزہ عورت کے شوہر ہیں، آپ رسول خدا کی ذریت طابہ کے باپ ہیں اور مہاجرین کے درمیان جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اور عظیم حصہ آپ کا ہے، خدا کی قسم اگر مجھے حکم دیں کہ بلند پہاڑوں کو اس کی جگہوں سے ہٹا دوں اور دریا کے پانی کو ان سے نکالوں اور جہاں تک ممکن ہو آپ کے دوستوں کی مدد کروں اور آپ کے دشمنوں کو نابود کر دوں تو بھی جو حق آپ کا میری گردن پر ہے میں اسے ادا نہیں کر سکتا۔

امیر المومنین علیہ السلام نے جب عمرو کے خلوص و جذبہ کا مشاہدہ کیا تو ان کے حق میں یہ دعا فرمائی "اللهم نور قلبہ بالتقویٰ وأیّدہ الیٰ صراط مستقیم۔ لیت أنّ فی جندی ماءً مثلک فقال حُجر إذاً واللّٰہ یا امیر المومنین صحّ جُندک و قلّٰ من یغشیک"

"(۲) خدا اس کے قلب کو نورانی بنادے اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما کاش میری فوج میں تمہاری طرح کے سو افراد ہوتے۔

حُجر نے کہا: اگر ایسا ہوتا، تو آپ کی فوج اصلاح کو قبول کرتی اور منتقل (بدلنے والے) افراد اس میں بہت کم ہوتے۔

(۱) وقوعہ صفین ص ۱۰۳، نہج البلاغہ، خطبہ ۱۹۷، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۸۱۔ اخبار الطوال ص ۱۵۵ تذکرہ الخواص ابن جوزی ص ۱۵۴۔ مصادر نہج البلاغہ ج ۳ ص ۱۰۲

(۲) وقوعہ صفین ص ۱۰۳۔ ۱۰۴

امام علیہ السلام کا آخری فیصلہ

امام علیہ السلام اپنے موافقوں اور مخالفوں کی گفتگوؤں کو سننے کے بعد اس آیت " وشاورہم فی الأمر فاذا غرمت فتوکل علی اللّٰہ " کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ خود کوئی قطعی فیصلہ کریں۔ لہذا ہر کام سے پہلے یہ حکم دیا کہ جتنے بھی ذخیرے یا اضافی مال حاکموں کے پاس ہیں انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ فوج کو شام روانہ کرتے وقت ان کے اخراجات مہیا ہو سکیں۔

جہاد اسلامی کے تین اہم رکن

جنگ اور قرآن کے مطابق " جہاد" یا "قتال" کے لئے بہت سے مقدمات ( چیزوں ) کی ضرورت ہوتی ہے جن میں سب سے اہم تین چیزیں ہیں۔

۱۔ بہترین و طاقتور اور بہادر جانباز و سپاہی۔

۲۔ لائق اور عمدہ سپہ سالار۔

۳۔ اخراجات کا کافی مقدار میں ہونا۔

مختلف طرح سے آزمانے اور لوگوں کی طرف سے مستقل دعوت ناموں اور بہت زیادہ گروہوں مثلاً عراق کے بہت سے قبیلوں کا امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے نے ان تینوں اہم رکنوں میں سے پہلے رکن کو تو پورا کر دیا، اس بارے میں امام علیہ السلام کے لئے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہ تھی لیکن ان کو اپنے ارادے پر باقی رکھنے کے لئے عظیم شخصیتوں مثلاً خود آپ کے بیٹوں امام حسن مجتبیٰ و حضرت حسین علیہما السلام اور ان کے باوفا اصحاب اسی طرح عمار یاسر وغیرہ نے مختلف موقعوں پر تقریریں کیں اور دوسرے رکن کی انجام دہی کے لئے امام علیہ السلام نے محترم اور عظیم شخصیتوں کے پاس خط لکھا اور ان لوگوں کو جنگ میں شریک ہونے کے لئے دعوت دی، ان افراد کے وجود نے علاوہ اس کے کہ امام علیہ السلام کے لشکر کو معنویت اور جذبہ عطا کیا اور خود جہاد کو باحیثیت اور معنویت سے پُر کر دیا لشکر کی طاقت میں بھی اضافہ کر دیا، یہاں پر ہم صرف امام علیہ السلام کے اس خط کا ترجمہ پیش کرنے پر اکتفا کریں گے جو آپ نے اصفہان کے حاکم مخنف بن سلیم کے نام لکھا، خط کا مضمون یہ ہے:

" تجھ پر سلام : اس خدا کی حمد و ثناء جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اما بعد، اس شخص سے جنگ کرنا عاروں پر



لازم ہے جس نے حق سے منہ موڑ رکھا ہے اور خواب غفلت کی وجہ سے اس کے دل اندھے اور گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے ہیں۔

جو لوگ خداوند عالم کی مرضی پر راضی ہیں خدا ان سے راضی ہے اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں خدا ان پر غضبناک ہوتا ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس گروہ کی طرف جائیں جو بندگان خدا کے بارے میں جس چیز کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے اس کے خلاف عمل کرتا ہے اور بیت المال کو اپنا مال سمجھ بیٹھا ہے اور حق کو پامال کر کے باطل کو ظاہر کر دیا ہے اور خدا کی اطاعت نہ کرنے والوں کو اپنا راز دار بنالیا ہے اگر خدا کا کوئی ولی و مطیع ان بدعتوں کو بزرگ شمار کرتا ہے تو وہ لوگ اسے اپنا دشمن تصور کرتے ہیں اسے اس کے گھر اور علاقے سے باہر نکال دیتے ہیں اور اُسے بیت المال سے محروم کر دیتے ہیں اور اگر کوئی ظالم ان کے ظلم میں شریک ہوتا ہے تو وہ اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں اور اُسے اپنا قریبی تصور کرتے ہیں اور اس کی دلجوئی کرتے ہیں، ان لوگوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کئے ہیں اور (شریعت کی) مخالفت کا ارادہ کر لیا ہے بلکہ بہت دنوں سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو حق سے دور کر دیں اور ظلم و ستم اور گناہوں کے پھیلانے میں ان کی مدد کریں۔

جس وقت میرا خط تمہارے پاس پہنچے تم اپنے کاموں کو کسی مورد اعتماد شخص کے حوالے کرنا اور جلدی سے ہمارے پاس آنے کی کوشش کرنا شاید ان مکار اور دھوکے باز دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے ہم جہاد کے ثواب میں تم سے بے نیاز نہیں ہیں"۔ (۱)

جس وقت امام علیہ السلام کے منشی عبداللہ بن ابی رافع کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط اصفہان کے حاکم کے پاس پہنچا فوراً ہی اس نے اپنے دو قریبی ساتھیوں کو بلایا اور اصفہان کے تمام امور کو حارث بن ابی الحارث اور ہمدان کے تمام امور کو جو اس زمانے میں سیاسی اعتبار سے اصفہان کے زیر نظر تھا، سعید بن جبیر کے سپرد کیا، اور امام کی خدمت کے لئے چل پڑا اور اسی طرح سے کہ جیسا کہ امام نے کہا تھا (کہ ہم جہاد کے اجر و ثواب میں تم سے بے نیاز نہیں ہیں) جنگ کے دوران

(۱) وقوعہ صفین ص ۱۰۶۔۱۰۴ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۸۳۔۱۸۲

شہادت پر فائز ہو گیا (۱)

یہی تنہا حاکم نہیں تھا جسے امام علیہ السلام نے جنگ کے لئے بلایا تھا بلکہ اسی سلسلے میں ذیقعدہ ۳۷ ھ میں ابن عباس کو خط لکھا کہ باقی بیت المال کو میرے حوالے کر دو لیکن جو لوگ تمہارے اطراف میں ہیں پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کرو اور بقیہ تمام مال کو کوفہ بھیج دو البتہ جنگ کے شرائط کو دیکھتے ہوئے صرف کوفہ کا بیت المال امام علیہ السلام کے لئے کافی نہ تھا جس کی وجہ سے دوسرے شہروں سے بھی مدد حاصل کی ہے (۲)

سپاہیوں کو حوصلہ عطا کرنا

امام علیہ السلام کے پاس سپاہیوں کی کمی نہ تھی، سرزمین اسلام کے بہت سے حصے آپ کے اختیار میں تھے لیکن، نفوذی عوامل، بزدل افراد، مایوسی اور بے یقینی کی وجہ سے راہ حق سے دور ہو رہے تھے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام اور آپ کے بیٹے امام مجتبیٰ علیہ السلام، دوسرے بیٹے امام حسین علیہ السلام فوجی چھاونی نخلیہ سے چلتے وقت تک لوگوں کے درمیان تقریریں کرتے رہے اور ان کے دلوں کو محکم و مطمئن کرتے رہے، تاریخ نے ان تقریروں اور خطبوں کی عبارتوں کو اپنے دامن میں محفوظ کر رکھا ہے (۳)

اور کبھی عظیم شخصیتیں اور شہادت کے متمنی افراد مثلاً ہاشم بن عتبہ بن وقاص، سعد و قاص کے بھتیجے نے لوگوں کے مجمع میں تقریر کی اور بہت زیادہ اصرار کیا کہ جلد سے جلد ان لوگوں سے جنگ شروع کریں جن لوگوں نے خدا کی کتاب کی مخالفت کی ہے اور خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے، اس نے اتنا زیادہ جوش و خروش اور دلسوز انداز میں گفتگو کی کہ امام علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا: اللہم ارزقہ الشهادة فی سبیلک و المرافقة لنبیک صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم" (۴) یعنی پروردگارا: اسے اپنی راہ میں شہادت کے درجے پر فائز کر اور اسے اپنے پیغمبرؐ کا ہم نشین قرار دے۔

ہاشم صفین میں امام علیہ السلام کے لشکر کا علمبردار تھا اور جنگ کے آخری دنوں میں جام شہادت نوش کیا۔



(۱)، (۲) وقوعہ صفین ص ۱۰۶، ۱۰۴، ۱۰۳ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۸۲، ۱۸۳

(۳) وقوعہ صفین ص ۱۱۲، ۱۱۵

(۴) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۸۴

راہ کے انتخاب میں آزادی

عبداللہ بن مسعود (۱) کے ماننے والوں کا ایک گروہ امام علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا: ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ لوگوں سے دور اپنا پڑاؤ ڈالیں گے تاکہ آپ کے اور آپ کے مخالفوں کے کام پر نظر رکھیں، جس وقت ہم دیکھیں گے کہ ایک گروہ غیر شرعی کام کر رہا ہے یا تجاوز کر رہا ہے تو اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ امام علیہ السلام کی پوری حیات اور حکومت میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو ان کے لئے شک و تردید کا سبب بنتی لیکن دشمن کے بہکاوے نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رکھے تھے اور صالحین کو ابوسفیان سے جنگ کرنے کے سلسلے میں مردد کر رکھا تھا، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا: "مرحباً وأهلاً، هذا هو الفقه في الدين والعلم بالسنة من لم يرض بهذا فهو جائز خائن" (۲) مبارک ہو تمہیں یہ کلام وہی دین فہمی اور حقیقت سے آشنا ہی اور پیغمبر اسلام کی سنت سے آگاہی ہے جو شخص بھی اس کام پر راضی نہ ہو وہ ستم گر اور خائن ہے۔

عبداللہ بن مسعود کے دوستوں کا دوسرا گروہ بھی امام کے پاس آیا اور اس نے کہا: ہم آپ کی تمام فضیلتوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن اس جنگ کے شرعی ہونے کے سلسلے میں شک و تردید کر رہے ہیں، اگر بنا ہے کہ ہم لوگ بھی دشمن کے ساتھ جنگ کریں تو ہم لوگوں کو کسی دور مقام پر بھیج دیں تاکہ وہاں سے دین کے دشمنوں سے جہاد کریں۔ امام علیہ السلام یہ سن کر ناراض نہ ہوئے بلکہ ربیع بن خثیم کی سرپرستی میں ان میں سے چار سو آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر "ری" کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہاں اپنا وظیفہ انجام دیں اور اسلامی جہاد جو خراسان کے اطراف میں رونما ہوا ہے اس میں مدد کریں۔ (۳)

(۱) عبداللہ بن مسعود حافظ قرآن اور صدر اسلام کے مسلمانوں میں سے ہے اور عثمان سے اس کی مخالفت کی روداد بہت طویل ہے ۳۲ ہجری میں مدینے میں انتقال ہوا، جنگ صفین کی آمادگی ۳۷ ہجری کے آخر میں ہونی جس میں اس کا کوئی وجود نہ تھا بلکہ کچھ گروہ جن لوگوں نے اس سے قرآن و احکام سیکھا تھا وہ لوگ باقی تھے۔ طبقات ابن سعد ج ۳، ص ۱۶۰ (مطبوعہ بیروت)۔  
(۲) وقوعہ صفین ص، ۱۱۵، ۱۱۴ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۸۶۔  
(۳) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۸۶۔

جب یہ گروہ جنگ میں شرکت کرنے کی طرف مائل نہ ہوا تو امام علیہ السلام نے میں قبیلہ ہاہلہ کے لوگوں کو بھی جن کے امام سے روابط اچھے نہیں تھے اس جنگ میں شرکت کرنے سے منع کر دیا اور جو ان کا وظیفہ تھا انہیں دے دیا اور حکم دیا کہ "دیلم" کی طرف چلے جائیں اور وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر خدمت کریں (۱)

امام علیہ السلام کی فوج کے عظیم سپہ سالار امام علیہ السلام کے لشکر کے اکثر سپاہی کوفہ و بصرہ اور ان دونوں شہروں کے اطراف میں رہنے والے یمن کے قبیلے تھے۔

امام علیہ السلام ان پانچ قبیلے والوں کو جو ابن عباس کے ہمراہ بصرہ سے نخلیہ (کوفہ کی فوجی چھاؤنی) آئے تھے، ان کے لئے پانچ عظیم سپہ سالار معین کئے:

۱۔ قبیلہ بکر بن وائل کے لئے خالد بن معمر سدوس

۲۔ قبیلہ عبد القیس کے لئے عمرو بن مرجوم عبدی

۳۔ قبیلہ ازد کے لئے صبرہ بن شیمان ازدی

۴۔ تمیم و ضبہ و رباب کے لئے احنف بن قیس

۵۔ اہل عالیہ کے لئے شریک بن اعور

یہ تمام سپہ سالار ابن عباس کے ہمراہ بصرہ سے کوفہ آئے اور انہوں نے ابو الاسود دونلی کو اپنا جانشین قرار دیا۔ اور

خودسفر میں امام علیہ السلام کے ہمراہ رہے (۲)  
اسی طرح امام علیہ السلام نے کوفہ کے سات قبیلوں پر، جن کی شرکت سے کوفہ کی فوجی چھاؤنی چھلک رہی تھی سات سپہ سالار معین فرمائے، جن کے نام تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کر رکھا ہے۔ (۳)

- (۱) وقوعہ صفین ص ۱۱۶  
(۲) وقوعہ صفین ص ۱۱۷ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۹۴  
(۳) وقوعہ صفین ص ۱۲۱ مروج الذهب (ج ۲، ص ۳۸۴) میں ابو مسعود عقبہ بن عامر کا ذکر ہوا ہے۔

پہلا فوجی دستہ

تمام سپہ سالاروں کا تعین اپنے اختتام کو پہنچا، امام علیہ السلام نے عقبہ بن عمرو انصاری کو اپنا جانشین معین فرمایا جو سابق الاسلام تھے اور پیغمبر کے ہاتھوں پر "عقبہ" میں بیعت کی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ جنگ کے لئے آمادہ ہوجائیں۔ جس وقت کوفہ کی فوجی چھاؤنی سپاہیوں سے چھلک رہی تھی ایک گروہ جو عثمان کی حکومت کے زمانے میں صرف حکومت کوفہ پر اعتراض کرنے کی وجہ سے جلا وطن کیا گیا تھا چاروں طرف سے آگیا اور یہ نعرہ لگایا "قد آن للذین أخرجوا من ديارهم" وہ وقت آپہنچا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے دور کر دیئے گئے تھے وہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہوجائیں (۱)

شروع میں امام علیہ السلام نے بارہ ہزار افراد پر مشتمل دو طاقتور فوج کو شام کی طرف روانہ کیا اور آٹھ ہزار افراد پر مشتمل فوج کی ذمہ داری زیاد کو سونپی اور دوسری فوج جو چار ہزار جانبازوں پر مشتمل تھی اس کی ذمہ داری ہانی کے سپرد کی اور دونوں کو حکم دیا کہ پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ شام کی طرف سفر کریں اور جہاں پر دشمن کا سامنا ہو وہیں پڑاؤ ڈال دیں (۲)۔

- (۱) وقوعہ صفین ص ۱۲۱  
(۲) کامل ابن اثیر ص ۱۱۴، تاریخ طبری ۳ جزء ۴ ص ۲۳۷

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

#### پندرہویں فصل

حضرت علی علیہ السلام کی میدان صفین کی طرف روانگی

کوفہ کی فوجی چھاؤنی مجاہدوں سے چھلک رہی تھی اور سب ہی اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے امام علیہ السلام کے ہمراہ چلنے کے لئے آپ کے حکم کے منتظر تھے۔ بالآخر امام علیہ السلام ۵ شوال ۳۶ ہجری بروز بدھ، چھاؤنی میں تشریف لائے اور سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:  
"اس خدا کی حمد و ثنا جب بھی رات آتی ہے تو پورے جہان میں تاریکی چھا جاتی ہے، اس خدا کی حمد و ثنا جس وقت ستارہ نکلے یا پوشیدہ ہوجائے اس خدا کی حمد و ثنا کہ جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتیں اور اس کی عطا کے مقابلے میں کوئی اجر و ثواب اس کے برابر نہیں ہے۔"

ہاں اے لوگو، ہم نے اپنی فوج کے کچھ لوگوں کو پہلے روانہ کر دیا ہے (۱) اور انہیں حکم دیا ہے کہ فرات کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈالیں اور میرے حکم کے منتظر رہیں، اب وہ وقت آپہنچا ہے کہ ہم دریا کو پار کریں اور ان مسلمانوں کی طرف روانہ ہوں جو دجلہ کے اطراف میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو تم لوگوں کے ساتھ دشمن کی طرف روانہ کریں تاکہ تمہارے مددگار رہیں۔" (۲)

"عقبہ بن خالد (۳) کو کوفہ کا حاکم بنایا ہے خود کو اور تم کو میں نے ربا نہیں کیا ہے (یعنی اپنے

اور تمہارے درمیان میں نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے) ایسا نہ ہو کہ کوئی جانے سے رہ جائے، میں نے مالک بن حبیب یربوعی کو حکم دیا ہے کہ مخالفت کرنے والوں اور پیچھے رہ جانے والوں کو رہا نہ کرے مگر یہ کہ تمام لوگوں کو تمہارے ہمراہ کر دے۔ (۴)

اس وقت معقل بن قیس ریاحی، جو کہ بہت ہی بہترین اور غیور شخص تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا:

(۱) امام علیہ السلام نے ۱۲ ہزار سپاہیوں کو زیاد بن نضر و شریح کی سپہ سالاری میں پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔  
 (۲) نہج البلاغہ خطبہ ۴۸، وقعہ صفین ص ۱۳۱ (تھوڑے فرق کے ساتھ) امام علیہ السلام نے اس خطبہ کو کوفہ کی فوجی چھاؤنی، کوفہ شہر کے باہر ۲۵، شوال ۳۷ ہجری کو بیان کیا تھا۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۰۱۔  
 (۳) عقبہ بن عامر، مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۴  
 (۴) وقعہ صفین ص ۱۳۲

خدا کی قسم! کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا مگر جو شک کی حالت میں ہو اور کوئی بھی مکر نہین کرے گا مگر منافق، بہتر ہوتا آپ مالک بن حبیب یربوعی کو حکم دیتے کہ مخالفت کرنے والے کو قتل کر ڈالے۔

امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا: جو ضروری حکم تھا وہ میں نے اسے دیدیا ہے اور وہ انشاء اللہ میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس وقت دوسرے لوگوں نے بھی چاہا کہ گفتگو کریں لیکن امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی اور اپنا گھوڑا طلب کیا اور جب آپ نے اپنا قدم رکاب پر رکھا تو اس وقت کہا "بسم اللہ" اور جب زین پر بیٹھے تو کہا "سبحان الذی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ" (۱) وہ خدا (پر عیب سے) پاک ہے جس نے اس (سواری) کو ہمارا تابعدار بنایا حالانکہ ہم تو ایسے (طاقتور) نہ تھے کہ اس پر قابو پاتے، اور ہم کو تو یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا:

اے خدا، میں سفر کی پریشانیوں اور زحمتوں اور واپسی کے غم و اندوہ کے ساتھ چلنے اور اہل و عیال و مال پر بری نظر رکھنے والوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، خدایا! تو سفر میں ہمارے ہمراہ اور اہل و عیال کے لئے نگہبان ہے اور یہ دونوں چیزیں تیرے علاوہ کسی کے اندر جمع نہیں ہوسکتیں، کیونکہ جو شخص جانشین ہوگا وہ ساتھ میں نہیں ہوسکتا اور جو شخص ساتھ میں ہوگا وہ جانشین نہیں ہوسکتا۔

پھر آپ نے اپنی سواری کو بڑھایا جب کہ حر بن سہم ربعی آپ کے آگے آگے چل رہا تھا اور رجز پڑھ رہا تھا اس وقت کوفہ میں رہنے والوں کے سردار مالک بن حبیب نے امام علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بہت ہی غمگین انداز سے کہا: اے میرے آقا! کیا یہ مناسب ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جائیں اور ان لوگوں کو جہاد کے ثواب سے مالا مال کریں اور مجھے مخالفوں کو جمع کرنے کے لئے چھوڑ جائیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ لوگ جتنا بھی ثواب حاصل کریں گے تم ان کے ساتھ ثواب میں شریک ہو گے اور تمہارا یہاں رہنا ہمارے ساتھ رہنے سے زیادہ ضروری ہے ابن حبیب نے کہا:

(۱) سورہ زخرف، آیت ۱۳

"سَمِعُوا طَاعَةَ يَا امير المؤمنين" (۱) (آپ کا جیسا حکم ہو میں تہ دل سے قبول کروں گا)

امام علیہ السلام اپنے سپاہیوں کے ہمراہ کوفہ سے روانہ ہوئے اور جب کوفہ کے پل سے گزرے تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: اے لوگو تم میں سے جو لوگ رخصت کرنے آئے ہیں یا ان کا قیام یہیں پر ہے وہ یہاں پر پوری نماز پڑھیں گے، لیکن ہم لوگ مسافر ہیں اور جو بھی ہمارے ساتھ سفر پر ہے وہ واجب روزہ نہ رکھے اور اس کی نماز قصر ہے پھر آپ نے ظہر دو رکعت پڑھی اور پھر اپنے سفر کو جاری رکھا اور جب آپ ابو موسیٰ کے گھر کے پاس پہنچے جو کوفہ سے دوفرسخ کی دوری پر واقع ہے تو وہاں آپ نے دو رکعت نماز عصر پڑھی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا:

کتنی بابرکت ہے خدا کی ذات جو صاحب نعمت و بخشش ہے کتنا پاکیزہ و منزہ ہے خدا جو صاحب قدرت و کرم ہے خدا سے میری یہی دعا ہے کہ مجھے اپنی قضاء قدر پر راضی، اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر کامیاب، اپنے حکم پر متوجہ کرے کہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ (۲)

پھر آپ اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور "ثرس" نامی جگہ پر جو فرات سے نکلی ایک بڑی نہر کے کنارے واقع ہے اور یہ جو فرات سے نکلتی ہے اترے اور نماز مغرب ادا کی اس کے بعد خدا کی اس طرح سے تعریف کی:

تمام تعریفیں اس خدا سے مخصوص ہیں جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے اس خدا کا شکر کہ جس وقت رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے، تعریف اس خدا کی جب کہ ستارے نکل آتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں (۳)

آپ نے شب و بیں بسر کی اور نماز صبح پڑھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے جس وقت آپ "قبہ قبین" نامی جگہ پر پہنچے تو آپ کی نگاہیں لمبے لمبے کھجور کے درختوں پر پڑیں جو نہر کے کنارے لگے تھے اس وقت آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی "والنخل باسقات لها طلع نضيد" (۴)

(۱) وقوعہ صفین ص ۱۳۴-۱۳۲  
(۲)، (۳) وقوعہ صفین ص ۱۳۴-۱۳۲  
(۴) سورہ ق آیت ۱۰

اور لمبی لمبی کھجوریں جس کا بور باہم گھٹتا ہوا ہے "اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے نہر کو پار کیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کے پاس آپ نے آرام فرمایا (۱)۔

سرزمین کربلا سے عبور

امام علیہ السلام جب کوفہ سے صفین کے لئے روانہ ہوئے تو سرزمین کربلا سے بھی گزرے برثمہ بن سلیم کہتا ہے:

امام علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر اترے اور وہاں ہمارے ساتھ نماز پڑھی، جس وقت آپ نے نماز تمام کی اس وقت تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اسے سونگھا اور کہا (اے خاک کربلا کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے ساتھ کچھ لوگ محشور ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے)، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے کچھ مقامات کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہاں اور وہاں، سعید بن جبب کہتے ہیں: میں نے امام علیہ السلام سے آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک عظیم خاندان اس سرزمین پر وارد ہوگا، تم ہی میں سے ان لوگوں پر لعنت ہو، ان لوگوں میں سے تم لوگوں پر لعنت ہو، میں نے کہا: آپ کے کہنے کا کیا مقصد ہے؟ امام نے کہا تم لوگوں میں سے ان لوگوں پر لعنت جو ان لوگوں کو قتل کریں، لعنت ہو تم لوگوں میں سے ان پر کہ ان کو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ (۲)

حسن بن کثیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہوئے اور کہا: "ذات کرب و بلائی" (یہ غم اور بلا کی زمین ہے) اس وقت آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اس جگہ پر وہ لوگ قتل کئے جائیں گے۔ پہلا راوی، برثمہ کہتا ہے کہ جنگ صفین کا معرکہ ختم ہوا اور میں اپنے گھر واپس آگیا اور اپنی بیوی سے جو کہ امام کی چاہنے والی تھی ان تمام باتوں کا ذکر کیا جو امام نے کربلا کی سرزمین پر بیان کیا تھا اور میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ کس طرح سے امام غیب کی باتوں کو جانتے ہیں؟ میری بیوی نے کہا مجھے چھوڑ دو، کیونکہ امام، حق کے

(۱) وقوعہ صفین ص ۱۳۵  
(۲) وقوعہ صفین ص ۱۴۰-۱۴۲، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۶۹-۱۷۰

علاوہ کچھ نہیں کہتے، وقت گذرتا گیا عبید اللہ بن زیاد ایک عظیم لشکر لے کر حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا اور میں بھی اسی لشکر میں تھا جس وقت ہم کربلا کی سرزمین پر پہنچے اس وقت ہمیں امام کی باتیں یاد آئیں اس بات سے میں بہت زیادہ غمگین ہوا میں فوراً تیزی کے ساتھ حسین (علیہ السلام) کے خیمے کی طرف بڑھا اور ان کی خدمت میں پہنچ کر پورا واقعہ بیان کیا، حسین (علیہ السلام) نے فرمایا: اچھا تم یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ ہو یا میرے مخالف ہو؟ میں نے کہا کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں نے اپنے اہل و عیال کو کوفہ چھوڑ دیا ہے اور ابن زیاد سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: جتنی جلدی ہو اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد (ص) کی جان ہے جو شخص بھی آواز استغاثہ سنے گا اور میری مدد کو نہیں پہنچے گا خداوند عالم اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا

اس وجہ سے میں فوراً کربلا کی سرزمین سے روانہ ہو گیا تاکہ ان کی شہادت کا دن نہ دیکھ سکوں۔ (۱)

امام علیہ السلام سبابط اور مدائن میں  
امام علیہ السلام کربلا کے قیام کے بعد سبابط کے لئے روانہ ہوئے اور شہر بہر سیر پہنچے وہاں کسریٰ کے کچھ آثار باقی  
نہ تھے اس وقت آپ کے چاہنے والوں میں سے، حربن سہم (۲) نے ابو یعفر کا یہ شعر نتمثل کے طور پر پڑھا:  
جَزَتْ الرِّياحُ عَلٰی مَكانِ دِيارِهم  
فَكَانَما كانوا اعلٰی مِيعادِ

خزاں کی ہوائیں اس زمین پر چلیں جیسے وہ اپنے وعدہ کی جگہ پہنچ گئے ہیں۔  
امام علیہ السلام نے فرمایا: تم نے کیوں اس آیت کی تلاوت نہیں کی؟  
" کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمۃ کانوا فیہا فاکھین و کذالک واورثنا ہا قوماً آخرین و فما بکت علیہم  
السماء و الارض و ما کانوا منظرین و (دخان آیت ۲۵-۲۹)" وہ لوگ (خدا جانے) کتنے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور نفیس  
مکانات

(۱) وقوعہ صفین ص ۱۴۱-۱۴۰، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۶۹  
(۲) بعض جگہوں پر " حریر " لکھا ہے، حاشیہ وقوعہ صفین ص ۱۴۲

اور آرام کی چیزیں جس میں وہ عیش و چین کیا کرتے تھے چھوڑ گئے یوں ہی ہوا، اور ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو  
مالک بنادیا تو ان لوگوں پر آسمان وزمین کو بھی رونا نہ آیا اور نہ انہیں مہلت ہی دی گئی "  
اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا: دوسرے لوگ بھی ان کے وارث تھے لیکن وہ لوگ ختم ہو گئے اور پھر دوسرے لوگ  
اس کے وارث ہو گئے یہ گروہ بھی اگر اس نعمت پر خدا کا شکر بجا نہ لائے تو یہ نعمت الہی ان کی نافرمانیوں کی وجہ  
سے ان سے سلب ہو جائے گی لہذا کفران نعمت سے بچو تاکہ بدبختی میں گرفتار نہ ہو پھر آپ نے حکم دیا کہ تمام سپاہی  
اس بلندی سے نیچے اتریں، جس جگہ امام علیہ السلام نے قیام کیا تھا وہ مدائن سے بہت قریب تھی، امام علیہ السلام نے  
حکم دیا کہ " حارث اعور " شہر میں یہ اعلان کرے کہ جو شخص بھی جنگ کرنے کی صلاحیت و قدرت رکھتا ہے وہ نماز  
عصر تک امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جائے، نماز عصر کا وقت ہوا اور طاقتور افراد امام کی خدمت  
میں حاضر ہوئے امام نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا:  
" میں جہاد میں شرکت سے مخالفت کرنے اور اپنے علاقے کے لوگوں سے جدا ہونے اور ظالم و جابر لوگوں کی زمین پر  
زندگی بسر کرنے پر بہت حیرت میں ہوں نہ تم لوگ اچھے کام کا حکم دیتے ہو اور نہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے  
ہو" (۱)

مدائن کے کسانوں نے کہا: ہم لوگ آپ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے جو مناسب ہو آپ حکم دیں، امام علیہ السلام نے  
عدی بن حاتم کو حکم دیا کہ وہاں قیام کرے اور ان لوگوں کو لے کر صفین کی طرف روانہ ہو، عدی نے وہاں تین دن قیام  
کیا پھر مدائن کے تین سو لوگوں کے ساتھ صفین کی طرف روانہ ہوا اور اپنے بیٹے یزید کو حکم دیا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ  
اور دوسرے گروہ کے ساتھ امام کے لشکر میں شامل ہونا، وہ چار سو آدمیوں کے ساتھ امام کے لشکر میں شامل ہو گیا (۲)۔

انباء کے کسانوں نے امام علیہ السلام کا استقبال کیا  
امام علیہ السلام مدائن سے " انباء " کی طرف روانہ ہوئے، انباء کے لوگوں کو امام علیہ السلام کے سفر اور اس راستے  
سے گزرنے کے بارے میں معلوم ہوا لہذا یہ لوگ امام کے استقبال کے لئے بڑھے،

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۰۳-۲۰۲، وقوعہ صفین ص ۱۴۲  
(۲) وقوعہ صفین ص ۱۴۲، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۰۳

امام علیہ السلام اور ان لوگوں کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں۔ جب یہ لوگ امام کے سامنے پہنچے تو اپنے اپنے  
گھوڑوں سے اترے اور آپ کے سامنے اچھلنے کودنے لگے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا : یہ کیا کر رہے ہو اور ان جانوروں کو کیوں لائے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا: ( ایرانی بادشاہوں کے زمانے سے) حکمرانوں کی تعظیم و تکریم کے اظہار کا طریقہ ہمارے ہاں یہی ہے اور یہ جانور ہم لوگوں کی طرف سے آپ کے لئے ہدیہ ہیں ہم لوگوں نے آپ اور آپ کے سپاہیوں کے لئے کھانا اور سواریوں اور جانوروں کے لئے چارے کا بھی انتظام کیا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اپنے بزرگوں کی تعظیم کے لیے جو عمل انجام دیتے ہو خدا کی قسم! اس سے ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا اس سے اپنے کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو، دوبارہ یہ کام انجام نہ دینا جو جانور تم لوگ اپنے ساتھ لائے ہو اگر تم لوگ راضی ہو تو اس شرط پر قبول کروں گا کہ اس کی قیمت خراج میں محسوب ہو اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لئے لائے ہو اسے ایک شرط پر قبول کروں گا کہ اس کی قیمت ادا کروں۔

انبار کے لوگوں نے کہا: آپ قبول کر لیں ہم اس کی قیمت معلوم کریں گے پھر آپ سے لے لیں گے۔  
امام علیہ السلام نے فرمایا: ایسی صورت میں تم لوگ اصل قیمت سے کم لو گے۔

انبار کے لوگوں نے کہا: اے میرے امام، عربوں کے درمیان ہمارے دوست و احباب ہیں کیا آپ ہم لوگوں کو ان کو ہدیہ و تحفہ دینے اور ان لوگوں سے ہدیہ و تحفہ قبول کرنے سے منع کر رہے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: تمام عرب تم لوگوں کے دوست ہیں لیکن ہر آدمی شائستہ نہیں ہے کہ تمہارے قیمتی وسنگین تحفے کو قبول کرے اور اگر کوئی تم لوگوں سے دشمنی کرے تو مجھے اس سے آگاہ کرو۔

انبار کے لوگوں نے کہا: اے میرے آقا! ہمارے ہدیہ کو قبول فرمائیں ہم لوگوں کی خواہش و آرزو ہے کہ ہمارے ہدیہ کو قبول کر لیجیے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تم پر افسوس ہے ہم تم سے زیادہ بے نیاز ہیں، اتنا کہنے کے بعد امام علیہ السلام اپنے سفر پر روانہ ہو گئے اور ان لوگوں کو عدالت الہیہ کا درس دیا جو بہت زیادہ عرصہ سے عجم کے بادشاہوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور اس کے حاکموں کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے تھے (۱)

امام علیہ السلام جب سفر کرتے کرتے "الجزائر" پہنچے تو "تغلب اور نمر" کے قبیلے والوں نے امام علیہ السلام کا شاندار استقبال کیا۔

امام علیہ السلام نے اپنے تمام سپہ سالاروں میں سے صرف "یزید قیس" کو اجازت دیا کہ ان لوگوں کی لائی ہوئی غذا کو کھائے، کیونکہ وہ اسی قبیلے کا رہنے والا تھا۔

پھر امام علیہ السلام کا قافلہ "رقہ" پہنچا اور فرات کے کنارے قیام کیا وہاں ایک رابب گوپھا گھر میں رہتا تھا جب اسے امام علیہ السلام کے آمد کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا: مجھے اپنے آباؤ اجداد سے ایک صحیفہ وراثت میں ملا ہے جسے جناب عیسیٰ کے اصحاب نے لکھا ہے اور میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اُسے پڑھوں، پھر اس نے اس صحیفے کو پڑھا (جس کی عبارت یہ تھی)

"شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے، وہ خدا جس نے گذشتہ زمانے کے تمام حالات کو معین کر رکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہم نے امیوں میں سے ایک کو اپنی پیغمبری کے لئے چنا ہے جو ان لوگوں کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان صدائے توحید بلند کرتا ہے اور برے کو برائی سے سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اس کے ماننے والے خدا کے مخلص اور فرمان بردار بندے ہیں جو عظیم منصبوں پر فائز ہونے اور زندگی کے نشیب و فراز پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر وقت ان کی زبانوں پر تسبیح و تہلیل کی آواز رہتی ہے، خدا اسے دشمنوں پر کامیابی عطا کرتا ہے جس وقت خدا اسے (پیغمبر) اپنے پاس بلا لے گا تو ان کی امت دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی لیکن دو بارہ پھر متحد ہو جائے گی اور کچھ دنوں تک اسی حالت پر باقی رہے گی لیکن پھر دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، اس کی امت سے ایک شخص اس فرات کے کنارے سے گزرے گا وہ ایسا شخص ہے جو نیکیوں اور اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے صحیح فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرتے وقت رشوت اور اجرت نہیں لیتا، دنیا

(۱) نہج البلاغہ باب الحکم، نمبر ۱۳۶، وقعہ صفین ص ۱۴۴۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۰۳

اس کی نگاہوں میں اس گرد و غبار سے بھی بدتر ہے جسے تیز ہوا کے جھونکے اڑاتے ہیں اور موت اس کی نگاہوں میں پیاسے انسان کی پیاس بجنہے سے بھی زیادہ محبوب ہے تنہائی میں وہ خدا سے ڈرتا ہے اور ظاہری طور پر خدا کا مخلص

ہوتا ہے خدا کا حکم جاری کرنے میں برا کہنے والوں کی سرزنش سے نہیں ڈرتا ، جو شخص بھی اس علاقہ کا اس پیغمبر سے ملاقات کرے اس پر ایمان لائے اس کی جزا میری مرضی اور بہشت ہے اور جو شخص بھی خدا کے اس صالح بندے کو پالے اور اس کی مدد کرے اور اس کی راہ میں قتل کیا جائے تو اس کی راہ میں قتل ہونے والا شہید ہے...۔۔۔ جب رابع اس صحیفے کو پڑھ چکا تو کہا، میں آپ کی خدمت میں ہوں اور کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوؤنگا تاکہ جو چیز آپ تک پہنچے وہ مجھ تک بھی پہنچے امام علیہ السلام یہ حالت دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا: خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بھولنے والوں میں قرار نہیں دیا ، اس خدا کی تعریف جس نے مجھے اچھے اور نیک لوگوں کی کتابوں میں یاد کیا۔

رابع اس وقت سے امام علیہ السلام کے ہمراہ تھا اور جنگ صفین میں درجہ شہادت پر فائز ہو گیا امام علیہ السلام نے اس کے جنازے پر نماز پڑھی اور اسے دفن کیا اور فرمایا " ہذا من اهل البيت " (یہ شخص ہمارے خاندان سے ہے ) اور اس کے بعد کئی مرتبہ اس کے لئے طلب مغفرت کیا۔(۱)

امام علیہ السلام کا رقبہ میں قیام

امام علیہ السلام نے مدائن سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے تین ہزار فوجیوں کو معقل بن قیس کی سپہ سالاری میں رقبہ کی طرف روانہ کیا (۲) اور اسے حکم دیا کہ موصل پہر اس کے بعد نصیبین کی طرف جائے اور رقبہ کی سرزمین پر قیام کرے اور وہاں پر امام سے ملاقات کرے اور خود امام بھی دوسرے راستے سے رقبہ کے لئے روانہ ہوئے گویا اس گروہ کو اس راستے سے بھیجنے کا مقصد اس علاقے میں حاکم کی حکومت اور موقعیت کو ثابت کرنا تھا ، لہذا آپ نے لشکر کے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ کسی سے بھی جنگ نہ کریں اور اپنے سفر میں ان

(۱) وقعه صفین ص ۱۴۷، ۱۴۸۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۰۶، ۲۰۵  
(۲) کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۱۴۴۔ تاریخ طبری ج ۳، جزء ۵ ص ۲۳۷

علاقوں کے لوگوں کو آرام و اطمینان بخشیں اور اس راستے کو صبح اور شام میں طے کریں اور دوپہر اور رات کے پہلے حصے میں آرام کریں ( کیونکہ خداوند عالم نے رات کو آرام کرنے کے لئے پیدا کیا ہے ) خود اور اپنے سپاہیوں اور سواریوں کو راحت و آرام پہنچائیں، لشکر کے سپہ سالار نے امام کے حکم کے مطابق سفر طے کیا اور اس وقت رقبہ پہنچا جب امام علیہ السلام اس سے پہلے رقبہ پہنچ چکے تھے۔(۱)

رقبہ سے معاویہ کے نام خط

امام علیہ السلام کے چاہنے والوں نے امام سے عرض کیا کہ آپ معاویہ کے نام خط لکھیں اور دوبارہ اپنی حجت کو اس پر تمام کریں ، امام علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کیا (۲) کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ معاویہ کی نافرمانی اور سرکشی بغیر خون ریزی کے برطرف ہو جائے جب کہ آپ جانتے تھے کہ حکومت و قدرت حاصل کرنے والوں پر نصیحت و موعظہ کا کوئی اثر نہ ہوگا ، جب امام علیہ السلام کا خط معاویہ کے پاس پہنچا تو اس نے جواب میں جنگ کرنے کی دھمکی دی (۳) اس وجہ سے امام علیہ السلام اپنے ارادے میں اور محکم ہو گئے اور رقبہ سے صفین کی طرف جانے کا حکم دیدیا۔

(۱) وقعه صفین ص ۱۴۸۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۰۸  
(۲) (۳) امام کے خط کی عبارت اور جنگ صفین کے متعلق معاویہ کا جواب ص ۱۵۰۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۱۱۔۲۱۰

پل بنا کر فرات سے گزرنا

اس وسیع و عریض فرات کو عبور کرنا امام علیہ السلام کے لئے بغیر کسی پل یا کسی کشتی کے مشکل امر تھا، امام علیہ



السلام نے رقبہ کے لوگوں سے کہا کہ کوئی ایسا وسیلہ لائیں جس کے ذریعہ سے خود اور آپ کے تمام سپاہی فرات کو پار کرسکیں، لیکن اس سرحدی شہر کے لوگ عراقیوں کے برخلاف مولائے کائنات سے کوئی الفت و محبت نہیں رکھتے تھے لہذا پل نہیں بنایا، امام علیہ السلام نے شجاعت و قدرت کے باوجود ان کے انکار کرنے پر کوئی مزاحمت نہیں کی اور ارادہ کیا کہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس پل سے گزریں جو وہاں سے کچھ دور "منبج" نامی مقام پر واقع ہے۔ اس وقت مالک اشتر نے بلند آواز میں اس قلعہ کو خراب کرنے کی دھمکی دی جس میں وہ لوگ پناہ لئے ہوئے تھے، رقبہ کے رہنے والوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا مالک وہ شخص ہے جو اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس پر عمل ضرور کرتا ہے لہذا ان لوگوں نے فوراً پل بنانے کا اعلان کیا اور امام علیہ السلام کا پورا لشکر تمام سازوسامان کے ساتھ اس پل سے گزر گیا اور سب سے آخر میں جس نے رقبہ کو چھوڑا وہ مالک اشتر تھے۔ (۱)

امام علیہ السلام زمین شام پر امام علیہ السلام نے فرات پار کر کے عراق کی سرزمین کو چھوڑ دیا اور سرزمین شام پر قدم رکھا اور معاویہ کے ہر طرح کے شیطانی اور مزاحمتی حملوں کے مقابلے کے لئے اپنے دو بہترین و بہادر سپہ سالاروں، زیاد بن نصر و شریح بن ہانی کو بالکل اسی انداز سے جیسے کہ کوفہ میں بھیجا تھا بطور ہر اول معاویہ کے لشکر کی طرف روانہ کیا وہ دونوں "سور الروم" نامی جگہ پر معاویہ کے سپاہیوں کے لشکر جس کا سپہ سالار ابو الاعور تھا روبرو ہوئے اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ کسی بھی صورت سے دشمن کے اس سپہ سالار کو امام کا مطیع و فرمانبردار بنادیں، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہوسکی اور دونوں نے امام علیہ السلام کو فوراً حارث بن جہان جعفی کے ہمراہ خط روانہ کیا اور امام علیہ السلام کے حکم کے منتظر رہے (۲)

امام علیہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد فوراً مالک اشتر کو بلایا اور کہا زیاد اور شریح نے ایسا ایسا لکھا ہے جتنی جلدی ہوسکے اپنے آپ کو ان لوگوں تک پہنچا دو اور دونوں گروہوں کی ذمہ داری کو قبول کر لو اور جب تک دشمن سے ملاقات نہ ہو اور ان کی گفتگو نہ لینا اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا مگر یہ کہ وہ لوگ جنگ کی ابتداء کریں، دشمن پر تمہارا غصہ دشمن کی طرف آگے بڑھنے میں مانع نہ ہو مگر یہ کہ کئی مرتبہ ان کی گفتگو سنو اور اپنی حجت کو ان پر تمام کر دو، پھر حکم دیا: زیاد کو میمنہ اور شریح کو اپنے میسرہ سپرد کرنا اور خود قلب لشکر میں رہنا اور ہاں دشمن سے اتنا قریب نہ رہنا کہ وہ خیال کریں کہ جنگ شروع کرنا چاہتے ہو اور نہ دشمنوں سے اتنا دور

(۱) وقوعہ صفین ص ۱۵۴، ۱۵۱، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۱۱، ۲۱۲، تاریخ طبری ج ۳ جزء ۵ ص ۲۳۸  
(۲) وقوعہ صفین ص ۱۵۴، ۱۵۱، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۱۱، ۲۱۳، تاریخ طبری ج ۳ جزء ۵ ص ۲۳۸، کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۴

رہنا کہ وہ تصور کریں کہ ڈر رہے ہو اسی طریقے پر باقی رہنا یہاں تک کہ میں تم تک پہنچ جاؤں (۱) پھر امام علیہ السلام نے ان دونوں سپہ سالاروں کو یہ جواب لکھا اور مالک اشتر کی اس طرح تعریف کی "امابعد، فانی قدأمرت علیکما مالکاً فاسمعالہ واطیعامرہ فانہ ممن لایخاف رفقہ ولاسقاطہ ولابطوہ عن ما الاسراع الیہ احزم ولا اسراعہ الی مالالبطء عنہ امثل و قد أمرتہ بمثل الذی أمرتکما الا ببیدئ القوم بقتال حتی یلقاہم فید عوہم ویعذر الیہم ان شاء اللہ" (۲) دونوں سپہ سالاروں کو معلوم ہو کہ میں نے سپہ سالاری مالک اشتر کو سونپ دی ہے، ان کی باتوں کو سنو اور ان کے حکم کی اطاعت کرو۔ کیونکہ وہ ایسا شخص نہیں کہ اس کی عقل و لغزش سے خوف کھائے اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جلد بازی میں سستی کرے یا بردباری کے وقت جلدی کرے اور اسے ان چیزوں کا حکم دیا ہے جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے کہ برگز دشمن کے ساتھ جنگ نہ کریں بلکہ انہیں حق کی طرف بلائیں اور حجت کو ان پر تمام کریں۔ مالک اشتر نے بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنے کو اس مقام پر پہنچایا جہاں پر دونوں فوجیں آمنے سامنے موجود تھیں، فوج کو منظم کیا اس کے بعد اپنی فوج کے دفاع کے علاوہ کوئی اور کام انجام نہیں دیا اور جب شام کے سپہ سالار ابو الاعور کی طرف سے حملہ ہوتا تھا تو اس کا دفاع کرتے تھے، سب سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ مالک اشتر نے دشمن کی فوج کے سپہ سالار کے ذریعے معاویہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر جنگ کرنا چاہتا ہے تو خود میدان جنگ میں آئے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں اور دوسروں کے خون اور قتل و غارت گری کا سبب نہ بنیں لیکن اس نے اس درخواست کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک دن آدھی رات کو معاویہ کی فوج بہت تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی اور فرات کے کنارے ایک وسیع و عریض زمین پر پڑاؤ ڈالا اور امام کے سپاہیوں پر پانی بند کردیا۔ (۳)



(۱)، (۲) وقوع صفین ص ۱۰۴-۱۰۱، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۱۳-۲۱۱، تاریخ طبری ج ۳ جزء ۵ ص ۲۳۸، کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۴  
(۳) وقوع صفین ص ۱۰۴، تاریخ طبری ج ۳ جزء ۵ ص ۲۳۸

معاویہ کا صفین میں آنا

معاویہ کو خبر ملی کہ علی علیہ السلام نے سرزمین رقفہ پر موجود فرات کے اوپر پل بنایا اور خود اور اپنے پورے لشکر کو اس دریا سے پار کرایا، معاویہ جس نے شام کے لوگوں کو پہلے ہی اپنا بنالیا تھا، منبر پر گیا اور امام علی علیہ السلام کی فوج کی آمد کی خبر دی جو کوفیوں اور بصریوں پر مشتمل تھی، اور ان کو جنگ کرنے اور جان و مال کے دفاع کے لئے بہت زیادہ رغبت دلانی، معاویہ کی تقریر کے بعد پہلے سے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت اٹھے اور معاویہ کی تائید کی بالآخر معاویہ ان تمام لوگوں کے ہمراہ جن کے اندر جنگ کرنے کی صلاحیت تھی جنگ کے لئے روانہ ہوا (۱) اور اپنی فوج کے کنارے جس کا سپہ سالار ابوالاعور تھا قیام کیا اور اسی جگہ کو اپنا محاذ جنگ قرار دیا اور ایک قول کی بناء پر چالیس ہزار آدمیوں کو فرات پر معین کیا تاکہ امام کے سپاہیوں کو فرات کی طرف آنے سے روک سکیں۔ (۲)

(۱) ابن مزاحم نے (وقوع صفین میں) معاویہ کے سپاہیوں کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار لکھا ہے لیکن مسعودی نے (مروج الذهب، ج ۳، ص ۳۸۴ میں) کہا ہے کہ جس قول پر لوگوں کا اتفاق ہے وہ پچاسی ہزار آدمی ہیں اور اسی طرح امام علی علیہ السلام کے سپاہیوں کی تعداد (وقوع صفین ص ۱۰۷) ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لکھا ہے اور مروج الذهب میں ۹۰ ہزار لکھا ہے۔  
(۲) وقوع صفین ص ۱۰۷-۱۰۶

امام علیہ السلام کا سرزمین صفین پر ورود

زیادہ دن نہ گزرا تھا کہ امام علیہ السلام اپنے عظیم وشجاع سپاہیوں کے ہمراہ صفین پہنچے اور اپنی فوج کے جس کے سپہ سالار مالک اشتر تھے سے ملحق ہو گئے۔  
علی علیہ السلام نے سرزمین صفین پر اس وقت قدم رکھا جب دشمن نے ان کے سپاہیوں اور فرات کے درمیان اپنی عظیم فوج کا پہرہ بٹھا رکھا تھا اور امام کے سپاہیوں کو فرات تک پہنچنے سے روک دیا تھا، عبداللہ بن عوف کہتا ہے امام علیہ السلام کے سپاہیوں کے پاس پانی کا ذخیرہ بہت کم تھا اور ابوالاعور معاویہ کی فوج کے سپہ سالار نے نہر پر جانے کے تمام راستوں کو سواروں اور پیادوں سے بند کر دیا تھا اور تیر چلانے والوں کو ان کے سامنے اور ان کے اردگرد نیزہ برداروں اور زرہ پہنے ہوئے لوگوں کو کھڑا کر رکھا تھا جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کے لشکر میں پانی کی کمی ہونے لگی اور لوگ امام علیہ السلام کے پاس شکایتیں لے کر آئے۔ (۱)

امام علیہ السلام کا تحمل

ہر معمولی اور عام کمانڈر ایسی حالت میں تحمل و برد باری کھودیتا ہے اور فوراً حملہ کرنے کا حکم دے دیتا ہے لیکن امام علیہ السلام جن کا پہلے ہی دن سے یہ مقصد تھا کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو بغیر خونریزی کے ہی فیصلہ ہو جائے۔ اس وقت آپ نے اپنے ایک خاص رازدار صعصعہ بن صوحان (۲) کو بلایا اور کہا کہ تم بعنوان سفیر معاویہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو:

"ہم لوگ اس علاقے میں آگئے ہیں اور ہمیں پسند نہیں کہ اتمام حجت سے پہلے جنگ شروع کریں اور تو پوری قدرت کے ساتھ شام سے باہر آگیا اور اس سے پہلے کہ ہم تجھ سے جنگ کریں تو نے جنگ کا آغاز کر دیا میرا نظریہ ہے کہ تو جنگ سے باز آجاتا کہ میری دلیلوں کو غور سے سن سکے، یہ کا کون سا بزدلانہ طریقہ ہے کہ تو نے ہمارے اور پانی کے درمیان اختیار کیا ہے، اس پہرے کو ہٹادے تاکہ میرے نظریہ کے بارے میں غور کر، اور اگر تو چاہتا ہے کہ یہی وضعیت

رہے اور لوگ پانی کے لئے آپس میں جنگ کریں اور آخر میں کامیاب ہونے والا گروہ اس سے فائدہ اٹھائے تو اب مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔" صعصعہ ، امام کے سفیر بن کر معاویہ کے خیمے میں داخل ہوئے جو لشکر کے درمیان میں تھا اور امام علیہ السلام کے پیغام کو معاویہ تک پہنچایا ، ولید بن عقبہ جیسے کور دل فرات پر قبضہ باقی رکھنے کے خواہاں تھے تاکہ امام کے لشکر والے پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائیں، لیکن سب سے بڑا سیاسی چالباز ، عمرو عاص نے امیہ کے بیٹوں کے برخلاف معاویہ سے کہا فرات پر سے اپنا قبضہ ہٹالے اور جنگ کے دوسرے امور کی طرف غور کر ، اور ایک قول کی بناء پر اس نے کہا، یہ کام اچھا نہیں ہے کہ تو سیراب ہو اور علی پیاسے ہوں جب کہ ان کے پاس ایسے ایسے جانباز سپاہی ہیں جو فرات کی فکر میں ہیں یا تو اس پر قبضہ کر لیں گے یا اس راہ میں مر جائیں گے

(۱) الامامة والسياسة ج ۱ ص ۹۴. تاريخ طبري ج ۳ جزء ۵ ص ۲۳۹، كامل ابن اثير ج ۳ ص ۱۴۵. تاريخ يعقوبي ج ۲ ص ۱۸۷  
(۲) طبري اور ابن قتيه کے بقول امام عليہ السلام نے اشعث کو بھیجا تھا۔ الامامة والسياسة ج ۱، ص ۹۴. تاريخ طبري ج ۳ جزء ۵ ص ۲۴۰

اور تو جانتا ہے کہ علی بہت بڑے بہادر ہیں اور عراق اور حجاز کے لوگ ان کے ہمرکاب ہیں ، علی اس مرد کا نام ہے کہ جب لوگوں نے فاطمہ کے گھر پر حملہ کیا تو انہوں نے کہا اگر چالیس افراد میرے ساتھ ہوتے تو حملہ کرنے والوں سے بدلہ لیتا ۔

جب کہ معاویہ امام کے سپاہیوں پر پانی بند کر کے اپنی پہلی کامیابی تصور کر رہا تھا ۔ ایک شخص کہ جسے لوگ عابد ہمدانی کے نام سے جانتے تھے اور عمرو عاص کے دوستوں اور بہترین خطیبوں میں سے تھا ، اس نے معاویہ کی طرف رخ کر کے کہا سبحان الله ، اگر تم عراق کی فوج سے پہلے اس جگہ پہنچے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان لوگوں پر پانی بند کر دو ، خدا کی قسم اگر وہ لوگ تم سے پہلے یہاں آئے ہوتے تو تم پر کبھی پانی بند نہیں کرتے ، سب سے بڑا کام جو تم اس وقت انجام دے رہے ہو وہ یہ ہے کہ وقتی طور پر ان لوگوں کے لئے فرات کا پانی بند کر دیا ہے ، لیکن دوسرے موقع کے لئے آمادہ رہو کہ وہ لوگ اسی طرح سے تمہیں سزا دیں گے، کیا تم نہیں جانتے کہ ان کے درمیان ، غلام ، کنیز ، مزدور ، ضعیف و ناتواں اور بے گناہ لوگ ہیں ؟

خدا کی قسم ، تمہارا سب سے پہلا ہی کام ظلم و ستم ہے۔ اے معاویہ ، تو نے اس غیر انسانی حرکت کی وجہ سے خوفزدہ اور مردد افراد کو جرأت و ہمت دیدی اور وہ شخص جو تجھ سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا تو نے ان کو جری کر دیا (۱)

معاویہ ، ان جگہوں کے برخلاف کہ جہاں پر وہ حلم و بردباری سے کام لیتا تھا اس زاہد ہمدانی پر سخت ناراض ہوا اور عمرو عاص سے اس کی شکایت کی ، اور عاص کے بیٹے نے بھی جو کہ اس کا دوست تھا اس پر غضبناک ہوا، لیکن سعادت اور خوش بختی نے اس زاہد پر اپنا قبضہ کر رکھا تھا اس نے معاویہ کے لشکر کے افق کو تاریکی میں دیکھا اور اسی رات امام علیہ السلام سے ملحق ہو گیا۔

(۱) وقعہ صفین ص ۱۶۰. تھوڑے فرق کے ساتھ، الامامة والسياسة ج ۱ ص ۹۴. تاريخ يعقوبي ج ۲ ص ۱۸۸. تاريخ طبري ج ۳ جزء ۵ ص ۲۴۰

حملہ کرنے اور قبضہ توڑنے کا حکم

پیاس کی شدت نے امام علیہ السلام کے جا نیازوں کو نیم جان کر دیا تھا جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کو غم و اندوہ نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا جب ، آپ قبیلہ " مذحج " کی طرف آئے تو ایک کو ایک قصبہ کے ضمن میں یہ کہتے ہوئے سنا :

أيمننا القوم مائى الفرات

وفينا الرماح و فينا الحُجف (۱)

کیاشام کی قوم ہم لوگوں کو فرات کے پانی سے روک دے گی جب کہ ہم لوگ نیزہ وزرہ سے لیس ہیں؟ پھر امام علیہ السلام قبیلہ "کندہ" کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک سپاہی اشعث بن قیس کے خیمے کے پاس جو اسی قبیلے کا سپہ سالار تھا کچھ شعر پڑھ رہا ہے جس کے پہلے دو شعر یہ ہیں:

لَئِن لَّمْ يَجَلَّ الْاِشْعَثُ الْيَوْمَ كَرْبَةً

مِنَ الْمَوْتِ فِيهَا لِلنَّفُوسِ تَعْنَتٌ

فَتَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفِرَاتِ بَسِيْفَه

فَهَبْنَا اِنَّا سَاقِلُ كَانُوا فَمَوَّ تَوَا (۲)

اگر آج کے دن اشعث نے سختی واذیت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو موت کے غم واندوہ سے دور نہ کیا تو ہم تلوار کے ذریعے فرات کے پانی سے سیراب ہوں گے، کتنا اچھا ہوتا کہ اے اشعث ایسے لوگوں کو ہمارے حوالے کرتے جو پہلے تھے اور اس وقت موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔

امام علیہ السلام نے ان دو سپاہیوں کے اشعار سننے کے بعد جو فوجی چھاؤنی میں بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اپنے خیمے میں آئے اچانک اشعث امام کے خیمے میں آیا اور کہا: کیا یہ بات صحیح ہے کہ شام کے لوگ ہمیں فرات کے پانی سے محروم رکھیں، جب کہ آپ ہمارے درمیان میں ہیں اور ہماری تلواریں ہمارے ہمراہ ہیں؟ اجازت دیجئے! کہ خدا کی قسم یا فرات پر سے قبضہ ہٹادیں یا اس راہ میں اپنی جان گنوا دیں اور مالک اشتر کو حکم دیں کہ اپنی فوج کے ساتھ جہاں پر بھی آپ کا حکم ہو وہاں کھڑے ہو جائیں، امام علیہ السلام نے فرمایا، تم کو اختیار ہے اس وقت آپ نے مالک اشتر کے لئے ایک جگہ معین کی تاکہ وہ وہاں اپنی فوج کے ساتھ موجود رہیں، پھر آپ نے اپنے عظیم لشکر کے درمیان مختصر سا خطبہ پڑھا اور یہ ایک ایسا ولولہ انگیز خطبہ تھا جس سے امام کے لشکر میں ایک ایسا سمان بندھ گیا کہ گویا ایک ہی حملہ میں معاویہ کے لشکر کو پچھاڑ دیں گے اور گھاٹ کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، وہ خطبہ یہ ہے:

"قَدْ اسْتَطَعْمَكُمُ الْقِتَالَ فَأَقْرَوَا عَلِيَّ مَذْلَةً وَتَاخِيرَ رَوْ وَالسِّيَوفِ مِنَ الدَّمَاءِ تَرَوْا مِنَ الْمَاءِ، فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ وَالحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ۔ أَلَا

(۱)، (۲) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۵۔ وقعة صفين ص ۱۶۴۔۱۶۶

وإنَّ معاويةَ قادمٌ من الغواةِ وعمسَ عليهمُ الخبرَ حتَّى جعلوا نحرهم أغراضَ المنيةِ" (۱)

معاویہ کی فوج نے اپنے اس کام (تم لوگوں پر پانی بند کرنے) کی وجہ سے تم لوگوں کو جنگ کی دعوت دی ہے اور اس وقت تم لوگوں کے سامنے دور استے ہیں یا تو ذلت ورسوائی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو یا تلواروں کو خون سے سیراب کر دو تاکہ تم پانی سے سیراب ہو جاؤ، تمہارا ان سے دب جانا جیتے جی موت ہے اور غالب آکر مرنے میں زندگی ہے، آگاہ رہو کہ معاویہ گمراہوں کا ایک چھوٹا سا لشکر میدان جنگ میں زبردستی گھسیٹ لایا ہے اور حقائق سے انہیں اندھیرے میں رکھا ہے یہاں تک

انہوں نے اپنے گلوں کو تیروں اور شمشیروں (موت) کا نشانہ بنایا ہے۔

اشعث نے اسی رات اپنے ماتحت سپاہیوں کے درمیان بلند آواز میں کہا جو شخص بھی پانی چاہتا ہے یا موت، اس سے ہمارا وعدہ صبح کے وقت ہے (۲)

پیاس کی شدت ایک طرف اور امام کا شعلہ بیان خطبہ اور سپاہیوں کے ولولہ انگیز اشعار دوسری طرف، یہ تمام چیزیں سبب بنیں کہ بارہ ہزار آدمیوں نے فرات پر قبضہ کرنے کے لئے آمادگی کا اعلان کر دیا، اشعث اپنی عظیم فوج کے ساتھ اور مالک اشتر اپنے طاقتور اور بہادر سپاہیوں کے ہمراہ جو کہ سوار تھے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بجلی کی طرح ایک ایسا حملہ کیا کہ جو فوج رکاوٹ بنی ہوئی تھی اور قدرت و طاقت میں اس سے دوگنی تھی اسے اپنے راستے سے ہٹا ڈالا، اس طرح سے کہ جو فوج گھوڑے پر سوار تھی ان کے گھوڑے کے پیروں کے نشان فرات میں بن گئے تھے، اس حملے میں مالک اشتر کے ہاتھوں ۷ اور اشعث کے ہاتھوں ۵ افراد مارے گئے اور جنگ کا نقشہ امام کے حق میں پلٹ گیا اور عظیم نہر فرات امام اور آپ کے دوستوں کے قبضہ میں آگئی، اس وقت عمر و عاص نے معاویہ کی طرف رخ کر کے کہا، کیا سوچ رہے ہو اگر علی تمہارے جیسا کام کریں اور تم پر پانی بند کر دیں؟

معاویہ، جو امام علیہ السلام کے اخلاقی، روحانی عظمتوں سے واقف تھا، نے کہا: میں سوچ رہا ہوں

(۱) نبج البلاغہ خطبہ ۵۱۔ شرح نبج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۴۴  
(۲) وقعہ صفین ص ۱۶۶۔ الامامۃ والسیاسة ج ۱ ص ۹۴

کہ وہ ہم پر پانی بند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دوسرے مقصد کے لئے یہاں آئے ہیں (۱)  
آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کے بیٹے کے برے عمل (پانی بند کرنا) کے نتیجے میں امام علیہ السلام کا کیا عکس  
العمل تھا۔

(۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۷۔ ۳۸۶

عظیم قدرت کے باوجود انسانی اصول کی پابندی

امام علیہ السلام کے سپاہیوں نے فرات پر قبضہ کرنے کے لئے فوجی تکنک کا سہارا لیا اور کامیاب ہو گئے اور پوری  
فرات امام کے سپاہیوں کے قبضے میں آگئی اور معاویہ کے سپاہی فرات سے دور کر دیئے گئے اور ایسی جگہ پر پناہ لی  
جہاں پر کھانے پانی کا انتظام نہ تھا اور شامیوں کے لئے ایسے حالات میں زندگی بسر کرنا ممکن نہ تھا اور بہت ہی جلد ان  
کے پاس موجود پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور وہ مجبور تھے کہ تین راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کریں۔  
۱۔ امام کے لشکر پر حملہ کریں اور دوبارہ فرات کو اپنے قبضہ میں لے لیں لیکن اپنے اندر اتنی جرأت و طاقت نہیں دیکھ  
رہے تھے۔

۲۔ پیاس کی شدت سے موت کا جام پی لیں اور صفین کو اپنی قبرستان بنالیں۔

۳۔ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور شام اور اس کے اطراف میں بگھر جائیں۔

لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود فرات پر قبضہ نے شام کی فوج کے سرداروں خصوصاً معاویہ کو وحشت زدہ نہیں کیا  
کیونکہ وہ لوگ امام علیہ السلام کی جوائنردی، اخلاق اور اسلام اور اس کے اصولوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے  
خوب واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ امام کبھی بھی اصل کو فرع پر اور ہدف کو وسیلہ پر قربان نہیں کریں گے۔  
اخلاقی اصولوں اور انسانی اقدار کی رعایت کا سرچشمہ ہر شریف النفس انسان کی ملکوتی روح ہوتی ہے، ان اصول کا  
اظہار سارے مواقع پر مستحسن سمجھا جاتا ہے، جنگ، صلح تک محدود نہیں ہے بلکہ انسان کا دوسرے انسان کے رابطے  
سے مربوط ہے۔

اسلام کے سپاہیوں کو روانہ کرتے وقت پیغمبر اسلام (ص) کے پیغامات اور علی علیہ السلام کے جنگ صفین میں دیئے  
ہوئے پیغامات، جس میں سے کچھ کا تذکرہ ہم کریں گے ایک حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی  
انسانی اصولوں کو اپنے مقصد پر قربان نہیں کرنا چاہیے بلکہ سخت سے سخت موقع پر بھی اخلاقی اصولوں سے غفلت  
نہیں کرنا چاہیے۔

معاویہ کی فوج کے سرداروں کو امام علیہ السلام کے سپاہیوں کے توسط سے فرات پر قبضہ ہونے پر فکر مند نہ ہونے کی  
علت کو دو سیاسی چالبازوں (معاویہ و عمرو عاص) کی گفتگو سے جانا جا سکتا ہے۔

عمرو عاص، معاویہ کے انسانیت سے گئے ہوئے کاموں کا بالکل مخالف تھا لیکن معاویہ نے برخلاف عقل کام کیا، یہاں  
تک کہ امام علیہ السلام کے لشکر کا قبضہ فرات پر ہو گیا اور معاویہ کی فوج فرات سے کئی فرسخ دور ہو گئی، اس وقت یہ  
دونوں سیاسی و شیطانی نمائندے (معاویہ و عمرو عاص) آپس میں گفتگو کرنے کے لئے ایک جگہ جمع ہوئے، مضمون یہ  
تھا:

عمرو عاص: کیا فکر رہے ہو اگر عراقی تجھ پر پانی بند کر دیں بالکل اسی طرح جس طرح تو نے ان پر پانی بند کیا؟ تو کیا  
پانی کو اپنے قبضے میں لینے کے لئے ان سے جنگ کرو گے اسی طرح جس طرح وہ لوگ تجھ سے جنگ کرنے کے لئے  
اٹھے تھے؟

معاویہ: پچھلی باتوں کو چھوڑو، علی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟

عمرو عاص : میرا خیال ہے جس چیز کو تو نے ان کے بارے میں روا رکھا وہ تمہارے بارے میں روا نہیں رکھیں گے کیونکہ ہرگز وہ فرات پر قبضہ کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں۔(۱)  
 معاویہ نے ایسی بات کہی کہ بوڑھا سیاسی ناراض ہو گیا اور اس نے اس کے جواب میں اشعار کہے اور اسے یاد دلایا کہ افق تاریک ہے اور ممکن ہے طلحہ وزبیر کی طرح مشکلوں میں گرفتار ہوجائیں۔(۲)  
 لیکن عمرو کا خیال بالکل صحیح تھا، امام علیہ السلام نے فرات پر قبضہ کرنے کے بعد دشمن کے لئے فرات کو آزاد

(۱) الامامة والسياسة ج ۱ ص ۹۴۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۶  
 (۲) وقعہ صفین ص ۱۸۶

کردیا (۱) اور اس طرح آپ نے ثابت کر دیا کہ جنگ کے دوران اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی اخلاقی اصولوں کے پابند رہے اور معاویہ کے برخلاف اپنے مقصد کے حصول کے لئے غلط وسیلے کو اختیار نہیں کیا۔

فرات آزاد کرنے کے بعد

دونوں فوجیں تھوڑے سے فاصلہ پر آمنے سامنے تھیں اور اپنے اپنے سردار کے حکم کی منتظر تھیں، لیکن امام علیہ السلام جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے چنانچہ کئی کئی مرتبہ آپ نے اپنے نمائندوں اور خطوط بھیج کر مشکل کو گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہا۔(۲) ربیع الثانی ۳۶ ہجری کے آخری دنوں میں اچانک " عبید اللہ بن عمر " مظلوم وبے گناہ ہرمزان کا قاتل امام علیہ السلام کے پاس آیا ، ہرمزان ایک ایرانی تھا اور اس کے مسلمان ہونے کو خلیفہ دوم نے تسلیم کر لیا تھا اور اس کے اخراجات کے لئے کچھ رقم معین کر رکھی تھی۔(۳) جب حضرت عمر ابو لؤلؤ کے خنجر سے زخمی ہوئے اور سپاہیوں کو قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا (۴) تو خلیفہ کے ایک بیٹے نے جس کا نام عبید اللہ تھا انسانی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قاتل کی جگہ بے گناہ ہرمزان کو قتل کر دیا (۵) امام علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ عثمان کے دور حکومت میں عبید اللہ کو اس کی سزا (قصاص) مل جائے ( مگر سزا نہ ملی ) اور امام علیہ السلام نے اسی وقت خدا سے عہد کیا کہ اگر ہمارا تسلط ہو گیا تو اس کے متعلق خدا کے حکم

(۱) کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۵۔ تاریخ طبری ج ۳ جزء ۵ ص ۲۴۲۔ تجارب السلف ص ۴۷  
 (۲) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۷۔ تاریخ طبری ج ۳ جزء ۵ ص ۲۴۲  
 (۳) بلاذری ، فتوح البلدان ص ۶۹

(۴) یہ بحث کہ عمر کے قتل کے بعد ابولؤلؤ پہ کیا گذری مورخین کے درمیان اختلاف ہے بعض کا کہنا ہے کہ اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا ( تاریخ برگزیدہ ص ۱۸۴ ، تاریخ فخری ص ۱۳۱ ) اور مسعودی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے کو خود اسی خنجر سے قتل کر لیا جس سے عمر کو قتل کیا تھا ( مروج الذهب ج ۲ ، ص ۳۲۹ ) لیکن مولف حبیب السیر کا کہنا ہے کہ شیعوں کے نظریہ کے مطابق وہ مدینہ سے بھاگ گیا اور عراق کی طرف چلا گیا اور بالآخر کاشان میں اس کی وفات ہو گئی ( حبیب السیر ج ۱ جزء ۵ ص ۲۴۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ، ص ۶۱ ، مروج الذهب ج ۲ ص ۳۹۵ )  
 (۵) تاریخی یعقوبی ج ۲ ، ص ۱۶۱۔ فتوح البلدان ص ۵۸۳۔ تجارب السلف ص ۲۳

کو جاری کریں گے (۱) عثمان کے قتل کے بعد اور امام علیہ السلام کی خلافت حقہ کے بعد عبید اللہ قصاص (سزا) سے بہت ڈرا ہوا تھا اور مدینہ سے شام کی طرف چلا گیا۔(۲)  
 اسی لئے عبید اللہ جنگ صفین کے موقع پر امام علیہ السلام کے پاس آیا اور طعنہ کے طور پر امام سے کہا خدا کا شکر کہ تمہیں ہرمزان کے خون کا بدلہ لینے اور مجھے عثمان کے خون کا بدلہ لینے والا قرار دیا امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا مجھے اور تجھے میدان جنگ میں جمع کرے (۳) اتفاقاً جنگ اپنے شباب پر تھی کہ عبید اللہ امام کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا (۴)۔

(۱) امام علیہ السلام نے عبید اللہ سے کہا " یا فاسقُ أما والله لئن ظفرتُ بک يوماً من الدهر لأضربنُ عنقک " انساب الاشراف ج ۵ ، ص ۲۴۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۶۱۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۹۵۔  
 (۲) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۸۔

(۳) الاخبار الطوال ص ۱۶۹ مطبوعہ قاہرہ - وقعہ صفین ص ۱۸۶۔  
 (۴) مسعودی کہتے ہیں : جنگ صفین میں عید اللہ کو خود امام علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ مزید کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس پر ایسی ضربت ماری کہ جو زرہ لوبے کی وہ بہنے لگا تھا وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور تلوار کا وار اس کی ہڈیوں تک پہنچ گیا۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۹۵۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

سولہویں فصل  
 آخری اتمام حجت

معاویہ کے پاس تین نمائندے بھیجنا

ربیع الثانی ۳۶ ہجری کے آخری ایام تھے، امام علیہ السلام نے تین اسلامی شخصیتوں، انصاری، ہمدانی اور تمیمی کو اپنے پاس بلایا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ معاویہ کے پاس جاؤ اور اسے امت اسلامی کی اطاعت اور اس سے ملحق ہونے اور احکام الہی کی پیروی کرنے کی دعوت دو، تمیمی نے امام علیہ السلام سے کہا، اگر وہ بیعت کے لئے آمادہ ہو جائے تو کیا مصلحت ہے کہ اسے انعام (مثلاً ایک علاقہ کی حکومت) دے دیں؟ امام علیہ السلام جو کسی بھی صورت میں اصول کی پامالی نہیں کرتے تھے ان لوگوں سے کہا "أَيُّوهُ الْآنَ فَلَاقُوهُ وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ وَانظُرُوا مَا رَأَيْهِ" یعنی اس وقت اس کے پاس جاؤ اور اس پر احتجاج کرو اور دیکھو کہ اس کا نظریہ کیا ہے؟ وہ تینوں معاویہ کے پاس گئے اور معاویہ اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ درج ذیل ہے:

انصاری: دنیا تجھ سے چھوٹے گی اور تو دوسری دنیا کی طرف جائے گا وہاں تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور اچھے برے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم کو خدا کا واسطہ کہ تم فتنہ و شر سے باز آ جاؤ اور امت میں تفرقہ اور خونریزی مت کرو۔ معاویہ نے انصاری کی بات کاٹتے ہوئے کہا: تم اپنے بزرگ کو کیوں نصیحت نہیں کرتے؟ انصاری: حمد ہے خدا کی میرا بزرگ تمہاری طرح نہیں ہے وہ سابق الاسلام، پیغمبرؐ کے قریبی رشتہ دار اور عظمت و فضیلت کے تاجدار ہیں۔

معاویہ: تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا چاہتے ہو؟

انصاری: میں تجھے علی کی اطاعت کی دعوت دے رہا ہوں اور اس کے قبول کرنے میں تمہارے دین و دنیا کے لئے بھلائی ہے۔

معاویہ: اس صورت میں عثمان کے خون کا بدلہ لینے میں تاخیر ہوگی، نہیں، رحمن کی قسم! میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ اس وقت ہمدانی نے چاہا کہ کلام کرے لیکن تمیمی نے ان سے پہلے گفتگو شروع کر دی اور کہا:

انصاری کو دینے ہوئے جوابات سے تیرا مقصد معلوم ہو گیا اور تیرے ارادہ سے ہم لوگ بے خبر نہیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے اور ان کو اپنی طرف جذب کرنے کے لئے سوائے اس کے کوئی اور بہانہ نہیں ہے کہ تو یہ کہے کہ تمہارا خلیفہ مظلوم قتل ہوا ہے اور تم لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کے قتل کا بدلہ لو اس آواز پر چند جاہل لوگوں نے تمہاری آواز پر لبیک کہا ہے جب کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ تم نے اپنے مقتول خلیفہ کی مدد کرنے میں تاخیر کی تھی اور اسی مقام کے حصول کے لئے تم نے ان کے قتل کو روا رکھا تھا ایسا ہوسکتا ہے کہ کچھ لوگ مقام و منصب کی آرزو رکھتے ہوں مگر خدا ان کی آرزوں کو پورا نہ کرے، اور تو ایسا آرزو مند ہے کہ اپنی جس آرزو تک پہنچ جائے اس میں فلاح و بہبود نہیں ہے اگر تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو عرب میں تجھ سے زیادہ کوئی بدبخت نہیں ہے اور اگر مقصد میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی روسیابی کے سوا کچھ نہیں ہے، اے معاویہ خدا سے ڈر اور ہٹ دھرمی چھوڑ دے اور جو خلافت کا صحیح حقدار ہے اس سے جنگ نہ کر۔ امام علیہ السلام کے نمائندوں کی منطقی اور استدلالی گفتگو نے معاویہ کو بوکھلا دیا اور اپنی پرانی روش کے برخلاف تلخ لہجے میں کہا: بیابان نشین تم میرے پاس سے چلے جاؤ اب ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔

تمیمی: کیا تم ہمیں تلوار سے ڈرا رہے ہو؟ بہت جلد ہی تلوار لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں، پھر تینوں نمائندے امام کی

خدمت میں واپس آگئے اور تمام باتوں کے نتیجے سے امام علیہ السلام کو باخبر کیا۔ (۱)

(۱) وقوعہ صفین ص ۱۸۷، ۱۸۸۔ تاریخ طبری ج ۳ جزء ۵ ص ۲۴۲۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۶

عراق و شام کے قاریوں کا اجتماع

صدر اسلام میں قاریان قرآن کا ایک خاص مقام تھا ان کا کسی طرف ہونا تمام مسلمانوں کا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کا سبب بنتا تھا، ایسے حالات میں جب کہ صلح و آشتی کی کوئی امید نہ تھی عراق و شام کے قاری جن کی تعداد ۳۰ ہزار کے قریب تھی ایک خاص جگہ پر جمع ہوئے اور ان کے نمائندے مثلاً عبیدہ سلمانی، علقمہ بن قیس، عبد اللہ بن عتبہ و عامر بن عبد القیس وغیرہ دونوں فوج کے سرداروں کے پاس کئی مرتبہ آئے گئے سب سے پہلے معاویہ کے پاس گئے اور اس سے گفتگو کی جو درج ذیل ہے:

نمائندے: تم کیا چاہتے ہو؟

معاویہ: عثمان کے خون کا بدلہ چاہتا ہوں۔

نمائندے: کس سے بدلہ لو گے؟

معاویہ: علی سے۔

نمائندے: کیا علی نے ان کو قتل کیا ہے؟

معاویہ: ہاں علی نے قتل کیا ہے اور ان کے قاتلوں کو پناہ دی ہے۔

پھر وہ نمائندے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ معاویہ آپ پر عثمان کے قتل کا الزام لگا رہا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے میں نے ہرگز اسے قتل نہیں کیا ہے۔

نمائندے پھر معاویہ کے پاس گئے اور امام علیہ السلام کی باتیں اسے بتائیں۔

معاویہ: براہ راست وہ قتل میں شریک نہ تھے لیکن تھا اور لوگوں کو ان کے قتل پر ابھارا ہے۔

امام علیہ السلام نے، معاویہ کی باتیں جاننے کے بعد دوبارہ خلیفہ کے قتل میں ہر طرح کی مداخلت کرنے سے انکار کیا۔

معاویہ نے امام علیہ السلام کے انکار کو دیکھ کر دوسری بات کہی، کہ اگر ایسا ہے تو عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم خود انہیں گرفتار کریں۔

امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: ایک ایسا قتل، جو عمدتاً نہیں تھا لہذا اس کا قصاص نہیں ہے کیونکہ ان کے قاتلوں نے

قرآن سے ان کے قتل کے جائز ہونے پر دلیلیں پیش کی ہیں اور اس کی تاویل کی ہے اور ان کے اور خلیفہ کے درمیان

اختلاف ہو گیا اور خلیفہ تمام قدرت کے باوجود قتل ہو گیا (اور بالفرض کہ یہ عمل صحیح نہیں تھا تو بھی ایسا قتل، قابل

قصاص نہیں ہے)۔

جس وقت امام کے نمائندوں نے حضرت کے فقہی استدلال کو (جو باب قضاء کے اصول میں سے ہے) معاویہ کے سامنے

نقل کیا اور اس نے اپنے کو شکست خوردہ دیکھا تو پھر اپنی گفتگو کو دوسرے طریقے سے شروع کیا اور کہا کیوں علی

نے خلافت کو بغیر ہمارے اور جو لوگ یہاں ہیں کے مشورے کے اپنے لئے انتخاب کیا اور ہمیں اس سے محروم کیا؟

امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: لوگ مہاجر و انصار کے پیرو ہیں اور وہ دوسرے شہروں میں رہنے والے مسلمانوں

کے ترجمان ہیں، ان لوگوں نے اپنی مرضی و آزادی اور صدق دل سے میری بیعت کی ہے اور میں ہرگز معاویہ جیسے

لوگوں کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ امت مسلمہ پر حکومت کرے اور لوگوں پر ہمیشہ مسلط رہے اور ان کی کمر توڑ دے

(۱)

معاویہ: تمام مہاجر و انصار مدینہ میں نہ تھے بلکہ ان میں سے کچھ شام میں رہتے تھے کیوں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا؟

امام: امام کا انتخاب تمام مہاجرین و انصار جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں سے مربوط نہیں ہے، ورنہ انتخاب ہو ہی نہیں

سکتا بلکہ ان میں سے کچھ ہی لوگوں پر منحصر ہے یعنی ان لوگوں پر جنہوں نے صدر اسلام میں اپنی بہادری کا ثبوت

پیش کیا ہے اور " بدری (جنگ بدر) " کے نام سے مشہور ہیں اور ان تمام لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے پھر آپ نے

تمام قاریوں کی طرف رخ کر کے کہا: معاویہ تم لوگوں کو دھوکہ نہ دے اور تمہارے دین و جان کو تباہ نہ کر دے۔

وضاحت: پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد حکومت اسلامی کے پھیلنے کی وجہ سے مہاجرین و انصار مختلف اسلامی

ملکوں میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور اس زمانے میں کوئی ایسا وسیلہ نہ تھا جس کے ذریعے سب کو جمع کیا جاتا اور سب سے رائے و مشورہ لیا جاتا، جس کے نتیجے میں حکومت کے نظام میں خلل واقع ہونے کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، اسی وجہ سے کوئی اور صورت نہ تھی مگر یہ کہ مہاجرین و انصار کی اکثریت جو مدینہ میں سکونت پزیر تھی ان

(۱) اس سلسلے میں امام علیہ السلام کی بہت عمدہ تعبیر ہے " انما الناس تبع المهاجرين والانصار وهم شهود المسلمين في البلاد على ولايتهم وأمر دينهم فرضوا بي و بايعوني ولست أستجّل أن ادع ضرب معاوية يحكم على الأمة ويركبهم ويشقّ عصاهم" وقعہ صفین ص ۱۸۹۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۱۶۔

پر اکتفاء کیا جاتا، اصولی طور پر صحیح نہ تھا کہ صرف مہاجرین و انصار کی رائے نافذ ہو، اور اگر تمام لوگوں سے مشورہ لینا ممکن ہوتا تو ان میں اور پیغمبرؐ کے دوسرے صحابہ میں جنہوں نے پیغمبرؐ کو دیکھا تھا اور آپؐ پر ایمان لائے تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی کوئی فرق نہیں تھا، تو پھر کس بنیاد پر خلیفہ کا انتخاب صحابہ کے اختیار میں ہوا اور دوسرے مسلمان اس مسئلہ میں اپنا نظریہ پیش کرنے کا حق نہیں رکھتے؟ اصل میں مسئلہ امامت، امام علیہ السلام کی نظر میں ایک تنصیصی (نصی) مسئلہ تھا یعنی ضروری ہے کہ امام بھی پیغمبرؐ کی طرح خدا کی طرف سے معین ہو لہذا اگر اس مسئلہ میں امام علیہ السلام مہاجرین و انصار یا " اصحاب بدر " کے انتخاب کرنے کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کو قانع کرنے کے لئے اپنی حجت تمام کر رہے تھے، انتخاب کے ذریعے امامت کو اختیار کرنے کے مسئلے کا جب کبھی تجزیہ کیا جائے گا تو ہرگز اس زمانے کے تمام مہاجرین و انصار یا تمام صحابہ یا تمام مسلمان کی رائے کو مورد بحث قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس زمانہ میں لوگوں کے ایک دوسرے سے رابطے کے ذرائع بہت کم تھے اور مہینوں گزر تے تھے جب قاصد ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچتا تھا، اسی وجہ سے کوئی اور صورت نہ تھی مگر یہ کہ اسلام کی بزرگ و عظیم شخصیتوں یا امام علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق " اصحاب بدر " پر اکتفاء کیا جاتا۔

ابتدائی جھڑپیں

ربیع الثانی، جمادی الاول اور جمادی الثانی کے مہینے صرف نمائندے اور پیغامات بھیجنے میں گزر گئے اور اس درمیان بہت سی جھڑپیں ہوئیں ( جن کی تعداد ۸۵ لکھی گئی ہے ) لیکن یہ جھڑپیں جنگ و جدال کا سبب نہیں بنیں، کیونکہ عراق و شام کے قاری اس درمیان میں واسطہ بنے تھے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے تھے (۱)

(۱) وقعہ صفین ص ۱۹۰۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۱۷، ۱۸

ابو امامہ و ابو الدرداء :

یہ دونوں بزرگ صحابی جنگ و جدال کو روکنے کے لئے معاویہ کے پاس گئے اور اس سے کہا: کیوں علی سے جنگ کر رہے ہو؟ معاویہ نے اپنے اسی پرانے جواب کو جو اس نے کئی مرتبہ امام علیہ السلام اور آپ کے نمائندوں کو دیا تھا دہرایا اور دونوں صحابیوں نے امام کے پاس آکر اس کا جواب سنایا، امام علیہ السلام نے اس مرتبہ معاویہ کا جواب دوسرے انداز سے دیا اور وہ یہ کہ اپنے سپاہیوں کے درمیان یہ بات نشر کر دی کہ معاویہ خلیفہ کے قاتلوں کا طلبگار ہے، اچانک ۲۰ ہزار آدمی اسلحے سے لیس ہو کر اور وہ بھی اس طرح کہ ان کی آنکھوں کے علاوہ ان کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا باہر آئے اور سب نے یہ کہا کہ ہم خلیفہ کے قاتل ہیں (۱)۔ جب ان دونوں بوڑھے صحابیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے دونوں گروہوں کو چھوڑ دیا تاکہ جنگ کے عینی شاہد نہ بنیں جب کہ ان لوگوں کے لئے بہتر تھا کہ حق کی تلاش کرتے اور اس کی حمایت کرتے، رجب ۳۶ کا مہینہ آپہنچا اور چھٹ پٹ حملے رک گئے، معاویہ کو اس بات کو خوف تھا کہ قاریان قرآن جو دونوں فوج کے درمیان پڑاؤ ڈالے تھے علی کے لشکر سے نہ مل جائیں، لہذا امام علیہ السلام کی چھاؤنی کو درہم برہم کرنے کے لئے اس نے چال چلی، جس کی مثال



اسلام کی جنگوں کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔

(۱) وقوعہ صفین ص ۱۹۰۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۱۷۰۱۸

معاویہ کی طرف سے بند توڑنے کی افواہ

فرات کے گھاٹ پر قبضہ کرنے کے بعد جنگ کا نقشہ امام کے لشکر کے حق میں ہو گیا اسی طرح عراق و شام کے قاریان قرآن جو امام کی خدمت میں تھے، امام کی منطقی اور عقلی گفتگو سن کر ان میں سے اکثر شامی قاری بھی آپ کی فوج میں داخل ہو گئے اور ان میں سے کچھ نے کنارہ کشی اختیار کر لی، معاویہ نے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کا اخلاق سب پر حاوی ہو جائے، ایک چال چلی تاکہ جنگ کو اپنے فائدے میں بدل دے۔

امام علیہ السلام کی فوج کی چھاؤنی صفین کے ڈھلان پر تھی اور معاویہ کی چھاؤنی بلندی پر تھی، میدان کے کنارے ایک بند تھا جس سے فرات کا پانی روکا گیا تھا اچانک امام کے لشکر میں ایک دوسرے سے یہ خبر پھیل گئی کہ معاویہ چاہتا ہے کہ فرات کے بند کو توڑ کر پانی عراقیوں کی طرف بہادے، اس خبر کو پھیلانے کا طریقہ یہ تھا کہ معاویہ کے حکم سے خفیہ طور پر ایک تیر امام کے لشکر کی طرف پھینکا گیا جس میں ایک خط تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ، یہ خط خدا کے ایک نیک بندے کی طرف سے ہے، میری عرض ہے کہ معاویہ چاہتا ہے کہ فرات پر بنے ہوئے بند کو توڑ دے تاکہ تم لوگوں کو غرق کر دے جتنی جلدی ممکن ہو کوئی فیصلہ کرو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔

یہ خط امام علیہ السلام کے ایک فوجی کے ہاتھ میں پڑا اس سے دوسروں کے ہاتھ میں جاتا رہا یہاں تک کہ پوری چھاؤنی میں یہ خبر پھیل گئی اور شاید سب نے اس خط کو صحیح مان لیا اور جس وقت یہ خبر پھیلی اسی وقت عراق کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے دوسو آدمیوں کو پہاڑا، نیزہ وغیرہ دیکر فرات کے گھاٹ پر بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ واقعاً وہ بند توڑنا چاہتا ہے۔

امام علیہ السلام، معاویہ کے مکر و حیلہ سے واقف تھے لہذا اپنی فوج کے سپہ سالاروں سے فرمایا: معاویہ بند توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ تم لوگوں کو اپنے اس مکر و حیلہ سے مرعوب کرنا چاہتا ہے تاکہ تم لوگ اپنا قبضہ چھوڑ دو اور وہ دوبارہ فرات کو اپنے قبضہ میں لے لے۔

سپہ سالاروں نے کہا: ایسا نہیں ہے بلکہ وہ واقعاً توڑنا چاہتا ہے اور اس وقت کچھ لوگ بند کو توڑنے میں مصروف ہیں تاکہ پانی کا رخ ہم لوگوں کی طرف کر دیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: اے عراقیو، میری مخالفت نہ کرو۔

سپہ سالاروں نے کہا: خدا کی قسم ہم یہاں سے کوچ کریں گے اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو رک جائیں اس وقت سب چھاؤنی چھوڑ کر چلے گئے اور ایک بلند جگہ پر پناہ لی، امام علیہ السلام آخری فرد تھے جنہوں نے مجبوراً چھاؤنی چھوڑی، لیکن زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ امام علیہ السلام کی بات صحیح ثابت ہوئی معاویہ نے بجلی کی تیز رفتاری سے امام علیہ السلام کی چھاؤنی پر قبضہ کر لیا اور عراقی سپاہیوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ (۱)

(۱) وقوعہ صفین ص ۱۹۱۔ ۱۹۰

مخالفت کی تلافی

امام علیہ السلام نے اپنے مخالف سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور ان لوگوں کی ملامت کی۔ اشعث بن قیس نے اپنی مخالفت کی عذر خواہی کی اور کہا کہ اس شکست کی تلافی کریں گے چنانچہ مالک اشتر کی مدد سے شدید جنگ کر کے معاویہ کی فوج کو قبضہ کی ہوئی سرزمین سے تین فرسخ دور کر دیا اور اس طرح اپنی مخالفت کے ذریعے ہوئی شکست کی تلافی کردی اور میدان پھر امام علیہ السلام کے قبضے میں آگیا اور پھر فرات کے پانی پر امام

علیہ السلام کے سپاہیوں کا قبضہ ہو گیا۔

مگر اس وقت امام علیہ السلام نے اپنی کرامت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ہی معاویہ کے پاس پیغام بھیجا : " انا لانکافیک بصنعیک ، هلّم الی الماء فنحن وأنتم فیہ سوائے " میں تمہارے جیسا کام ہرگز نہیں کر سکتا ، اس پانی کی طرف آؤ ہم اور تم اس آسمانی نعمت میں برابر ہیں ۔ اس وقت اپنی فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ہمارا مقصد پانی پر قبضہ کرنے سے زیادہ بزرگ ہے ۔ (۱)

ماہ رجب ۳۶ ہجری سے ذی الحجہ تک جنگی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا اور دونوں فوجوں نے لاشوں کو ایک دوسرے کے حوالے اس خوف سے نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہوا کہ فوج حملہ کر بیٹھے لیکن ذی الحجہ میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ، امام علیہ السلام نے اس مہینے اپنے سپہ سالاروں مثلاً مالک اشتر ، حجر بن عدی ، شیبث تمیمی ، خالد دوسی ، زیاد بن نصر ، زیاد بن جعفر ، سعید ہمدانی ، معقل بن قیس اور قیس بن سعد کو ان کے دستوں کے ہمراہ میدان میں روانہ کیا (۲) تمام سپہ سالاروں کے درمیان مالک اشتر سب سے نمایاں نظر آ رہے تھے کبھی کبھی دن میں دو حملے ہوتے اور دونوں طرف کے لوگ مارے جاتے ، جس وقت محرم ۳۷ ہجری کا چاند فلک پر نمودار ہوا دونوں فوجوں نے کہا کہ محرم الحرام کے احترام میں جنگ بند ہونا چاہیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے نمائندے گفتگو کے لئے آئے لگے۔ (۳)

(۱) وقوعہ صفین ص ۱۶۵

(۲) تاریخ طبری ج ۳ جزئ ۵ ص ۲۴۳۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۶

(۳) وقوعہ صفین ص ۱۶۵

۳۷ ہجری کے حادثات

محرم الحرام ۳۷ ہجری کا مہینہ ، پیغام اور نمائندے بھیجنے کا مہینہ تھا۔ امام علیہ السلام نے اس مہینے میں اہم شخصیتوں مثلاً عدی بن حاتم ، شیبث بن ربیع ، یزید بن قیس اور زیاد بن حصہ کو معاویہ کے پاس بھیجا تاکہ شاید اس مدت میں اسے دوبارہ جنگ کرنے کے ارادے سے روک سکیں ، معاویہ اور ان لوگوں کے درمیان ہوئی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے:

عدی بن حاتم : ہم اس لئے آئے ہیں کہ تمہیں ایسی چیز کی دعوت دیں جس کے ذریعے سے خداوند عالم ہماری امت کو متحد کر دے گا اور مسلمانوں کا خون بہنے سے بچ جائے گا اور ہم تجھے اسلام کے فاضل اور اچھے فرد کی طرف دعوت دیتے ہیں ، لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور خداوند عالم نے اس کی ہدایت و راہنمائی کی اور کسی نے بھی اس کی بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا مگر صرف تم نے اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ہم لوگوں کی تم سے التجا ہے کہ اس نافرمانی اور طغیانی سے باز آ جا، اس سے پہلے کہ جنگ جمل جیسے حالات میں مبتلا ہو۔

معاویہ : تم لوگ مجھے دھمکی دینے اور مرعوب کرنے آئے ہو نہ کہ میری اصلاح کرنے! جو تم چاہتے ہو وہ بہت دور ہے مینحرب کا بیٹا ہوں اور کبھی بھی خالی مشکوں کو پیٹنے سے نہیں ڈرتا ( عرب اونٹوں کو بھگانے کے لئے خالی مشکوں کو پیٹتے تھے) خدا کی قسم! تو ان لوگوں میں سے ہے جس نے عثمان کے قتل کرنے پر لوگوں کو ابھارا تھا اور تو خود ان کے قاتلوں میں سے ہے ، افسوس اے عدی، میں نے اُسے مضبوط ہاتھوں سے پکڑا ہے۔

شیبث بن ربیع و زیاد بن حصہ: ہم صلح کرنے کے لئے تمہارے پاس آئے ہیں اور تو (ادب کو بالائے طاق رکھ کر) ہم لوگوں کے لئے قصہ بیان کر رہا ہے بیہودہ باتوں کو چھوڑ دے اور ایسی باتیں کر جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لئے مفید ہو۔

یزید بن قیس: ہم پیغام پہنچانے اور پیغام لے جانے کے لئے آئے ہیں اور ہرگز موعظہ و نصیحت اور دلیل اور ایسے مسائل جو اتحاد و اتفاق کے لئے سرمایہ ہیں چھوڑ نہیں سکتے، تم ہمارے امام کو پہچانتے ہو اور مسلمان بھی انہیں پہچانتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم و برتر بینا اور یہ بات ہرگز تم سے پوشیدہ نہیں ہے اور متقی و پرہیز گار اور بافضیلت لوگ تجھے علی کے برابر شمار نہیں کرتے ، خدا سے خوف کر اور علی کی مخالفت نہ کر، کہ خدا کی قسم کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو علی سے زیادہ متقی و پرہیز گار ہو اور علی جیسا تمام فضیلتوں کا مظہر ہو۔

معاویہ : تم لوگوں نے مجھے دو چیزوں کی دعوت دی ہے ، علی کی اطاعت اور اتحاد ، میں دوسرے کو قبول کروں گا لیکن ہرگز میں علی کی اطاعت نہیں کر سکتا ، تمہارے رببر و حاکم نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا اور امت کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا اور خلیفہ کے قاتلوں کو پناہ دیا ہے ، اگر ان کا کہنا ہے کہ میں نے خلیفہ کو قتل نہیں کیا ہے تو میں بھی ان کی اس

بات کو رد نہیں کروں گا لیکن کیا وہ انکار کر سکتے ہیں کہ خلیفہ کے قاتل ان کے دوست نہیں ہیں؟ وہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ میں ان سے بدلہ لے سکوں اس وقت میں اطاعت اور وحدت کے بارے میں تمہارا جواب دوں گا۔ (۱)

(۱) تاریخ طبری ج ۳ جزئ ۵ ص ۲۰۳۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۷۔ واقعہ صفین ص ۱۹۸، ۱۹۶۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۲۱، ۲۲

معاویہ کے جواب کی وضاحت

معاویہ اپنے احتجاجات میں ایک نظریہ پر قائم نہیں تھا، حالات کو دیکھ کر باتیں کرتا تھا کبھی امام علیہ السلام پر قتل کا الزام رکھتا اور کسی صورت میں بھی اس سے انکار نہیں کرتا لیکن اس گفتگو میں حضرت کو خون عثمان سے بری رکھا مگر یہی مسلسل کہتا رہا کہ امام نے خلیفہ کے قاتلوں کو اپنے پاس رکھا ہے جب کہ وہ اس طرح کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا کیونکہ نہ تو وہ خلیفہ کا وارث تھا اور نہ مسلمانوں کا حاکم، قاتلوں کو بار بار اپنے اختیار میں لینے کا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی فوج کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، وہ جانتا تھا کہ عراق و مصر و حجاز کے انقلابی لوگ خلیفہ کے حاکموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکے تھے اور عثمان کے قتل کے بعد بہت زیادہ اصرار کر کے امام کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ یہی لوگ خلیفہ کے قاتل ہیں (چاہے ان لوگوں نے خود قتل کیا ہے یا کسی کے ذریعے قتل کرایا ہے یا تبلیغ اور اپنی مرضی کے اظہار اور خوشحالی کے لئے اس قتل میں شامل رہے ہیں) ایسے عظیم گروہ کا سپرد کرنا پہلے تو ممکن نہ تھا بلکہ صرف اور صرف نظام حکومت کو ختم کرنے یا شورش برپا کرنے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

معاویہ نے اس گفتگو میں خلیفہ کے قاتلوں کی سپردگی کو مرکزی حکومت کی پیروی کرنے کے لئے کافی سمجھا، جب کہ دوسری جگہوں پر اس نے بہت اصرار کیا کہ ضروری ہے کہ حکومت مہاجرین و انصار کی شوریٰ جس کے افراد مختلف شہروں میں رہتے ہیں ان کی رائے و مشورہ سے طے ہو، اس طرح کی ضدونقیض باتیں کرنا معاویہ کے ابن الوقت ہونے کی نشاندہی ہے۔

اب ہم معاویہ اور علی علیہ السلام کے نمائندوں کے درمیان ہوئی گفتگو کے سلسلہ میں بیان کر رہے ہیں۔ شہب بن ربعی: اے معاویہ، تجھے خدا کی قسم، اگر عمار یاسر کو تیرے حوالے کر دیں تو کیا تو انہیں قتل کر دے گا؟ (عمار جس کے بارے میں پیغمبر اسلام (ص) نے فرمایا ہے، اسے ظالم گروہ قتل کرے گا) معاویہ: خدا کی قسم، اگر علی سمیہ کے بیٹے کو میرے حوالے کر دیں تو میں عثمان کے غلام نائل کے بدلے انہیں قتل کر دوں گا۔

شہب بن ربعی: آسمان کے خالق کی قسم، تو نے عدالت سے کام نہ لیا اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تم ہرگز سمیہ کے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ سروتن میں جدائی ہو جائے اور زمین اپنی پوری وسعت و کشادگی کے ساتھ تجھ پر تنگ ہو جائے۔

معاویہ: اگر زمین مجھ پر تنگ ہوگی تو مجھ سے زیادہ تجھ پر تنگ ہوگی۔

یہاں امام علیہ السلام کے نمائندوں کی گفتگو ختم ہو گئی اور بغیر کسی نتیجے کے یا ابوسفیان کے بیٹے کی فکر و تدبیر پر کوئی اثر ہوتا نہ تھا۔ معاویہ نے ان لوگوں میں سے زیاد بن حفصہ کو بلایا اور اس سے دوسرے انداز سے گفتگو کرنا چاہی وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے نظریہ اور فکر کو تبدیل کر دے گا کیونکہ ان میں سے ہر ایک امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے بہت سے لوگوں کا نمائندہ تھا معاویہ نے اس سے کہا: علی نے قطع رحم کیا ہے اور ہمارے امام کو قتل کر ڈالا اور اس کے قاتلوں کو پناہ دیا ہے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے عزیزوں اور قبیلے والوں کے ساتھ میری مدد کرو اور مینتم سے عہد کرتا ہوں کہ جنگ فتح کرنے کے بعد ان دو شہروں (کوفہ اور بصرہ) میں سے جس شہر کی حکومت چاہے گا تجھے دے دوں گا۔

زیاد بن حفصہ نے کہا: میں اس دلیل کی بنیاد پر جو خدا کی طرف سے میرے پاس ہے اور وہ نعمتیں جو مجھے نصیب ہوئی ہیں میں کبھی مجرموں کا محافظ و مددگار نہیں بن سکتا، یہ جملہ جو کہ موسیٰ بن عمران (۱) کی گفتگو کا سرچشمہ ہے کہا اور معاویہ کو چھوڑ کر (امام کی خدمت میں) واپس آ گیا۔

اس بزم میں عمرو عاص بھی موجود تھا معاویہ نے اس بوڑھے سیاسی سے کہا ہم نے ان میں سے جس سے بھی گفتگو کی سب نے بہترین جواب دیا سب کا دل مثل ایک آدمی کے ہے اور سب کی منطق ایک طرح کی ہے۔ (۲)

(۱) زیاد کے کلام کی عبارت یہ ہے " اما بعد فانی علیٰ بیئۃ من ربیٰ وبما أنعم علیٰ فن اكون ظهيراً للمجرمين".  
(۲) تاریخ طبری ج ۳ جزئ ۵ ص ۳. کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۸۴. وقعہ صفین ص ۱۹۹. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۲۲.

معاویہ کے نمائندے امام علیہ السلام کی خدمت میں

امام علیہ السلام کا بزرگ شخصیتوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ معاویہ اپنے ارادے کو بدل دے اور یہ مشکل گفتگو کے ذریعہ حل ہو جائے جب کہ معاویہ کا مقصد یہ تھا کہ جنگ میں تاخیر اور امام کے لشکر میں اختلاف اور انتشار ہو جائے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ علی (علیہ السلام) ہرگز اس جیسے لوگوں کے سامنے اپنے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔

اس مرتبہ معاویہ نے تین آدمیوں " حبیب، شربیل اور معن کو امام کے پاس بھیجا اور ان تینوں کی منطق وہی معاویہ کی منطق تھی، گویا یہ لوگ معاویہ کی زبان تھے جو اس کی باتوں کو بغیر کسی کمی و زیادتی کے بیان کر رہے تھے امام علیہ السلام اور ان تینوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ درج ذیل ہے۔

حبیب: عثمان ہدایت یافتہ خلیفہ تھا اور آپ نے اس پر زیادتی کی اور اسے قتل کر دیا اب اس وقت اس کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں اور اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا ہے تو حکومت چھوڑ دیجئے اور اسے شوریٰ کے حوالے کر دیجئے تاکہ لوگ جس کو چاہیں منتخب کریں اور وہ حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے۔

حبیب کی گفتگو بے اساس تھی، سب سے پہلے بغیر کسی گواہ کے امام علیہ السلام پر قتل کا الزام لگایا اور اپنے کو خلیفہ کے حق کا دفاع کرنے والا ثابت کیا، اور پھر امام علیہ السلام کے انکار کو قبول کر رہا ہے اور ان سے چاہتا ہے کہ وہ حکومت کی ذمہ داری چھوڑ دیں! یعنی اس پوری گفتگو کا مقصد اس کا آخری جملہ تھا لہذا امام علیہ السلام نے سخت انداز میں اس کو جواب دیا: " وما أنت لآم لک والولاية والعزل والدخول فی هذا الأمر فأنک لست هناک ولأ بأهل لذلک" تو حکومت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والا کون ہوتا ہے، جب کہ اس معاملہ میں دخل دینے کا تو اہل نہیں ہے۔

حبیب: خدا کی قسم! جن حالات میں اپنے آپ کو دیکھا پسند نہیں کرتے ان میں اپنے کو ضرور دیکھیں گے۔

امام علیہ السلام: تیری کیا حقیقت ہے! جا جتے بھی سوار اور پیادہ ہیں لا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔

شریبیل: میں بھی وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو حبیب نے کہا ہے، کیا وہ جواب جو آپ نے اس کو دیا اس کے علاوہ کوئی جواب ہے جو مجھے دیں گے؟

امام علیہ السلام: کیوں نہیں، تمہارے لئے اور تمہارے دوست کے لئے دوسرا جواب بھی میرے پاس ہے، خداوند عالم نے پیغمبر کو چنا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے نجات دی اور پھر انہیں اپنی بارگاہ میں بلالیا جب کہ آپ نے اپنی رسالت کو انجام دیا پھر لوگوں نے ابوبکر کو ان کی جانشینی کے لئے منتخب کیا اور ابوبکر نے بھی عمر کو اپنا جانشین بنایا۔ پھر عثمان نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی اور لوگ ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دیئے تھے ان سے ناراض ہوئے اور اس کی طرف حملہ آور ہوئے اور انہیں قتل کر ڈالا، پھر میرے پاس آئے جب کہ میں ان لوگوں کے کاموں سے دور تھا، ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ میرے ہاتھوں پر بیعت کریں، میں نے شروع میں قبول نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے حد سے زیادہ اصرار کیا اور کہا امت آپ کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہے اور ہمیں خوف ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں پر بیعت نہ کریں تو دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، تب میں نے ان لوگوں کی بیعت قبول کر لی، طلحہ وزبیر نے بھی میرے ہاتھوں پر بیعت کی لیکن بعد میں بیعت توڑ دی، پھر معاویہ میری مخالفت میں اٹھا، وہ ایسا شخص ہے جسے نہ دین میں کوئی سبقت ہے اور نہ صحیح اسلام ہی میں کوئی درجہ حاصل ہے وہ آزاد کردہ اور آزاد کردا کا بیٹا ہے وہ بنی امیہ کے گروہ سے ہے وہ اور اس کے باپ ہمیشہ خدا ورسول کے دشمن رہے ہیں اور مجبوراً اسلام قبول کیا ہے مجھے تم پر تعجب ہے کہ تم اس کے لئے فوج اکھٹا کر رہے ہو اور اس کی پیروی کر رہے ہو اور پیغمبرؐ کے خاندان

کو چھوڑ دیا ہے اور اہل بیت رسول کے ہوتے ہوئے تم نے دوسروں کی محبت اپنے دل میں بسالی ہے۔ میں تمہیں خدا کی کتاب اور رسول خدا (ص) کی سنت اور باطل مردہ اور دین کی تمام نشانیوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور اپنے اور تمام مومن مرد، عورت کے لئے طلب مغفرت کرتا ہوں (۱)۔

اگر شریحیل (تمیم کا زہد نما) خواہشات نفسانی کا اسیر نہ ہوتا اور اسلام کی تاریخ سے کچھ آگاہی رکھتا تو ضرور امام علیہ السلام کی باتوں کو قبول کرتا لیکن چونکہ امام علیہ السلام کی عقلی باتوں کے سامنے اس نے اپنے کو عاجز و ناتواں سمجھا اور غلط فکر رکھنے والوں کی طرح امام کے قول کو دوسرے طریقے سے سوچا لہذا کہنے لگا: عثمان کے قتل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ گواہی دیں گے کہ وہ مظلوم مارا گیا ہے؟ اس طرح کا سوال ایک پیغام لانے والے کی ذمہ داری سے خارج تھا اور جلسہ کو درہم برہم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا ہدف نہ تھا، اس واقعے کے فیصلہ کے لئے عثمان کے قتل کی علتوں کی تحقیق و جستجو کی ضرورت ہے لہذا امام علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کی اور وہ لوگ بھی اسی بہانہ سے امام کے پاس سے چلے گئے اور کہا: جو بھی عثمان کی مظلومیت کی گواہی نہیں دے گا ہم لوگ اس سے بیزار ہیں۔

امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس آیت کا مصداق قرار دیا۔  
انک لاثمیع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مذ برین ومآنت بہادی العمی عن ضلالتہم ان تسمع الامن یومن بأیاتنا فہم مسلمون (نمل ۸۰، ۸۱)

"بے شک نہ تم مردوں کو (اپنی بات) سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہو (خاص کر) جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاسکتے ہو تم تو بس ان ہی لوگوں کو (اپنی بات) سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہی لوگ تو ماننے والے بھی ہیں۔"

(۱) تاریخ طبری ج ۳ جزئی ۶ ص ۴۰۴، ۴۰۵۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۸۱، ۸۲۔ وقعہ صفین ص ۲۰۲، ۲۰۳۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۲۴، ۲۵

فروع و لایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

سترہویں فصل

جنگ صفین کا انجام

امام علیہ السلام مظہر صبر و استقامت تھے، آپ ابوسفیان کے بیٹے کی مخالفت کے مقابلے میں صلح کی ہر کوشش کی لیکن معاویہ کو ریاست طلبی نے اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ نمائندوں، نصیحت کرنے والوں کے جانے کے بعد بھی بجائے اس کے کہ اس میں لوچ پیدا ہوتا زیادہ سخت ہو گیا، آخر کار امام علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مسلسل جنگ کریں اور اس سے زیادہ اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں اور اس کینسر کے جراثیم کو اسلامی معاشرہ سے ختم کریں۔ اسلامی معاشرے میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت کسی گروہ کے ساتھ عہد (بغیر کسی مزاحمت کے) کر لے تو یہ عہد و پیمانہ محترم ہوتا ہے مگر یہ کہ حاکم اسلامی کسی وجہ سے یہ احساس کر لے کہ ہمارا مقابل عہد و پیمانہ توڑ دے گا اور خیانت کرے گا تو اس صورت میں وہ پہل کر سکتا ہے اور اپنے کئے ہوئے عہد و پیمانہ کو باطل قرار دے سکتا ہے اور جنگ کا آغاز کر سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، ارشاد قدرت ہے: "وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ" (انفال ۵۸) "اور اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت (عہد شکنی) کا خوف ہو تو تم بھی برابر ان کا عہد ان ہی کی طرف سے پھینک مارو (عہد شکن کے ساتھ عہد شکنی کرو) خدا پرگز دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔"

اسلام کا یہ قانون، اصول اخلاقی اور عدالت کی رعایت کی حکایت کرتا ہے اور اسلام تو یہاں تک اجازت نہیں دیتا کہ بغیر ہتائے ہوئے دشمن پر حملہ کیا جائے، اگرچہ اس کی رفتار و گفتار سے خیانت کی علامتیں ظاہر ہوں۔

امام علیہ السلام نے صفین میں اس سے بھی زیادہ رعایتیں کیں، جب کہ آپ کے اور معاویہ کے درمیان جنگ نہ کرنے کا

عہد و پیمانہ نہ تھا بلکہ صرف ماہِ محرم کا احترام تھا اور یہی سبب بنا کہ طرفین نے جنگ سے ہاتھ روک لیا اور صفین کا میدان چند دنوں تک سکون میں رہا اس کے باوجود صرف اس لئے کہ شام کے لوگ کہیں یہ نہ سوچیں کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر جنگ شروع نہیں ہو گی ، آپ نے مرثد بن حارث کو حکم دیا کہ محرم کے آخری دن سورج ڈوبتے وقت شام کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ اعلان کرے :

" اے اہل شام ! امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں مہلت دی اور جنگ کا حکم دینے میں صبر سے کام لیا تاکہ حق کی طرف واپس آجاؤ اور تمہارے سامنے قرآن مجید سے دلیل پیش کی اور تم لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی لیکن تم لوگوں نے سرکشی سے دوری اختیار نہیں کی اور حق کو قبول نہیں کیا ایسی صورت میں ہم نے ہر طرح کے امن و امان کو قطع کر دیا ہے بے شک خداوند عالم خائنوں کو دوست نہیں رکھتا"۔ (۱)

مرثد کے ذریعہ امام علیہ السلام کا پیغام معاویہ کی فوج میں گونج گیا اور دونوں طرف کی فوج جوش میں آگئی اور دونوں گروہ اپنی اپنی فوجیں سنوارنے لگے اور سپہ سالار معین ہونے لگے امام علیہ السلام نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا: سواروں پر عمار یاسر کو اور تمام پیادوں پر عبداللہ بن بدیل خزاعی کو افسر مقرر کیا اور پورا جنگ ہاشم بن عتبہ کے سپرد کیا پھر امام علیہ السلام نے فوج کو میمنہ اور میسرہ اور قلب لشکر میں تقسیم کیا یمنیوں کو فوج کی داہنی طرف اور ربیعہ قبیلے کے مختلف گروہ کو فوج کے بائیں طرف اور قبیلہ مُضَر کے بہادروں کو جو اکثر کوفہ اور بصرہ کے تھے قلب لشکر میں معین کیا اور ان تینوں کو ایک ایک کر کے سواروں اور پیادوں میں تقسیم کیا، میمنہ اور میسرہ کے سواروں کے لئے اشعث بن قیس اور عبداللہ بن عباس کو ، اور پیادہ میمنہ اور میسرہ کے لئے سلیمان بن صُرد اور حارث بن مرہ کو معین فرمایا اور اس وقت ہر قبیلے کے پرچم کو ان کے سرداروں کے سپرد کیا، ابن مزاحم نے اپنی کتاب وقعہ صفین میں ۲۶ پرچم کا ذکر کیا ہے جو ہر قبیلہ کا تھا کہ تمام پرچم اٹھانے والوں اور ان کے قبیلے کا نام اگر تحریر کیا جائے تو بحث طولانی ہو جائے گی لہذا اس کے ذکر سے سے پرہیز کر رہے ہیں (۲) معاویہ نے بھی اسی ترتیب سے اپنی فوج کو منظم کیا اور سپہ سالاروں اور پرچم اٹھانے والوں کو معین

(۱) وقعہ صفین ص ۲۰۳، ۲۰۲، تاریخ طبری ج ۳ جز ۶ ص ۵۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۹۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۲۵۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۷ (تھوڑے فرق کے ساتھ)  
 (۲) وقعہ صفین ص ۲۰۵۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۲۴۰، ۲۶

کیا صبح جب سورج افق پر نظر آیا اور جنگ کا ہونا قطعی ہو گیا تو امام علیہ السلام اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے فرمایا: "لا تقاتلوہم حتیٰ یدؤوکم ، فانکم بحمد اللہ علی حجة و ترککم ایامہم حتیٰ یدؤوکم حجة آخری لکم علیہم فاذا قاتلتموہم فہزمہم فلاتقتلوا مدبراً ولا تجہروا علی جریح ولا تکشفوا عورة ولا تمثلوا بقتیل، فاذا وصلتہم الی رحال قوم فلاتہتکوا ستراً ولا تدخلوا داراً الا باذنہ ولا تأخذوا شیئاً من اموالہم الا ما وجدتم فی عسکرہم ولا تہبجوا امرأۃ باذنی وان شتمن أعراضکم وتنا ولن امرأئکم وصلحائکم فانہن ضعاف القوی والآنفس والعقول ولقد کنا لنؤمر بالکف عنہن وانہن لمشرکات وان کان الرجل لیتناول المرأۃ بالہراوة والحدید فیعیر بہا عقبہ من بعدہ" (۱)

" جب تک وہ جنگ شروع نہ کریں تم ان سے نہ لڑنا ، خدا کا شکر کہ اس جنگ کے لئے تمہارے پاس حجت و دلیل ہے اور ان کو پہل کرنے کے لئے چھوڑ دینا ان پر دوسری حجت ہوگی اور جب ان لوگوں کو شکست دینا تو جو لوگ جنگ سے منہ موڑ کر بھاگیں ان کو قتل نہ کرنا، زخمیوں کو قتل نہ کرنا اور دشمن کو برہنہ نہ کرنا، ان کی لاشوں کو مثلہ (ناک کان وغیرہ کاٹنا) نہ کرنا اور جب ان کی چھاؤنی اور قیام کی جگہ پہنچنا تو ان کی پردہ دری نہ کرنا اور کسی کے گھر میں بغیر میری اجازت کے داخل نہ ہونا اور دشمنوں کے مال میں سے کوئی چیز نہ لینا ، مگر جو چیز تمہیں میدان جنگ میں ملے، عورتوں کو اذیت نہ دینا چاہیے تمہیں جتنا بھی برا بھلا کہیں اور تمہارے افسروں کو گالیوں دیں کیونکہ وہ عقل و قدرت کے اعتبار سے کمزور ہیں ، وہ مشرک تھیں تو ہمیں حکم تھا کہ ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں اور جاہلیت کے زمانے میں اگر کوئی شخص کسی عورت پر عصا یا لوہے سے حملہ کرتا تھا تو یہ ایک ایسی توہین تھی کہ بعد میں اس کی اولادوں کی مذمت کی جاتی تھی"۔

امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ "جمل" جنگ "صفین" اور جنگ "نہروان" میں اپنے سپاہیوں کو

(۱) وقعہ صفین ص ۲۰۳، ۲۰۴۔ تاریخ طبری ج ۳ جز ۶ ص ۶۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۹۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۲۶

درج ذیل چیزوں کی سفارش کی: " عباد اللہ اتقوا اللہ عزوجل ، غصوا الابصار وأخفضوا الاصوات وأقلوا الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة والمبارزة والمعانقة والمكاء مة واثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تغفلون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأصبروا ان الله مع الصابرين" (۱)

" اے خدا کے بندو ، خدا کے قوانین کی مخالفت کرنے سے بچو ، اپنی آنکھوں کو نیچے کرو ، اور اپنی آوازوں کو کم کرو اور کم سخن بنو ، اور اپنے کو جنگ اور دشمن سے دفاع اور اس سے مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ رکھو ثابت قدم اور مستحکم رہو اور خدا کا ذکر کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ ، اختلاف اور تفرقہ سے پرہیز کرو تاکہ سستی تم کو نہ گھیرے اور تمہاری عظمت و جلالت لوگوں کے درمیان سے ختم نہ ہو صبر کرو کیونکہ خداوند عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔"

جی ہاں، امام علیہ السلام کی گفتگو ختم ہوئی اور آپ اپنے گیارہ فوجی سرداروں کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے امام علیہ السلام کی فوج کی صفیں اس طرح سے ترتیب دی گئی تھیں کہ قبیلہ کے لوگ جس میں سے کچھ عراق اور کچھ شام کے رہنے والے تھے میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے ، ابتداء میں جنگ کی آگ زیادہ شعلہ ور نہ تھی اور طرفین کو صلح اور جنگ بندی کی امید تھی ، سپاہیوں نے ظہر تک جنگ کی پھر حملہ کرنا چھوڑ دیا لیکن پھر جنگ نے شدت پکڑ لی اور صبح سے رات تک بلکہ رات کے کچھ حصہ تک جنگ جاری رہتی (۲)۔

فوجی صف بندی

۱ / صفر کو امام علیہ السلام کے لشکر سے مالک اشتر اور معاویہ کے لشکر سے حبیب بن مسلمہ اپنے دستے لے کر میدان جنگ میں آئے ، دن کے کچھ حصوں میں جنگ ہوئی دونوں طرف کے لوگ مارے گئے پھر جنگ رک گئی اور دونوں اپنی اپنی قیامگاہ میں واپس آگئے (۳)۔

(۱) وقوعہ صفین ص ۲۰۳، ۲۰۴ تاریخ طبری ج ۳، جزئی ۶ ص ۶۱۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۹۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۲۶ (۲)؛ (۳) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۳۰ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۸، ۳۸۷۔ وقوعہ صفین ص ۲۱۴، ۲۱۵۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۲۷، ۳۰

دوسرے دن امام کے لشکر سے ہاشم بن عتبہ سواروں اور پیادوں کے ساتھ اور معاویہ کے لشکر سے ابو الاعور سلی اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ میدان میں آئے اور سواروں نے سواروں سے اور پیادوں نے پیادوں سے جنگ کی۔ (۱) تیسرے دن امام کے لشکر سے عمار اور معاویہ کے لشکر سے عمرو عاص اپنے اپنے دستوں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے اور دونوں کے درمیان بہت زبردست جنگ ہوئی۔ (۲)

عمار نے شام کے لشکر کے سامنے جاکر بلند آواز سے کہا: کیا تم اس شخص کو پہچاننا چاہتے ہو جس نے خدا اور پیغمبر (ص) سے دشمنی اور عداوت کی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور مشرکوں کی پشت پناہی کی ہے؟ جب کہ خدا نے چاہا کہ اپنے دین کو ظاہر و آشکار کرے اور اپنے پیغمبرؐ کی مدد کرے تو اس نے فوراً ڈر اور خوف کی وجہ سے (نہ اپنی مرضی و خواہش سے) اپنے کو مسلمان ظاہر کیا اور جب پیغمبر اسلام (ص) اس دنیا سے چلے گئے تو وہ مسلمانوں کا دشمن اور ظالموں کا دوست ہو گیا۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شخص وہی معاویہ ہے اس پر لعنت بھیجو اور اسکے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ وہ ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ خدا کے نور کو خاموش کر دے اور خدا کے دشمنوں کی مدد کرے۔ (۳)

ایک شخص نے عمار سے کہا کہ رسول اسلام (ص) نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جنگ کرو تاکہ لوگ اسلام قبول کریں اور جب لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے۔

عمار نے اس کلام کی تصدیق کی اور کہا بنی امیہ نے شروع سے ہی اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ صرف اسلام لانے کا ڈھونگ کر رہے تھے، اور اپنے اندر کفر کو چھپانے تھے یہاں تک کہ ان کے کفر نے اپنا دوست و احباب بنالیا۔ (۴)

عمار نے اتنا کہنے کے بعد اپنے سواروں کے سپہ سالار کو حکم دیا کہ شامیوں کے سوار و نیز حملہ کرے اس نے حملہ کرنے کا حکم دیا لیکن شامی ان کے مقابلے میں جمے رہے اس وقت پیادوں کے افسر کو حملہ کرنے



(۱)، (۲)، (۳) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۳۰. مروج الذب ج ۲ ص ۳۸۸، ۳۸۷. وقعہ صفین ص ۲۱۵، ۲۱۴. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۳۰، ۳۲۷. (۴) وقعہ صفین ص ۲۱۶، ۲۱۵، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۳۱. تاریخ طبری جزء ۶ ص ۷

کا حکم دیا چنانچہ اس نے حملہ کرنے کا دستور دیا اور امام علیہ السلام کے سپاہیوں نے ایک ہی حملے میں دشمن کی صفوں کو تہ بالا کر دیا عمرو عاص اپنی جگہ چھوڑ کر صفوں میں روپوش ہو گیا۔ عمرو عاص، نے ایسا حربہ استعمال کیا جو عمار استعمال کر چکے تھے، عمار نے بنی امیہ کی فوج اور ان کے سرداروں کو کافر بنا کر دشمن کی صف میں ہلچل مچا دی تھی، اسی کے مقابلے میں عمرو عاص نے بھی ایک کالا کپڑا نیزے پر بلند کیا اور کہا کہ یہ وہی پرچم ہے جو پیغمبر اسلام نے ایک دن اس کے حوالے کیا تھا، جسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں اور سرگوشیاں شروع ہو گئیں، امام علیہ السلام فتنے کو روکنے کے لئے اپنے دوستوں کے پاس گئے اور کہا! کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس پرچم کی کیا کہانی ہے؟ پیغمبر اسلام ایک دن اس پرچم کو باہر لائے اور فوج اسلام کی طرف مخاطب ہو کر کہا: کون ہے جو اس کو اٹھائے اور اس کا حق ادا کرے؟ عمرو عاص نے کہا: کس طرح اس کا حق ادا ہوگا؟ پیغمبر اسلام (ص) نے فرمایا: مسلمانوں سے جنگ نہ کرے اور کافر کے مقابلے سے نہ بھاگے مگر اس کا اس نے یوں حق ادا کیا کہ کافروں سے بھاگا اور آج مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے بیچ کو شگافتہ کیا اور انسان کو پیدا کیا اس گروہ نے صدق دل سے اسلام قبول نہیں کیا ہے بلکہ صرف اسلام کا ظاہر کیا ہے اور اپنے کفر کو چھپالیا ہے اور جب ان کے دوست و احباب مل گئے تو اپنے کفر کو ظاہر کر دیا اور اپنی دشمنی پر واپس آگئے۔ اور صرف نماز کو ظاہراً ترک نہیں کیا (۱) چوتھے دن محمد حنیفہ اپنے لشکر کے ساتھ میدان میں آئے اور معاویہ کی فوج سے عبید اللہ بن عمر اپنی فوج لے کر میدان میں آیا جنگ کے شعلے بھڑکے اور پھر دونوں فوجوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی (۲) عبید اللہ نے محمد حنیفہ کے پاس پیغام بھیج دیا کہ اب ہم دونوں جنگ کرنے کے لئے میدان میں آئیں محمد بن حنیفہ میدان کی طرف بڑھے تاکہ ان کے ایک ایک فرد سے جنگ کریں، امام علیہ السلام کو اس کی خبر ملی اور فوراً گھوڑے کو اپنے بیٹھے کی طرف دوڑایا اور ان کو جنگ کرنے سے منع کیا اور پھر خود عبید اللہ کی طرف بڑھے اور کہاتو آگے بڑھ میں تم سے جنگ کروں گا، عبید اللہ یہ سن کر کانپنے لگا اور کہا: مجھے تمہارے ساتھ جنگ

(۱) وقعہ صفین ص ۲۱۶، ۲۱۵. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۴ ص ۳۱. تاریخ طبری ج ۳ جزئی ۶ ص ۷  
(۲) مروج الذب ج ۲ ص ۳۸۸

کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اپنے گھوڑے کو موڑ کر میدان جنگ سے چلا گیا اس وقت دونوں فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور اپنی اپنی چھاؤنی میں واپس آگئیں۔ (۱) ماہ صفر ۳۸ھ کی پانچویں تاریخ اتوار کے دن دو دستے جن میں عراقیوں کی سرداری ابن عباس اور شامیوں کی سرداری ولید بن عقبہ کر رہے تھے میدان جنگ میں آئے اور دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی، ظہر کے وقت دونوں نے جنگ روک دی اور اپنے اپنے لشکر کے پاس واپس آگئے، ولید بن عقبہ نے جب عبدالملک کی اولاد کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو: ابن عباس نے اسے جنگ کے لئے بلایا لیکن اس نے جنگ کرنے سے گریز کیا اور میدان چھوڑ کر چلا گیا۔ (۲) فوج شام کے افراد اسلامی تاریخ اور واقعات سے بے بہرہ تھے ورنہ ان کی فوج کی سپہ سالاری ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ ہوتی جس کو قرآن نے 'فاسق' اور نابکار سے یاد کیا ہے ولید وہی شخص ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے "ان جاء کم فاسق بنیاء فتبینوا" (سورہ حجرات ۶) یعنی اگر کوئی فاسق خبر لائے تو اسکی چہان بین کرو۔ (۳) یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں قرآن نے اس طرح توصیف کی ہے "أفمن کان مومنأ کممن کان فاسقأ لا یستؤن" (سورہ سجدہ ۱۸) یعنی کیا جو شخص مومن ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح فاسق ہے؟ برگز یہ دونوں برابر نہیں۔ (۴) اس جنگ میں اگرچہ بہت سے افراد قتل ہوئے لیکن دونوں فوجیں بغیر کسی نتیجے کے اپنی اپنی چھاؤنی میں واپس آگئیں مگر امام علیہ السلام، عمار اور ابن عباس کی تقریروں سے شام کے لوگوں پر حقیقت واضح ہو گئی اور کم و بیش معاویہ کا



جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ لوگوں پر ظاہر و روشن ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ جنگ کے پانچویں دن شمر بن ابرہہ حمیری شام کے قاریوں کے کچھ گروہ کے ساتھ امام کے لشکر میں شامل ہو گیا، ان لوگوں کا نور

- (۱) وقوعہ صفین ص ۲۲۲۔۲۲۱۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۵۰۔ تاریخ طبری ج ۳، جزئ ۶ ص ۷۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۸۔  
 (۲) وقوعہ صفین ص ۲۲۲۔۲۲۱۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۵۰۔ تاریخ طبری ج ۳، جزئ ۶ ص ۷۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۸۔  
 (۳) تمام اسلامی مفسرین نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔  
 (۴) اس آیت کے شان نزول کے متعلق، تفسیر الدر المنثور اور برہان کی طرف رجوع کریں۔

کی طرف آنا تاریکی کی علامت تھی جو شام کی فوج پر چھائی ہوئی تھی اس سے معاویہ کو بہت بڑا دھچکا لگا، اس کے تکرار سے سخت خوفناک تھا۔

عمرو عاص نے معاویہ سے کہا: تو چاہتا ہے کہ ایسے شخص سے جنگ کرے جو محمدؐ کا قریبی رشتہ دار ہے، اسلام میں ثابت قدم اور استوار ہے، فضیلت و معنویت اور جنگ کے اسرار و رموز جاننے میں بے مثال ہے، محمدؐ کے خاص لوگوں میں سے ہے اور بہادر ساتھیوں، قاریوں اور شریف ترین لوگوں کے ساتھ تم سے جنگ کرنے آیا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی بیبت و بزرگی چھائی ہے، تو تجھ پر لازم ہے کہ شامیوں کو اہم جگہوں اور علاقوں میں معین کرو اور اس سے پہلے کہ جنگ کی مدت طولانی ہونے کی وجہ سے وہ افسردگی اور رنجیدگی کا احساس کریں ان لوگوں کو لالچ دو اور جو چیز بھی بھولنا چاہو بھول جاؤ مگر یہ نہ بھولنا کہ تم باطل پر ہو۔

معاویہ نے بوڑھے مکار سیاسی کی باتوں سے نصیحت لی اور سمجھ گیا کہ شامیوں کو میدان جنگ کی طرف مائل کرنے کا ایک طریقہ دین اور تقویٰ و پرہیزگاری کا اظہار کرنا بھی ہے اگرچہ ان کے دلوں میں اس کا کچھ اثر نہ ہو، یہی وجہ تھی کہ اس نے حکم دیا کہ ایک منبر بنایا جائے اور شام کے تمام سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور منبر پر گیا اور پھر بڑے ہی رنجیدہ دل سے دین و مذہب کے لئے مگرچہ کی طرح آنسو بہایا اور کہا:  
 اے لوگو! اپنی جانوں اور سروں کو میرے سپرد کر دو، سست نہ ہونا اور مدد کرنے میں کوتاہی نہ کرنا آج کا دن خطرناک دن ہے حقیقت اور اس کی حفاظت کا دن ہے تم لوگ حق پر ہو اور تمہارے پاس دلیل ہے تم لوگ اس سے جنگ کر رہے ہو جس نے بیعت کو توڑا ہے اور خون حرام بہایا ہے اور آسمان پر کوئی بھی اس کو معذور نہیں سمجھتا۔  
 پھر عمر و عاص منبر پر گیا اور معاویہ کی طرح سے تقریر کی اور پھر منبر سے اتر گیا۔ (۱)

۱۔ وقوعہ صفین ص ۲۲۲۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۵ ص ۱۸۰۔

امام علیہ السلام کی تقریر

امام علیہ السلام کو خبر ملی کہ معاویہ اپنے مکر و فریب کے ذریعے دین کا لبادہ پہن کر شامیوں کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے لہذا آپ نے حکم دیا کہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوجائیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کو دیکھا جو اپنی کمان پر ٹیک لگائے ہیں اور پیغمبر (ص) کے دوستوں کو اپنے پاس جمع کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ پیغمبرؐ کے تمام ساتھی ان کے ہمراہ ہیں پھر آپ نے خدا کی حمد و ثناء کی اور کہا:  
 اے لوگو! میری باتوں کو غور سے سنو اور اسے یاد کرلو۔ خود خواہی سرکشی کی وجہ سے ہے اور کبر و نخوت خود بینی سے اور شیطان تمہارا ابھی کا دشمن ہے جو تمہیں باطل کا وعدہ دے رہا ہے، آگاہ ہوجاؤ کہ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے اسے برا بھلا نہ کہو اس کی مدد کرنے سے گریز نہ کرو، شریعت و دین ایک ہے اور اس کے راستے بھی ہموار ہیں جس نے بھی اس سے تمسک کیا وہ اس سے ملحق ہو گیا اور جس نے اسے ترک کیا وہ اس سے خارج ہو گیا اور جو بھی اس سے جدا ہوگا وہ نابود ہوجائے گا اور جو شخص امین کے نام سے مشہور ہو اور خیانت کرے، وعدہ کرے مگر خلاف ورزی کرے، بات کرے مگر جھوٹ بولے، وہ مسلمان نہیں ہے، ہم خاندان رحمت ہیں ہماری باتیں سچی اور ہمارے کردار سب سے اچھے ہیں پیغمبرؐ آخر الزمان ہم میں سے ہیں اور اسلام کی رہبری بھی ہمارے ہی پاس ہے، خدا کی کتاب کے قاری ہم ہی ہیں تمہیں خدا اور رسول (ص) کی طرف اور ان کے دشمنوں سے جہاد کرنے، اور اس کی راہ میں ثابت قدم رہنے اور اس کی مرضی حاصل کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے، اور خدا کے گھر کی زیارت کرنے، اور رمضان

المبارک میں روزہ رکھنے ، اور بیت المال کو اس کے اہل تک پہنچانے کی دعوت دیتا ہوں۔  
 یہ بھی دنیا کے لئے تعجب ہے کہ معاویہ اور عمرو عاص دونوں اس لائق ہو گئے کہ لوگوں کو دینداری کی طرف رغبت  
 دلائیں! تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے کبھی بھی پیغمبر (ص) کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ مقامات جہاں پر بڑے بڑے بہادر  
 پیچھے ہٹ گئے اور ان کے بدن خوف کے مارے کانپنے لگے میں نے اپنی جان کو پیغمبرؐ کے لئے سپر قرار دیا اس خدا کا  
 شکر جس نے ہمیں یہ فضیلت بخشی، پیغمبر (ص) کی روح پرواز کر گئی جب کہ ان کا سر میری آغوش میں تھا ، اور  
 صرف تنہا میں نے ان کو غسل دیا اور مقرب ترین فرشتے آپ کے جسم اطہر کو ادھر سے ادھر پلٹتے تھے، خدا کی قسم  
 کسی بھی پیغمبر کی امت اس کی رحلت کے بعد اختلاف کا شکار نہ ہوئی مگر یہ کہ اہل باطل حق والوں پر غالب آگئے  
 (۱)۔

جب امام علیہ السلام کی تقریر یہاں تک پہنچی تو ، بزرگ و باایمان اور وفادار دوست عمار نے لوگوں کی طرف نگاہ کی  
 اور کہا، امامؑ نے تم لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ امت نے نہ تو شروع ہی میں صحیح راستہ اپنایا اور نہ ہی آخر میں صحیح  
 راستہ اپنایا۔

ابن مزاحم کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ۶، صفر ۳۸ دو شنبہ کے دن شام کے وقت تقریر کی تھی  
 اور آخر کلام میں تمام سپاہیوں سے مطالبہ کیا کہ فساد کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ اسی وجہ سے ۷، صفر منگل کے دن تمام  
 سپاہیوں کو ایک بڑے حملے کے لئے آمادہ کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں جنگ کے اسرار و رموز کی تعلیم دی۔ (۲)۔

(۱)، (۲) وقعہ صفین ص ۲۲۴-۲۲۳ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۵ ص ۱۸۱-۱۸۲

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

#### اٹھارہویں فصل

#### اجتماعی حملے کا آغاز

جنگ صفین شروع ہوئے آٹھ دن گزر گئے اور چھٹ پٹ حملے اور بہادر سرداروں کی رفت و آمد سے کوئی نتیجہ نہ نکلا  
 ، امام علیہ السلام اس فکر میں تھے کہ کس طرح سے نقصان کم ہو اور ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں آپ اس بات سے  
 بھی مطمئن تھے کہ محدود جنگ قتل و غارت گری کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں رکھتی اسی وجہ سے آپ نے ماہ صفر کی  
 آٹھویں رات (شب چہار شنبہ) کو اپنے اصحاب کے درمیان تقریر فرمائی:  
 "اس خدا کا شکر کہ اگر اس نے کسی چیز کو شکست دی تو اسے مستحکم نہیں کیا اور جس چیز کو مستحکم کر دیا اُسے  
 شکست نہیں ہو سکتی، اگر وہ چاہتا تو اس امت سے دو آدمی یا پوری امت اختلاف نہیں کرتی، اور کوئی شخص بھی کسی  
 بھی امر میں جو اس سے مربوط ہے اختلاف نہیں کرتا ، اور مفضول، فاضل کے فضل و کرم سے انکار نہیں کرتے، تقدیر  
 نے ہمیں اس گروہ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔"

سب کے سب خدا کی نگاہوں اور اس کے حضور میں ہیں اگر خدا چاہتا تو عذاب کے نزول میں جلدی کرتا ، تاکہ ستمگروں  
 کو جھٹلا سکے ، اور حق کو آشکار کرے اس نے دنیا کو کردار کا گھر اور آخرت کو اجر و ثواب کا گھر قرار دیا تاکہ  
 بدکاروں کو ان کے برے کردار کے وجہ سے عذاب اور اچھے لوگوں کو ان کے اچھے کردار کی وجہ سے اجر و ثواب  
 دے، آگاہ ہوجاؤ اگر خدانے چاہا تو کل دشمن سے مقابلہ ہوگا لہذا اس رات خوب نماز پڑھو اور بہت زیادہ قرآن پڑھو، اور  
 خدا وند عالم سے ثابت قدمی اور کامیابی کی دعا کرو اور کل دشمنوں سے احتیاط اور پوری بہادری کے ساتھ لڑنا، اور  
 اپنے کام میں سچے رہو۔

امام علیہ السلام نے یہ باتیں کہیں اور وہاں سے چلے گئے پھر امام علیہ السلام کے تمام سپاہی تلوار و نیزہ و تیر کی طرف  
 گئے اور اپنے اپنے اصلحوں کو صحیح کرنے لگے۔ (۱)

امام علیہ السلام نے آٹھ صفر بدھ کے دن حکم دیا کہ ایک آدمی شام کی فوج کے سامنے کھڑا ہو اور

(۱) وقوعہ صفین ص ۲۲۰۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۵ ص ۱۸۲۔ تاریخ طبری ج ۳ جزئی ۶ ص ۷۸۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۰۰۔

عراق کی فوج کی طرف سے جنگ کا اعلان کرے۔

معاویہ نے بھی امام علیہ السلام کی طرح اپنی فوج کو منظم کیا اور اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کی فوج حمص، اردن اور قنسرين کے لوگوں پر مشتمل تھی اور معاویہ کی جان کی حفاظت کے لئے شام کے لوگوں نے ضحاک بن قیس فہری کی سرپرستی میں ذمہ داری لی اور اس کو اپنے حلقے میں لے لیا، تاکہ دشمن کو قلب لشکر، جہاں معاویہ کی جگہ تھی پہنچنے سے روک سکیں۔

معاویہ نے جس انداز سے فوج کو مرتب کیا تھا وہ عمرو عاص کو پسند نہ آئی اور اس نے چاہا کہ معاویہ کی فوج کو منظم کرنے میں مدد کرے لہذا اسے وہ وعدہ یاد دلایا جو دونوں نے آپس میں کیا تھا، (یعنی فتح و کامیابی کے بعد مصر کی حکومت اس کی ہوگی) عمرو نے کہا: حمص کی فوج کی سرداری میرے سپرد کرو اور ابوالاعور کو ہٹادو۔ معاویہ اس کی اس فرمائش پر بہت خوش ہوا اور فوراً ایک شخص کو حمصیوں کے پاس بھیجا اور پیغام بھیجوا یا کہ عمرو عاص جنگ کے امور میں تجربہ رکھتا ہے جو ہم اور تم نہیں رکھتے، میں نے اسے سواروں کا سردار بنایا ہے لہذا تم دوسرے علاقے میں جاؤ۔

عمرو عاص نے حکومت مصر کی امید میں اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کو بلایا اور اپنے تجربہ اور اپنے اعتبار سے فوج کو منظم کیا اور حکم دیا کہ زرہ پہنے ہوئے سپاہی فوج کے آگے اور جو زرہ نہیں پہنے ہیں وہ فوج کے پیچھے کھڑے ہوں، اور پھر اپنے دونوں بیٹوں (۱) کو حکم دیا کہ فوج کے درمیان معائنہ کریں اور فوج کے نظم و ترتیب کا خاص خیال رکھیں اسی پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ خود فوج کے درمیان ٹہلنے لگا اور اس کے نظم و ترتیب پر نگاہ رکھی اور اسی طرح معاویہ فوج کے درمیان منبر پر بیٹھ گیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری یمن کے لوگوں نے لی اور حکم دیا کہ جو شخص بھی منبر کے نزدیک ہونے کا ارادہ کرے فوراً اسے قتل

(۱) یہاں اس بات کی یاد دہانی کرنی ہے کہ عمرو عاص کے دونوں بیٹے ظاہری طور پر زاہد نما تھے جو ابتداء میں باپ کو ابوسفیان کے بیٹے کی حمایت سے روک رہے تھے لیکن اس وقت ان کے سچے اور گہرے دوست ہیں یہ واقعہ ہمیں اس مثال کی یاد دلاتا ہے جو عربی اور فارسی (اور اردو، رضوی) زبان میں رائج ہے۔ (هل تلد الحية الاحية) یعنی کیا سانپ کا بچہ سانپ کے علاوہ ہو سکتا ہے یا فارسی کی مثال، عاقبت گرک زادہ گرک شود، گرچہ با آدمی بزرگ شود۔ بھیڑنے کا بچہ بھیڑیا ہوگا اگرچہ وہ آدمی کے ساتھ ہی کیوں نہ بڑا ہوا ہو۔

کر دینا۔ (۱) جب بھی جنگ کا مقصد قدرت اور حاکمیت ہوگا تو اس وقت اپنی حفاظت کے لئے گروہ کا انتظام ہوگا، لیکن اگر ہدف اور مقصد معنوی ہوگا تو ہدف کی خاطر اگر جان بھی دینی پڑے تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی لہذا نہ تو کسی نے امام کی حفاظت کی ذمہ داری لی بلکہ امام علیہ السلام سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار حکم دیتے تھے اور فوج کی رہبری بھی کر رہے تھے اور اپنے بلند نعروں سے شام کے بہادروں کو لرزہ برانداز (تھر تھرا نا) کر دیتے تھے اور اپنی تیز تلوار سے لوگوں کو دور کرتے تھے۔

رہبری کے طریقے میں اختلاف، مقصد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے اور شہادت کا طلب کرنا آخرت پر ایمان اور اس کی حقانیت پر اعتقاد رکھنا ہے، جب کہ موت سے خوف اور دوسروں کو اپنی جان کی حفاظت کے لئے قربان کرنا دنیاوی زندگی سے محبت و الفت اور ماوراء مادہ سے انکار کرنا ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عمرو عاص کے بیٹے نے ان چیزوں کا اعتراف بھی کیا اور امام علیہ السلام

کی فوج کے بارے میں یہ کہا "فان هولائی جاؤوا بخصۃ بلغت السماء" یہ لوگ آسمانی ہدف لے کر میدان میں آئے ہیں اور شہادت سے خوف نہیں رکھتے۔

عاص کے بیٹے کی معاویہ کے ساتھ خیر خواہی اور مدد اس سے محبت و الفت اور فتح و کامیابی کی بنا پر نہ تھی بلکہ وہ برطرف سے اپنے فائدے کے لئے اسے کامیابی سے ہمکنار کرانا چاہتا تھا اور معاویہ سے اظہار نظر اور مشورہ کر کے اکثر اسے یاد دلاتا تھا اور جواباتیں ان دونوں کے درمیان ہوتیں وہ اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ معاویہ: جنتی جلدی ہو فوج کی صفوں کو منظم کرو۔

عمر و عاص: اس شرط کے ساتھ کہ میری حکومت میرے لئے ہو۔  
 معاویہ، اس خوف سے کہ عمرو عاص اما م کے بعد اس کا رقیب نہ ہو جائے فوراً پوچھا کون سی حکومت؟ کیا حکومت مصر کے علاوہ دوسری چیز چاہتا ہے؟  
 عمرو عاص نے جو پرانا سیا سنتبازا اور غیر منقہ سوداگر تھانے اپنے چہرے پر تقوے کا ماسک لگا کر کہا کیا

(۱) وقعه صفین ص ۲۲۶۔ شرح نہیج البلاغہ ابن الحدید ص ۱۸۲۔

مصر، جنت کے عوض ہو سکتا ہے؟ کیا علی کو قتل کر کے عذاب جہنم کی مناسب قیمت جس میں ہر گز آرام نہیں ہوگا، ہو سکتی ہے؟  
 معاویہ نے اس خوف سے کہ کہیں عمرو کی بات فوج کے درمیان پھیل نہ جائے اس سے کہا ذرا آہستہ آہستہ، تیری گفتگو کوئی اور نہ سن لے۔  
 جی ہاں، عمرو عاص مصر کی حکومت کی آرزو میں شام کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا:  
 اے شام کے سردارو، اپنی صفوں کو مرتب کرو اور اپنے سروں کو اپنے خدا کو بدیہ کر دو، اور خدا سے مدد طلب کرو اور خدا کے دشمن اور اپنے دشمن سے جنگ کرو ان لوگوں کو قتل کرو تاکہ خدا ان لوگوں کو قتل کرے اور انہیں نابود کر دے۔ (۱)

اور اُدھر جیسا کہ گزر چکا ہے اس دن امام علیہ السلام نے ایک گھوڑا طلب کیا لوگ آپ کے لئے (شیرنگی) گھوڑا لائے جو طاقت کی وجہ سے مسلسل کود رہتا اور دو لگاموں سے کھینچا جاتا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لی اور اس آیت کی تلاوت فرمائی:

"سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانآلی ربنا لمنقلبون" "پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے آمادہ کیا جسکی ہمارے پاس طاقت و قدرت نہ تھی اور سب کے سب اس کی بارگاہ میں واپس جائیں گے"۔ (زخرف ۱۳)  
 پھر آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا اور کہا:  
 "اللهم إلیک نُقِلتِ الأقدامُ وأُتعبتِ الأبدانُ و أفضتِ القلوبُ و رفعتِ الأیدی و شُخصتِ الأبصارُ..... اللهم انا نشکُو ألیک غیبة نبیننا و کثرة عدونا و تشنت أ هوا ننا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و أنت خیر الفاتحین (۲)  
 خدا یا: تیری ہی طرف قدم اٹھتے ہیں اور بدن رنج و غم میں گرفتار ہوتے ہیں اور دل تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور آنکھیں کھلی رہتی ہیں..... خدایا: ہم اپنے پیغمبر کے نہ رہنے کا شکوہ

(۱)، (۲) وقعه صفین ص ۲۳۰، ۲۳۱۔ شرح نہیج البلاغہ ابن الحدید ص ۱۷۶

اور دشمنوں کی زیادتی اور اپنی آرزوؤں کے بکھرنے کا تیری بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں خداوند ہمارے اور اس قوم کے درمیان حقیقی فیصلہ کر کیونکہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔  
 بالآخر ۸ صفر بدھ کے دن باقاعدہ حملے کا آغاز ہوا اور صبح سویرے سے رات تک حملے ہوتے رہے اور دونوں فوجیں بغیر کسی کامیابی کے اپنی اپنی چھاؤنی میں واپس آگئیں۔

جمعرات کے دن امام علیہ السلام نے نماز صبح تاریکی میں پڑھی اور پھر دعا پڑھنے کے بعد خود

حملہ شروع کیا، آپ کے ساتھی بھی چاروں طرف سے جنگ کرنے لگے۔ (۱)

حملے سے پہلے اما م علیہ السلام نے جو دعا پڑھی اس کا کچھ حصہ یہ ہے۔

"ان اظہر لنا علی عدونا فجنبنا الغ و سدّ لنا للحق، وان اظہر تهم علينا فارزقنا الشها دة و اعصم بقیة اصحابی من الفتنة" (۲)

"پروردگار! اگر ہمیں اپنے دشمنوں پر کامیاب کیا تو ہم سب کو ظلم و ستم سے دور رکھ اور ہمارے قدموں کو حق کے راستے پر چلا، اور اگر وہ سب ہم پر کامیاب ہوئے تو ہم لوگوں کو شہادت نصیب فرما اور جو ہمارے دوست باقی بچیں انہیں فتنہ سے محفوظ رکھ"

امام علیہ السلام کے لشکر کے سرداروں کی شعلہ ور تقریریں فوج کے بزرگوں اور سرداروں کی تقریریں بہت بڑی تبلیغ کا کام کرتی ہیں بسا اوقات، ایک فوج کی تقریر دشمن کو نابود اور خود اپنے لئے کامیابی کے مقدمات فراہم کر دیتی ہے، اسی وجہ سے، جمعرات ۹ صفر اجتماعی حملے کے دوسرے دن امام علیہ السلام کی فوج کی بزرگ شخصیتوں نے تقریریں کیں، امام کے علاوہ عبد اللہ بن بدیل (۳) سعید بن قیس (۴) (ناصرین کے علاقہ میں) اور مالک اشتر جیسی بزرگ

(۱) تاریخ طبری ۳، جزء ۶ ص ۸۰. کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۰۱

(۲) وقعہ صفین ص ۲۳۲

(۳) وقعہ صفین ص ۲۳۴. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۵ ص ۱۸۶

(۴) وقعہ صفین ص ۳۴۷. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۵ ص ۱۸۸

شخصیتوں (۱) نے تقریر کی اور ہر شخص نے ایک خاص طریقے سے امام علیہ السلام کی فوج کو شامی دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کی تشویق دلائی، اسی درمیان بہت سے واقعات رونما ہوئے جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

۱۔ کون ہے جو اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے؟

علی علیہ السلام قبل اس کے کہ جنگ کا آغاز کرتے اتمام حجت کے لئے اپنے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: کون ہے جو اس قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے اور ان شامیوں کو اس کی طرف دعوت دے؟ سعید نامی نوجوان اٹھا اور اس نے ذمہ داری لی امام علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر اپنی بات دہرائی اور پھر وہی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا اے امیر المومنین میں حاضر ہوں، اس وقت علی علیہ السلام نے قرآن اس کے حوالے کیا وہ معاویہ کی فوج کی طرف روانہ ہوا ان لوگوں کو خدا کی کتاب اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی، تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ دشمن کے ہاتھوں شہید ہو گیا (۲)

(۱) وقعہ صفین ص ۲۴۱۔۲۳۹. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۵ ص ۱۹۱۔۱۹۰

(۲) وقعہ صفین ص ۲۴۴. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۵ ص ۱۹۴

۲۔ دو حُجر کی جنگ:

حُجر بن عدی کندی ان شخصیتوں میں سے ہیں جو پیغمبر کی خدمت میں شرفیاب ہوئے اور ان کے ذریعے مسلمان ہوئے اس کے بعد علی علیہ السلام کے مخلصوں اور ان دفاع کرنے والوں کی صف میں تھے بالآخر اسی راہ میں اپنی جان دے دی معاویہ کے ظالم جلاذوں کے ہاتھوں امام علیہ السلام کے کچھ مخلصوں کے ہمراہ "مرج عذرائ" (جو شام سے ۲۰ کلومیٹر دوری پر واقع ہے) میں قتل ہو گئے اور تاریخ نے انہیں "حُجر الخیر" کے نام سے یاد کیا جبکہ ان کے چچا حُجر بن یزید کو تاریخ نے "حُجر الشّر" کے نام سے یاد کیا۔

اتفاق سے اس دن یہ دونوں حُجر جو کہ آپس میں قریبی عزیز بھی تھے میدان جنگ میں روبرو

ہوئے، مبارزہ کی دعوت حُجر الشّر کی طرف سے شروع ہوئی اور اس وقت جبکہ یہ دونوں اپنے اپنے نیزوں سے جنگ کرنے میں مصروف تھے معاویہ کی فوج سے ایک شخص خزیمہ، حُجر بن یزید کی مدد کیلئے دوڑا اور حُجر بن عدی پر نیزہ مارا اس موقع پر حُجر کے کچھ ساتھیوں نے خزیمہ پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا لیکن حُجر بن یزید میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ (۱)

۳۔ فوج شام کے میسرہ پر عبد اللہ بن بدیل کا حملہ

عبد اللہ بن بدیل خزاعی امام علیہ السلام کے لشکر کے بلند پایہ افسر تھے وہ پیغمبر اسلام کا جلیل القدر صحابی اور نفس کی پاکیزگی اور بہادری اور زبردست جنگ کرنے والوں میں مالک اشتر کے بعد مشہور تھے۔

میمنہ کی فوج کی ذمہ داری انہی کے ہاتھ میں تھی اور میسرہ کی سرداری عبد اللہ بن عباس کے ذمہ تھی، عراق کے قاری عمار یاسر، قیس بن سعد اور عبداللہ بن بدیل کے بارے میں ہوئے (۲)

عبد اللہ، حملہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: معاویہ نے ایسے مقام و منصب کا دعویٰ کیا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے، مقام و منصب کے حقیقی وارثوں سے لڑائی کے لئے اٹھا ہے اور باطل اور غلط دلیلوں کے ساتھ حق سے لڑنے آیا ہے، اس نے عربوں (بدو) اور مختلف لوگوں کو ملا کر فوج تشکیل دی ہے اور گمراہی کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد کہا:

"وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ نَوْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَبِرَهَانَ مَبِينٍ، قَاتِلُوا الطَّغَاةَ الْجَفَاةَ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَكَيْفَ تَخْشَوْنَهُمْ وَفِي أَيْدِيكُمْ كِتَابٌ مِّن رَّبِّكُمْ ظَاهِرٌ مِّنور۔۔۔ و

قد قَاتَلْتَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ وَاللَّهُ مَا هُمْ فِي هَذِهِ بَأْزَكَىٰ وَلَا أَتَقَىٰ وَلَا أَبْرَ، فَوُ مَوَّ أَلَىٰ عَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّكُمْ" (۳)

خدا کی قسم، تم لوگ خدا کے نور کے سایہ میں اور روشن دلیل ہو۔ اس جفا کار اور سرکش کے ساتھ جنگ کرو سے خوف نہ کرو، اس سے کیوں ڈرو جب کہ تمہارے ہاتھ میں خدا کی کتاب ہے جو واضح اور سب کی نظر میں مقبول ہے تم نے پیغمبرؐ کے ساتھ اس سے جنگ کی ہے خدا کی قسم ان کا حال ماضی سے بہتر نہیں ہے، اٹھو اور خدا کے دشمن اور اپنے دشمن سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہو جاؤ۔

(۱) وقوعہ صفین ص ۲۴۳۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ج ۵ ص ۱۹۶۔۱۹۵

(۲) کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۰۱

(۳) وقوعہ صفین ص ۲۳۴۔ تاریخ طبری ج ۳ جزء ص ۹۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۰۱ (تھوڑے فرق کے ساتھ)

میمنہ کی سرداری عبد اللہ کے حوالے تھی اس کے باوجود انہوں نے دو زرہ پہنی اور دو تلواریں (دونوں ہاتھوں میں) لیں اور حملہ شروع کر دیا اور پہلے ہی حملہ میں معاویہ کی فوج کو راستے سے ہٹا دیا اور حبیب بن مسلمہ جو فوج شام کے میسرہ کا سردار تھا، کے لشکر کو شکست دیدی، ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ خود کو معاویہ کے خیمے تک پہنچا دیں اور اس ام الفساد کو درمیان سے ختم کر دیں معاویہ کے تمام نگہبان جنہوں نے اپنی جان قربان کرنے کا عہد کیا تھا، پانچ صف کی صورت میں پانچ دیوار کی طرح اس کے اطراف میں محاصرہ کئے ہوئے تھے اور ان کو بڑھنے سے روک رہے تھے لیکن یہ دیواریں بہت بڑی مشکل نہ بنیں، بلکہ ایک کے بعد ایک گرتی رہیں عبد اللہ کا حملہ بہت زبردست تھا لیکن اس سے پہلے کہ خود کو معاویہ کے خیمہ تک پہنچاتے قتل کر دئیے گئے۔ (۱)

اس سلسلے میں جریر طبری نے اپنی "تاریخ" میں ابن مزاحم (مؤلف وقوعہ صفین) سے زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، وہ لکھتا ہے: عبد اللہ دشمن کی فوج کے میسرہ کے ساتھ جنگ کرنے میں مشغول تھا اور مالک اشتر بھی میمنہ پر حملہ کر رہے تھے، مالک اشتر جو کہ زرہ پہنے ہوئے تھے اپنے ہاتھ میں ایک یمنی ڈھال نما لوہے کا ٹکڑا لٹے ہوئے تھے جب اس کو جھکاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس سے پانی برس رہا ہے اور جب اسے اونچا کرتے تھے تو اس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے اپنے حملے میں میمنہ کو تہ و بالا کر دیا اور ایسے مقام پر پہنچے جہاں عبد اللہ بن بدیل قاریوں کے گروہ جن کی تعداد تقریباً تین سو، (۲) کے آس پاس تھی موجود تھے، انہوں نے عبد اللہ کے دوستوں کو میدان میں ڈٹا ہوا پایا مالک اشتر نے ان کے اطراف سے دشمنوں کو دور کیا وہ لوگ مالک اشتر کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فوراً امام کے حالات دریافت کئے اور جب ان لوگوں نے جواب میں سنا کہ امام علیہ السلام صحیح و سالم ہیں اور میسرہ میں اپنی فوج کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف ہیں تو شکر خدا بجالائے۔

ایسی حالت میں عبد اللہ نے اپنے کم ساتھیوں کے باوجود بہت زیادہ اصرار کیا کہ آگے بڑھیں، معاویہ کے نگہبانوں کو قتل کرنے کے بعد خود معاویہ کو قتل کر دیں، لیکن مالک اشتر نے انہیں پیغام دیا کہ آگے

(۱) وقوعہ صفین ص ۲۴۸

(۲) ابن مزاحم نے وقوعہ صفین میں ان کی تعداد سو آدمی لکھی ہے۔

نہ بڑھنا اور جس جگہ پر ہیں وہیں ٹھہرے رہیں اور اپنا دفاع کریں۔ (۱) لیکن ان کا خیال تھا کہ وہ ایک بجلی کی طرح تیز حملے سے نگہبانوں کو ختم کر کے معاویہ تک پہنچ جائیں گے، اسی وجہ سے وہ آگے بڑھتے رہے اور چونکہ دونوں

ہاتھوں میں تلوار لئے تھے اپنے دوستوں کے ہمراہ حملہ شروع کر دیا اور جو بھی سامنے آتا تھا ایک ہی حملے میں اس کا کام تمام کر دیتے تھے اور اس قدر آگے بڑھے کہ معاویہ کو مجبوراً اپنی جگہ بدلتی پڑی۔ (۲)

عبد اللہ کے حملے کی خوبی یہ تھی کہ وہ نگہبانوں سے لڑتے وقت،، بالثارات عثمان،، کا نعرہ بلند کر رہے تھے اس نعرے سے ان کا مقصد ان کا وہ بھائی تھا جو اسی جنگ میں مارا گیا تھا لیکن دشمنوں نے اس سے دوسری چیز سمجھا اور بہت تعجب میں پڑے تھے کہ عبد اللہ کس طرح سے لوگوں کو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی دعوت دے رہے ہیں!

بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ حقیقت میں معاویہ کو اپنی جان خطرے میں نظر آئی اور کئی مرتبہ اپنی میمنہ کی فوج کے سردار حبیب بن مسلمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ مدد کو پہنچے لیکن حبیب کی ساری کوششیں بے کار ہو گئیں۔ اور عبد اللہ کو ان کے مقصد تک پہنچنے سے روک نہ سکا، معاویہ کے خیمے سے وہ بہت کم فاصلے پر تھے معاویہ نے جب کوئی سبیل نہ دیکھی تو نگہبانوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر پتھر مارو اور ان سے جنگ کرو، اور یہ طریقہ مؤثر واقع ہوا اور نگہبانوں نے پتھر مار کر عبد اللہ جن کے ہمراہ بہت کم لوگ تھے زخمی کر دیا اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ (۳)

جب معاویہ نے اپنی جان کو خطرے سے باہر پایا تو خوشی سے پھولے نہیں سما یا اور عبد اللہ کے سراپنے آیا، ایک شخص جس کا نام عبد اللہ بن عامر تھا اور معاویہ کے قریبی لوگوں میں سے تھا اپنے عمامہ کو عبد اللہ کے چہرے پر ڈال دیا اور اس کے لئے دعائے رحمت کی، معاویہ نے بہت اصرار کیا کہ اس کا چہرہ کھول دے مگر اس نے نہیں کھولا کیونکہ وہ اس کا دوست تھا، معاویہ نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے مٹلے

- (۱) کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۵۳  
 (۲) تاریخ طبری ج ۳ جز ۱ ص ۱۰، کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۵۱، ۱۵۲۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ج ۵ ص ۱۹۶  
 (۳) وقعة صفین ص ۲۴۵۔۲۴۶

(جسم کے ٹکڑے کاٹنا) نہیں کروں گا، اس وقت اُسے امام کے بہادر سردار کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا، جیسے ہی معاویہ کی نگاہ عبد اللہ کے چہرے پر پڑی اس نے برجستہ کہا:

"هَذَا اللهُ كِبَشُ الْقَوْمِ. وَرَبُّ الْكَعْبَةِ اللَّهُمَّ أَطْفُرُنِي بِالْأَشْتَرِ النَّخَعِيِّ وَالْأَشْعَثِ الْكِنْدِيِّ" (۱)

"خدا کی قسم، وہ اس گروہ کا سب سے بڑا ہے خدایا مجھے اور دو بڑے بہادروں، مالک اشتر نخعی اور اشعث کندی پر کامیابی عطا فرما!"

اس وقت عبد اللہ کی بے مثال بہادری و شجاعت پر عدی بن حاتم کا قصیدہ پڑھا جس کا پہلا شعر یہ تھا۔

"أَخَا الْحَرْبِ إِنْ عَضَّتْ بِهِ الْحَرْبُ عَضَّتْهَا. وَإِنْ شَمَرَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ شَمَرَتْ" (۲)

"مرد جنگجو (بہت زیادہ جنگ کرنے والا) وہ ہے کہ اگر جنگ نے اُسے دانت دکھایا تو وہ بھی اسے دانت دکھائے اور اگر آستین اوپر اٹھائے تو وہ بھی آستین اوپر کرے۔"

جنگ، لیلة الہریر تک

شروع ہوئی اور ۱۳ صفر (۳) کو دوپہر تک جاری رہی، تاریخ لکھنے والوں نے اس ابن جریر طبری نے اپنی کتاب میں صلح کی تاریخ ۱۳ صفر لکھی ہے اور لیلة الہریر کو جمعہ کے دن لکھا ہے۔ (ص ۲۴) لیکن چونکہ جس دن صفر کا مہینہ شروع ہوا تھا وہ بدھ کا دن تھا اور اس اعتبار سے لیلة الہریر ۱۷ صفر کو ہونا چاہیے (ماہ صفر کی تیسری شب جمعہ) اور اگر مراد دوسری شب جمعہ ہو تو اس صورت میں لیلة الہریر ۱۰ صفر کو ہونا چاہیے نہ کہ ۱۳ صفر کو، مگر یہ کہا جائے لیلة الہریر کے آدھے دن سے صلح نامہ لکھے جانے تک تین دن تک دونوں فوجوں

- (۱)، (۲)، تاریخ طبری ج ۳ جزء ۱ ص ۱۳، ۱۶، وقعة صفین ص ۲۴۶۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۵۴۔۱۵۳، شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ج ۵ ص ۱۹۷۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۹۸۔



میں لڑائی ہوئی ربی اور تیسرے دن صلح نامہ مکمل ہوا لیکن ظاہراً جو ابن مزاحم کی کتاب وقوعہ صفین میں تحریر ہے وہ یہ ہے کہ جنگ دسویں دن کے بعد بھی جاری رہی۔

مہینے کی شب پندرہویں کو "لیلة الہریر" کے نام سے یاد کیے، عربی لغت میں "ہریر" کے معنی کتوں کا تیز اور دردناک آواز میں بھونکنا ہے، کیونکہ معاویہ کی فوج اس رات امام علیہ السلام کی فوج کے حملے سے ایسے ہی چلا رہی تھی جیسے کتے چلاتے ہیں، عنقریب تھا کہ معاویہ اور امویوں کی حکومت کا تختہ پلٹ جائے کہ اچانک عمرو عاص نے دھوکہ اور فریب کے ساتھ اور امام کی فوج کے درمیان تفرقہ پیدا کر کے اس خونی اور سرنوشت ساز جنگ اور اس کو روک دیا بالآخر ۱۷، صفر جمعہ کے دن واقعہ "حکمیت" تک پہنچا اور جنگ وقتی طور پر روک دی گئی۔

جنگ صفین کے حادثات لکھنے والے مؤرخین نے دس دن تک حالات کو ترتیب سے لکھا ہے۔ (۱) لیکن اس کے بعد کے حالات و حادثات کی ترتیب بدل گئی، تاریخ لکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنے ذوق تاریخ شناسی کی روشنی میں واقعات کو ترتیب دیں ہم بھی ان چند دن میں ہوئے واقعات کو لیلة الہریر تک اپنے انداز سے تحریر کر رہے ہیں۔

## (۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۹۰۔۳۸۷۔

دسویں دن کا حادثہ

دسویں صفر کا سورج طلوع ہوا اور اپنی روشنی کو صفین کے میدان پر ڈالا جو خون کے تالاب کی طرح ہو گئی تھی، شہادت کے عاشق اور امام علیہ السلام کے چاہنے والے یعنی ربیعہ قبیلے والے امام کے اطراف میں جمع تھے اور امام کا محاصرہ کئے ہوئے تھے، ان کے سرداروں میں سے ایک سردار اٹھا اور کہا "من یبایع نفسہ علی الموت و یشری نفسہ للہ؟ کون ہے جو مرنے کے لئے بیعت کرے اور اپنی جان کو خدا کے لئے بیچ دے؟ اس وقت سات ہزار لوگ کھڑے ہوئے اور اپنے سردار کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا، ہم اتنا آگے بڑھیں کہ معاویہ کے خیمے میں داخل ہو جائیں اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھیں۔

ان کی محبت و الفت کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا "لیس لکم عذرفی العرب ان اصیب علیٰ فیکم، ومنکم رجلٌ حثیٰ" یعنی عربوں کے سامنے تم لوگ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اگر تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہا اور امام علیہ السلام کو کوئی آسیب پہنچا جب معاویہ نے "ربیعہ" کی بہادری اور موعظہ و نصیحت کو دیکھا تو برجستہ اس کے منہ سے تعریفی جملے نکل پڑے اور یہ شعر پڑھا۔

إذأقلت قد ولت ربیعۃ أقبلت

کتائب منہم کالجبال تجالد

اگر کوئی کہے کہ قبیلہ ربیعہ نے میدان میں اپنی پشت دکھائی، تو اچانک ان میں سے کچھ گروہ پہاڑ کی طرح جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جائیں گے۔ (۱)

میمنہ کی فوج میں ترمیم

ربیعہ کی بہادری کے مقابلے میں قبیلہ مضر نے بہت زیادہ وفاداری نہیں کی اور امام علیہ السلام کی میمنہ کی فوج اپنے سردار عبد اللہ بن بدیل کے قتل ہونے کی وجہ سے اور قبیلہ مضر کے افراد کے میدان سے بھاگنے کی وجہ سے شکست سے دوچار تھی، اس طرح سے کہ اس فوج کے سپاہی قلب لشکر سے جا ملے کہ جس کی سرداری خود امام علیہ السلام کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے میمنہ کی فوج میں بہتری اور سدھار کے لئے سہل بن حنیف کو اس فوج کا سردار بنا دیا، لیکن حبیب بن مسلمہ کی سرداری میں شام کی فوج کے ہجوم نے میمنہ کے نئے سردار کو اتنی مہلت نہ دی کہ فوج کو منظم و مرتب کرتا، امام علیہ السلام جب قبیلہ مضر کی بد نظمی سے

باخبر ہوئے تو فوراً مالک اشتر کو اپنے پاس بلایا اور انہیں حکم دیا کہ یہ گروہ جس نے اسلامی روش کو بھلادیا ہے اس سے کہو "این فرار کم من الموت الذی لن تعجزوه الی الحیاة التی لا تبقی لکم؟" کیوں ایسی موت سے بھاگ رہے ہو جس کے



مقابلے کی قدرت نہیں رکھتے اور جو زندگی ختم ہونے والی ہے اس کی طرف بھاگ رہے ہو؟  
مالک اشتر، میمنہ میں شکست کھا تے ہوئے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر امام علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کے بعد  
جوش و ولولے والی تقریر میں کہا: "فان الفرار فيه سلب العز والغبلة على القبي"

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ج ۵ ص ۲۴۱، ۲۴۲۔ وقعہ صفین ص ۳۰۶

وَذِلُّ الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ وَ عَارِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَسَخَطَ اللَّهُ وَأَلِيمَ عِقَابِهِ"  
"میدان جہاد سے فرار کرنا اپنی عزت کو برباد کرنا اور بیت المال کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دینا اور حیات و زندگی میں  
ذلت، اور دنیا و آخرت میں ننگ و عار، خدا کا قہر و غضب اور اس کا درد ناک عذاب ہے۔"  
پھر فرمایا: اپنے دانتوں کو ایک دوسرے پر مضبوطی سے دبا لو اور اپنے سر کے ساتھ دشمن کے استقبال کے لئے  
بڑھواتنا کہنے کے بعد آپ نے میمنہ کی فوج کو منظم کیا اور خود حملہ شروع کر دیا اور میسرہ میں معاویہ کی فوج جو امام  
علیہ السلام کی میمنہ فوج کے مقابل تھی، اسے پیچھے بھگا دیا یہاں تک کہ معاویہ کے قلب لشکر میں پہنچ گئے۔ (۱)  
شکست کے بعد میمنہ کی فوج کا مرتب ہونا امام علیہ السلام کی خوشحالی کا سبب ہوا، اسی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو  
متوجہ کرتے ہوئے فرمایا "فَالآن فَاصْبِرْ وَانزَلَتْ عَلَيْكَ السَّكِينَةُ وَتَبَتَّكُمْ اللَّهُ بِالْيَقِينِ وَ لِيَعْلَمَ الْمَنْهَزِمُ بِأَنَّهُ مُسَخِّطٌ لِرَبِّهِ وَ مُؤَبَقَفَسْ،  
وَ فِي الْفُرَارِ مُوجَدَةٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّلُّ الْإِلَازِمُ أَوْ الْعَارُ الْبَاقِي، (۲)  
"اس وقت صبر و سکون سے رہو کیونکہ ثبات اور آرام تمہارے لئے خدا کی طرف سے آیا اور تمہیں یقین کے ساتھ قائم  
رکھا اور جو لوگ شکست کھا چکے ہیں (میدان جنگ میں ثابت قدم نہ رہے) وہ جان لیں کہ انہوں نے خود کو خدا کے غیظ و  
غضب اور بلاؤں میں گرفتار کیا ہے اور میدان جنگ سے بھاگنے والے پر خدا کا قہر اور ذلت ہوگی۔"

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ج ۵ ص ۱۹۷، ۱۹۸۔ وقعہ صفین ص ۲۵۰۔ تاریخ طبری ۳، جزء ۶، ص ۱۲  
(۲) تاریخ طبری ۳، جزء ۶، ص ۱۴

قاتل کا گریہ

مأرب ایک شہر ہے جو شمال میں شرق صنعا کے پاس ہے وہ اس عظیم نہر جو ۵۴۲ سے ۵۷۰ کے درمیان منہم ہوئے  
بہت مشہور ہے، یمن کے قبیلے والوں نے اسی نہر کی برکت سے کافی ترقی کی اور وہ بہت اچھی کھیتی کرتے تھے،  
مشہور طوفان، "عرم" کے اثر سے نہر منہم ہوئی جس کے بعد لوگ وہاں سے  
جزیرہ کے ادھر ادھر چلے گئے اور اس میں سے اکثر لوگ شام، اردن، فلسطین چلے گئے، لیکن اپنا قبیلہ چھوڑنے کے  
باوجود لوگ اپنے کو اسی قبیلے سے منتسب کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلہ ازد، مضر، کندہ، قضاعہ  
اور ربیعہ کے لوگ عراق میں اور اسی قبیلے کے کچھ لوگ شام، اردن اور فلسطین میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔  
فوج کو منظم کرتے وقت امام علیہ السلام کی سیاست یہ تھی کہ جس قبیلے کے لوگ بھی عراق میں زندگی بسر کر رہے  
تھے تو دوسرے افراد کے سامنے وہی قبیلے کے لوگ کھڑے ہوں، جو عراق کے علاوہ دوسری جگہوں پر زندگی بسر کر  
رہے تھے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آمنے سامنے کا مقابلہ بہتر ثابت ہو اور شدید خونریزی نہ ہو۔ (۱)  
ایک دن "ختعم" کے عبد اللہ نامی شامی سردار نے ختعم عراق کے رئیس سے ملاقات کرنے  
کی خواہش ظاہر کی، اور تھوڑے وقفہ کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، شامی نے عرض کیا کہ ختعم قبیلے کے دونوں گروہ  
جنگ نہ کریں، اور آئندہ کے لئے فکر کریں، دونوں فوجوں میں سے جو بھی کامیاب ہوئی ہم اس کی پیروی کریں، لیکن ان  
دونوں سرداروں کی باتوں کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ عراقیوں میں سے کسی نے بھی اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی، اور  
کوئی بھی راضی نہیں ہوا کہ امام علیہ السلام سے اپنی بیعت اٹھا لے، لہذا دونوں گروہوں میں آمنے سامنے سے ایک ایک کر  
کے جنگ شروع ہو گئی، و ببن مسعود ختعمی عراقی، نے اپنے برابر کے شخص کو شامیوں میں سے قتل کر ڈالا اور اسی  
کے مقابلے میں ختعم شام کے ایک شخص نے عراق کے ختعمی پر حملہ کر دیا اور ابو کعب کو قتل کر دیا لیکن قتل کرنے

کے فوراً بعد مقتول پر رونا شروع کر دیا اور کہا میں نے معاویہ کی پیروی کرنے کی وجہ سے تجھے قتل کیا ہے جب کہ تو میرا قریبی عزیز تھا اور لوگوں سے زیادہ میں تم کو چاہتا تھا خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں، سوائے یہ کہ شیطان نے ہم لوگوں کو گمراہ کر دیا اور قریش نے ہمیں اپنا آلہ قرار دیدیا ہے اور ایک ہی قبیلے کے دو گروہوں کی آپسی جنگ میں ۸۰ لوگ دونوں طرف کے مارے گئے اور جنگ تمام ہو گئی۔ (۲)

(۱) معجم البلدان ج ۵ ص ۳۴، ۳۵

(۲) وقعہ صفین ص ۲۵۷، ۲۵۸۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ج ۵ ص ۲۰۴، ۲۰۵۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

تاریخ دہراتی ہے

یہ واقعہ بذات خود بے مثال نہیں ہے بلکہ جنگ صفین میں کم و بیش اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جس میں بعض کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔

۱۔ نعیم بن صہیب بجلي عراقی قتل ہوا اس کا چچازاد بھائی نعیم بن حارث بجلي جو شام کی فوج میں تھا، اس نے معاویہ سے اصرار کیا کہ اپنے چچازاد بھائی کی لاش کو کپڑے سے چھپادے، لیکن اس نے اجازت نہیں دی اور بہانہ بنایا کہ اسی گروہ کے خوف سے عثمان کو رات میں دفن کیا گیا لیکن بجلي شامی نے کہا یا تو یہ کام انجام پائے گا یا تجھے چھوڑ دوں گا اور علی کے لشکر میں شامل ہوجاؤں گا آخر کار معاویہ نے اسے اجازت دی کہ اپنے چچا زاد بھائی کے جنازے کو دفن کر دے۔ (۱)

۲۔ قبیلہ ازد کے دو گروہ آمنے سامنے تھے ان دونوں قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے سردار نے کہا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک ہی قبیلہ کے دو گروہ ایک دوسرے سے مقابلے کے لئے آمادہ ہیں۔ خدا کی قسم، ہم اس جنگ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ پیر کاٹنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے اور اگر یہ کام انجام نہ دیا تو ہم نے اپنے رہبر اور قبیلے کی مدد نہیں کی، اور اگر انجام دیں تو اپنی عزت کو برباد اور اپنی زندگی کی لو کو خاموش کر دیا ہے۔ (۲)

۳۔ شامیوں میں سے ایک نے میدان میں قدم رکھا اور جنگ کی دعوت دی، عراق کا ایک شخص اس سے مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آیا اور دونوں نے زبردست حملے کئے بالآخر عراقی نے شامی کی گردن پکڑی اور اسے زور سے زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا جس وقت اس نے خود شامی کے چہرے سے نقاب اور سر سے ٹوپی اتاری تو دیکھا کہ اس کا اپنا بھائی ہے! اس نے امام علیہ السلام کے دوستوں سے کہا کہ امام علیہ السلام سے کہو کہ اس مشکل کو حل کریں۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اُسے آزاد کر دو لہذا اس نے آزاد کر دیا اس کے باوجود وہ دوبارہ معاویہ کی فوج میں شامل ہو گیا۔ (۳)

(۱) وقعہ صفین ص ۲۵۹۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ج ۵ ص ۲۰۷۔ تاریخ طبری ج ۳ جزئی ۶، ص ۱۴، کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۵۴۔

(۲) وقعہ صفین ص ۲۶۲۔ تاریخ طبری ج ۳، جزئی ۶، ص ۱۵۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ج ۵ ص ۲۰۹۔

(۳) وقعہ صفین ص ۲۷۲۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ج ۵ ص ۲۱۵۔

۴۔ معاویہ کی فوج سے ایک شخص بنام "سوید" میدان میں آیا اور مقابلے کے لئے للکارا امام علیہ السلام کی فوج سے قیس میدان میں آئے، جب دونوں نزدیک ہوئے تو ایک دوسرے کو پہچان گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے رہبر و پیشوا کی طرف آنے کی دعوت دی، قیس نے امام علیہ السلام سے اپنی محبت و ایمان کو اپنے چچازاد بھائی سے بیان کیا اور کہا، وہ خدا کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اگر ممکن ہوتا تو اس تلوار سے اس سفید خیمے (معاویہ کا خیمہ) پر اتنا

زبردست حملہ کرتا کہ صاحب خیمہ کا کوئی آثار باقی نہ رہتا۔ (۱)

شمر بن ذی الجوشن امام علیہ السلام کی رکاب میں تعجب کی بات (ایسی حیرت و تعجب جس کی کوئی انتہاء نہیں ہے) یہ ہے کہ شمر جنگ صفین میں امام علیہ السلام کے ہمراہ تھا، اور میدان جنگ میں "ادھم" نام کے ایک شامی نے اس کی پیشانی پر سخت ضربت لگائی جس سے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ بھی بدلہ لینے کے لئے اٹھا اور شامی پر تلوار سے زبردست حملہ کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، شمر اپنی توانائی واپس کرنے کے لئے اپنے خیمے میں پانی پیا اور ہاتھ میں نیزہ لے لیا پھر میدان میں آگیا اس نے دیکھا کہ شامی اسی طریقے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اس نے شامی کو مہلت نہ دی اور اپنا نیزہ اس کے اوپر اس طرح مارا کہ وہ گھوڑے سے زمین پر گر گیا اور اگر فوج شام سے لوگ اسکی مدد کو نہ پہنچتے تو اسے قتل کر دیتا اس وقت شمر نے کہا یہ نیزہ کی مار اس حملہ کے مقابلے میں ہے۔ (۲)

(۱) وقعہ صفین ص ۲۶۸۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ص ۲۱۳۔  
(۲) تاریخ طبری ج ۳ جزئ ۶، ص ۱۸ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ص ۲۱۳۔

شہادت پر فخر و مباہات

شہادت اور اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت پر مومنین اور قیامت پر ایمان و اعتقاد رکھنے والے ہی افتخار کرتے ہیں اور مقصد کے تحت جنگ کرتے ہیں اور یہ افتخار اور فخر و مباہات ایک ایسی ثقافت ہے جو دوسری قوموں میں نہیں، شہادت سے عشق و محبت قیام و جہاد کے لئے ایک بہترین محرک اور علت ہے، شہید اپنی چند روزہ زندگی کو ابدی زندگی سے اسی عقیدے کی بنا پر تبدیل کرتا ہے اور پھر وہ اپنے مقصد کے پیش نظر کسی کو نہیں پہچانتا ہے۔  
جنگ صفین کے زمانے میں ایک دن فوج شام کے قبیلہ بنی اسد کا ایک بہادر سپاہی میدان میں آیا اور جنگ کے لئے بلایا عراقی فوجی اس بہادر کو دیکھ کر بیچھے ہٹتے لگے اچانک ایک ضعیف شخص بنام "مقطع عامری" اٹھا تاکہ بنی اسد کے اس شخص سے لڑنے کے لئے میدان میں جائے، لیکن جب امام علیہ السلام متوجہ ہوئے تو اسے میدان جنگ میں جانے سے منع کر دیا، ادھر اس شامی بہادر کی ہل من مبارز کی بلند آواز نے لوگوں کے کانوں کو بہرا کر دیا تھا۔ ادھر ہر مرتبہ وہ ضعیف جو شہادت کا عاشق تھا اپنی جگہ سے مقابلے کے لئے اٹھتا تھا لیکن امام اسے منع کر دیتے تھے، اس ضعیف نے عرض کیا اے میرے مولا، اجازت دیجیے کہ اس جنگ میں شرکت کروں تاکہ شہید ہو جاؤں اور بہشت کی طرف جاؤں یا اسے قتل کر دوں اور اس کے سر سے آپ کو امان دوں، امام علیہ السلام نے اس مرتبہ اسے اجازت دی اور اس کے حق میں دعا کی۔

اس دلیر اور بہادر کے عاشقانہ حملے نے اس بہادر شامی کے دل میں ایسا رعب پیدا کر دیا کہ اسے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ اور اتنا دور ہو گیا کہ خود کو معاویہ کے خیمے کے پاس پہنچا دیا لیکن اس بوڑھے مجاہد نے اس کا وہاں تک پیچھا کیا اور جب اس کو نہ پایا تو اپنی جگہ پر واپس آگیا۔ اور جب علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور لوگوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو معاویہ نے مقطع عامری کو تلاش کرایا اور اسے اپنے پاس بلایا، مقطع جب کہ پیری اور ضعیفی کی زندگی بسر کر رہے تھے معاویہ کے پاس آئے۔  
معاویہ: بھائی، اگر تم ایسی حالت میں (بہت بڑھاپا اور ضعیفی میں) میرے پاس نہ آتے تو ہرگز میرے ہاتھ سے نہ بچتے (یعنی قتل کر دیتا)

عامری: میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے قتل کر دے اور ایسی ذلت کی زندگی سے مجھے نجات دیدے اور خدا کی ملاقات سے نزدیک کر دے۔

معاویہ: میں ہرگز تمہیں قتل نہیں کروں گا بلکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔

عامری: تیری حاجت کیا ہے؟

معاویہ: میری حاجت ہے کہ میں تمہارا بھائی بنوں۔

عامری: میں خدا کے لئے تجھ سے پہلے ہی جدا ہو چکا ہوں اور اسی حالت پر باقی ہوں تاکہ خداوند عالم قیامت کے دن ہم

لوگوں کو اپنے پاس بلائے اور ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔

معاویہ: اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔

عامری: میں نے اس سے آسان درخواست کو ٹھکرادیا تو پھر یہ درخواست کہاں (قبول کرسکتا ہوں)

معاویہ: مجھ سے کچھ مال لے لو۔

عامری: مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ (۱)

ایک فوجی حکمت عملی

دسویں دن یا اس کے بعد جب کہ عراقیوں اور شامیوں کی سواروں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، امام علیہ السلام کی فوج کے ایک ہزار آدمیوں کا شامیوں نے محاصرہ کر لیا اور ان لوگوں کا رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا اس وقت امام علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، کیا کوئی نہیں ہے جو خدا کی رضا خریدے اور اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دے؟ عبدالعزیز کا لے گھوڑے پر سوار اور زرہ پہنے ہوئے آنکھ کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا امام علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا آپ جو بھی حکم دیں گے اسے انجام دینگا، امام علیہ السلام نے اس کے لئے دعا کی اور کہا: فوج شام پر حملہ کرو اور خود کو گھیرے ہوئے لوگوں تک پہنچا دو اور جب ان کے پاس پہنچنا تو کہنا کہ امیر المومنین نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ اس طرف سے تکبیر کہو اور ہم اس طرف سے تکبیر کہتے ہیں اور تم لوگ اس طرف سے اور ہم اس طرف سے حملہ کریں تاکہ محاصرہ کو ختم کردینا اور تم لوگوں کو آزادی مل جائے۔

امام علیہ السلام کے بہادر سپاہی نے فوج شام پر زبردست حملہ کیا اور اپنے کو محاصرہ ہوئے لوگوں تک پہنچایا اور امام علیہ السلام کا پیغام پہنچایا، لوگ امام علیہ السلام کا پیغام سن کر بہت خوش ہوئے اور اس وقت تکبیر و تہلیل کی آواز اور دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گئی اور محاصرہ ختم ہو گیا اور محاصرہ ہوئے لوگ امام علیہ السلام کے لشکر سے مل گئے۔ شامیوں کے آٹھ سو لوگ مارے گئے اور جو بچے وہ پیچھے ہٹ گئے اور جنگ وقتی طور پر رک گئی۔ (۲)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ص ۲۲۳، ۲۲۴۔ وقعہ صفین ص ۲۷۸۔

(۲) شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ص ۲۴۳۔ وقعہ صفین ص ۳۰۸۔

شدید جنگ کے دوران سیاسی ہتھکنڈے

امور جنگ کے ماہرین نے امام علی علیہ السلام کی فوج کے اجتماعی حملے کو ابتدا ہی میں دیکھ کر یہ سمجھ گئے تھے کہ جنگ میں امام کے لشکر کو کامیابی ملے گی، کیونکہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہر دن جنگ کے حالات امام علیہ السلام کے حق میں جارہے ہیں اور معاویہ کی فوج نابودی اور موت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ کامیابی ان علتوں کی بنا پر تھی جس میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں:

۱۔ سب سے بڑے سردار کی شائستہ اور مدبرانہ رہبری، یعنی حضرت علی علیہ السلام، اور اسی صحیح نظام رہبری کی وجہ سے معاویہ کی فوج تقریباً امام کے لشکر سے دو گنی تھی، قتل ہوئی (جنگ صفین کے واقعات نقل کرنے کے بعد دونوں فوج کے مرنے والوں کی تعداد تحریر کی جائے گی)

۲۔ امام علیہ السلام کی بے مثال شجاعت و بہادری کہ دنیا نے آج تک ایسا بہادر نہیں دیکھا، ایک دشمن کے قول کے مطابق، علی علیہ السلام نے کسی بھی بہادر سے مقابلہ نہیں کیا مگر یہ کہ زمین کو اس کے خون سے سیراب کردی اس سورما کی بنا پر عراقیوں کے سامنے سے بڑے بڑے شر ہٹا لئے گئے اور دشمنوں کے دل میں زبردست رعب بیٹھ گیا اور میدان جنگ میں ٹھہرنے کے بجائے بھاگنے کو ترجیح دیا۔

۳۔ امام علیہ السلام کی فوج کا آنحضرت کی فضیلت، خلافت، تقویٰ اور امامت برحق پر ایمان و عقیدہ رکھنا، جن لوگوں نے نص الہی کو رہبری کا ملاک سمجھا اور جنہوں نے انصار و مہاجرین کے انتخاب کو معیار خلافت جانا، وہ سب کے سب امام علیہ السلام کے پرچم تلے حق و عدالت کے ساتھ باطل و سرکش سے جنگ کرنے آئے تھے، جب کہ معاویہ کی فوج کی حالت کچھ اور رہی تھی، اگرچہ کچھ خلیفہ کے خون کا بدلہ لینے کے لئے معاویہ کے ساتھ آئے تھے اور ان کے لئے تلوار چلا رہے تھے مگر بہت زیادہ لوگ مادیت کی لالچ اور دنیا طلبی کے لئے اس کے ہمراہ آئے تھے اور ان میں سے بعض گروہ امام علیہ السلام سے دیرینہ بغض و عداوت کی وجہ سے یہاں آئے تھے اور یہ حقیقت کسی بھی مؤرخ سے پوشیدہ

نہیں ہے۔

۴۔ امام علیہ السلام کی فوج میں مشہور و معروف اور امت اسلامیہ کی محبوب شخصیتوں کا موجود ہونا، وہ عظیم شخصیتیں جنہوں نے پیغمبر اسلام (ص) کے ہمرکاب ہو کر بدر، احد، حنین میں جنگیں کی تھیں اور پیغمبرؐ نے ان کی سچائی اور پاکیزگی پر گواہی دی تھی، ان لوگوں میں چند کا نام قابل ذکر ہے مثلاً عمار یاسر، ابویوب انصاری، قیس بن سعد، حُجر بن عدی اور عبد اللہ بن بدیل، جنہوں نے معاویہ کی فوج کے بہت سے خود غرض لیکن سادہ لوح سپاہیوں کے دل میں شک و تردید پیدا کر دی تھی، یہ علّٰی اور دوسری چیزیں سبب بنیں کہ معاویہ اور اس کی دوسری عقل عمرو عاص نے اپنی شکست کو قطعی سمجھا اور اس سے بچنے کے لئے سیاسی حربے چلنے لگا تاکہ امام علیہ السلام کی فوج کی کامیابی کو کسی بھی صورت سے روک سکے، اور وہ سیاسی حربہ، علی علیہ السلام کی فوج کے سرداروں سے خط و کتابت اور ان لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے اور امام کی فوج میں تفرقہ و اختلاف کرنے کا تھا۔

۱۔ جنگ صفین میں امام علیہ السلام کی فوج مینسب سے وفادار ربیعہ والے تھے اگرچہ قبیلہ مُضَر والے اپنی جگہ سے ہٹ گئے لیکن قبیلہ ربیعہ والے پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر موجود رہے۔ جب امام علیہ السلام کی نظر ان کے پرچموں پر پڑی تو آپ نے پوچھا کہ یہ پرچم کس کے ہیں لوگوں نے کہا یہ پرچم ربیعہ کے ہیں اس وقت آپ نے فرمایا: "ہیٰ رِیَاطِ عَصَمَ اللّٰہِ اٰہلہَاو صَبْرَہُمْ وَ تَبَّتْ اَقْدَامُہُمْ" (۱)

"یعنی یہ سب خدا کے پرچم ہیں خدا ان کے مالکوں کی حفاظت کرے اور انہیں صبر عطا کرے اور یہ ثابت قدم رہیں" امام علیہ السلام کو خبر ملی کہ اسی قبیلے کا ایک سردار خالد بن معمر، معاویہ سے قریب ہو گیا ہے اور اس کے اور معاویہ کے درمیان ایک خط یا متعدد خطوط لکھے جا چکے ہیں تو امام علیہ السلام نے فوراً اس کو اور قبیلہ ربیعہ کے بزرگوں کو طلب کیا اور ان سے فرمایا: اے قبیلہ ربیعہ کے لوگو، تم لوگ میرے چاہنے والے اور میری آواز پر لبیک کہنے والے ہو، مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے سرداروں میں سے کسی ایک نے معاویہ کے ساتھ خط و کتابت کی ہے اور پھر خالد کی طرف نگاہ کی اور کہا: اگر تمہارے متعلق جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو میں تمہیں بخش دوں گا اور امان دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ عراق اور حجاز یا ہر وہ جگہ جہاں معاویہ کی حکومت و قدرت نہیں ہے وہاں جا کر زندگی بسر کرو اور اگر وہ چیزیں جو تمہارے متعلق ہم تک پہنچی ہیں جھوٹی ہیں تو ہمارے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنی مطمئن قسم کے ذریعے آرام پہنچاؤ، اس نے اسی وقت سب

(۱) تاریخ طبری ج ۳ جزء ۶ ص ۸۱، ۱۹۰۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ص ۲۲۵، ۲۲۶۔

کے سامنے قسم کھائی کہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس کے دوستوں نے کہا اگر یہ بات سچی ہوگی تو اسے قتل کر دیں گے اور انہیں سے ایک شخص زید بن حفصہ نے امام علیہ السلام سے کہا خالد کی قسم پر آپ کوئی چیز بطور ضمانت رکھنے تاکہ آپ کے ساتھ خیانت نہ کرے (۱)

تمام قرآین سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کی فوج میں وہ معاویہ کی طرف سے خصوصی نمائندہ تھا اور کامیابی کے وقت یہاں تک کہ اس موقع پر کہ عنقریب تھا کہ لوگ معاویہ تک پہنچیں اور اس کے خیمے میں اسے گرفتار کر لیں، خالد نے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور پھر اپنے کام کی توجیہ پیش کرنے لگا اس سلسلے میں چند باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

امام علیہ السلام نے میسرہ قبیلہ ربیعہ کے سپرد کیا تھا اور اس کی سرداری عبداللہ ابن عباس کے ہاتھوں میں تھی، امام علیہ السلام کا میسرہ معاویہ کے میمنہ کے مقابلے میں تھا اور اس کی ذمہ داری شام کی مشہور ترین شخصیتیں ذوالکلاع حمیری اور عبید اللہ بن عمر کے ہاتھوں میں تھی قبیلہ حمیر، ذوالکلاع کی سرداری میں اور عبید اللہ نے سواروں اور پیادوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے میسرہ پر شدید حملہ کیا لیکن زیادہ مؤثر ثابت نہ ہوا دوسرے حملے میں عبید اللہ بن عمر فوج کے بالکل آگے کھڑا ہوا اور شامیوں سے کہا عراق کے اس گروہ نے عثمان کو قتل کیا ہے اگر ان لوگوں کو شکست دیدیا تو تم نے انتقام لے لیا اور علی کو نابود کر دیا۔ اس حملے میں بھی ربیعہ کے لوگوں نے ثابت قدم رہتے ہوئے اپنا دفاع کیا اور کمزور و ناتواں لوگوں کے علاوہ کوئی بھی پیچھے نہ ہٹا۔

امام علیہ السلام کی فوج کے تیز بین لوگوں نے بتا دیا کہ جس وقت خالد نے امام علیہ السلام کی فوج کے کچھ لوگوں کو پیچھے ہٹنے دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے ہونے لگا اور چاہا کہ اپنے اس عمل سے امام کی فوج کے ثابت قدم سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کے لئے آمادہ کرے لیکن جب اس نے ان لوگوں کی ثابت قدمی دیکھی تو فوراً ان لوگوں کی طرف

واپس چلا گیا اور اپنے فعل کی توجیہ کرنے لگا اور کہا: میرے پیچھے بٹنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ بھاگ رہے تھے ان کو تم لوگوں کی طرف واپس پلٹا دوں۔ (۲)

(۱) تاریخ طبری ج ۳ جزء ۶ ص ۱۹، ۸۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید ج ۵ ص ۲۲۵، ۲۲۶۔  
(۲) تاریخ طبری ج ۳ جزء ۶ ص ۱۹۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۵۶

ابن ابی الحدید لکھتے ہیں :

اسلامی مؤرخین مثلاً کلبی اور واقدیمی کا نظریہ ہے کہ خالد نے جان بوجھ کر دوسرے حملے میں پیچھے بٹنے کا حکم دیا تھا تاکہ میسرہ میں امام کی فوج شکست کھا جائے کیونکہ معاویہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر امام کی فوج پر اس نے کامیابی حاصل کر لی تو جب تک خالد زندہ رہے گا خراسان کی گورنری اسے دے دے گا۔ (۱)

ابن مزاحم لکھتے ہیں :

معاویہ نے خالد سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس جنگ میں کامیابی ملی تو خراسان کی گورنری اس کے ہاتھ میں ہوگی، خالد معاویہ کے دھوکے میں آگیا مگر اس کی آرزو پوری نہ ہو سکی کیونکہ جب معاویہ نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو اسے خراسان کا گورنر تو بنادیا لیکن اس سے پہلے کہ معین شدہ جگہ پر پہنچتا آدھے ہی راستے میں ہلاک ہو گیا۔ (۲)  
شام کی فوج عبید اللہ ابن عمر کے وجود پر افتخار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پاکیزہ کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے اور عراقی محمد بن ابو بکر پر افتخار کرتے تھے اور اسے طیب بن طیب (اچھا اور اچھے کا بیٹا) کہتے تھے۔  
جی ہاں، بالآخر شام کی فوج حمیرا اور امام کی فوج ربیعہ کے درمیان زبردست جنگ کی وجہ سے دونوں طرف کے بہت زیادہ افراد مارے گئے اور سب سے کم نقصان یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی فوج سے پانچ سو سپاہی جب کہ وہ سر سے پیر تک اسلحوں سے لیس تھے اور ان کی آنکھوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میدان جنگ میں آئے اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں معاویہ کی فوج کے سپاہی ان سے مقابلے کے لئے میدان میں آئے پھر دونوں گروہوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اور دونوں فوجوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی چھاؤنی میں واپس نہیں گیا اور سب کے سب مارے گئے۔  
دونوں فوجوں کے دور ہوتے وقت سروں کے ٹیلوں میں سے ایک سر نیچے گرا جسے "تل الجمجم" کہتے ہیں، اور اسی جنگ میں ذوالکلاع جو معاویہ کا سب سے بڑا محافظ تھا اور قبیلہ حمیر کو معاویہ

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۵ ص ۲۲۸  
(۲) وقعہ صفین ص ۳۰۶

کی جان کی حفاظت کے لئے آمادہ کرتا تھا خندف نامی شخص کے ہاتھوں مارا گیا اور حمیریان کے درمیان عجیب خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ (۱)

۲۔ عبید اللہ بن عمر نے جنگ کے شدید ترین لمحات میں شیطنت اور تفرقہ ایجاد کرنے کے لئے کسی کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان سے ملاقات کرنے کی درخواست کی امام حسن علیہ السلام نے امام کے حکم سے اس سے ملاقات کی، گفتگو کے دوران عبید اللہ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا، تمہارے باپ نے پہلے بھی اور اس وقت بھی قریش کا خون بہایا ہے کیا تم اس بات کے لئے آمادہ ہو کہ ان کے جانشین بنو، اور تمہیں مسلمانوں کے خلیفہ کے عنوان سے پہنچوائیں؟ امام علیہ السلام نے بہت تیز اس کے سینہ پر ہاتھ مارا اور اس وقت علم امامت کے ذریعے عبید اللہ کے ذلت سے مارے جانے کی اُسے خبر دی اور کہا آج یا کل تو مارا جائے گا۔ آگاہ ہوجا کہ شیطان نے تیرے بُرے کام کو تیری نظر میں خوبصورت بنا کر دکھایا ہے، راوی کہتا ہے کہ وہ اسی دن یا دوسرے دن چار ہزار سبز پوش سپاہیوں کے ساتھ میدان میں آیا اور اسی دن قبیلہ بمدان سے تعلق رکھنے والے ہانی بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا۔ (۲)  
۳۔ معاویہ نے اپنے بھائی عتبہ بن سفیان کو جو فصیح و بلیغ تقریر کرنے والا تھا اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اشعث بن قیس کے ساتھ ملاقات کرو، اور اسے صلح اور سازش کے لئے دعوت دو، وہ امام علیہ السلام کی فوج میں آیا اور بلند آواز سے پکارا، لوگو اشعث کو خبر کر دو کہ معاویہ کی فوج کا ایک شخص تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا کہ اس کا نام پوچھو اور جب سے خبر دی کہ وہ عتبہ بن سفیان ہے تو کہا وہ جو ان خوش کلام ہے اس سے ملاقات کرنا چاہیے عتبہ نے جب اشعث سے ملاقات کی تو اس سے کہا: اگر معاویہ علی کے علاوہ کسی اور سے ملاقات کرتا تو تم سے کراتا کیونکہ تم

عراقیوں اور یمنیوں میں سب سے بزرگ ہو اور عثمان کے داماد اور اس کے زمانے میں حاکم تھے تم اپنے کو علی کی فوج کے دوسرے سپہ سالاروں سے برابری نہ کرو، کیونکہ اشتر وہ ہے جس نے عثمان کو قتل کیا اور عدی حاتم وہ ہے جس نے لوگوں کو قتل عثمان پر ورغلا یا اور سعید بن قیس وہی ہے جس کی دیت، امام علی نے اپنے ذمہ لی ہے اور شریح اور زحر بن قیس خواہشات نفس کے علاوہ کوئی دوسری چیز

(۱) وقوعہ صفین ص ۳۰۶

(۲) وقوعہ صفین ص ۲۹۷ . شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیدج ۵ ص ۲۳۳ .

کی فکر نہیں کرتے تم نے نمک حلالی کرتے ہوئے عراق والوں کا دفاع کیا اور تعصب کی وجہ سے شامیوں سے جنگ کیا ، خدا کی قسم ، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارا اور تمہارا کام کہاں تک پہنچ چکا ہے ، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ علی کو چھوڑ دو اور معاویہ کی مدد کرو، میں تجھے اس راہ کو اختیار کرنے کی دعوت دے رہا ہوں جس میں میرا اور تمہارا دونوں کا فائدہ ہے۔

تاریخ کابیان ہے کہ اشعث، خفیہ طور پر معاویہ سے رابطہ رکھے تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو جنگ کی کامیابی کو معاویہ کی طرف موڑ دے، اس نے پہلے تو اپنے جواب میں امام علیہ السلام کی تعریف کی اور عتبہ کی گفتگو کو ایک ایک کر کے رد کیا، لیکن آخر میں جنگ کو ختم کرنے کے لئے اشارۃ موافقت کر لی اور کہا تم لوگ مجھ سے زیادہ زندگی گزارنے اور باقی رہنے میں محتاج نہیں ہو میں اس سلسلے میں فکر کروں گا اور خدا نے چاہا تو اپنے نظریہ کا اعلان کروں گا۔

جب عتبہ معاویہ کے پاس واپس پہنچا اور اس سے پورا ماجرا بیان کیا تو معاویہ بہت خوش ہوا اور کہا اس نے اپنی نظر میں صلح کا اعلان کر دیا ہے۔ (۱)

۴۔ معاویہ نے عمر و عاص سے کہا، علی کے بعد سب سے مشہور و معروف شخصیت ابن عباس کی ہے اگر وہ کوئی بات کہے تو علی اس کی مخالفت نہیں کریں گے، ، جتنی جلدی ہو کوئی تدبیر کرو کیونکہ یہ جنگ ہم لوگوں کو ختم کر دیگی، ہم ہرگز عراق نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ شام کے لوگ نابود ہو جائیں ۔

عمر و عاص نے کہا: ابن عباس دھوکہ نہیں کھا سکتے اگر اس کو دھوکہ دے دیا تو علی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو، معاویہ کے بے حد اصرار پر عمر و عاص نے ابن عباس کو خط لکھا اور خط کے آخر میں کچھ شعر بھی لکھا، جب عمرو عاص نے اپنا خط اور اپنا کہا ہوا شعر معاویہ کو دکھایا تو معاویہ نے کہا "لا آری کتابک علی رقة شعرك" یعنی تیرا خط تیرے شعر کے پائے کا نہیں ہے!

دھوکہ بازوں کے سردار نے اس خط اور اشعار میں ابن عباس اور ان کے خاندان کی تعریف اور مالک اشتر کی برائی کی تھی اور آخر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر جنگ ختم ہوگئی تو ابن عباس شوریٰ کے ایک ممبر ہوگے جس کے ذریعے سے امیر اور خلیفہ معین ہوگا، جب یہ خط ابن عباس کو ملا تو انہوں نے امام علیہ السلام کو

(۱) وقوعہ صفین ص ۴۰۸ .

دکھایا اس وقت امام نے فرمایا۔ خدا وند عالم عاص کے بیٹے کو موت دے، کیسا دھوکہ دینے والا خط ہے جتنی جلدی ہو اس کا جواب لکھو اور اس کے شعر کے جواب کے لئے اپنے بھائی سے شعر لکھواؤ کیونکہ وہ شعر کہنے میں ماہر ہے۔ ابن عباس نے خط کے جواب میں لکھا:

میں نے عربوں کے درمیان تجھ جیسا بے حیا نہیں دیکھا اپنے دین کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا اور دنیا کو گناہگاروں کی طرح بہت بڑی سمجھا، اور ریاکاری کے ذریعے تقویٰ نمایان کرتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا کو راضی کرے، تو سب سے پہلے مصر کی حکومت کی ہوس اپنے دل سے نکال دے اور اپنے گھر واپس چلا جا، علی اور معاویہ ایک جیسے نہیں ہیں جس طرح سے عراق اور شام کے لوگ برابر نہیں ہیں، میں نے خدا کی مرضی چاہی ہے اور تو نے مصر کی حکومت، اور پھر ان اشعار کو جو ان کے بھائی فضل نے عمر و عاص کے اشعار کے وزن پر کہے تھے اس خط میں لکھا اور امام علیہ السلام کو خط دکھا یا ۔ امام علیہ السلام نے کہا اگر وہ عقلمند ہوگاتو تمہارے خط کا جواب نہیں دے گا۔



جب عمرو عاص کو خط ملا تو اس نے معاویہ کو دکھایا اور کہا تو نے مجھے خط کی دعوت دی لیکن نہ تجھے کوئی فائدہ ہوا اور نہ مجھے فائدہ ہوا، معاویہ نے کہا: علی اور ابن عباس کا دل ایک ہی جیسا ہے اور دونوں عبدالمطلب کے بیٹے ہیں۔ (۱)

۵۔ جب معاویہ نے احساس کیا کہ علی کے سپاہی پہلے سے کچھ زیادہ آمادہ ہو گئے ہیں اور محاصرہ تنگ ہو گیا ہے اور قریب ہے کہ شکست کھا جائیں تو اس نے خود براہ راست ابن عباس کو خط لکھا اور یا د دلایا کہ یہ جنگ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان بغض و عداوت کی بھڑکتی ہوئی چنگاری ہے اور انہیں اس کام کے انجام سے ڈرایا، اس خط میں اس نے ابن عباس کو لالچ دلائی اور کہا: اگر لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں تو ہم بھی تمہاری بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں۔

جب ابن عباس کو خط ملا تو آپ نے ٹھوس اور دندان شکن جواب معاویہ کو لکھا، ایسا جواب کہ معاویہ اپنے

(۱) وقوعہ صفین ص ۱۰۴، ۱۰۵ (تھوڑے فرق کے ساتھ اور دونوں خطوط کے اشعار کے بغیر)۔ الامامة السياسية ج ۱ ص ۹۸، ۹۹

خط لکھنے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہا یہ خود میرے کام کا نتیجہ ہے اب ایک سال تک اُسے خط نہیں لکھوں گا۔ (۱)

عمار اور باغی گروہ

یاسر کا گھرانہ اسلام کے عظیم گھرانے میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے آغاز اسلام میں ہی پیغمبر اسلام (ص) کی دعوت پر لبیک کہا اور اس راہ میں زبردست مصائب و آلام برداشت کیا یہاں تک کہ یاسر اور ان کی بیوی سمیہ نے خدا کی راہ میں اوجہل اور اس کے ساتھیوں کے ظلم و ستم سے اپنی جان دیدی۔

ان دونوں کے جوان بیٹے عمار مکہ کے جوانوں کی سفارش اور نئے قوانین سے ظاہری اظہار بیزاری کرنے سے نجات پا گئے خداوند عالم نے عمار کے اس فعل کو اس آیت میں قرار دیا ہے:

"إِلَّا مَنْ أٰكْرَهٗ وَ قَلْبُهٗ مَطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَانِ" (سورہ نحل آیت ۱۰۶)

مگر وہ شخص کہ جو (کفر کہنے پر) مجبور ہو جائے جب کہ اس کا قلب ایمان سے مطمئن ہے۔

جس وقت عمار کے واقعات اور ان کے کفر ظاہر کرنے کی خبر پیغمبر (ص) کو ملی تو آپ نے فرمایا: ہرگز نہیں بلکہ عمار کا پورا وجود ایمان سے سرشار ہے اور توحید ان کے گوشت و خون میں رچ بس گئی ہے اسی وقت عمار وہاں پہنچ گئے جب کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے پیغمبر اسلام ﷺ نے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہا کہ اگر دوبارہ ایسی مشکل پیش آئے تو اظہار برائت کرنا۔ (۲)

صرف یہی ایک آیت نہیں ہے جو اس بزرگ صحابی کی شان میں نازل ہوئی بلکہ مفسرین نے دو اور آیتوں کو لکھا ہے جو ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے (۱) وہ پیغمبر اسلام کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ کے ہم رکاب رہے اور تمام غزوات اور بعض سریوں میں شرکت کی اور پیغمبر (ص) کے انتقال کے بعد، اگرچہ خلافت وقت سے راضی نہ تھے مگر خلافت کی مدد کرنے میں اگر اسلام کا فائدہ ہوتا تو مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔

پیغمبر اسلام (ص) نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو کام انجام دیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، عمار

(۱) آیتیں اَمَّنْ هُوَ قَاتِلٌ اَنَا اللّٰیْلِ سَاجِدٌ اَوْ قَاتِلًا يَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ (زمر، ۹) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشَىٰ۔ اس سلسلے میں تفسیر قرطبی، کشاف، در المنثور، تفسیر رازی کی طرف رجوع کریں۔

(۲) وقوعہ صفین ص ۲۱۶، ۲۱۷۔ الامامة السياسية ج ۱ ص ۱۰۰

نے مسجد بنانے میں سب سے زیادہ زحمت برداشت کی اکیلے کئی لوگوں کا کام انجام دیتے تھے، اسلام سے عشق سبب بنا کہ لوگ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کام لیں، ایک دن عمار نے ان لوگوں کی پیغمبر سے شکایت کی اور کہا ان لوگوں نے مجھے مار ڈالا ہے، پیغمبر اسلام (ص) نے اپنا تاریخی بیان دیا جو تمام حاضرین کے دل میں اتر گیا، آپ نے فرمایا: "انک لن تموت حتیٰ تقتلک الفئة الباغیة الناکبۃ عن الحق یكون آخر زایدک من الدنیا شر بئین" (۱)

"تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تجھے باغی اور حق سے منحرف گروہ قتل نہ کرے دنیا میں تمہارا آخری رزق ایک پیالہ دودھ ہے۔"



یہ بات پیغمبر (ص) کے تمام صحابیوں میں پھیل گئی اور پھر ایک سے دوسروں تک منتقل ہو گئی، اسی دن تمام مسلمانوں کی نظر میں عمار ایک خاص مقام کے حامل ہو گئے پیغمبر اسلام (ص) نے مختلف مواقع پر بھی آپ کی تعریف کی، جنگ صفین میں امام علیہ السلام کی فوج میں عمار کے شامل ہونے کی خبر نے معاویہ کی دھوکہ کھائی ہوئی فوج کے دلوں کو لرزا دیا، اور بعض لوگ اس بات کی تحقیق کرنے لگے۔

(۱) یہ حدیث جس میں پیغمبر (ص) نے غیب کی خبر دی ہے محدثین اور مؤرخین نے اسے نقل کیا ہے اور سیوطی نے اپنی کتاب خصائص میں اس کے تو اتر کی تصریح کی ہے، اور مرحوم علامہ امینی نے الغدير (ج ۹ ص ۲۱، ۲۲) میں اس کی سندوں کو ذکر کیا ہے۔ تاریخ طبری ج ۳ جزء ۶ ص ۲۱۔ کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۱۵۷ کی طرف رجوع کرسکتے ہیں۔

عمار کی تقریر

جب عمار نے چابا کہ میدان جنگ میں جائیں تو امام علیہ السلام کے دوستوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اسطرح سے گفتگو شروع کی: اے خدا کے بندو، ایسی قوم سے جنگ کرنے کے لئے اٹھو، جو ایسے شخص کے خون کا بدلہ لینا چاہتی ہے جس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور خدا کی کتاب کے خلاف حکم دیا اور اسے صالح گروہ، نبی عن المنکر اور امر بالمعروف کرنے والوں نے قتل کیا ہے لیکن وہ گروہ جس کی دنیا اس کے قتل کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی تھی، ان لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ کیوں اسے قتل کر دیا تو اس کا جواب دیا گیا کہ وہ اپنے برے کاموں کی وجہ سے مارا گیا ہے، ان لوگوں نے کہا عثمان نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے جی ہاں! ان لوگوں کی نظر میں عثمان نے برا کام انجام نہیں دیا، تمام دینار ان کے ہاتھ میں تھے وہ سب کھا گئے اور ہضم

کر گئے، وہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا نہیں چاہتے بلکہ وہ دنیا کی لذتوں سے آشنا ہیں اور اسے دوست رکھتے ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں گرفتار ہوئے تو دنیا کی وہ لذت و آرام و آسائش سے محروم ہوجائیں گے۔ بنی امیہ کا خاندان اسلام قبول کرنے میں آگے نہ تھا کہ وہ رببری کے لایق ہوتا، انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور "ہمارا امام مظلوم مارا گیا" کا نعرہ لگایا تا کہ لوگوں پر ظلم و ستم کے ساتھ حکومت و سلطنت کرے، یہ ایک ایسا بہانہ ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر ایسا دھوکہ اور فریب انجام نہ دیتے تو دو آدمی بھی ان کی بیعت نہ کرتے اور ان کی مدد کے لئے نہ اٹھتے۔ (۱)

عمار تقریر ختم کرنے کے بعد میدان میں آئے اور ان کے ساتھی بھی انکے پیچھے پیچھے تھے، جب عمر و عاص کے خیمے پر نگاہ پڑی تو بلند آواز سے کہا تو نے اپنے دین کو مصر کی حکومت کے بدلے بیچ دیا، لعنت ہو تجھ پر یہ پہلی مرتبہ تو نے اسلام پر وار نہیں کیا ہے، اور جب آپ کی نگاہ عبید اللہ بن عمر کے خیمے پر پڑی تو پکار کر کہا: خدا تجھے نابود کرے تو نے اپنے دین کو خدا اور اسلام کے دشمن کی دنیا کے بدلے بیچ دیا ہے، اس نے جواب دیا میں شہید مظلوم کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں عمار نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ہرگز خدا کی مرضی نہیں چاہتا اگر تو آج مارا نہ گیا تو کل ضرور مارا جائے گا، سوچ لے کہ اگر خدا وند عالم اپنے بندوں کو ان کی نیت کے مطابق جزاء و سزا دے تو تیری نیت کیا ہے (۲)

اس وقت جب کہ ان کے چاروں طرف علی علیہ السلام کے دوست جمع تھے، کہا خدا وندا تو جانتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیری مرضی اس میں ہے کہ اس دریا میں کود جاؤ ننتو کود جاؤنگا اگر مجھے معلوم ہو کہ تیری مرضی اس میں ہے کہ تلوار کی نوک کو اپنے سینہ پر رکھوں اور اتنا جھکوں کہ پشت کے پار ہو جائے تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کرونگا، خدا یا میں جانتا ہوں اور مجھے آگاہ بھی کیا ہے کہ آج کے دن وہ کام جس سے تو سب سے زیادہ راضی ہوگا وہ اس گروہ کے ساتھ جہاد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اگر مجھے معلوم ہو تا کہ

(۱) کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۵۷۔ وقعہ صفین ص ۳۱۹۔ تاریخ طبری ج ۳ جزء ۶ ص ۲۱

(۲) وقعہ صفین ص ۳۳۶۔ اعیان الشیعہ ج ۱ ص ۴۹۶ مطبوعہ بیروت لبنان۔

اس عمل کے علاوہ کوئی اور کام ہے تو اس کو ضرور انجام دینا۔ (۱)

(۱) تاریخ طبری ج ۳ جزء ۶، ص ۲۱۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۵۷۔ وقعہ صفین ص ۳۲۰۔

امام کی فوج میں عمار کے ہونے کا اثر

عمار کی شخصیت اور اسلام میں ان کی خدمات ایسی چیز نہ تھی جو اہل شام سے پوشیدہ ہوتی۔ ان کے بارے میں پیغمبر اسلام کی حدیث شہرت پاچکی تھی اور جو چیز شام کے لوگوں سے کچھ پوشیدہ تھی وہ امام علیہ السلام کی فوج میں عمار کا شریک ہونا تھا، جب عمار کی امام علیہ السلام کی فوج میں احتمالاً شرکت کی خبر معاویہ کے فوج میں پھیلی تو جو لوگ معاویہ کی جھوٹی اور مسموم تبلیغ کی وجہ سے اس کی فوج میں داخل ہوئے تھے وہ چہان بین کرنے لگے، انہی میں سے ایک یمن کی مشہور و معروف شخصیت ذوالکلاع کی تھی جس نے حمیر ی قبیلے کے بہت سے آدمیوں کو معاویہ کے لشکر میں شامل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی، اب اس کے دل میں حقانیت کا نور چمک گیا وہ چاہتا تھا کہ حقیقت کو پالے، لہذا اس نے ارادہ کیا کہ ابونوح کے ساتھ، جو کہ حمیر قبیلے کا سردار تھا اور کوفہ میں رہتا تھا اور اس وقت امام علیہ السلام کی فوج میں شامل تھا اس سے ملاقات کرے، اسی لئے ذوالکلاع نے معاویہ کی فوج میں سب سے آگے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا: میں ابونوح حمیری جو کلاع قبیلے کا ہے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔

ابونوح یہ آواز سن کر اس کے سامنے آیا اور کہا، تم کون ہوں، اپنا تعارف کراؤ؟

ذوالکلاع: میں ذوالکلاع ہوں میری التجا ہے کہ میرے پاس آؤ۔

ابونوح: میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں جو تنہا تمہارے پاس آؤں، مگر اپنے گروہ کے ہمراہ جو میرے اختیار میں ہے۔ ذوالکلاع: تم خدا اور اس کے رسول اور ذوالکلاع کی پناہ میں ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم سے ایک موضوع کے سلسلے میں گفتگو کروں، لہذا تم اکیلے میرے پاس آؤ، اور میں بھی تنہا تمہارے پاس آؤنگا اور دونوں صفوں کے درمیان گفتگو کریں، دونوں اپنی اپنی صف سے نکلے اور صفوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا۔

ذوالکلاع: میں نے تمہیں اس لئے بلایا ہے کہ میں نے پہلے (عمر بن خطاب کے زمانے میں)

عمر و عاص سے ایک حدیث سنی ہے۔

ابونوح: وہ حدیث کیا ہے؟

ذوالکلاع: عمر و عاص نے کہا کہ رسول خدا (ص) نے فرمایا ہے کہ! اہل عراق اور اہل شام ایک دوسرے کے مقابلے میں جمع ہونگے، حق اور ہدایت کرنے والا ایک طرف ہے اور عمار بھی اسی طرف ہوگا۔

ابونوح: خدا کی قسم عمار ہمارے ساتھ ہیں۔

ذوالکلاع: کیا ہم سے جنگ کا مکمل ارادہ ہے

ابونوح: ہاں کعبہ کے رب کی قسم! کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کے لئے ہم سے زیادہ مصر ہیں اور خود میرا ارادہ یہ ہے

کہ کاش تم سب لوگ ایک آدمی ہوتے اور میں سب کا سر کاٹ دیتا اور سب سے پہلے میں تمہارا سر قلم کرتا جب کہ تو

میرا چچا زاد بھائی ہے۔

ذوالکلاع: کیوں ایسی آرزو تمہارے دل میں ہے جب کہ میں نے اپنی رشتہ داری کو ختم نہیں کیا اور تمہیں اپنی قوم کا سب سے قریبی شخص جانا اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کروں۔

ابونوح: خدا نے اسلام کی وجہ سے ایک رشتہ ختم کر دیا ہے اور جو افراد دور تھے ان کو قریبی عزیز بنا دیا تم نے اور تمہارے دوستوں نے ہمارے ساتھ معنوی رشتہ کو ختم کر دیا ہے ہم حق پر بینا اور تم باطل پر ہو سردار کفر اور اس کے

لشکر کی مدد کر رہے ہو۔

ذوالکلاع: کیا تم شام کی فوج کے درمیان میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو؟ میں تمہیں امان دے رہا ہوں کہ اس راہ میں

قتل نہیں کئے جاؤ گے اور نہ تجھ سے کوئی چیز لی جائے گی۔ اور نہ بیعت کے لئے مجبور ہوگے بلکہ مقصد یہ ہے کہ

عمر و عاص کو آگاہ کر دو کہ عمار، امام علی علیہ السلام کے لشکر میں موجود ہیں شاید خداوند عالم دونوں لشکروں کے

درمیان صلح و آشتی کا ماحول پیدا کر دے۔

ابونوح: میں تمہارے اور تمہارے دوستوں کے مکر و فریب سے خوف محسوس کر رہا ہوں۔

ذوالکلاع :میں اپنی بات کا ضامن ہوں۔

ابونوح نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا ، خدا یا تو بہتر جانتا ہے کہ ذوالکلاع نے مجھے امان دیا ہے اور جو کچھ میرے دل میں ہے تو اس سے باخبر ہے ، میری حفاظت فرما، اتنا کہنے کے بعد ذوالکلاع کے ساتھ معاویہ کی فوج کی طرف گئے اور جب عمرو عاص اور معاویہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ دونوں ،لوگوں کو جنگ کے لئے تیار کر رہے ہیں۔

ذوالکلاع نے عمرو عاص کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کیا تو ایک سچے اور عقلمند انسان سے عمار یاسر کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے؟

عمرو عاص : یہ کون آدمی ہے؟

ذوالکلاع نے ابونوح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: یہ میرا چچا زادبھائی اورکوفہ کا رہنے والا ہے، عمرو عاص نے ابونوح سے کہا میں تمہارے چہرے پر ابوتراب کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔

ابونوح : میرے چہرے پر محمد (ص) اور ان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں اور تیرے چہرے پر ابوجہل و فرعون کی نشانیاں ہیں۔ اس وقت معاویہ کی فوج کا ایک سردار ابوالاعور اٹھا اور اپنی تلوار کھینچ کر کہا کہ اس جھوٹے کے چہرے پر ابوتراب کی نشانیاں ہیں میں اس کو قتل کروں گا، اس مینکیسے اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ ہمارے درمیان ہوتے ہوئے بھی ہمیں گالی دے رہا ہے۔

ذوالکلاع نے کہا: خدا کی قسم ، اگر تم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے اور میری امان میں وہ اس صف میں داخل ہوا ہے، میں اسے اس لئے لایا ہوں کہ تم لوگ عمار کے بارے میں سوال کرو کہ جس کے متعلق مستقل جنگ و جدال کر رہے ہو۔

عمرو عاص : میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ سچ بولنا کیا عمار یا سر تمہاری فوج میں ہیں۔

ابونوح : میں جواب نہیں دوں گا مگر یہ کہ اس سوال کی وجہ سے آگاہ ہو جاؤں ، جب کہ پیغمبرؐ کے بہت دوست ہمارے ساتھ بینا اور سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہیں۔

عمرو عاص :میں نے پیغمبر (ص)سے سنا ہے کہ عمار کو ظالم وستمگر گروہ قتل کرے گا اور عمار کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ حق سے دور ہوں جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔

ابونوح :اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں و اللہ وہ ہمارے ساتھ اور وہ تم لوگوں سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں۔

عمرو عاص : وہ ہم سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہیں!؟

ابونوح : ہاں ، قسم اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں انہوں نے جنگ جمل میں مجھ سے کہا کہ ہم اصحاب جمل پر کامیاب ہوں گے اور کل تجھ سے کہا کہ اگر شامی ہمارے اوپر حملہ کریں گے اور ہمیں سرزمین "بجر" پر دوڑائیں گے تب بھی ہم جنگ سے باز نہیں آئیں گے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں اور ہمارے قتل ہونے والے جنت اور ان کی فوج سے قتل ہونے والے جہنم میں ہوں گے۔

عمرو عاص: کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ میں عمار سے ملاقات کر سکوں؟

ابونوح : میں نہیں جانتا ، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ملاقات ہو جائے اس کے بعد ان لوگوں سے جدا ہوئے اور امام علیہ السلام کے لشکر میں جہاں عمار یاسر تھے وہاں پہنچے اور اپنی پوری داستان شروع سے آخر تک انہیں سنائی اور کہا کہ بارہ آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ جس میں عمرو عاص بھی ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔

عمار ، ملاقات کرنے کے لئے تیار ہو گئے ، اور پھر ایک گروہ جس میں سب کے سب سوار تھے امام علیہ السلام کی فوج

سے روانہ ہوئے اور عوف بن بشر عمار سے رخصت ہوئے اور خود کو فوج شام کے پاس پہنچایا اور بلند آواز سے

کہا عمرو عاص کہانہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں ہے، عوف نے عمار کی جگہ بتائی، عمرو عاص نے درخواست کی کہ عمار

شام کی طرف روانہ ہوں، عوف نے کہا کہ تمہارے مکروفریب سے وہ مطمئن نہیں ہیں، پھر یہ طے پایا کہ دونوں آدمی

فوجوں کے تھوڑے فاصلے پر گفتگو کریں، اور دونوں کی فوج حمایت کرے، دونوں گروہ معین جگہ کے لئے روانہ ہوئے

لیکن احتیاط کو مد نظر رکھا اور وہاں اترتے وقت اپنے ہاتھوں کو تلواروں پر رکھا، عمرو نے عمار کو دیکھتے ہی بلند آواز

سے کلمہ شہادتین سے گفتگو شروع کیا تاکہ اسلام سے اپنی الفت و محبت کا اظہار کرے لیکن عمار اس کے دھوکے میں

نہیں آئے اور سخت لہجہ میں کہا، خاموش ہو جاتو نے پیغمبر کی زندگی اور ان کے مرنے کے بعد بھی اسے (اسلام

کو) چھوڑ دیا اور اس وقت نعرہ بلند کر رہا ہے؟ عمرو عاص نے بے حیا نی سے کہا، عمار ہم ان باتوں کے لئے نہیں آئے

ہیں میں نے اس فوج میں تمہیں سب سے زیادہ مخلص پایا ہے اور میں نے سوچا کہ تم سے معلوم کروں کہ ہم سے جنگ

کیونکر رہے ہو جب کہ خدا، کتاب اور قبیلہ دونوں کا ایک ہی ہے، عمار نے مختصر گفتگو کے بعد کہا پیغمبرؐ نے ہمیں خبر دی ہے کہ عہد و پیمان (جمل) توڑنے اور حق سے منحرف ہونے والوں سے جنگ کروں گا اور میں نے عہد و پیمان توڑنے والے سے جنگ کی اور تم وہی حق سے دور ہونے والے ہو۔ لیکن میں نہیں جانتا دین سے خارج ہونے (نہروان) والوں کو درک کر سکوں گایا نہیں پھر عمر و کی طرف رخ کر کے کہا، اے عقیق! تو جانتا ہے کہ پیغمبر نے علی کے بارے میں کہا ہے: "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً هِ فَعَلَيْ مَوْلَاً هِ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَاَعَادَ مَنْ عَادَاهُ" (جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں پرودگار ان کے دوست کو دوست اور ان کے دشمن کو دشمن رکھ) دونوں کی گفتگو عثمان کے قتل کی گفتگو کے بعد ختم ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے قیام کی جگہ واپس آگئے۔ (۱)

اس ملاقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چیز عمر و عاص نہیں چاہتا تھا وہ عمار کا امام علیہ السلام کی فوج میں شریک ہونا تھا۔ کیونکہ وہ علی علیہ السلام کی فوج کے سرداروں کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا، لہذا عمار کی منطقی و عقلی باتوں کے مقابلے میں جنگ و جدال و اختلاف کی باتیں کرنے لگا اور عثمان کے قتل کی باتیں کرنے لگا تاکہ ان سے اقرار کرالے کہ خلیفہ کے قتل میں شامل تھے، اور اس طرح سے بے خبر شامیوں کو حملہ و شورش کے لئے آمادہ کرے، البتہ معاویہ اور عمر و عاص کے لئے بہتر ہوا کہ ذوالکلاع عمار سے پہلے قتل ہو گیا، کیونکہ اگر وہ عمار یاسر کی شہادت کے بعد زندہ ہوتا تو عمرو عاص اپنی بے ہودہ گفتگو کی بنیاد پر اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا اور خود وہ شام کی فوج کے درمیان اور معاویہ و عمرو عاص کے لئے بہت بڑی مشکل بن جاتا۔ لہذا ذوالکلاع کے قتل ہونے اور عمار یاسر کی شہادت کے بعد عمرو عاص نے معاویہ سے کہا میں نہیں جانتا کہ دونوں میں سے کس کے قتل پر خوشی مناؤں، ذوالکلاع کے قتل پر یاعمار یاسر کی شہادت پر؟ خدا کی قسم اگر ذوالکلاع، عمار یاسر کے قتل کے بعد زندہ ہوتا تو تمام شامیوں کو علی علیہ السلام کی فوج میں داخل کر دیتا۔ (۲)

(۱) دفعہ صفین ص ۳۳۲، ۳۳۶۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۸ ص ۱۶۰۲۲۔  
(۲) کامل ابن ثیرج ص ۱۰۷۔

### جنگ صفین میں امام علیہ السلام کی بہادری

امام علیہ السلام پوری فوج کے سردار تھے، آپ، معاویہ اور عمر و عاص جیسے سرداروں کی طرح نہ تھے کہ سب سے امن کی جگہ، اور فوج کے بڑے بڑے طاقتوروں کی حفاظت میں رہتے اور خطرے کے وقت بھاگ جاتے، بلکہ آپ نے اپنی سرداری کو فوج کے مختلف علاقوں میں گھوم کر نبھایا اور مشکل سے مشکل لمحوں میں بھی اپنے سپاہیوں سے آگے آگے جنگ اور زبردست حملوں میں کامیابی آپ کے مبارک اور طاقتور ہاتھوں سے ہوتی تھی۔ اب ہم امام علیہ السلام کی بہادری کے چند نمونے یہاں ذکر رہے ہیں:

ان واقعات کی تفصیلات ابن مزاحم کی کتاب وقعہ صفین اور تاریخ طبری میں موجود ہے دلچسپی رکھنے والے قارئین ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

### امام علیہ السلام تیروں کی بارش میں

امام علیہ السلام کی فوج کین میمنہ کا نظام عبد اللہ بن بدیل کے مارے جانے کی وجہ سے دریم بریم ہو گیا، معاویہ نے حبیب بن مسلمہ کو بچی ہوئی فوج کی سرکوبی کے لئے میمنہ پر معین کر دیا ادھر امام علیہ السلام کے میمنہ کی فوج کی سرداری سپہیل بن حنیف کو ملی لیکن یہ نئی سرداری بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی میمنہ کے حیران و پریشان فوجی قلب لشکر سے ملحق ہو گئے جس کی رہبری خود امام علیہ السلام کر رہے تھے، اس مقام پر تاریخ نے قبیلہ ربیعہ کی تعریف اور قبیلہ مضر کے بھاگنے اور ان کے خوف و ہراس کے متعلق تذکرہ کیا ہے، امام علیہ السلام نے ایسے حالات میں قدم آگے بڑھایا اور خود میدان جنگ میں آئے۔

جنگ صفین کے خبر نگار زید بن وہب کا کہنا ہے کہ میں نے خود امام علیہ السلام کو تیروں کی بارش میں دیکھا کہ دشمن کے تیر آپ کی گردن اور شانے سے گزر رہے تھے، امام علیہ السلام کے بیٹوں کو خوف محسوس ہوا کہ امام علیہ السلام دشمن کے شدید باران میں زخمی نہ ہو جائیں لہذا امام علیہ السلام کی مرضی کے برخلاف سپر کے طور پر ان کے اطراف

کھڑے ہو گئے لیکن امام علیہ السلام ان لوگوں کی خواہش کے بر خلاف آگے بڑھتے ہی ربے اور دشمن کو پچھاڑتے رہے اچانک امام کے بالکل سامنے آپ کے غلام کیسان اور ابوسفیان کا غلام احمر لڑتے لڑتے آگے اور بالآخر کیسان قتل ہو گئے۔ ابو سفیان کا غلام اپنی کامیابی پر غرور کرتے ہوئے برہنہ تلوار کے ساتھ امام کی طرف آیا لیکن امام علیہ السلام نے پہلے ہی حملے میں اس کی زرہ کے دستہ پر ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر اٹھایا اور پوری طاقت سے اُسے زمین پر اس طرح پٹکا کہ اسکا شانہ اور بازو ٹوٹ گیا اور پھر اسے چھوڑ دیا اس وقت امام حسین علیہ السلام اور محمد حنیفہ نے اپنی تلوار سے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا اور امام کے پاس واپس گئے ، امام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کہا، اپنے بھائیوں کی طرح اس کے قتل میں کیوں شریک نہ ہوئے۔

امام نے جواب دیا "گفیبانی یا امیر المومنین" یعنی وہ دونوں بھائی کافی تھے ، زید بن وہب کہتے ہیں ، امام علیہ السلام جنتا شام کے لشکر سے قریب ہوتے تھے اپنی رفتار کو بڑھاتے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس خوف سے کہ کہیں معاویہ کی فوج امام علیہ السلام کا محاصرہ نہ کر لے اور آپ کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے ، حضرت سے کہا تھوڑا سا ٹھہر جائیں تو آپ کے وفادار ، ثابت قدم قبیلہ ربیعہ کے ساتھی آپ تک پہنچ جائیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے جواب میں فرمایا: "ان لا بیك یوماً لَنْ یَعْدُوهُ وَلَا یُطِیُّ بِهٖ عَنْهُ السَّعُ وَلَا یُجْعَلُ بِهٖ اِلَیْهِ الْمَشَّ أَنْ اَبَاكَ وَاللَّهِ لَا یُبَالِیْ وَقَعَ عَلَی الْمَوْتِ اَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَیْهِ" (۱)

"تمہارے باپ کی موت کے لئے ایک دن معین ہے جو آگے نہیں بڑھے گا، توقف سے نہ تو پیچھے ہٹے گا ، تمہارے باپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ وہ موت کا استقبال کریں یا موت خود ان کا استقبال کرے۔"

ابو اسحاق کہتے ہیں: امام علیہ السلام جنگ صفین کے دوران اپنی فوج کے سردار سعید بن قیس کے پاس سے گزرے جب کہ امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ تھا، اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ دشمن سے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے اچانک ان کے ہاتھوں قتل ہو جائیں؟ امام علیہ السلام نے اس کے جواب فرمایا، "انہ لیس من احد الا علیہ من الله حفظة یحفظونه من ان یتردئ فی قلبی اویخر علی حائط او تصیبه آفة، فاذا جا القدر خلو بیئہ و بیئہ" (۲) "کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ خدا کی طرف سے اس پر محافظ ہے کہ اگر وہ کنوینمیں گر جائے یا دیوار کے نیچے دب جائے یا اس پر آفت آجائے تو وہ اس کی حفاظت کرے گا اور جب قدرت کا لکھا ہوا وقت پہنچ جائے گا تو وہ خود اپنی سر نوشت کو پہنچ جائے گا۔"

(۱) وقوعہ صفین ص ۲۴۸، ۲۵۰۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیدج ۵ ص ۱۹۸، ۲۰۰، تاریخ طبری ج ۳ جز ۶ ص ۱۱۰، ۱۱۱۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۵۱، ۱۵۲۔

(۲) وقوعہ صفین ص ۲۵۰۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیدج ۵ ص ۱۹۹۔

معاویہ کے غلام حریث کا قتل

شام کی فوج میں سب سے بڑا بہادر معاویہ کا غلام حریث تھا ، وہ کبھی کبھی معاویہ کا کپڑا پہن کر جنگ کرتا تھا اور جو لوگ اسے نہیں پہچانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ معاویہ جنگ کر رہا ہے۔

ایک دن معاویہ نے اسے بلایا اور کہا علی سے جنگ نہ کرو اور اپنے نیزے سے جس کو چاہو مارو، وہ عمرو عاص کے پاس گیا اور اس سے معاویہ کی بات بتائی، عمرو عاص (چاہے اس کی جو بھی نیت رہی ہو) نے معاویہ کی بات کو غلط بتایا اور کہا اگر تو قرشی ہوتا تو معاویہ کی خواہش و آرزو یہی ہوتی کہ تو علی کو قتل کر دے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ افتخار کسی غیر قرشی کو نصیب ہو لہذا اگر تجھے موقع ملے تو علی پر بھی حملہ کر، اتفاقاً امام علیہ السلام اسی دن اپنے سوار لشکر کے سامنے میدان میں آئے ، حریث نے عمر و عاص کی گفتگو پر عمل کرتے ہوئے امام علیہ السلام کو جنگ کی دعوت دی، امام علیہ السلام رجز پڑھنے کے بعد آگے بڑھے اور جنگ شروع کی اسی وقت ایک ضربت اس پر لگائی اور اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جب معاویہ کے پاس خبر پہنچی تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور عمرو عاص کی مذمت میں کہ اسے دھوکہ دیا ہے بہت سے شعر کہے جس کے دوشعر یہ ہیں :

حریث الم تعلم وجھلک ضائر

بان علیاً للفرارس قاہر

وان علیاً لم یبارزہ فارس

من الناس الا اقصدتہ الا ظافر

حریٹ(اے میرے شکست کھائے ہوئے بہادر) کیا تو نہیں جانتا تھا کہ علی تمام بہادروں سے زیادہ بہادر اور کامیاب ہیں علی سے کوئی بھی بہادر جنگ کے لئے نہیں اٹھا مگر یہ کہ ان کے حملے غلط نہ ہوئے اور اسے ختم کر دیا، حریٹ کے قتل ہونے کی وجہ سے معاویہ کی فوج میں خوف پھیل گیا ایک دوسرا بہادر بنام عمر و بن الحصین میدان جنگ میں آیا تاکہ امام علیہ السلام سے اسکا بدلہ لے، لیکن ابھی حضرت کے سامنے بھی نہ آیا تھا کہ امام علیہ السلام کی فوج کے ایک سردار بنام سعید بن قیس کے ہاتھوں مارا گیا۔(۱)

(۱) وقعہ صفین ص ۲۷۲، ۲۷۳۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیدج ۵ ص ۲۱۵، ۲۱۶۔ الاخبار الطول ص ۱۷۶۔

امام علیہ السلام نے معاویہ کو جنگ کی دعوت دی

ایک دن امام علیہ السلام میدان میں آئے اور دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور چاہا کہ آخری مرتبہ معاویہ پر حجت تمام کریں۔

امام علیہ السلام: معاویہ۔ معاویہ۔ معاویہ!۔

معاویہ نے اپنے مخصوص محافظوں سے کہا جاؤ اور مجھے ان کے مقصد سے آگاہ کرو

محافظ: اے ابو طالب کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟

امام علیہ السلام: میں چاہتا ہوں کہ اس سے بات کروں،

محافظ: محافظوں نے معاویہ سے کہا علی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس وقت معاویہ، عمرو عاص کے ساتھ میدان میں آیا اور امام کے سامنے کھڑا ہو گیا، امام علیہ السلام نے عمر و عاص کو نظر انداز کرتے ہوئے معاویہ کی طرف رخ کر کے کہا تجھ پر لعنت ہو کیوں ہمارے درمیان لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں؟ اس سے بہتر ہے کہ تو میدان میں آ، تاکہ ایک دوسرے سے جنگ کریں اور ہم مینے جو بھی کامیاب ہو، وہ لوگوں کے امور کی ذمہ داری سنبھالے۔

معاویہ: عمر و عاص اس بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟

عمرو عاص: علی نے انصاف کے بات کہی ہے اگر تو نے منہ پھیر لیا تو تیرے خاندان کے دامن پر ایسا داغ لگے گا کہ جب تک عرب اس دنیا میں زندہ رہیں گے اس وقت تک نہیں دھلا جاسکے گا۔

معاویہ: عمرو میرے جیسا ہرگز تیرے دھوکہ میں نہیں آئے گا کیونکہ کوئی بھی بہادر و شجاع علی سے جنگ کرنے نہ اٹھا

مگر یہ کہ زمین اس کے خون سے سیراب ہو گئی یہ جملہ کہنے کے بعد دونوں اپنی فوج کی طرف واپس چلے گئے،

امام علیہ السلام بھی مسکرائے اور اپنی فوج کی طرف واپس آگئے، معاویہ نے عمرو کی طرف رخ کر کے کہا، تو کتنا نادان

اور بھولا ہے اور پھر کہا کہ مجھے گمان ہے کہ تیری یہ درخواست واقعی نہ تھی بلکہ تو مذاق

کر رہا تھا (۱)

شہید کے بیٹے کی بہادری

ہاشم مر قال، امام علیہ السلام کی فوج کے بہادر اور طاقتور سردار تھے اور اسلام کی عظیم جنگوں میں ان کی روشن اور

عمدہ کارکردگی کسی سے پوشیدہ نہیں تھی، ممکن تھا کہ ان کی شہادت کی وجہ سے امام علیہ السلام کے لشکر میں بے

ادبی پیدا ہو جائے، لیکن ان کے بیٹے کے شعلہ ور خطبے نے حالات کو تبدیل کر دیا اور اس کی راہ پر چلنے والوں نے

اسے اور بھی مصمم بنا دیا، اس نے اپنے باپ کے پرچم کو ہاتھ میں لیا (۱) اور راہ حق و حقیقت کے جانبازوں کی طرف

رخ کر کے کہا: "ہاشم خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جس کے لئے ایک دن معین تھا اور اس کے کارنامے الہی دفتر

میں محفوظ ہیں، اس کی موت آگئی اور وہ خدا کہ جس کی مخالفت نہیں کر سکتے اس نے اسے اپنی طرف بلالیا اور اس نے

بھی موت کا جام پی لیا اور پیغمبرؐ کے اس چچازاد بھائی کی راہ میں جہاد کیا جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لایا اور خدا کے

قوانین لوگوں سے زیادہ خبر رکھنے والا، اور خدا کے دشمنوں کا سخت مخالف ہے، وہ دشمنان خدا جنہوں نے خدا کے حرام

کو حلال بناتے ہیں اور لوگوں کے درمیان ظلم و ستم کے ساتھ حکومت کرتے ہیں اور شیطان ان لوگوں پر کامیاب ہو گیا

اور ان کے برے کاموں کو انکی نظر میں خوبصورت بنا کر دکھایا ہے۔

تم پر ان لوگوں سے جہاد کرنا واجب ہے جنہوں نے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کی ہے اور حدود الہی (سزاؤں) کو جاری

نہیں کیا اور خدا کے دوستوں کی مخالفت کے لئے اٹھ گئے ہیں، اس دنیا میں اپنی پاکیزہ جانوں کو خدا کی راہ میں قربان کرو

تاکہ آخرت میں بلند ترین مقام پر فائز ہو (اس کے بعد کہا) "فَلَوْلَمْ يَكُنْ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ لَكَانَ الْقِتَالُ مَعَ عَلِّ أَفْضَلَ مِنَ الْقِتَالِ مَعَ مَعَاوِيَةَ بْنِ أَكْبَادٍ وَكَيْفَ وَأَنْتُمْ تَرْجُونَ مَا تَرْجُونَ" (۳) اگر بالفرض، ثواب و عذاب نہ ہو،

- (۱) وقوعہ صفین ص ۲۷۴، ۲۷۵۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۵ ص ۲۱۷، ۲۱۸۔ الاخبار الطول ص ۱۷۶، ۱۷۷، تاریخ طبری ج ۳ جزء ۶ ص ۲۳۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۵۸ (تھوڑے فرق کے ساتھ)  
 (۲) الاخبار الطول ص ۱۷۴۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۹۳۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۸ ص ۲۹۔  
 (۳) وقوعہ صفین ص ۳۵۶۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۸ ص ۲۹۔

جنت و جہنم نہ ہو، تو کیا علی کے رکاب میں رہ کر معاویہ جگر خوار کے بیٹھے کے ساتھ جنگ کرنا بہتر نہیں ہے اور کیوں ایسا نہ ہو کیونکہ تم لوگ امید وار ہو اس چیز کے جس کی امید رکھتے ہو۔ ابھی شہید کے بیٹھے کی شعلہ ور گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ ابو طفیل صحابی جو امام علیہ السلام کے مخلص شیعوں میں سے تھا ہاشم کے متعلق اشعار کہے جس کا صرف پہلا شعر یہاں نقل کر رہے ہیں:

يَا هَاشِمَ الْخَيْرِ جَزِيَتِ الْجَنَّةِ  
 قَاتَلْتُ فِي اللَّهِ عَدُوَّ السَّنَةِ (۱)

(خدا کے بہترین بندے ہاشم تیری جزا جنت ہے اور تم نے اللہ کی راہ میں سنت الہی کے دشمنوں سے جہاد کیا۔ رضوی)

لومڑی، شیر کے پنجے میں

جنگ کی شدت نے معاویہ کی فوج کے لئے زمین تنگ کر دی تھی اور جنگ چھیڑنے والوں نے لوگوں کی زبان کو بند کرنے کے لئے مجبور ہوئے کہ خود بھی میدان میں جائیں، عمرو عاص کا ایک دشمن حارث بن نصر تھا اگرچہ دونوں ایک ہی مزاج کے تھے لیکن ایک دوسرے کے مخالف تھے حارث نے اپنے شعر میں عمر و پر اعتراض کیا کہ وہ کیوں خود علی کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کرتا فقط دوسروں کو میدان میں روانہ کرتا ہے، اس کے اشعار شام کی فوج کے درمیان منتشر ہو گئے عمر و مجبور ہوا کہ ایک ہی بار صحیح میدان جنگ میں امام علیہ السلام کے روبرو ہوا، لیکن میدان سیاست کی لومڑی نے میدان جنگ میں بھی مکر و فریب سے کام لیا جب امام علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو حضرت نے اسے مہلت نہیں دی اور نیزے کے زور سے اسے زمین پر گرا دیا عمر و نے جو امام کی جواں مردی سے آگاہ تھا فوراً برہنہ ہو کر اپنی جان بچائی امام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ (۲)

(۱) وقوعہ صفین ص ۳۵۹۔

(۲) وقوعہ صفین ص ۴۲۳۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۶ ص ۳۱۳۔ اعیان الشیعہ ج ۱ ص ۵۰۱۔

عمرو عاص اور مالک اشتر آمنے سامنے

میدان جنگ میں مالک اشتر کی بہادری نے معاویہ کی آنکھوں میں نیند حرام کر دی تھی، لہذا مروان بن حکم کو حکم دیا کہ کچھ لوگوں کی مدد سے مالک اشتر کو قتل کر دے مگر مروان نے اس ذمہ داری کو قبول نہیں کیا اور کہا: تمہارا سب سے قریبی ساتھی عمرو عاص ہے کہ جس سے تو نے مصر کی حکومت کا وعدہ کیا ہے بہتر ہوتا کہ اس ذمہ داری کو اس کے کاندھوں پر ڈالتا، وہ تمہارا رازدار ہے نہ کہ میں، اس پر تو نے اپنا لطف و کرم کیا ہے اور مجھے محروموں کے خیمے میں جگہ دی ہے، معاویہ نے مجبور ہو کر عمر و عاص کو یہ ذمہ داری سونپی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ مالک اشتر سے جنگ کرے، کیونکہ ان کی بے مثال بہادری اور جنگی تدبیروں نے شامیوں کی فوج کی صفوں کو درہم برہم کر دیا تھا، عمرو عاص جو مروان کی باتوں سے باخبر تھا مجبوراً ذمہ داری کو قبول کیا لیکن مگس کہاں اور سمیرغ (بہت بڑا پرندہ) کی عظمت کہاں؟ عمرو عاص جب مالک اشتر کے سامنے آیا تو اس کا بدن لرز رہا تھا لیکن میدان سے ہٹانے کی بدنامی کو بھی قبول نہیں کیا، دونوں طرف سے رجز کا سلسلہ ختم ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا، عمرو پر جب مالک اشتر نے حملہ کیا تو پیچھے ہٹ گیا اور مالک اشتر کے نیزے سے اس کے چہرے پر خراش پڑ گئی،



عمر نے اپنی جان کے خوف سے اپنے چہرے کے زخم کا بہانہ بنایا اور ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام اور دوسرے ہاتھ سے اپنے چہرے کو پکڑا اور بہت تیزی سے اپنی فوج کی طرف بھاگ گیا اس کے میدان سے بھاگنے کی وجہ سے معاویہ کے سپاہیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ کیوں ایسے ڈرپوک اور بے غیرت انسان کو ہمارا امیر بنایا ہے۔ (۱)

(۱) وقعہ صفین ص ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۸ ص ۷۹۔

پربیز گار نوجوان اور دنیا طلب بوڑھا

جنگ کے دنوں میں ایک دن مالک اشتر نے عراقیوں کے درمیان بلند آواز سے کہا، کیا تمہارے درمیان میں کوئی ایسا ہے جو اپنی جان کو خدا کی مرضی کے بدلے بیچ دے؟ ایک نوجوان اثال بن حجل میدان میں گیا، معاویہ نے ایک بوڑھے کو جس کا نام بھی حجل تھا میدان جنگ میں اس کے مقابلے کے لئے بھیجا دونوں ایک دوسرے پر نیزے سے حملہ کر رہے تھے اور اسی حالت میں اپنا حسب و نسب بھی بیان کر رہے تھے اچانک انہیں معلوم ہوا کہ وہ باپ اور بیٹے ہیں اس لئے وہ دونوں گھوڑے سے اترے اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے باپ نے بیٹے سے کہا اے میرے لال دنیا کی طرف آجا! بیٹے نے کہا اے بابا آپ آخرت کی طرف آجائیے یہی آپ کے لئے بہتر ہے اگر میں دنیا کو طلب کروں اور شامیوں کی طرف جاؤں تو آپ مجھے اس کام سے روکینا آپ علی اور ان مومن اور صالح دوستوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالآخر یہ طے ہوا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ واپس چلے جائیں۔ (۱) وہ جنگ جس کی بنیاد عقیدہ سے دفاع ہو اس میں بر طرح کا رشتہ، سوائے دینی رشتہ کے، سب بیکار ہے۔

شام کے سپاہیوں کی بزدلی

اگر معاویہ کی فوج کا ایک سردار تھا، جو معاویہ کی زیادہ فوج کے مارے جانے کی وجہ سے بہت غمگین تھا، اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شامی معاویہ کی خواہشات نفسانی کا شکار ہوئے ہیں اور غصبی حکومت کی حفاظت کرنے کے لئے ایسی وحشتناک جنگ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے شام میں رہنے والے یمنی لوگوں کے درمیان اس نے بلند آواز میں کہا: افسوس ہے تم لوگوں پر۔ اے یمن کے لوگو، اے لوگو جو خود کو فنا کرنا چاہتے ہو، ان دونوں آدمیوں (علی اور معاویہ) کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ آپس میں جنگ کریں اور ان میں سے جو بھی کامیاب ہو، ہم اس کی پیروی کریں، جب ابرہہ کی باتیں امام علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا: بہت اچھی بات کہی ہے جب سے میں شام کی سرزمین پر آیا ہوں ایسی بات نہیں سنی ہے، اس خبر کے پھیلنے کی وجہ سے معاویہ بہت خوف زدہ ہوا اور خود فوج کی آخری صف میں گیا اور اپنے اردگرد رہنے والوں سے کہا ابرہہ کی عقل زائل ہو گئی ہے جبکہ یمن کے تمام لوگوں نے مل جل کر کہا ابرہہ عقلمندی، دینداری اور بہادری میں سب لوگوں سے اچھا ہے۔

ایسے حالات میں شام کی فوج کو حوصلہ دینے کے لئے عروہ دمشقی میدان جنگ میں گیا اور پکار کر کہا: اگر معاویہ نے علی سے جنگ کرنے سے منہ موڑا ہے تو اے علی میرے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ امام علیہ السلام کے دوستوں نے چاہا کہ اس کو اس مقابلے (اس کے کمینہ پن کی وجہ سے) سے روکیں، لیکن امام علی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا اور فرمایا، معاویہ اور عروہ دونوں میری نظر میں برابر ہیں، اتنا کہنے کے بعد اس پر حملہ کیا اور سے ایک ہی وار میں دو ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم کر دیا کہ دونوں ٹکڑے ادھر ادھر گر گئے دونوں فوجیں امام علی علیہ السلام کے اس زبردست وار سے لرز اٹھیں، اس وقت امام علیہ السلام نے لاش کے دونوں ٹکڑوں سے کہا: اس خدا کی قسم جس نے پیغمبر اسلام (ص) کو پیغمبری کے لئے چنا، آگ کو دیکھا اور پشیمان ہو گئے، اس وقت عروہ کا چچا زاد بھائی اس کا انتقام لینے کیلئے میدان میں آیا اور امام علی علیہ السلام

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۸ ص ۸۲۔ وقعہ صفین ص ۴۳۔

سے جنگ کرنے کا خوابا نہوا، اور وہ بھی امام کی تلوار کے وار سے عروہ کے پاس پہنچ گیا۔ (۱)



تاریخ اپنے کو دہراتی ہے

امام علیہ السلام کی بے مثال بہادری کے سامنے فوج شام کا دل بیٹھنے لگا، معاویہ جو پہاڑ کی چوٹی سے تمام حالات کا مشاہدہ کر رہا تھا، بے اختیار شام کے لوگوں کی مذمت کرنے لگا اور کہا: برباد بوجاؤ، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا نہیں ہے جو ابو الحسن کو جنگ کے وقت یا حملہ کر کے یا جب دونوں فوجیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اور گرد و غبار انہیں چھپا دیتا ہے، ایسے وقت قتل کر دے؟ ولید بن عتبہ جو معاویہ کے پاس کھڑا تھا اس نے معاویہ سے کہا، تو اس کام کو انجام دینے میں سب سے زیادہ بہتر ہے، معاویہ نے کہا، علی نے مجھے ایک با رجنگ کی دعوت دی لیکن میں پرگز ان کے مقابلہ میں میدان میں نہیں جاؤں گا کیونکہ فوج سردار کی حفاظت کے لئے ہے، آخر اس نے بُسر بن ارطاة کو امام علیہ السلام سے مقابلے کرنے کی تشویق و ترغیب دلائی اور کہا، اس سے جب گرد و غبار ہو اس وقت جنگ کرو، بُسر کا چچازاد بھائی جو ابھی حجاز سے شام آیا تھا اس نے بُسر کو اس کام سے روکا لیکن چونکہ بُسر نے معاویہ سے وعدہ کر لیا تھا اس لئے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا، جب کہ اس کا پورا بدن لوہے سے چھپا ہوا تھا، اس نے علی علیہ السلام کو جنگ کی دعوت دی امام علیہ السلام کے نیزے کے وارنے اسے زمین پر گرادیا اور اس نے بھی عمر و عاص کی طرح اپنی شرمگاہ سے لباس ہٹا دیا اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے اس کا پیچھا نہیں کیا۔

صلح کے لئے معاویہ کا اصرار

صفین میں جنگ کے طولانی ہونے اور فوج شام سے بہت زیادہ سپاہی مارے جانے کی وجہ سے معاویہ نے ارادہ کیا کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو، امام علیہ السلام کو صلح و دوستی اور جنگ ختم کرنے اور دونوں فوجوں کو ان کے اصلی مرکز پر واپس جانے کے لئے تیار کرے اور اس کام کو ایک خاص طریقے سے شروع کیا کہ جس میں سے تین اہم راستے یہ تھے۔

۱۔ اشعث بن قیس سے گفتگو

۲۔ قیس بن سعد سے گفتگو

۳۔ امام علیہ السلام کو خط لکھنا

لیکن امام علیہ السلام کی فوج کے مستحکم ایمان و عقیدہ کی بنا پر اس کا یہ پروگرام بے نتیجہ ثابت ہوا یہاں تک کہ مسئلہ "الیلة الہریر" پیش آگیا اور قریب تھا کہ معاویہ کی پوری فوج معدوم ہو جائے لیکن معاویہ کا فریب و دھوکا اور عراقیوں کا سادہ لوح ہونا شام کے جاسوسوں کا امام علیہ السلام کی فوج میں کام کرنا، حالات کو شام کی فوج کے حق میں لے گیا یہاں معاویہ کی ملاقاتوں اور گفتگوؤں کو ذکر کر رہے ہیں:

امعاویہ نے اپنے بھائی عتبہ بن ابو سفیان کو جو بہتر بن خطیب تھا اپنے پاس بلایا اور یہ ذمہ داری سونپی کہ اشعث بن قیس جو امام کی فوج میں کافی نفوذ رکھتا تھا، سے ملاقات کرے اور اس سے درخواست کرے کہ طرفین سے جو باقی ہیں ان پر رحم کرے، عتبہ فوج کے بالکل سامنے آیا اور وہیں سے اس نے اپنا تعارف کرایا پھر اشعث کو بلایا تاکہ معاویہ کا پیغام اس تک پہنچائے اشعث نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ وہ فضول آدمی ہے اس سے ملاقات کرنا چاہیے عتبہ کے پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر بنا یہ ہوتی کہ معاویہ، علی کے علاوہ کسی اور سے ملاقات کرنا تو صرف تجھ سے ملاقات کرنا کیونکہ تو عراق کے لوگوں کا سردار اور اہل یمن کے بزرگوں میں سے ہے اور عثمان کا داماد اور اس کا کارمند تھا تیرا مسئلہ مالک اشتر اور عدی بن حاتم سے جدا ہے، اشتر عثمان کا قاتل اور عدی اس کام کی طرف رغبت دلانے والا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ علی کو چھوڑ دو اور معاویہ کی مدد کو پہنچو بلکہ تجھے جو افراد باقی بچے ہیں ان کی حفاظت کے لئے بلا رہا ہوں اس میں تمہارے اور میرے لئے مصلحت ہے۔

اشعث نے اس کے جواب میں امام علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف و تکریم کی اور کہا عراق اور یمن میں سب سے بزرگ علی ہیں لیکن اپنے کلام کے آخر میں ایک سیاسی کے مثل اس نے صلح کی درخواست قبول کر لی اور کہا کہ تمہاری ضرورت باقی بچے لوگوں کی حفاظت کے لئے ہم سے زیادہ نہیں ہے جب عتبہ نے اشعث کی باتوں سے معاویہ کو باخبر

کیا تو اس نے کہا "فَدَّ جَنَحَ لِّلْسَلْمِ" صلح کے لئے آمادگی ظاہر کی ہے۔ (۱)

(۱) وقوعہ صفین ص ۴۰۸۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۸ ص ۶۱۔ الامامة و السياسة ج ۱ ص ۱۰۲۔ اعیان الشیخہ ج ۱ ص ۵۰۳۔

۲۔ پیغمبر اسلام (ص) کے اصحاب جو مہاجرین اور انصار میں سے تھے امام علیہ السلام کے اطراف میں جمع تھے، انصار میں سے صرف افراد نعمان بن بشیر اور مسلمہ بن مخدّم نے معاویہ کا ساتھ دیا، معاویہ نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ امام علیہ السلام کے بہادر سردار قیس بن سعد سے ملاقات کرو اور اس کو اپنی طرف راغب کر کے صلح کے مقدمات کو فراہم کرو اس نے جب قیس سے ملاقات کی تو دونوں فوجوں کو جو نقصان پہنچے تھے اس کو بیان کیا اور کہا: "أَخَذْتُ الْحَرْبُ مِنَّا وَمَنْكُم مَّارَأً يَتَمُ فَانْفُو اللَّهُ فِي الْبَقِيَّةِ" جنگ نے ہم سے اور تم سے وہ چیزیں لے لی ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، لہذا جو باقی بچے ہیں ان کے لئے خدا سے ڈرو (اور ان کے بارے میں کچھ فکر کرو)۔

قیس نے نعمان کے جواب میں معاویہ اور علی علیہ السلام کے ساتھیوں کے حالات بیان کیے اور کہا ہم نے پیغمبر (ص) کے زمانے میں خوش و خرم ہو کر دشمن کے نیزہ و تلوار کا جواب دیا اور حق کامیاب ہو گیا اگرچہ کافر اس کام سے ناراض تھے۔ اے نعمان یہ لوگ جو معاویہ کے مدد کر رہے ہیں وہ تھوڑے سے آزاد کئے ہوئے اور بیابانوں میں رہنے والے اور یمنی لوگ ہیں جو معاویہ کا دھوکہ کھانے ہوئے ہیں علی کی طرف دیکھو کہ ان کے اطراف میں تمام مہاجرین و انصار اور تابعین جمع ہیں اور ان سب سے خدا راضی ہے لیکن معاویہ کے اطراف میں تمہارے اور تمہارے دوست (مسلمہ بن مخدّم) کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور تم میں سے کوئی ایک بھی نہ جنگ بدر میں تھا اور نہ ہی احد میں اور نہ ہی اسلام کے لئے تم لوگوں کی خدمات ہیں اور نہ ہی تم لوگوں کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی اگر ان چیزوں کے برخلاف تم نے قدم بڑھایا تو اس کے پہلے تمہارے باپ نے بھی یہی کام کیا تھا۔ (۱)

۳۔ ان سب ملاقاتوں کا مقصد صرف اور صرف صلح اور سازش تھی لیکن معاویہ کا مقصد پورا نہ ہوا اس وجہ سے وہ مجبور ہوا کہ امام علیہ السلام کو خط لکھے اور اس میں ایسی چیز کی درخواست کرے جس کی اس نے سرکشی و نافرمانی کے پہلے ہی دن درخواست کیا تھا یعنی شام کی حکومت اسے دیدیں بغیر اس کے کہ اطاعت

(۱) اس سے مراد سقیفہ کا واقعہ ہے جس میں نعمان کے باپ بشیر نے صرف اس وجہ سے کہ اس کے چچا زاد بھائی قیس کے باپ یعنی سعد بن عبادہ تک خلافت نہ پہنچے اٹھا اور ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور انصار کے اتحاد کو توڑ دیا، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۸ ص ۸۷، وقوعہ صفین ص ۴۰۸، الامامة و السياسة ج ۱ ص ۹۷۔

اور بیعت اس کی گردن پر ہو اور اس وقت کہا ہم سب عبد مناف کے بیٹے ہیں اور ہم میں کوئی بھی ایک دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا مگر وہ شخص جو عزیز کو خوار و ذلیل اور آزاد کو غلام نہ کرے۔ امام علیہ السلام نے اپنے منشی ابن ابی رافع کو بلا یا اور اسے حکم دیا کہ اس کا جواب اس طرح لکھو جیسے کہ میں لکھوار ہوں، امام علیہ السلام کے خط کی عبارت نہج البلاغہ مکتوب نمبر ۱۷ کے ضمن میں تحریر ہے۔ (۱)

(۱) اس خط کی عبارت جو کہ نہج البلاغہ میں تحریر ہے اور یہ عبارت جو کہ اخبار الطوال ص ۱۸۷، اور الامامة و السياسة ج ۱ ص ۱۰۳، ۱۰۴۔ اور وقوعہ صفین ص ۴۷۱۔ میں ہے فرق ہے۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

انیسویں فصل

## جنگ صفین میں تبدیلی اور تاریخ اسلام

امام علیہ السلام نے ۱۰ ربیع الاول ۳۸ھ منگل کے دن ہنگام فجر جبکہ ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، نماز صبح اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھی آپ فوج شام کی ناتوانی اور خستگی سے مکمل طور پر آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ دشمن آخری مورچے تک پیچھے چلا گیا ہے اور ایک زبردست حملے سے معاویہ کے خیمہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے آپ نے مالک اشتر کو حکم دیا کہ فوج کو منظم کریں جب کہ مالک اشتر لوہے کا پورا لباس پہنے تھے فوج کے پاس آئے اور اپنے نیزے پر ٹیک لگایا اور بلند آواز سے پکارا "سُوْاْصْفُوْفُكُم رَجَمَكُمُ اللّٰه" اپنی صفوں کو مرتب کرو تھوڑی دیر نہ گزرے تھی کہ حملہ شروع ہو گیا اور ابتدا سے ہی دشمن کی شکست ان کے بھاگنے کی وجہ سے ظاہر ہو گئی تھی۔ اس موقع پر ایک شام کا آدمی باہر آیا اور امام علیہ السلام سے بات کرنے کی پیشکش کی امام علیہ السلام نے دونوں صفوں کے درمیان اس سے گفتگو کی اس نے فرمائش کی کہ دونوں فوجیں اپنی پہلی جگہ پر واپس چلی جائیں اور امام، شام کو معاویہ کے حوالے کر دیں، امام علیہ السلام نے اس کی فرمائش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس موضوع کے بارے میں مدتوں فکر کیا ہے اور اس میں دو راستوں کے علاوہ میں نے کوئی راستہ نہیں دیکھا یا فرمائشوں سے جنگ کرونا کافر ہو جائوں اور جو چیز پیغمبر پر نازل ہوئی ہے اس سے انکار کر دوں اور خدا اس سے بالکل راضی نہیں ہے کہ اس کی مملکت میں گناہ و نافرمانی ہو اور دوسرے لوگ اس کے مقابلے میں خاموش رہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے منہ پھیر لیں، اسی وجہ سے ہم نے نافرمانوں سے میل جول کے بجائے جنگ کرنا بہتر جانا ہے۔ وہ شخص امام علیہ السلام کی رضامندی حاصل کرنے سے مایوس ہو گیا جب کہ اسکی زبان پر "اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا الْاَلِيُّ رَاَجِعُونَ" کی آیت جاری تھی وہ سیاہ شام کی طرف واپس چلا گیا۔ (۱)

دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی اور اس جنگ میں جتنے بھی وسائل

(۱) الاخبار الطوال ص ۱۸۷۔ وقعہ صفین ص ۴۷۴۔ اعیان الشیعہ ج ۱، ص ۵۱۰۔

ممکن تھے اسے استعمال کیا گیا تیر و پتھر، نیزہ و تلوار اور لوہے سلاخیں جو دونوں طرف کے فوجیوں کے سر پر مثل پہاڑ کے گر رہے تھے استعمال ہوئے جنگ بدھ کو صبح تک جاری رہی معاویہ کی فوج کے لوگ زخمی اور قتل ہوئے، لوگ اس رات میں کتوں کی طرح چیخ رہے تھے اور اسی لئے بدھ کی اس رات کو تاریخ نے "الیلة البہریر" کے نام سے یاد کیا۔

مالک اشتر اپنے سپاہیوں کے درمیان ٹہل رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے: لوگو فتح و کامرانی میں ایک کمان سے زیادہ کا فاصلہ نہیں بچا ہے اور بلند آواز سے کہا "الَا مِنْ یَسْرِیْ نَفْسِہٖ بِہٖ وِیْقَاتِلْ مَعَ الْاَشْتَرِ حَتّٰی یَظْہَرَ اَوْ یَلْحَقَ بِاللّٰہِ"؟ یعنی کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی جان کو خدا کے لئے بیچ دے اور اس راہ میں اشتر کے ساتھ جنگ کرے تاکہ فتح پائے یا خدا سے ملحق ہو جائے؟ (۱)

امام علیہ السلام نے ایسے حساس موقع پر اپنے سرداروں اور فوج کے بااثر افراد کے سامنے تقریر کی اور فرمایا: "اے لوگو، تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ تمہارا دشمن کا اقدام کہاں تک پہنچ چکا ہے اور دشمن کے پاس آخری سانس کے سوا کچھ باقی نہیں ہے کام کی آغاز کو انجام کے ساتھ میں حساب کیا جاتا ہے میں صبح کے وقت ان لوگوں کو محکمہ الہی میں لے جاؤں گا اور ان کی ذلت بھری زندگی کو ختم کر دوں گا۔ (۲)

معاویہ امام علیہ السلام کی تقریر سے باخبر ہوا لہذا عمرو عاص سے کہا یہ وہی رات ہے کہ علی کل جنگ کو یک طرفہ کر دینگے اس وقت ضروری ہے کہ کچھ فکر کرو؟

عمر و عاص نے کہا: نہ تمہارے سپاہی ان کے سپاہی کی طرح بینا اور نہ تو ہی ان کی طرح ہے وہ دینی جذبے کے تحت جنگ کر رہے ہیں اور تو دوسرے مقصد کی خاطر، تو زندگی کی تمنا کر رہا ہے اور وہ شہادت کے طلبگار ہیں، عراق کی فوج تمہاری فتح سے خوف زدہ ہیں، جب کہ شام کی فوج علی کی فتح سے خوف زدہ نہیں ہے۔

معاویہ: اس وقت کیا کرنا چاہئے؟

عمر و عاص: اس وقت ایسی دعوت دینی چاہیے کہ اگر قبول کریں تو اختلاف کا شکار ہو جائیں اور اگر

(۱) تاریخ طبری ج ۳ جزئی ۶ ص ۲۶۔ واقعہ صفین ص ۴۷۵۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۶۰۔

(۲) واقعہ صفین ص ۴۷۶۔ الاخبار الطوال ص ۱۸۸۔ الامامة و السياسة ج ۱ ص ۸۔

قبول نہیں کریں تو دوگروہ ہوجائیں گے ان لوگوں کو خدا کی کتاب کی طرف دعوت دو تاکہ خدا کی کتاب تمہارے اور ان کے درمیان حاکم ہے اس طرح سے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوجائے گا، یہ بات بہت دنوں سے ہمارے ذہن میں تھی لیکن اس کو ظاہر کرنے سے میں نے پرہیز کیا تاکہ اس کا وقت پہنچ جائے، معاویہ نے اپنے قدیمی ترین ساتھی کا شکر یہ ادا کیا اور اس نقشے کو عملی صورت دینے کی کوشش میں لگ گیا۔

۱۳ ربیع الاول جمعرات کے دن صبح سویرے یا ایک قول کی بناء پر ۱۳ صفر کو امام علیہ السلام کی فوج بالکل نئے دھوکے سے روبرو ہوگئی، اس کی وجہ سے عمر و عاص نے شام کے سرکشوں کی جو خدمت کی امیہ کے گروہ کو دوبارہ زندگی کے حق میں اور وہ معاشرے میں منہ دیکھانے کے لائق ہوئے، شام کی فوج نے عمرو کے دستور کے مطابق قرآن کو نوکِ نیزہ پر اٹھایا اور صف میں کھڑی ہوگئی، دمشق کا سب سے بڑا قرآن دس آدمی کی مدد سے نوکِ نیزہ پر اٹھایا گیا اور اس وقت سب نے ایک آواز ہو کر نعرہ بلند کیا "ہمارے اور تمہارے درمیان خدا کی کتاب حاکم ہے" عراقیوں کے کان میں یہ آواز پہنچی اور ان کی آنکھیں نوکِ نیزہ پر پڑیں شام کی فوج سے نعروں اور رحم و کرم کی فریادوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز سنائی نہیں دے رہی تھی سب ایک آواز ہو کر کہہ رہے تھے:

"اے عرب کے لوگو اپنی عورتوں اور لڑکیوں کے لئے خدا کو نظر میں رکھو!"

خدا کے واسطے خدا کے واسطے دین کے واسطے میں!

شام کے لوگوں کے بعد کون شام کی سرحدوں کی حفاظت کرینگے اور عراق کے لوگوں کے بعد کون عراق کی سرحدوں کی حفاظت کرینگے؟

کون لوگ روم و ترک اور دوسرے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے باقی رہیں گے؟ (۱)

قرآن اور ان کے محبت آمیز نعروں کے دلنشین منظر نے امام علیہ السلام کی فوج کے بہت سے سپاہیوں کے عقل و ہوش اڑا دیئے تھے، جنگ کرنے والے بہادر جو کچھ دیر پہلے فخر و مباہات کر رہے تھے اور کامیابی کے

(۱) واقعہ صفین ص ۴۸۱۔ الاخبار الطوال ص ۱۸۸۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۴۰۰۔ تاریخ طبری ج ۳ جزئ ۶ ص ۲۶۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۶۰۔

ایک قدم فاصلے پر تھے افسوس اور تأسف میں اپنی جگہ پر گڑکر رہ گئے لیکن عدی بن حاتم، مالک اشتر، اور عمرو بن الحمق جیسے شجاع و بہادر ان کے فریبی حربہ سے باخبر تھے اور جانتے تھے کہ چونکہ دشمن کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اور نابود ہونے کی منزل میں ہیں لہذا وہ اپنے کو اس طریقے سے نجات دینا چاہتے ہیں ورنہ یہ لوگ کبھی بھی قرآن کو نہ اٹھاتے اور نہ کبھی اٹھائیں گے اسی وجہ سے عدی بن حاتم نے امام علیہ السلام سے کہا: کبھی بھی باطل کی فوج حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی دونوں طرف لوگ زخمی یا قتل ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ باقی بچے ہیں ان لوگوں سے طاقت ور ہیں شامیوں کے نعروں پر دھیان نہ دیجیے اور ہم سب آپ کے مطیع اور فرما نبردار ہیں

مالک اشتر نے کہا: معاویہ کا کوئی جانشین نہیں ہے لیکن آپ کا جانشین موجود اس کے پاس فوجی ہیں لیکن آپ کے فوجی کی طرح صبر و تحمل نہیں رکھتے، لوہے کو لوہے سے کاٹتیے اور خدا سے مدد طلب کیجیے۔

تیسرے (عمرو بن الحمق) نے کہا: اے مولا ہم نے جانبداری کی وجہ سے پر آپ کی حمایت نہیں کی ہے بلکہ خدا کی مرضی کے لئے آپ کی دعوت پر لبیک کہا ہے اس وقت حق آخری نقطے پر پہنچ گیا ہے اور ہم لوگوں کو آپ کے وجود کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہے۔ (۱)

لیکن اشعث بن قیس جس نے اپنے کو امام علیہ السلام کے خیمے کے محافظوں میں شامل کر لیا تھا جس کے حرکات و سکنات پہلے ہی دن سے مشکوک تھے اور معاویہ سے اس کا رابطہ تقریباً آشکار ہوچکا تھا، نے امام علیہ السلام سے کہا: اس قوم کی دعوت کا جواب دیجیے کیونکہ انکی درخواست کا جواب آپ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا اور لوگ زندگی کے خواہاں ہیں اور جنگ سے خوش نہیں ہیں،

امام علیہ السلام اس کی ناپاک نیت سے آگاہ تھے فرمایا اس مسئلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، (۲)

معاویہ نے امام کی فوج کے احساسات کو ابھارنے کے لئے عمرو عاص کے بیٹے عبد اللہ کو جو اس زمانے میں مقدس نما بنا تھا، حکم دیا کہ دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو کر ان لوگوں کو قرآن مجید کے طرف فیصلہ کی دعوت دے، وہ

دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہا: اے لوگو اگر ہماری جنگ دین کے لئے تھی تو دونوں گروہ نے اپنے اپنے مخالف پر حجت تمام کر دی ہے اور اگر ہماری جنگ دنیا کے لئے

(۱) (۲) وقعہ صفین ص ۴۸۲۔ الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۰۸۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۴۰۱۔

تھی تو دونوں گروہ نے حد سے تجاوز کیا ہے ہم تم لوگوں کو کتاب خدا کی حکومت کی دعوت دیتے ہیں اگر تم لوگوں نے دعوت دی ہوتی تو ہم ضرور قبول کرتے اس فرصت کو غنیمت جانو۔ دشمنوں کے اس فریبی نعروں نے عراق کے سادہ لوح لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور لوگ کمزوری و ناتوانائی کی حالت میں امام کے پاس آئے اور کہا ان کی دعوت کو قبول کر لیجئے، امام علیہ السلام نے اس حساس موقع پر دھوکہ کھانے لوگوں کے ذہنوں کو واضح و روشن کرنے کے لئے ان سے کہا: "اے خدا کے بندو! میں ہر شخص کی دعوت کو بحکم قرآن قبول کرنے میں تم لوگوں سے زیادہ شائستہ ہوں لیکن معاویہ، عمرو عاص، ابن ابی معیط، حبیب بن مسلمہ اور ابن ابی سرح اہل دین اور قرآن نہیں ہیں، میں تم لوگوں سے بہتر ان کو پہچانتا ہوں میں نے ان لوگوں کے ساتھ بچپن سے آج تک زندگی گزاری ہے، وہ لوگ ہر زمانے میں بدترین بچے اور بدترین مرد تھے خدا کی قسم ان لوگوں نے قرآن کو اس لئے بلند نہیں کیا کہ وہ قرآن کو پہچانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر عمل کریں ان کا یہ کام مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے اے خدا کے بندو اپنے سروں اور بازوؤں کو کچھ لمحوں کے لئے مجھے عاریہ دے دو، کیونکہ حق قطعی نتیجہ پر پہنچ گیا اور ستمگروں کی جڑ کو کاٹنے میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔

مخلص افراد نے امام علیہ السلام کے نظریہ کی طرفداری کی مگر اچانک عراق کی فوج کے (۲۰) بیس ہزار آدمی جبکہ وہ اپنی لباس پہنے تھے اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات تھے اور کندھوں پر تلواریں لٹکی تھیں، (۱) میدان جنگ چھوڑ کر سردار کے خیمے کے پاس آگئے اس گروہ کی رہبری مسعر بن فدکی، زید بن حصین اور عراق کے بعض قاری کر رہے تھے اور بعد میں یہی لوگ خوارج کے سردار بن گئے یہ لوگ امام علیہ السلام کی قیام گاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ کو یا امیرالمومنین کے بجائے یا علی کہہ کر خطاب کیا اور بے ادبی سے کہا اس قوم کی دعوت کو قبول کر لو ورنہ تمہیں قتل کر دینگے جس طریقے سے عثمان بن عفان کو قتل کیا ہے خدا کی قسم اگر ان لوگوں کی دعوت قبول نہیں کی تو تمہیں قتل کر دینگے۔

وہ سردار جس کی کل تک مکمل اطاعت ہو رہی تھی آج ایسے موڑ پر کھڑا تھا کہ اسے زبردستی تسلیم ہونے اور صلح قبول کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا امام علیہ السلام نے ان لوگوں کے جواب میں کہا:

(۱) واقعہ صفین ص ۴۸۹۔ تاریخ طبری ج ۳ جزئی ۶ ص ۲۷۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۴۰۱۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۶۱۔

"میں پہلا وہ شخص ہونجس نے خدا کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلایا اور پہلا شخص ہونجس نے خدا کی کتاب کی دعوت کو قبول کیا میرے لئے جائز نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو غیر کتاب خدا کی طرف دعوت دوں، میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا کیونکہ وہ لوگ قرآن کے حکم پر عمل نہیں کرتے ان لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی اور اس کے عہد و پیمانہ کو توڑ ڈالا اور اس کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، میں تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے وہ لوگ قرآن پر عمل کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں۔

امام علیہ السلام کی منطقی اور استدلالی گفتگو کا ان لوگوں پر اثر نہ ہوا کچھ دنوں کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ یہ لوگ تندمزاج اور حقیقت کو سمجھنے اور درک کرنے سے غافل تھے شامیوں کے بیہودہ نعروں سے متاثر ہو گئے تھے اور امام علیہ السلام ان کو جتنی بھی نصیحت کرتے وہ اتنے ہی زیادہ شیطان صفت ہوجاتے اور کہتے کہ امام حکم دین کہ مالک اشتر جنگ کرنے سے باز آجائیں۔

ایک فوج کے لئے جنگ کے دوران سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے فوج دو حصوں میں تقسیم ہوجائے اور اس سے بدتر سادہ لوح گروہ کا فتنہ و فساد کرنا اور اپنے عاقل و دانہ سردار کے متعلق سیاسی مسائل سے دور ہونا ہے، امام علیہ السلام اپنے کو کامیابی کی راہ پر دیکھ رہے تھے اور دشمن کی پیش کش کی واقعیت سے باخبر تھے لیکن کیا کرتے کہ آپسی اختلاف نے فوج کے اتحاد و اتفاق کو ختم کر دیا تھا۔

امام علیہ السلام نے (۲۰) بیس ہزار مسلح اور مقدس نما جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے، سے مقابلہ کرنے میں مصلحت نہیں دیکھا اور اپنے ایک قریبی چاہنے والے یزید بن ہانی کو بلایا اور اس سے کہا: تم جتنی جلدی ہو جہانمالک اشتر جنگ میں مشغول ہو وہاں پہنچو اور اشتر سے کہو کہ امام علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جنگ سے ہاتھ روک لو اور میری طرف واپس آجاؤ۔

یزید بن ہانی نے اپنے کو مورچہ تک پہنچایا اور مالک اشتر سے کہا جنگ روک دو اور امام کے چلو مالک اشتر: امام کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دو اور کہہ دو کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ مجھے میدان سے بلانیں امید ہے کہ بہت جلد ہی فتح و کامرانی کی خوشبو پرچم اسلام سے اٹھے۔

قاصد نے واپس آکر کہا کہ اشتر واپس آنے میں مصلحت نہیں سمجھتے اور کہا ہے کہ میں کامیابی کے بالکل قریب ہوں۔ فتنہ فساد کرنے والوں نے امام سے کہا، اشتر کا واپس آنے سے منع کرنا تمہارا حکم ہے تم نے پیغام دیا کہ میدان جنگ میں مقابلہ کریں۔

علی علیہ السلام نے باکمال سنجیدگی فرمایا: میں نے اپنے قاصد سے ہرگز محرمانہ گفتگو نہیں کی ہے بلکہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے تم لوگوں نے سنا ہے تم لوگ کیوں ایسی چیز پر جس کو میں نے واضح و آشکار کہا ہے الزام لگا رہے ہو؟ باغیوں نے کہا جلد سے جلد مالک اشتر کو حکم دو کہ واپس آ جائیں ورنہ جس طرح ہم لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے تمہیں بھی قتل کر دیں گے یا معاویہ کے حوالے کر دیں گے

امام علیہ السلام نے یزید بن ہانی سے کہا جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ مالک اشتر تک پہنچا دو۔

مالک اشتر امام علیہ السلام کے پیغام سے باخبر ہوئے اور قاصد سے کہا کہ یہ فتنہ قرآن کو نیزے پر بلند کر کے پیدا کیا گیا ہے اور یہ عمرو عاص کا کیا ہوا ہے پھر بڑے افسردہ انداز سے کہا کیا تم فتح کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اور خدا کی نشانیاں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایسی حالت میں جنگ کے معرکہ کو چھوڑ دیا جائے؟

قاصد: کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم یہاں رہو اور امیر المومنین قتل کر دینے جائیں دشمن کے سپرد کر دیے جائیں؟ مالک اشتر یہ باتیں سن کر لرزنے لگے اور فوراً جنگ سے ہاتھ روک لیا اور خود امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور جب آپ کی نگاہ فتنہ و فساد کرنے والوں پر پڑی جو ذلت و رسوائی کے طلب گار تھے تو ان سے کہا اس وقت جب تم نے دشمن پر غلبہ پیدا کر لیا ہے اور کامیابی کے مرحلے تک پہنچ گئے ہو، ان کے دھوکے میں آگئے؟ خدا کی قسم ان لوگوں نے خدا کے حکم کو چھوڑ دیا ہے اور پیغمبر کی سنت کو بھی ترک کر دیا ہے ہرگز ان کی درخواست کو قبول نہ کرو اور مجھے کچھ مہلت دو تاکہ کام کو یک طرفہ کر دوں۔

فتنہ و فساد کرنے والے: تمہاری موافقت کرنا تمہاری خطاؤں میں شریک ہونا ہے۔

مالک اشتر: افسوس کے تمہارے بہترین لوگ قتل ہو گئے اور تمہارے مجبور و عاجز لوگ باقی بچے ہیں، مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کس زمانے میں حق پر تھے؟ کیا اس زمانے میں جس وقت تم نے جنگ کی اس وقت حق پر تھے اور اس وقت جب کہ جنگ سے باز آگئے ہو باطل پر ہو؟ یا اس وقت کہ جب تم نے جنگ کی باطل پر تھے اور اس وقت حق پر ہو؟ اگر ایسا گمان رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے تمہارے جتنے بھی افراد قتل ہوئے ہیں اور ان کے ایمان، تقویٰ اور اخلاص کے تم معترف ہو، وہ لوگ جہنم میں ہونگے۔

فتنہ کرنے والے: ہم نے خدا کی راہ میں جنگ کی اور خدا کے لئے جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہم لوگ تمہاری پیروی نہیں کریں گے ہم سے دور ہو جاؤ۔

مالک اشتر: تم لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے اور اس وجہ سے جنگ چھوڑنے کے لئے دعوت دی گئی ہے پیشانیوں پر سجدوں کے نشان رکھنے والو، میں تمہاری نمازوں کو دنیا سے سرخرو جانے اور شہادت کے شوق میں سمجھ رہا تھا لیکن اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تمہارا ہدف موت سے فرار اور دنیا کی طرف رغبت ہے تم پرتف ہو اے فضلہ خوار جانوروں، ہرگز تمہیں عزت نصیب نہیں ہوگی دور ہو جاؤ جس طرح سے ظالم و ستمگر دور ہو گئے اس وقت فتنہ و فساد پیدا کرنے والے ایک طرف اور مالک اشتر دوسری طرف، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور ایک دوسروں کے گھوڑوں پر تازیانہ سے حملہ کر رہے تھے امام علیہ السلام کے سامنے یہ ناگوار منظر اتنا درد ناک تھا کہ آپ نے فریاد بلند کی کہ ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ۔

ایسے حالات میں فتنہ و فساد اور فرصت طلب افراد نے امام علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے فریاد بلند کی کہ قرآن کے فیصلے سے راضی ہو جائیں تا کہ امام کو بنائے ہوئے منصوبے کے سامنے تسلیم کریں۔ امام علیہ السلام خاموش تھے اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے اور فکر کے دریا میں غرق تھے۔ (۱)

(۱) واقعہ صفین ص ۴۸۹، ۴۹۲۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۲۱۶، ۲۱۹۔

### بیسویں فصل مسئلہ تحکیم

عمرو عاص نے معاویہ کو جو مشورہ دیا تھا کہ امام علیہ السلام کی فوج کو قرآن کی حاکمیت کی دعوت دو یا وہ قبول کریں یا نہ کریں آپس میں اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، مکمل طور سے کارگر ثابت ہوا اور امام علیہ السلام کی فوج میں عجیب اختلاف پیدا ہوا جس نے فوج کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا، لیکن اس میں اکثر سادہ لوح تھے جو جنگ سے ٹھک جانے کی وجہ سے معاویہ کے ظاہری فریب کا شکار ہو گئے تھے اور امام علیہ السلام کی اجازت کے بغیر نعرہ لگایا کہ "علی نے حکمیت قرآن کی اجازت دیدی ہے" جب کہ حضرت بالکل خاموش بیٹھے تھے اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں فکر کر رہے تھے، (۱)

معاویہ کا خط امام - کے نام

ایسے پُر آشوب حالات میں معاویہ نے امام علیہ السلام کو یہ خط لکھا:

"ہمارے درمیان لڑائی ہوتے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے اور ہم میں سے ہر ایک جو چیز مقابل سے حاصل کرنا چاہتا ہے اسے حق سمجھتا ہے، جب کہ دونوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کی اطاعت نہیں کرتا چاہتا اور دونوں طرف سے بہت زیادہ لوگ قتل ہو گئے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ آئندہ، گزشتہ سے بدتر ہو اور ہم لوگ اس جنگ کے ذمہ دار بننا اور میرے اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے لہذا میرا ایک مشورہ ہے جس کے اندر زندگی، امت کی صلاح اور ان کی جان و مال کی حفاظت اور دین سے محبت اور کینہ کا دور ہونا ہے اور وہ یہ ہے کہ دو آدمی، یعنی ایک ہمارے دوستوں میں سے اور دوسرا تمہارے اصحاب سے جو مورد رضایت ہو، ہمارے درمیان قرآن کے مطابق فیصلہ کرے یہی میرے اور تمہارے لئے اور فتنہ کو دور کرنے کے لئے بہتر راستہ ہے، اس مسئلہ میں خدا سے ڈرو اور قرآن کے حکم کے مطابق راضی رہو اگر اس کے اہل ہو"۔ (۲)

(۱) الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۰۴۔

(۲) الاخبار الطوال ص ۱۹۱۔ واقعہ صفین ص ۴۹۳۔

نیزہ پر قرآن کا بلند کرنا صرف ایک جھوٹی اور بیہودہ تبلیغ اور اختلاف کرنا تھا یہ قرآن سے فیصلہ بالکل نہیں چاہتے تھے لیکن معاویہ نے اس خط میں اس ابہام کو بالکل دور کر دیا اور دونوں طرف سے آدمیوں کے انتخاب کو تحریر کیا اور خط کے آخر میں امام علیہ السلام کو تقویٰ اور قرآن کی پیروی کرنے کی دعوت دی۔

امام علیہ السلام کا جواب معاویہ کے نام

جھوٹ اور ظلم و ستم، انسان کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کی لغزش کو عیب نکالنے والوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، تو جانتا ہے کہ جو تو نے اس سے پہلے انجام دیا ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا ایک گروہ نے بغیر حق کے عہدو پیمانہ توڑ دیا اور خلافت کا دعویٰ کر دیا اور خدا وند عالم کے صریح حکم کی تاویل کردی اور خدا وند عالم نے ان کے جھوٹ کو ظاہر کر دیا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کام کی تعریف ہوگی تو وہ خوشحال ہوگا، اور جس شخص نے اپنی رببری کو شیطان کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا ہے اور اس سے جنگ کے لئے نہیں اٹھا، شر مندہ و پشیمان ہوگا دنیا نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس سے دل لگایا ہے، مجھے حکم قرآن کی دعوت دی ہے جب کہ تو خود ایسا نہیں ہے میں نے تجھے جواب نہیں دیا ہے لیکن قرآن کے فیصلے کو قبول کیا ہے۔ (۱)

اشعث بن قیس جو پہلے ہی دن سے معاویہ کا جاسوس سمجھا جاتا تھا اور جنگ کے دوران بھی اکثر یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں، اس مرتبہ اس نے اصرار کیا کہ معاویہ کے پاس جائے اور نیزہ پر قرآن بلند کرنے کی وجہ اس سے دریافت کرے، (۲)



اشعث کی دوستی امام علیہ السلام سے سچی نہ تھی، اس کے ذہن میں صلح کا خیال معاویہ کے بھائی عتبہ سے گفتگو کرنے کے بعد ہی آیا تھا۔ لیلۃ الہریر میں جنگ جاری رکھنے کو اس نے دونوں طرف کی تباہی سے تعبیر کیا اور "رفع المصاحف" (قرآن کو نیزے پر بلند کرنے کا واقعہ) فتنہ کے واقع ہونے کے وقت اس

(۱) دونوں خط کو ابن مزاحم منقری نے "واقعہ صفین" ص ۹۳، ۹۴ اور ابن اعثم کوفی نے کتاب "الفتوح" (ج ۳، ص ۳۲۲) میں نقل کیا ہے امام علیہ السلام کا خط تھوڑے فرق کے ساتھ نہج البلاغہ (مکتوب نمبر ۴۸) میں بھی آیا اور نہج البلاغہ سے بھی مختصر دینوری نے اخبار الطوال ص ۹۱ میں ذکر کیا ہے۔  
(۲) تاریخ طبری ج ۳ جزء ۶ ص ۲۸۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۶۱

نے بہت اصرار کیا کہ علی علیہ السلام فوج شام کی دعوت کا جواب دیں، وہ فوج کی خستگی سے متعلقات کہتا تھا، اس مرتبہ اس نے اجازت مانگی کہ معاویہ سے ملاقات کرے اور صلح کے متعلق آخری حکم کو معلوم کرے، اور اسی بحث میں ہم انشاء اللہ ذکر کریں گے، کہ اس نے امام علیہ السلام سے نمائندہ معین کرنے کی قدرت کو سلب کر لیا اور حضرت کے مورد نظر نمائندے کو بہانہ سے پیچھے کر دیا، اور اپنے مورد نظر شخص کو معین کرایا جو عراقی فوج کے لئے نقصان دہ تھا، جی ہاں اشعث نے معاویہ سے ملاقات کے بعد کوئی نئی بات نہیں بتائی اور معاویہ کے خط کے موضوع کو دہرایا۔

مسلم گروہ کے اصرار نے امام علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ قرآن کے فیصلہ کو قبول کریں، اسی وجہ سے دونوں فوج کے قاری فوج کے درمیان آئے اور قرآن کو دیکھا اور ارادہ کیا کہ قرآن کے حکم کو زندہ کریں پھر اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے اور دونوں طرف سے آواز بلند ہوئی کہ ہم لوگ قرآن کے حکم اور فیصلہ پر راضی ہیں۔ (۱)

#### حکمین کا انتخاب

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن بولتا نہیں بلکہ ضروری ہے کہ قرآن پر عبور رکھنے والے اسے بلوائیں اور اس میں غور و فکر کریں اور خدا کے حکم کو تلاش کریں تاکہ کینہ و دشمنی سے دوری اختیار کریں، اس ہدف تک پہنچنے کے لئے یہ طے پایا کہ شامیوں میں سے اور عراقیوں میں سے کچھ لوگ معین ہوں، شام کے لوگ بغیر کسی قید و شرط کے معاویہ کے پیرو تھے کہ وہ جس کو بھی منتخب کرتا اسے قبول کرتے اور سبھی جانتے تھے کہ وہ فتنہ و فساد کا موجد عمرو عاص کے علاوہ کسی کو منتخب نہیں کرے گا، مشہور مثل کے مطابق کہ شام کے لوگ مخلوق کے سب سے زیادہ فرماں بردار اور خدا کے سب سے نافرمان افراد تھے۔

لیکن جب امام علیہ السلام کی باری آئی تو دباؤ ڈالنے والوں نے (جنہوں نے بعد میں اپنا نام خوارج رکھا اور حکمیت کے مسئلے کو گناہ کبیرہ سمجھا اور خود اسے قبول کرنے سے توبہ کی اور علی علیہ السلام سے بھی کیا کہ توبہ کریں) دو چیز کے لئے حضرت پر دباؤ ڈالا۔

#### (۱) تاریخ طبری ج ۳ جزء ۶ ص ۲۸۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۶۱

- ۱۔ حکمیت کو قبول کریں۔
- ۲۔ اپنے اعتبار سے حکم کا انتخاب، نہ کہ امام علیہ السلام کی نظر کے مطابق، تاریخ اسلام کے اس حصہ کو جو واقعا درس عبرت ہے، ہم اسے تحریر کر رہے ہیں۔
- دباؤ ڈالنے والے: ہم ابو موسیٰ اشعری کو حکمیت کے لئے منتخب کر رہے ہیں۔
- امام علیہ السلام: میں ہرگز اس کام پر راضی نہیں ہوں اور ہرگز اسے یہ حق نہیں دوں گا۔
- دباؤ ڈالنے والے: ہم بھی اس کے علاوہ کسی کو منتخب نہیں کریں گے یہ وہی ہے جس نے ابتداء سے ہی ہم لوگوں کو اس جنگ سے منع کیا اور اسے فتنہ قرار دیا۔
- امام علیہ السلام: ابو موسیٰ وہ شخص ہے جو خلافت کے پہلے ہی دن مجھ سے جدا ہو گیا اور لوگوں کو میری مدد کرنے سے منع کیا اور اپنی برائی کی وجہ سے بھاگ گیا یہاں تک کہ اسے امان دیا اور پھر میری طرف واپس آگیا، میں ابن عباس کو حاکم کے طور پر منتخب کر رہا ہوں۔



دباؤ ڈالنے والے: ہمارے لئے تمہارے اور ابن عباس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسے شخص کو منتخب کرو تمہارے اور معاویہ کے لئے مساوی ہو۔

امام علیہ السلام: مالک اشتر کو اس کام کے لئے منتخب کروں گا۔

دباؤ ڈالنے والے: اشتر نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا ہے اور اس وقت ہم لوگ ان کی نظر میں مرم ہیں۔  
امام علیہ السلام: اشتر کا کیا حکم ہے؟

دباؤ ڈالنے والے: وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی جان چلی جائے تاکہ اپنی اور تمہاری آرزو پوری ہو جائے۔

امام علیہ السلام: اگر معاویہ حاکم کے انتخاب میں ہر طرح سے آزاد ہے تو قرشی (عمرو عاص) کے مقابلے سوائے قرشی (ابن عباس) کے کوئی اور منا سب نہیں ہے تم لوگ بھی اس کے مقابلے میں عبد اللہ بن عباس کو منتخب کرو، کیونکہ عاص کا بیٹا کوئی گرہ نہیں باندھتا مگر یہ کہ ابن عباس اسے کھول دیتے ہیں یا مگر یہ کہ اسے باندھ دیتے ہیں کسی چیز کو وہ مضبوط و محکم نہیں کرتا مگر یہ کہ ابن عباس اسے اور کمزور کر دیتے ہیں اور کسی کام کو کمزور نہیں کرتا مگر یہ کہ اسے محکم کر دیتے ہیں۔

اشعث: عمر و عاص اور عبد اللہ بن عباس دونوں قبیلہ مضر سے ہیں اور دومیضری ایک ساتھ فیصلے کے لئے مناسب نہیں ہیں کہ بیٹھیں، اگر ایک مضر ہی ہو (مثلاً عمرو عاص) تو ضروری ہے کہ حتماً دوسرا یمنی (ابو موسیٰ اشعری) ہو۔ کسی نے اس شخص (اشعث) سے نہ پوچھا کہ اس قانون پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے)

امام علیہ السلام: مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا یمنی دھوکہ نہ کھا جائے کیونکہ عمرو عاص ایسا شخص ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کسی کام سے بھی نہیں ہچکچاتا۔

اشعث: خدا کی قسم جب بھی ان دو حکم میں سے ایک یمنی ہوگا تو یہ میرے لئے بہتر ہے اگرچہ وہ ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کرے اور جب بھی دونوں مضر ہی ہوں تو ہمارے لئے نقصان دہ ثابت ہوں گے اگرچہ وہ ہمارے اعتبار سے فیصلہ کریں۔

امام علیہ السلام: اس وقت تم لوگ ابو موسیٰ اشعری کے لئے اصرار کر رہے ہو تو تم خود ذمہ دار ہو، جو تمہارا دل چلے چاہے کرو۔ (۱)

ابوموسیٰ اشعری جس وقت کوفہ کا سردار تھا اس وقت اس نے لوگوں کو امام کی ہمرابی میں جنگ جمل کے فتنہ میں جانے سے روک دیا تھا اور اس نے پیغمبر کی حدیث کو بہانہ بنایا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ "جب بھی میری امت میں فتنہ و فساد پیدا ہو تو کنارہ کشی اختیار کرو" اس وقت ایسا شخص چاہتا ہے کہ حکمیت کے مسئلے میں امام کی نمائندگی کرے، اس کی گزشتہ سادگی میں کوئی شک نہیں، کیونکہ طبعاً امام کا مخالف تھا اور ہر گز وہ امام کے حق میں رائے نہیں دیتا۔ امام علیہ السلام نے دباؤ ڈالنے والے گروہ کو باطل اور نقصان دہ نظریہ سے واپس لانے کی دوبارہ کوشش نہیں کی۔ اس وجہ سے اپنے تمام سرداروں کو ایک جگہ جمع کیا اور تمام مطالب کو مجمع عام میں اس طرح بیان کیا۔ "آگاہ رہو کہ شامیوں نے تو اپنے نزدیک ترین فرد کا انتخاب کر لیا ہے اور تم نے حکمیت کے لئے

(۱) الاخبار الطوال ص ۱۹۲، الامامة ولسياسة ج ۱، ص ۱۱۳، تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۸۹، وقعة صفین ص ۴۹۹۔

ایسے نزدیک تریک فرد کو لوگوں کے درمیان سے منتخب کیا ہے (ابو موسیٰ) جس سے تم راضی نہیں ہو: تمہارا واسطہ عبد اللہ بن قیس (۱) سے ہے، یہ وہی شخص ہے جو کل تک کہتا پھرتا تھا کہ "کہ جنگ، فتنہ ہے کمانوں کے چلے توڑ ڈالو، اور اپنی تلواروں کو نیاموں میں رکھ لو"۔

تو اگر وہ اپنے اس قول میں سچھاتھا تو تمہارے ساتھ جنگ میں زبردستی کیوں شامل ہوا اور اگر جھوٹا تھا تو اس پر (نفاق کی) تہمت لازم ہے (پھر اس پر اعتماد کیسا؟) عمرو عاص کے سینے کا راز توڑنے کے لئے عبد اللہ ابن عباس کو منتخب کرو، اور اس موقع کو باتھ سے نہ جانے دو اور اسلامی سرحدوں کو نہ چھوڑو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے شہروں پر حملے ہو رہے ہیں اور تمہاری سرزمین پر تیر اندازی کی جارہی ہے۔ (۲)

امام علیہ السلام کی باتوں کا سرداروں پر صرف ملاقات کے علاوہ کچھ اثر نہ ہوا، اس وجہ سے احنف بن قیس نے امام علیہ السلام سے کہا: میں نے ابو موسیٰ کو آزمایا ہے اور اسے معمولی عقل والا پایا ہے یہ وہ ہے جس نے اسلام کے آغاز میں ان لوگوں سے مقابلہ کیا اگر آپ راضی ہوں تو مجھے حکمیت کے لئے چن لیجیے اور اگر مصلحت نہ ہو تو مجھے دوسرا یا تیسرا قرار دیجئے تاکہ آپ دیکھ لیجیے کہ عمرو عاص گرہ نہیں باندھ سکتا مگر یہ کہ میں اسے کھول دوں گا اور

گرہ کو نہیں کھولے گامگر یہ کہ میں اسے باندھ دوں گا، امام علیہ السلام نے احنف کی نمائندگی کو فوج کے سامنے پیش کیا لیکن وہ لوگ اتنے گمراہ اور جھگڑالو تھے کہ ابو موسیٰ کی نمائندگی کے علاوہ کسی کو رائے نہیں دیا اور یہ انتخاب اس قدر نقصان دہ ہوا کہ شام کے ایک شاعر نے اپنے شعر میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے وہ کہتا ہے: "اگر عراق کے لوگوں کے پاس صحیح رائے ہوتی تو ان لوگوں کو گمراہی سے محفوظ رکھتی اور ابن عباس کو لوگ منتخب کرتے لیکن یمن کے بوڑھے کو منتخب کیا جو شش و پنج میں گرفتار ہے علی تک اس شخص کی بات پہنچا دو جو حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ابو موسیٰ اشعری امانتدار نہیں ہے۔ (۳)

- (۱) ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے۔  
 (۲) نہج البلاغہ عہدہ خطبہ ۲۳۳۔ عقدا لفرید ۴، ص ۳۰۹، کامل میرد، ج ۱، ص ۱۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱۳، ص ۳۰۹۔  
 (۳) وقعہ صفین ص ۵۰۲۔ الاخبار الطوال ص ۱۹۳۔

ہم آئندہ ذکر کریں گے کہ یہی لوگ جنہوں نے امام علیہ السلام پر معاویہ سے صلح کرنے کے لئے دباؤ ڈالا تھا اور حکم انتخاب کرنے میں آپ کے نظریہ کو رد کر دیا تھا وہی پہلے لوگ ہیں جنہوں نے حکمیت کے موضوع کو بہت بڑا گناہ سمجھا اور صلح نامہ لکھنے کے بعد امام علیہ السلام سے اس کے توڑنے پر اصرار کرنے لگے لیکن افسوس کہ امام عہد و پیمانہ کو کیسے توڑیں اور دوبارہ مقدس نما کم عقلموں کی بات پر عمل کریں۔  
 اب دیکھنا یہ ہے کہ حکمیت کی عبارت کس طرح لکھی گئی اور کیا تیسری مرتبہ بھی امام علیہ السلام دباؤ ڈالنے والوں کے دباؤ میں رہے۔

#### تحمیل عہد حکمیت

سر زمین صفین پر واقعہ حکمیت تاریخ اسلام کا بے نظیر واقعہ شمار ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام جو فتح و کامیابی سے دو قدم کے فاصلے پر تھے اور اگر آپ کے بے خبر اور نادان ساتھی آپ کی حمایت سے منہ نہ موڑتے یا کم سے کم ان کے لئے زحمت کا باعث نہ بنتے، تو فتنہ کی آنکھ کو اس کے ڈھیلے سے نکال لیتے اور بنی امیہ کی خبیث حکومت جو بعد میں ۸۰ سال یا اس سے کچھ زیادہ طولانی ہوئی اسے ختم کر دیتے اور تاریخ اسلام اور مسلمانوں کے تمدن کو تبدیل کر دیتے، اور عمر و عاص کی چالاکی اور بعض لوگوں کے دھوکہ کھانے، اور اپنے نادان سپاہیوں کی ہٹ دھرمی کو جنگ جاری رکھنے اور کامیابی تک پہنچنے کے لئے مانع ہوئے۔

ان نادان دوستوں نے جو دانا دشمنوں سے زیادہ ضرر رساں تھے چار چیزوں کے بارے میں امام علیہ السلام پر دباؤ ڈالا کہ جس کا دھوان پہلے ان کی آنکھوں میں پھر تمام مسلمانوں کی آنکھوں میں گیا اور یہ ہیں۔

- ۱۔ جنگ بندی کو قبول کرنا اور قرآن و سنت پیغمبر کی حکمیت قبول کرنا۔
  - ۲۔ ابو موسیٰ اشعری کو امام علیہ السلام کے نمائندہ کے طور پر چننا۔
  - ۳۔ حکمیت کے عہد و پیمانہ کی تحریر سے لقب "امیر المومنین" کا حذف کرنا۔
  - ۴۔ حکمیت کے عہد و پیمانہ کو دستخط کے بعد اس کو توڑنے پر اصرار۔
- گزشتہ بحثوں میں پہلے اور دوسرے دباؤ کے طریقے کو واضح کیا ہے اب تیسرے اور چوتھے دباؤ کے طریقے اور صلح نامہ کی عبارت کو پیش کر رہا ہوں۔

قرآن کو نیزے پر بلند کرنے کی سیاست کے بعد جنگ اور بحث و مباحثہ ختم ہو گیا اور یہ طے پایا کہ دونوں فوج کے سردار حکمیت کے عہد و پیمانہ کو تنظیم کر دیں ایک طرف امام اور آپ کے ساتھی، دوسری طرف معاویہ اور اس کی دوسری عقل یعنی عمر و عاص اور اس کی حفاظت کرنے والوں میں سے کچھ لوگ معین ہوئے۔ عہد نامہ کے لئے دو زرد ورق جس کے شروع اور آخر مینامام علیہ السلام کی مہر پر "محمد رسول اللہ (ص)" کندہ تھا اسی طرح معاویہ کی مہر جس پر یہی "محمد رسول اللہ (ص)" لکھا تھا مہر لگا کر تیار کیا گیا امام علیہ السلام نے صلح نامہ کی عبارت لکھوائی اور آپ کے کاتب عبید اللہ بن رافع نے لکھنے کی ذمہ داری سنبھالی امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا:

"بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذا ماتقاضا علیہ علی امیر المومنین و معاویہ ابن ابی سفیان و شیعتهما فیما تراضیا بہ من الحکم بکتاب اللہ و سنۃ نبیہ (ص)"

امیر المومنین علی اور معاویہ اور دونوں کی پیروی کرنے والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کتاب خدا اور پیغمبر کی سنت کے مطابق حکم کو مانیں گے۔

اس وقت معاویہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور کہنے لگا: وہ بہت برا آدمی ہے جو کسی کو "امیر المومنین" کے عنوان سے قبول کرے اور پھر اس سے جنگ کرے، عمرو عاص نے فوراً امام علیہ السلام کے کاتب سے کہا علی اور ان کے باپ کا نام لکھو وہ تمہارا امیر ہے نہ کہ ہمارا، احنف امام علیہ السلام کے بہادر سردار نے امام سے کہا آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے لقب امیر المومنین کو حذف نہ کیجیے میں ٹر رہا ہوں کہ دوبارہ یہ لقب آپ تک نہ پہنچ سکے اس کی طرف زیادہ دھیان نہ دیجیے چاہے جنگ و جدال ہی کیوں نہ ہو، گفتگو طولانی ہو گئی اور دن کاکچھ حصہ اسی گفتگو میں گزر گیا اور امام علیہ السلام اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین حذف کرنے کیلئے راضی نہ ہوئے، اشعث بن قیس، جو پہلے ہی دن سے دوستی کا لباس پہن کر امام علیہ السلام کے خلاف کام کر رہا تھا، اور معاویہ سے مخفیانہ رابطہ رکھے تھا اس نے بہت اصرار کیا کہ لقب حذف کر دیا جائے، اس کشمکش میں امام علیہ السلام نے "صلح حدیبیہ" جیسے تلغ واقعہ کو بیان کیا اور فرمایا: میں حدیبیہ کی سر زمین پر پیغمبر اسلام (ص) کا کاتب تھا ایک طرف خدا کا پیغمبر اور دوسری طرف سہیل بن عمرو تھے میں نے صلح نامہ کو اس طرح سے منظم کیا "ہذا مات صالح علیہ محمد رسول اللہ (ص) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سہیل بن عمرو" لیکن مشرکین کے نمائندے نے پیغمبر سے کہا، میں ہرگز ایسے خط پر دستخط نہیں کروں گا جس میں تم اپنے کو "خدا کا پیغمبر" لکھو گے، اگر میں مانتا کہ تم خدا کے نبی ہو تو ہرگز تم سے جنگ نہیں کرتا، میرا ظالم و ستمگر میں شمار ہو کہ تمہیں خدا کے گھر کے طواف سے روک دوں جب کہ تم خدا کے پیغمبر رہو تم یہ لکھو، "محمد بن عبد اللہ" تاکہ میں اسے قبول کر لوں۔

اس وقت پیغمبر نے مجھ سے فرمایا علی، میں خدا کا نبی ہوں جس طرح سے کہ عبد اللہ کا بیٹا ہوں ہرگز میری رسالت عنوان "رسول اللہ (ص)" میرے نام سے حذف ہونے سے ختم نہیں ہوگی، لکھو، محمد بن عبد اللہ ہاں۔ اس دن مشرکوں نے مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ "رسول اللہ (ص)" کا لقب حضرت کے نام کے آگے سے ہٹا دوں۔ اگر اس دن پیغمبر اسلام نے صلح نامہ مشرکوں کے لئے لکھا تو آج میں ان کے فرزندوں کے لئے لکھ رہا ہوں میرا اور پیغمبر خدا کا طور طریقہ ایک ہی ہے۔

عمر و عاص نے علی علیہ السلام سے کہا سبحان اللہ ہم لوگوں کو کافروں سے شبیہ دے رہے ہیں جب کہ ہم لوگ مومن ہیں، امام علی السلام نے فرمایا کونسا ایسا دن تھا کہ تو کافروں کا حامی اور مسلمانوں کا دشمن نہ تھا، تو اپنی ماں کی طرح ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے یہ سننے کے بعد عمرو عاص وہاں سے اٹھ کے چلا اور کہا خدا کی قسم آج کے بعد کبھی بھی تمہارے ساتھ ایک جگہ نہیں بیٹھوں گا۔

امام علیہ السلام کے دوست نما لوگوں کے اس اصرار نے کہ امیر المومنین لقب کو اپنے نام کے ساتھ نہ لکھیں، امام علیہ السلام کی مظلومیت کو اور بڑھا دیا۔ (۱) لیکن امام علیہ السلام کے کچھ سچے اور حقیقی ساتھی تلواریں کھینچے ہوئے امام علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا حکم دیجیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں عثمان بن حنیف نے ان لوگوں کو نصیحت کی اور کہا میں صلح حدیبیہ میں موجود تھا اور ہم فی الحال پیغمبر اسلام (ص) کے راستے پر چلیں گے۔ (۲)

(۱) وقعہ صفین (دوسرا ایڈیشن) ص ۵۰۸، ۵۰۹۔ الاخبار الطوال ص ۱۹۴۔ الامامة ولسياسة ج ۱ ص ۱۱۴۔ تاریخ طبری ج ۳ جزئی ۶ ص ۲۹ کامل بن اثیر ج ۳ ص ۱۶۲۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۸۹۔ (تھوڑے فرق کے ساتھ) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۲۳۲۔  
(۲) الامامة و السياسة ج ۱ ص ۱۱۲۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پیغمبر اسلام (ص) نے حدیبیہ میں اس واقعہ کی مجھے خبر دی تھی یہاں تک کہ فرمایا: ان لک مثلھا سنعطیھا وانت مضطهد" ایک دن تمہیں بھی ایسا واقعہ پیش آئے گا اور تم بے بس و مجبور ہو گے

صلح نامہ کی عبارت

اس سلسلے میں دونوں طرف کا اختلاف امام علیہ السلام کے سکوت کرنے اور پیغمبر اسلام کے طریقے پر عمل کرنے سے ختم ہوا، اور علی علیہ السلام نے اجازت دی کہ ان کا نام بغیر لقب امیر المومنین کے لکھا جائے اور صلح نامہ لکھا جائے لگا جس کے اہم دفعات یہ ہیں:

۱۔ دونوں گروہ کے حکم اس بات پر راضی ہوئے کہ قرآن کی رو سے فیصلے کریں اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔

۲۔ علی اور ان کی پیروی کرنے والوں نے عبد اللہ بن قیس (ابوموسیٰ اشعری) کو ناظر و حاکم کے عنوان سے چنا ہے اور معاویہ اور اس کی پیروی کرنے والوں نے عمرو عاص کو اس کام کے لئے منتخب کیا۔

۳۔ دونوں آدمی خدا کی کتاب کو اپنا پیشوا قرار دیں اور اگر اس نے فیصلہ کر دیا تو اس سے آگے نہ بڑھیں اور جہاں وہ فیصلہ نہ کر سکے وہاں پیغمبر (ص) کی سیرت و سنت کی طرف رجوع کریں اور اختلاف سے پرہیز کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں اور مشتبہ کاموں کو انجام نہ دیں۔

۴۔ عبداللہ بن قیس اور عمرو عاص میں سے ہر ایک نے اپنے پیشوا و رببر سے الہی عہد لیا کہ یہ دونوں قرآن اور سنت کی بنیاد پر جو بھی فیصلہ ہو گا اس پر راضی رہیں گے اور اسے توڑینگے نہیں اور نہ ان کے علاوہ کسی کو چنینگے اور ان لوگوں کی جان و مال و عزت و آبرو اگر حق سے تجاوز نہ کریں تو محترم ہے۔

۵۔ اگر دونوں حاکموں میں سے کوئی ایک حاکم اپنے وظیفے کو انجام دینے سے پہلے مرجائے تو اس گروہ کا امام ایک عادل شخص کو اس کی جگہ پر معین کرے گا انہیں شرائط کے ساتھ جس طرح سے اس کو معین کیا گیا تھا اور اگر دونوں پیشوا و رببر میں سے کوئی ایک فیصلہ کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کے ماننے والے کسی کو اس جگہ پر معین کر سکتے ہیں۔

۶۔ حاکمین سے یہ عہد لیا گیا کہ تلاش و کوشش میں غفلت نہ برتیں اور غلط فیصلہ نہ کریں اور اگر اپنے عہد پر عمل نہ کریں تو اس عہد نامہ پر امت والوں کے لئے عمل ضروری نہیں ہوگا۔ اس عہد نامہ پر امیر اور امت اور حاکم کے لئے عمل کرنا لازم و واجب ہے اور اس کے بعد سے اس عہد نامہ کی مدت ختم ہونے تک لوگوں کی جان و مال و عزت و آبرو سب محفوظ ہے اور تمام اسلحے رکھ دیئے جائینگے اور امن و امان کا ماحول پیدا کیا جائے گا اور اس سلسلے میں اس واقعہ میں حاضر رہنے والوں اور غائب رہنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۷۔ حاکمین پر لازم ہے کہ عراق و شام کے درمیان اجتماع ہو اور وہاں ان کے دوست و احباب کے علاوہ کوئی اور نہ جائے اور ان کو ماہ رمضان المبارک کے آخر تک فیصلہ کر دینا چاہیئے اور اگر چاہیں تو اس سے پہلے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر وہ لوگ چاہیں تو فیصلہ موسم تمام ہونے تک کر سکتے ہیں۔

۸۔ اگر دونوں حاکم قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو مسلمان اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے اور پھر دونوں فوجوں کے درمیان کوئی عہد و پیمانہ نہ ہوگا اور امت اسلامی کے لئے ضروری ہے کہ جو چیز اس میں تحریر ہے اس پر عمل کریں اور اگر کوئی زبردستی کرنا چاہے یا اس صلح کو توڑنے کا ارادہ کرے تو امت مسلمہ کو اور متحد ہونا چاہیئے۔ (۱) طبری کے نقل کے مطابق اس وقت دونوں طرف سے دس لوگوں نے پیمانہ حکمیت کے شاہد کے عنوان سے اپنے دستخط کئے، امام علیہ السلام کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں عبداللہ بن عباس، اشعث بن قیس، مالک اشتر، سعید بن قیس ہمدانی، خیاب بن ارت، سہل بن حنیف، عمرو بن الحمق

الخزاعی اور امام علیہ السلام کے بیٹے امام حسن اور امام حسین تھے (۲) صلح نامہ ۱۷ صفر ۳۷ ہجری بروز بدھ عصر کے وقت لکھا گیا تھا اور دونوں طرف کے لوگوں نے دستخط کئے تھے (۳) حکمین نے چاہا کہ سرزمین " اندر " ( شام و حجاز کے درمیان کی سرحدی جگہ ) میں جمع ہوں اور وہاں پر فیصلہ کریں اور دونوں طرف سے چار سو لوگ ناظر کے عنوان سے گئے تاکہ فیصلہ پر نگاہ رکھیں۔

(۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۴۰۳۔ تاریخ طبری ج ۳ جزئ ۶ ص ۲۹۔ الاخبار الطوال ص ۱۹۵  
(۲) تاریخ طبری ج ۳ جزئ ۶ ص ۳۰۔ وقعہ صفین ص ۵۱۰۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۶۲  
(۳) کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۶۳

تحکیم کے خلاف خوارج کا رد عمل

صلح نامہ لکھے جانے کے بعد طے پایا کہ شام اور عراق کے لوگ اس گفتگو کے نتیجہ سے باخبر ہوں، اس وجہ سے اشعث نے عراقیوں اور شامیوں کے درمیان حکمیت کے صلح نامہ کو پڑھ کر سنایا پہلی مرتبہ کسی نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی جب کہ بعض عراقی " عنزہ " وغیرہ نے مخالفت کی اور پہلی مرتبہ دو عنزی نوجوان معدان اور جعد کے منہ سے یہ نعرہ نکلا " لا حکم الا للہ " اور دونوں جوانوں نے تلواریں کھینچیں اور معاویہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور معاویہ کے خیمے کے پاس مارے گئے اور جب اس صلح نامہ کو قبیلہ مراد کے سامنے پڑھا گیا تو اس قبیلے کے رئیس " صالح بن شفیق " نے ان جوانوں کے نعرے کو دہرایا اور کہا " لا حکم الا للہ ولو کرہ المشرکون " پھر اس شعر کو پڑھا:

مالعلی فی الدماء قد حکم

لوقاتل الاحزاب یوماً ما ظلم

کیا ہوا کہ علی نے اتنے لوگوں کی شہادت کے بعد حکمیت کو قبول کر لیا حالانکہ اگر فوج ( معاویہ اور اس کے ہم فکروں ) سے جنگ کرتے تو ان کے کام میں نقص نہ ہوتا۔

اشعث نے اپنا کام جاری رکھا اور جب وہ قبیلہ بن تمیم کے پرچم کے روبرو ہوا تو حکمیت کے صلح نامہ کو ان کے سامنے پڑھا تو ان کے درمیان سے یہ نعرہ بلند ہوا " لا حکم الا للہ یقضی بالحق و هو خیر الفاصلین " اور عروہ تمیمی نے کہا "أتحکمون الرجال فی أمر اللہ؟ لا حکم الا للہ، این قتلنا یا اشعث" (۱) یعنی کیا لوگوں کو دین خدا میں حکم قرار دے لیا ہے؟ حکم اور فیصلہ خدا کے لئے ہے اے اشعث ہمارے لوگ کیونقتل کئے گئے؟ ( کیا وہ لوگ حق کی راہ میں قتل ہوئے ہیں یا باطل کی راہ میں؟ )

پھر اپنی تلوار سے اشعث پر حملہ کیا لیکن وار اس کے گھوڑے پر لگا اور اشعث کو زمین پر گرادیا اور اگر دوسرے افراد مدد نہ کرتے تو اشعث عروہ تمیمی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔

(۱) عروہ کا خیال یہ تھا کہ اس صلح نامہ سے پہلے عراقی فوج کے تمام کام غلط تھے لہذا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، وقعہ صفین ص ۵۱۲۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۲۳۷۔ الاخبار الطوال ص ۱۹۷۔ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۶۳۔ مروج الذهب ج ۲ ص ۴۰۳

اشعث نے عراقی فوج پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایسے باتیں کرنے لگا جیسے امام علیہ السلام کے اکثر حامی حکمیت کے صلح نامہ پر راضی ہوں اور علاوہ ایک دوگروہ کے کوئی مخالف نہیں ہے لیکن زیادہ وقت نہ گزراتھا کہ چاروں طرف سے "لا حکم الا للہ، والحکم للہ یا علی لا لک" کا نعرہ بلند ہو گیا اور لوگ فریاد بلند کرنے لگے ہم برگز اجازت نہیں دیں گے کہ دین خدا میں لوگ حاکم ہوں ( اور حکم خدا کو بدل ڈالیں ) خدا نے حکم دیا ہے کہ معاویہ اور اس کے ساتھی قتل ہو جائیں یا ہمارے حکم کے تابع ہو جائیں حکمیت کا واقعہ ایک لغزش تھی جو ہم سے ہو گئی اور ہم لوگ اس سے پھر گئے اور توبہ کر لیا تم بھی اس سے منہ موڑ لو اور توبہ کر لو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تم سے بھی بیزار رہیں گے۔ (۱)

چوتھا دباؤ

امام علیہ السلام کے نادان اور بے وقوف ساتھی اس مرتبہ چوتھا دباؤ ڈال رہے تھے اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے لئے ضروری تھا کہ اسی دن حکمیت کے صلح نامہ کو نظر انداز کر دیتے اور اسے معتبر نہ جانتے، لیکن اس مرتبہ امام علیہ السلام نے زبردست مقابلہ کیا اور ان لوگوں کے سامنے فریاد بلند کی۔

"و یحکم، ابعء الرضا والعهد نرجع؟ أليس الله تعالى قد قال، اوفوا بالعقود" (۲) وقال، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً أن الله يعلم ما تفعلون (۳)، (۴)

" لعنت ہو تم پر، اس وقت اب یہ باتیں کر رہے ہو؟ جب کہ راضی ہو گئے ہیں اور عہد کر لیا ہے تو دوسری مرتبہ جنگ کی طرف واپس آجائیں؟ کیا خدا کا فرمان نہیں ہے کہ "اپنے وعدوں کو وفا کرو" اور پھر خدا کہتا ہے، خدا کے عہد و پیمان پر جب کہ تم نے عہد کر لیا ہے تو وفا کرو اور قسم کھانے کے بعد اسے توڑو نہیں اور جب کہ اپنے کاموں پر خدا کو ضامن قرار دیا ہے اور خدا جو کچھ انجام دیتا ہے اس سے باخبر ہے۔

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۲۳۷۔ وقعہ صفین ص ۵۱۳۔

(۲) سورہ مائدہ آیت ۱

(۳) سورہ نحل آیت ۹۱

(۴) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۲۳۸

لیکن امام علیہ السلام کا کلام ان لوگوں پر اثر انداز نہ ہوا اور امام علیہ السلام کی پیروی سے منہ پھیر لیا اور حکمیت کے مسئلے کو گمراہی قرار دیا اور امام علیہ السلام سے بیزاری کیا اور تاریخ میں "خوارج" یا "محکمہ" کے نام سے مشہور ہو گئے اور اسلامی گروہوں میں سب سے زیادہ خطرناک گروہ بنایا۔

ان لوگوں نے کبھی بھی کسی حکومت سے تعلقات نہیں رکھا اور اپنے لئے خاص نظریہ اور روش اختیار کی ہم "مارقین"

کی بحث میں تفصیلی طور پر ان لوگوں کی فکری غلطیوں کے بارے میں بحث کریں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ مسئلہ حکمیت ، دین میں لوگوں کو حکم قرار نہیں دینا تھا بلکہ دو گروہ کے درمیان اختلاف کے وقت قرآن و سنت پیغمبر کو حکم قرار دینا تھا اور یہ بہترین راستہ تھا ، گرچہ عمرو عاص نے یہ حربہ ، حلیہ و مکر سے اختیار کیا تھا۔ امام علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں : " انا لم نحکم الرجال و انما حکمنا القرآن و هذا القرآن انما ہو خط مسطور بین الدفتین لاینطق بلسان ولا بد من ترجمان و انما ینطق عنہ الرجال ، ولما دعانا القوم الی ان نحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولی عن کتاب اللہ وقد قال سبحانہ ( فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ و الی الرسول ) فردہ الی اللہ ان نحکم بکتابہ وردہ الی الرسول ان نأخذ بسنتہ (۱) " ہم نے لوگوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم مقرر کیا اور یہ دفتیوں کے درمیان لکھی ہوئی کتاب ہے جو زبان سے نہیں بولتی اس کے لئے ترجمان ضروری ہے اور وہ ترجمان آدمی ہی ہوتے ہیں جو قرآن کی روشنی میں کلام کرتے ہیں ، جس قوم (اہل شام) نے ہم سے خواہش کی ہم اپنے اور ان کے درمیان قرآن مجید کو حکم قرار دیں تو ہم ایسے لوگ نہ تھے کہ اللہ کی کتاب سے منحرف ہوجاتے ، حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر تم کسی بات میں اختلاف کرنے لگو تو خدا اور رسول کی طرف اسے پھیر دو ، خدا کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کتاب کو حکم مانیں اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے معنی ہیں کہ ہم ان کی سنت ( طریقے ) پر چلیں "

(۱) نہج البلاغہ خطبہ ۱۲۵ طبری نے اپنی تاریخ (ج، ۳ جزئ ۶ ص ۳۷) میں ۳۷ ہجری کے واقعات میں اور ابن اثیر نے اپنی کتاب کامل (ج ۳، ص ۱۶۶) میں اس بات کو نہج البلاغہ سے مختصر طریقے سے لکھا ہے۔ سبط ابن جوزی نے کتاب تذکرہ (ص ۱۰۰) میں بشام کلبی سے ، شیخ مفید نے ارشاد میں (ص، ۱۲۹) طبرسی نے احتجاج (ج ۱، ص ۲۷۵) میں اس خطبہ کو نقل کیا ہے۔

امام علیہ السلام کا اس خطبہ کے ساتھ ایک اور جملہ بھی ہے جو توجہ کے لائق ہے امام فرماتے ہیں :  
 " فاذا حکم بالصدق فی کتاب اللہ فنحن أحسن الناس بہ وان حکم بسنة رسول اللہ فنحن أولاهم بہ"  
 اگر سچائی کے ساتھ کتاب خدا سے حکم حاصل کیا جائے تو اس کی رو سے سب سے زیادہ ہم حق دار ہیں اور اگر سنت رسول کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو ہم سب سے زیادہ اس کے اہل ہیں۔  
 جی ہاں ! بالآخر جنگ صفین میں کئی مہینے تک امام علیہ السلام کا قیمتی وقت ضائع و برباد ہوا اور عراق کی فوج کے ۲۰ سے ۲۵ ہزار تک لوگ شہید ہوئے اور ۴۵ ہزار اور ایک قول کی بنیاد پر ۹۰ ہزار افراد فوج شام سے مارے گئے اور دونوں فوج ایک دوسرے سے دور ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے (۱)

قیدیوں کی رہائی

جب صلح نامہ لکھ گیا اور اس پر دستخط ہو گئے اور دونوں طرف بھیج دئے گئے تو اس وقت امیر المومنین نے دشمن کی فوج کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا ، ان قیدیوں کی رہائی سے پہلے ہی عمرو عاص اصرار کر رہا تھا کہ معاویہ امام علیہ السلام کی فوج کے قیدیوں کو پھانسی دیدے جب معاویہ نے امام علیہ السلام کے اس عظیم کام کو دیکھا تو کانپنے لگا اور عاص کے بیٹے سے کہا ، اگر ہم لوگ قیدیوں کو قتل کر دیتے تو دوستوں اور دشمنوں کے درمیان رسوا ہوجاتے۔ جنگ کے وقت دشمن کے قیدیوں کے ساتھ امام علیہ السلام کا طریقہ دوسرا تھا اگر کوئی قید ہوتا تو اسے آزاد کر دیتے مگر یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو ، تو اس صورت میں قصاص ( جان کا بدلہ جان) کے طور پر قتل کر دیا جاتھا اور اگر آزاد ہونے والا قیدی دوبارہ گرفتار ہوتا تھا تو بغیر کسی چوں چراں کے اسے پھانسی دیدی جاتی تھی کیونکہ دشمن کی فوج میں اس کا واپس جانا اس کی پلیدی وبری نیت کی عکاسی کرتا ہے۔ (۲)

(۱) جنگ صفین ۱۷ صفر ۳۷ ہجری کو ختم ہوئی اور ۱۱۰ دن تک جاری رہی اور اس مدت میں ۹۰ مرتبہ حملہ ہوا۔ مسعودی نے التنبیہ والاشراف ، ص ۲۵۶ مطبوعہ قاہرہ - اور مروج الذهب (ج ۲، ص ۳۰۵) میں قتل ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ دس ہزار لکھا ہے ( ۲۵ ہزار امام علیہ السلام کے فوجی اور ۹۰ ہزار معاویہ کے فوجی ) اور ایک قول کی بناء پر ۷۰ ہزار آدمی ( ۲۵ ہزار امام علیہ السلام کی طرف سے اور ۴۵ ہزار معاویہ کے فوجی) نقل ہو اے۔  
 (۲) وقوعہ صفین ص ۵۱۸۔

حکمیت پر امام - کی نظارت

امام علیہ السلام صفین سے کوفہ جاتے وقت حکمیت کے واقعہ سے غافل نہ تھے اور ہمیشہ ضروری نکتوں کی طرف ابن عباس (جو ۴۰۰ لوگ اس علاقے میں بھیجے گئے تھے) کو توجہ دلاتے رہے، معاویہ بھی حکمین کے کام سے غافل نہ تھا اور اس نے بھی ۴۰۰ لوگوں کو اس علاقے میں بھیجا امام علیہ السلام کے دوستوں اور معاویہ کے دوستوں میں فرق یہ تھا کہ شامی افراد آنکھ، کان بند کئے ہوئے اپنے سر پرست کے مطیع و فرمان بردار تھے اور جب بھی معاویہ کی طرف سے کوئی خط پہنچتا تو کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ معاویہ نے کیا لکھا ہے، جبکہ جب بھی امام علیہ السلام کا خط ابن عباس کے پاس آتا اس وقت سب کی نگاہیں ابن عباس پر ہوتیں کہ امام علیہ السلام نے اسے کیا حکم دیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس نے ان لوگوں کی مذمت کی اور کہا جب بھی امام علیہ السلام کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے تو تم لوگ پوچھتے ہو کہ کیا حکم آیا ہے اگر اسے نہ بتاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ کیوں چھپادیا اور اگر اسے بیان کردوں تو یہ راز سب پر ظاہر ہو جائے گا اور پھر ہمارے لئے کوئی راز، راز نہیں رہ جائے گا۔ (۱)

(۱) وقوعہ صفین ص ۵۳۳۔ تاریخ طبری ج، ۳ جزئی ۶ ص ۳۷۔ کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۱۶۷۔ الاخبار الطوال ص ۱۹۸

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

#### اکیسویں فصل

امام - کی صفین سے کوفہ کی طرف روانگی

حکمیت کا مسئلہ ایک ایسا امر ہے جسے امام علیہ السلام نے زور و زبردستی اور تمام راستے بند ہوجانے کی صورت میں قبول کیا کیونکہ اگر اس کا مقابلہ کرتے تو خود اپنی فوج کے مخالفین، معاویہ کی فوج کی مدد سے امام علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لئے اٹھ جاتے جس کا انجام آپ اور آپ کے وفادار ساتھیوں کی بربادی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ جب حکمیت کے تعین کا مسئلہ ختم ہوا تو امام علیہ السلام اپنے نمائندوں کو اعزاز اور فیصلہ اور مشکلات کے رفع، دفع کرنے اور اس پر ناظر وغیرہ معین کرنے کے لئے کوفہ واپس آگئے اور وہاں سے روانہ ہوتے وقت اس دعا کو پڑھا جو پیغمبر اسلام (ص) سے نقل ہوئی ہے: "بارالہا سفر کی مشکلات اور غم سے نجات عطا کر اور اہل و عیال اور مال پر بری نظر ڈالنے والوں سے پناہ مانگتا ہوں۔"

امام علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا اور فرات کے کنارے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور جب "صندودائ" (۱) شہر کے پاس پہنچے تو قبیلہ بن سعید کے لوگ آپ کے استقبال کے لئے آئے اور خواہش ظاہر کی کہ ہمارے قبیلے میں تشریف لائیں اور ہمیں رونق بخشیں لیکن امام علیہ السلام نے ان کی دعوت قبول نہیں کیا (۲) آپ جب کوفہ کے نخلستان (کھجور کے باغ) میں پہنچے تو ایک ضعیف شخص سے ملاقات ہوئی جو ایک گھر کے سائے میں بیٹھا تھا اور اس کے چہرے سے بیماری کے آثار نمایاں تھے امام اور اس کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ یہ ہیں:

امام علیہ السلام: تیرے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہے؟ کیا بیمار ہے؟

ضعیف: جی ہاں۔

امام علیہ السلام: بیماری کو اچھا نہیں سمجھتے؟

ضعیف: نہیں، میں نہیں چاہتا کہ بیمار پڑوں۔

(۱) صندودائ، عراق و شام کے درمیان کا شہر، معجم البلدان، یاقوت حموی

(۲) وقوعہ صفین ص ۵۲۸۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۸۶

امام علیہ السلام: کیا اس طرح کی بیماریاں خدا کے سامنے "بہترین نیکی" شمار نہیں ہوتیں؟

ضعیف: کیوں نہیں؟



امام علیہ السلام : مبارک ہو خدا کی رحمت نے تمہارا احاطہ کیا ہے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے ، تمہارا کیا نام ہے؟

ضعیف : میرا نام صالح بن سلیم ہے اور سلامان بن طیّ اور اس کے وفادار سلیم بن منصور قبیلے سے ہوں ۔  
آپ نے خوش ہو کر فرمایا: تمہارا اور تمہارے باپ اور تمہارے وفاداروں کا نام کتنا بہترین ہے کیا ہماری جنگوں میں تم نے شرکت کی ہے؟

ضعیف: نہیں ، میں جنگ میں شریک نہیں ہوسکا لیکن اس کی طرف مائل تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسم کی کمزوری نے جو بخار کی وجہ سے ہے مجھے ان کاموں سے روک دیا ہے۔  
امام علیہ السلام: خدا کے کلام کو غور سے سنو وہ فرماتا ہے: "لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لایجدون ماینفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ماعلی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم" (توبہ : ۹۱) (اے رسول جہاد میں نہ جانے کا ) نہ تو کمزوروں پر کچھ گناہ ہے نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جو کچھ نہیں پاتے کہ خرچ کریں بشرطیکہ یہ لوگ خدا اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں ، نیکی کرنے والوں پر (الزام) کوئی سبیل نہیں ہے اور خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

امام علیہ السلام : شامیوں کے ساتھ ہمارے کام کے متعلق لوگ کیا کہتے ہیں؟

ضعیف: آپ کے دشمن اس کام سے خوش ہیں لیکن آپ کے حقیقی دوست ناراض اور افسوس کرتے ہیں ۔  
امام علیہ السلام : تم سچ کہتے ہو خدا تمہاری بیماریوں کو تمہارے گناہوں کی بخشش کا سہارا قرار دے اگرچہ بیماری کا کوئی اجر نہیں ہے مگر یہ کہ گناہ بخش دئے جاتے ہیں ، اجر و ثواب ، انسان کے کردار و گفتار پر منحصر ہے لیکن کبھی بھی حسن نیت (اچھی نیت) سے غفلت نہیں برتنا چاہیے کیونکہ خداوند عالم بہت زیادہ گروہوں کو ان کی بہترین نیت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا امام علیہ السلام اتنا کہنے کے بعد اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ (۱)  
ابھی امام علیہ السلام نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ عبداللہ بن ودیعہ انصاری سے ملاقات ہوئی آپ نے چاہا کہ معاویہ کے ساتھ صلح کے متعلق لوگوں کے نظریہ سے آگاہی پیدا کریں لہذا اس کے ساتھ کچھ دیر گفتگو ہوئی جسے ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

امام علیہ السلام : ہمارے کاموں کے بارے میں لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟

انصاری : آپ کے متعلق لوگوں کے دو نظریے ہیں بعض لوگوں نے اسے پسند کیا ہے اور بعض لوگ اس سے ناراض ہیں اور (قرآن کی تعبیر کے مطابق " ولا یزالون مختلفین ") ہمیشہ اختلاف کے خواہاں ہیں ۔

امام علیہ السلام: عقلمندوں کا کیا نظریہ ہے؟

انصاری: ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ گروہ علی کے ساتھ تھے لیکن علی نے انہیں دور کر دیا بہترین قلعہ تھا لیکن اسے ویران کر دیا اب علی کب ان لوگوں کو اپنے پاس بلائیں گے جنہیں دور کر دیا ہے اور جس قلعہ کو ویران کیا ہے اسے کب آباد کریں گے؟ اگر وہ اسی گروہ کے ساتھ جو ان کے تابع تھے جنگ کو جاری رکھتے تو یا تو کامیاب ہوجاتے یا ختم ہوجاتے انہوں نے عقلمندی اور بہترین سیاست سے کام انجام دیا تھا۔

امام علیہ السلام : میں نے ویران کیا ہے یا ان لوگوں (خوارج) نے؟ میں نے ان لوگوں کو دور کر دیا یا ان لوگوں نے اختلاف اور تفرقہ ایجاد کیا؟ اور جو یہ کہتے ہو کہ حسن تدبیر یہ تھی کہ جس وقت کچھ لوگوں نے میرے خلاف بغاوت کیا تھا تو میں اپنے وفاداروں کے ساتھ جنگ جاری رکھتا یہ ایک ایسا نظریہ نہ تھا کہ میں اس سے غافل ہوتا، میں اس بات پر حاضر تھا کہ اپنی جان کو قربان کر دینا اور موت کو خندہ پیشانی کے ساتھ گلے لگا تا لیکن حسن و حسین پر نہیں رویا اور دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے شہید ہونا چاہتے ہیں لہذا میں نے اس بات کا خوف محسوس کیا کہ ان دونوں کے مرنے سے پیغمبر اسلام (ص) کی نسل نہ منقطع ہوجائے لہذا اس کام کو نہیں پسند کیا خدا کی قسم اگر اس مرتبہ شامیوں سے مقابلہ ہواتو اس راہ کو انتخاب کروں گا اور ہرگز وہ دونوں

(۱) وقعہ صفین ص ۵۲۸۔ تاریخ طبری ج، ۳ جزئ ۶ ص ۳۲

(حسن و حسین) میرے ساتھ نہ ہوں گے۔ (۱)

امام علیہ السلام کے ساتھ انصاری کی صاف باتیں دو مطلب کو واضح کرتی ہیں :

۱۔ وہ ماحول جس میں امام علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے وہ آزاد ماحول تھا اور لوگوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ



حکومت وقت کے بارے میں اپنے افکار و نظریات کو پیش کرسکیں اور امام علیہ السلام کی نظر میں اپنے نظریہ کو ظاہر کرنے میں مخالف و موافق برابر تھے اور جب تک کہ مخالف اسلحہ نہیں اٹھاتا اور حملہ نہیں کرتا مکمل آزاد رہتا تھا۔  
 ۲۔ پیغمبر اسلام (ص) کی نسل کی حفاظت کہ جسے قرآن کریم نے لفظ "کوثر" سے تعبیر کیا ہے اسلام کے واجبات سے اہم ہے اور اگر امام علیہ السلام معاویہ اور اپنے مخالفوں سے جنگ جاری رکھتے کہ جن کی تعداد کم نہ تھی تو خود امام علیہ السلام اور حسنین علیہم السلام شہید ہوجاتے اور پیغمبر اسلام (ص) کی نسل ختم ہوجاتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ خود " امامت" ہی ختم ہوجاتی ، جب کہ پروردگار عالم کا ارادہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ معصومین علیہم السلام کی نسل ظہور امام زمان علیہ السلام تک باقی رہے اسی لئے امام علیہ السلام نے حکمیت کو قبول کرلیا، اور تمام علتوں میں سے ایک یہ بھی علت تھی جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے اسے قبول کیا۔

(۱) تاریخ طبری ج، ۳ جزئی ۶ ص ۳۸۔ کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۱۶۴، وقعہ صفین ص ۵۲۹، ۵۳۰۔

امام - خباب بن ارت کی قبر پر

امام علیہ السلام چلتے چلتے بنی عوف کے گھروں کے پاس پہنچے راستے کے دہنی طرف ایک اونچی جگہ پر آپ نے سات یا آٹھ قبروں کو دیکھا امام علیہ السلام نے ان قبروں میں دفن کے نام پوچھے ، قدامہ بن عجلان ازدی نے جواب دیا ، آپ کے صفین جانے کے بعد خباب بن ارت کا انتقال ہوگیا اور اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اسے بلند جگہ پر دفن کیا جائے یہاں پر اس کے دفن ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اپنے مردوں کو بھی اس کے اطراف میں دفن کرنا شروع کر دیا ، امام علیہ السلام نے خباب کے لئے رحمت و مغفرت طلب کرنے کے بعد اس کے متعلق کہا اس نے صدق دل سے اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی سے ہجرت کیا تھا اور پوری عمر جہاد کیا اور پھر اس کا جسم کمزور ہوگیا خداوند عالم اچھے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اور پھر وہاں پر دفن ہوئے تمام لوگوں کے بارے میں فرمایا:

" اے خوفناک زمین اور بے آب و گیاه محلہ میں رہنے والو! تم پر درود و سلام ہو اے مؤمن اور مومنات ، تم نے ہم پر سبقت حاصل کی ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں تم لوگوں سے ملحق ہوجائیں گے خدایا ہمیں اور ان لوگوں کو بخش دے اور ان کی اور ہماری غلطیوں کو معاف کردے۔ (پھر فرمایا) اس خدا کا شکر جس نے زمین کو مردوں اور زندوں کے جمع ہونے کی جگہ بنائی ، شکر اس خدا کا جس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے اور اس کے سامنے حاضر ہوں گے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قیامت کو یاد کرتے ہیں اور حساب و کتاب کے دن کے لئے صحیح امور انجام دیتے ہیں اور اپنے امور میں قناعت کرتے ہیں۔(۱)

پھر امام علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری کیا اور قبیلہ ہمدان کے گھروں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے عورتوں کے رونے کی آواز سنی ، جو جنگ صفین میں قتل ہونے والے اپنے رشتہ داروں پر رو رہی تھیں۔ امام علیہ السلام نے شرحبیل کو بلایا اور کہا: کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ صبر کریں اور چیخ و فریاد نہ کریں اس نے امام علیہ السلام کے جواب میں کہا: اگر بات صرف چند گھروں کی ہوتی تو اس درخواست پر عمل کرنا ممکن تھا لیکن تنہا صرف اس علاقے سے ۱۸۰ آدمی قتل ہوئے ہیں اور کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جہاں گریہ وزاری نہ ہو لیکن ہم سب مرد ہرگز نہیں روتے بلکہ ہم لوگ ان کی شہادت پر بہت خوش ہیں ، امام علیہ السلام نے ان کے مرنے والوں پر رحمت کی دعا دی، امام علیہ السلام چونکہ گھوڑے پر سوار تھے اور شرحبیل نے چاہا کہ آپ کو کچھ دور جا کر خداحافظ کرے لہذا اس سے فرمایا: ار جع فان مشی مثلک فتنۃ للوالی و مذ لۃ للمومنین(۲) یعنی واپس چلے جاؤ کہ اس طرح سے مشایعت کرنا کسی کو رخصت کرنے کے لئے تھوڑی دور جانا) حاکم کے غرور ارو مومنین کی ذلت کا سبب ہے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو چار سو لوگوں کو حکمین کے کاموں پر بعنوان ناظر معین کیا اور شریح کو فوج کا سردار اور ابن عباس کو مذہبی پیشوا معین کیا اور پھر وہ وقت آیا کہ اپنے زبردستی منتخب ہونے والے نمائندے

(۱) تاریخ طبری ج، ۳ جزئی ۶ ص ۳۴۔ کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۱۶۴، وقعہ صفین ص ۵۲۹، ۵۳۰۔

(۲) وقوعہ صفین ص ۵۳۱۔ تاریخ طبری ج، ۳ جزئی ۶ ص ۳۵۔ کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۱۶۴

یعنی ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیں (۱)  
امام علیہ السلام اپنے دور خلافت کے آغاز ہی سے اپنی خلافت و رببری میں اس کی بے پرواہی سے باخبر تھے اور لوگ بھی اس کی سادگی اور بے وقوفی سے آگاہ تھے یہی وجہ ہے کہ اس کو بھیجنے کے وقت امام علیہ السلام اور لوگوں نے اس سے گفتگو کی اس میں سے بعض باتوں کو ہم یہاں نقل کر رہے ہیں۔

امام علیہ السلام اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان گفتگو  
ابو موسیٰ اشعری کی بیوقوفی اور کم عقلی کو دوست و دشمن سبھی جانتے تھے اور اسے (بغیر دھار اور قبضے کی چھری) اور کم ظرف کہتے تھے لیکن علی علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ ان کے سادہ اور کم ظرف دوستوں نے جو ابو موسیٰ اشعری ہی کی صفت کے تھے امام کو دو چیزوں پر مجبور کر دیا تھا کہ خود حکمیت کو قبول کریں اور حکم کے عنوان سے ابو موسیٰ اشعری ہی ہو امام علیہ السلام نے ابو موسیٰ کو "دومة الجندل" بھیجتے وقت اس سے اور اپنے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع سے اس طرح گفتگو کی:

امام علیہ السلام نے ابو موسیٰ سے کہا " احکم بکتاب اللہ ولا تجاوزہ " یعنی خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا اور اس سے تجاوز نہ کرنا۔  
جب ابو موسیٰ روانہ ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس واقعہ میں ضرور دھوکہ کھائے گا۔  
عبید اللہ : اگر واقعا ایسا ہے اور وہ دھوکہ کھائے گا تو پھر اسے کیوں بھیج رہے ہیں؟  
امام علیہ السلام : "لَوْ عَمِلَ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ بَعْلَمَهُ مَا احْتَجَّ عَلَيْهِمُ بِالرَّسْلِ " (۲) یعنی اگر خداوند عالم اپنے علم کے مطابق اپنے بندوں سے محاسبہ کرتا تو وہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا اور ان کے ذریعے سے ان لوگوں پر اپنی دلیلیں قائم نہیں کرتا۔

(۱) وقوعہ صفین ص ۵۳۳، تاریخ طبری ج، ۳ جزئی ۶ ص ۳۷۔ مروج الذهب ج ۲، ص ۴۰۶  
(۲) مناقب ابن شہر آشوب ج ۲، ص ۲۶۱

فوج کے سردار اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان گفتگو

سردار شریح بن ہانی جسے امام علیہ السلام نے چار سو آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ کے ساتھ دومة الجندل بھیجا تھا اس نے ابو موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہا ، تمہارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی تعمیر ممکن نہ ہو، جان لو کہ اگر معاویہ نے عراق پر قبضہ کر لیا تو پھر عراق باقی نہ رہے گا لیکن اگر علی نے شام پر قبضہ کر لیا تو شامیوں پر کوئی آفت و مشکل نہیں آئے گی تم نے امام علیہ السلام کی حکومت کے اوائل میں خاموشی اختیار کی ، اگر تم نے پھر ایسا کیا تو جان لو کہ گمان یقین میں اور امید، نا امیدی میں بدل جائے گی۔

ابو موسیٰ اشعری نے اس کے جواب میں کہا : وہ گروہ جو ہم پر الزام لگا رہا ہے اس کے لئے بہتر نہیں ہے کہ مجھے قاضی کے طور پر معین کریں کہ باطل کو ان لوگوں سے دور اور حق کو ان لوگوں سے قریب کروں (۱) امام علیہ السلام کی فوج کے مشہور شاعر اور ابو موسیٰ کے دوست نجاشی نے اس کے لئے اشعار کہے جس میں اسے حق اور عدالت کی رعایت کرنے کی تاکید کی اور جب وہ اشعار ابو موسیٰ کو سنایا گیا تو اس نے کہا ، میری خدا سے دعا ہے کہ میرا نصیب چمک اٹھے اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنے فریضہ کو انجام دوں۔ (۲)

(۱) الامامة والسياسة ج ۱، ص ۱۱۵۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۲۴۵  
(۲) وقوعہ صفین ص ۵۳۴۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۲۴۷

ابو موسیٰ اشعری اور احنف کے درمیان گفتگو

سب سے آخر میں جس نے ابو موسیٰ اشعریٰ کو خدا حافظ کیا وہ احنف تھا، اس نے ابو موسیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اس سے یہ کہا اس کام کی عظمت کی قدر کرو اور جان لو کہ یہ کام جاری رہے گا اگر عراق کو برباد کیا تو پھر عراق ختم ہو جائے گا ، خدا کی مخالفت کرنے سے پرہیز کرو ، خدا دنیا و آخرت کو تمہارے لئے ذخیرہ کرے گا اگر آئندہ عمرو عاص سے تمہاری ملاقات ہو تو تم پہلے سلام مت کرنا اگر چہ پہلے سلام کرنا مستحب ہے لیکن وہ سلام کے لائق نہیں ہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دینا کیونکہ تیرا ہاتھ امت کی امانت ہے ممکن ہے کہ تجھے مجمع میں صدر جگہ پر بٹھائے تو جان لو کہ اس کام میں دھوکہ و فریب ہے اور اگر تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہے تو اس سے پرہیز کرنا کیونکہ ممکن ہے وہاں کچھ لوگوں کو گواہ کے طور پر چھپائے رہے تاکہ بعد میں وہ لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں۔

پھر احنف نے ابو موسیٰ کو آزمائے کے لئے کہ امام علیہ السلام سے اسے کتنا خلوص ہے اس سے یہ درخواست کی کہ ، اگر عمرو کے ساتھ امام علیہ السلام کے بارے میں توافق نہ ہوسکے تو اس سے درخواست کرنا کہ عراقی لوگ شام میں رہنے والے قرشیوں میں سے کسی کو بھی خلیفہ چن سکتے ہیں اور اگر اسے قبول نہ کیا تو دوسری درخواست کرنا اور وہ یہ کہ شامی لوگ عراقیوں میں سے کسی ایک کو بھی خلیفہ منتخب کرسکتے ہیں (۱) ابو موسیٰ نے اس بات کو ، جس میں امام علیہ السلام کا خلافت سے معزول ہونا اور دوسرے خلیفہ کا انتخاب تھا، سنا لیکن اس نے کوئی عکس العمل نہ دکھایا۔

احنف فوراً امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور پورا واقعہ آپ سے بیان کیا اور کہا کہ ہم ایسے شخص کو اپنے حق کے ثابت کرنے کے لئے بھیج رہے ہیں جو آپ کے عزل اور دور ہونے کی پرواہ نہیں کرتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: " ان الله غالب على امره" احنف نے کہا یہ کام ہم لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہے۔ (۲)

(۱) الامامة والسياسة ج ۱، ص ۱۱۶۔ وقوعہ صفین ص ۵۳۶۔ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۲۴۹  
(۲) وقوعہ صفین ص ۵۳۷

سعد وقاص اور اس کا بیٹا عمر

سعد وقاص ان لوگوں میں سے تھاجس نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کیا تھا لیکن خود کو قضیے میں داخل نہیں کیا تھا اور جنگ صفین کی آگ بھڑکنے کے بعد وہ سرزمین بنی سلیم چلا گیا اور مستقل دونوں فوجوں کی خبرونسے آگاہ ہو رہا تھا ، اسی فکر میں غرق تھا کہ ایک دن دور سے اسے سواری نظر آئی جو اسی کی طرف آرہی تھی لیکن جب نزدیک پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ اس کا بیٹا عمر ہے ( یہ وہی شخص ہے جس نے کربلا میں امام حسین اور آپ کے باوفا ساتھیوں کو قتل کیا تھا) باپ نے اس سے حالات معلوم کئے اور عمر نے جبری حکمیت اور دومة الجندل میں حکمین کے اجتماع کی خبر دی اور اپنے باپ سے کہا کہ اسلام کی آپ نے بہت خدمتیں کی ہیں لہذا آپ اس علاقے میں ضرور جائیں ، شاید کہ خلافت اسلامی پر آپ کا قبضہ ہو جائے ، باپ نے کہا، بیٹا خاموش رہو میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا

ہے کہ میرے بعد فتنہ برپا ہوگا اور بہترین شخص وہ ہے جو اس سے بچا رہے اور اس سے دور رہے ، خلافت کا مسئلہ ایک ایسا امر ہے کہ میں نے پہلے ہی دن سے اس میں دخالت نہیں کی اور آئندہ بھی داخل نہیں ہوؤں گا اور اگر بنا یہ ہو کہ میناس میں دخالت کروں تو علی کا ساتھ دوں گا لوگوں نے تلوار سے مجھے ڈرایا لیکن میں نے اسے آگ پر مقدم کیا۔ (۱) سعد وقاص نے دونوں طرف سے کسی ایک کی مدد کرنے کو فتنہ و فساد سمجھا اور اس کے نتیجہ و اختتام کو آگ تصور کیا لیکن اس کے باوجود اس نے علی علیہ السلام کی شخصیت کو معاویہ پر ترجیح دیا اور اسی رات جو اس نے اشعار کہے تھے اس میں علی علیہ السلام کی تعریف اور معاویہ کی مذمت کی تھی اور کہا تھا:

ولو كنت يوماً لا محالة وافداً  
تبعت علياً والهوئى حيث يجعل

اگر بنا ہو کہ کسی دن اس کام کے لئے اقدام کروں تو علی کی پیروی کروں گا یہاں تک کہ وہ راضی ہوں ، اس کے اندھے دل کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ امام علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت جو غدیر خم میں سب پر واضح اور روشن

ہوگئی اور عثمان کے قتل کے بعد تمام مہاجرین و انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ، کو فتنہ میں داخل کرتا ہے جب کہ ایسے امام سے منہ موڑنے والے کا انجام جہنم میں داخل ہونا ہے (۲)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۲۴۹  
(۲) وقوعہ صفین ص ۵۳۹

معاویہ کا حالات سے پریشان ہونا

بعض صحابہ اور ان کے بیٹے ، جنہوں نے علی علیہ السلام سے دور رہنے کے بعد بھی معاویہ کا ساتھ نہیں دیا تھا اور جنگ تمام ہونے کے بعد معاویہ کے کہنے پر شام آگئے تھے مثلاً عبداللہ بن زبیر ، عبداللہ بن عمر ، مغیرہ بن شعبہ " معاویہ نے مغیرہ سے التجا کی کہ وہ اس کام میں اس کی مدد کرے اور اسے حکمین کی فکروں سے آگاہ کرے مغیرہ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور دوما الجندل کے لئے روانہ ہو گیا اور حکمین کے نظریات معلوم کرنے کے لئے ہر ایک سے الگ الگ ملاقات کی ، سب سے پہلے اس نے ابو موسیٰ سے ملاقات کی اور کہا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے جس نے اس اضطرابی کیفیت سے پرہیز اور قتل و خوں ریزی سے دوری اختیار کی ہے ؟ ابو موسیٰ نے کہا ، وہ لوگ نیک اور اچھے افراد ہیں ! ان کی پیٹھ خون کے بوجھ سے ہلکی اور ان کے پیٹ حرام مال سے خالی ہیں ۔

پھر اس نے عمرو سے ملاقات کی اور یہی سوال اس سے بھی کیا اس نے جواب دیا کہ کنارہ کشی کرنے والے بدترین لوگ ہیں نہ ان لوگوں نے حق کو پہچانا ہے اور نہ باطل کا انکار کیا ہے ۔ مغیرہ شام واپس آگیا اور معاویہ سے کہا میں نے دونوں حکم کا امتحان لیا ، ابو موسیٰ ، علی کو خلافت سے دور کر دے گا اور عبداللہ بن عمر جو اس واقعہ میں شریک نہیں ہوا تھا اسے خلافت دیدے گا لیکن عمرو عاص تمہارا قدیمی ساتھی ہے لوگوں کا کہنا ہے وہ خلافت خود لینا چاہتا ہے اور تجھے اپنے سے بہتر نہیں جانتا۔ (۱)

(۱) وقوعہ صفین ص ۵۳۹ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۲۵۱۔ کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۱۶۷۔

فتنہ حکمیت کا خاتمہ

وہ مسائل جن کے لئے ضروری تھا کہ دونوں طرف کے نمائندے اس موضوع پر گفتگو کریں اور اس کے حکم کو کتاب و سنت سے نکالیں اور امام علیہ السلام اور معاویہ کے ساتھیوں کو اس کی خبر کر دیں وہ موضوع یہ ہیں :

- ۱۔ عثمان کے قتل کی تحقیق ۔
- ۲۔ امام علیہ السلام کی حکومت کا قانونی ہونا۔
- ۳۔ امام علیہ السلام کی قانونی حکومت سے معاویہ کی مخالفت اور اس کا صحیح ہونا۔
- ۴۔ وہ چیز جو ایسے حالات میں صلح کی ضامن بنے۔

لیکن افسوس کہ حکمین نے جس موضوع پر بحث و گفتگو نہیں کی وہ یہی چار موضوع تھے کیونکہ ان میں سے ہر ایک خاص سابقہ ، تجربہ کے ساتھ حکمیت کے میدان میں وارد ہوا اور اپنی ہی خواہش کے مطابق حکم چلانا چاہا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان موضوعات کا حکمین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔

حکمین اور نظارت کرنے والوں کے بہت دنوں تک دوما الجندل میں رہنے کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے اندر تشویش اور خوف کا سماں بن گیا اور ہر آدمی طرح طرح کی باتیں سوچ رہا تھا عجلت کرنے والے ، اسی طرح کم عقل لوگ کچھ اور فکر میں تھے تو دور اندیش اور دانشمند کچھ اور فکر کر رہے تھے۔

سب سے پہلے جس موضوع پر بحث ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ خلیفہ سوم اور اس کے حاکم کے عمدہ امور جس پر

اعتراضات ہوئے ہیں انہیں صحیح سندوں کے ساتھ پیش کیا جائے اور پھر جن لوگوں نے خلیفہ کو قتل کیا ہے چاہے عراقی ہوں یا مصری یا صحابی ، انہیں دعوت دی جائے اور اس مسئلہ کی دقیق تحقیق و جستجو کی جائے اور قاتلوں کے اس دعوے کو کہ خلیفہ نے اسلامی اصولوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور رسول خدا (ص) کی سیرت حتیٰ شیخین سے بھی منحرف ہو گیتا تھا ، منصفانہ تحقیق کی جائے لیکن اس سلسلے میں دقت سے کام نہیں لیا گیا اور صرف عمرو عاص نے اپنے مقصد کے حصول (امام کو خلافت سے دور کر کے اس جگہ پر معاویہ یا اپنے بیٹے عبداللہ کو مسند خلافت پر بٹھائے) کے لئے ابو موسیٰ سے کہا: کیا تو اس بات کو قبول کرتا ہے کہ عثمان مظلوم قتل ہوا ہے؟ اس نے بھی ایک طرح سے تصدیق کر دی (۱) اور کہا، خلیفہ کے قاتلوں نے انہیں تو بہ کرایا پھر قتل کر دیا جب کہ مجرم توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اور اسی طرح وہ موضوع جو اصلاً زیر بحث نہ رہا وہ امام علیہ السلام کی حکومت کا قانونی ہونا تھا ، وہ حکومت جو مہاجرین و انصار کے اتحاد و اتفاق سے علی علیہ السلام کو ملی اور خود آپ ابتداء میں اسے قبول نہیں کر رہے تھے اور جب مہاجرین و انصار کے مجمع کو دیکھا کہ سب کے سب اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے اس وقت آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور حکومت قبول کی ، اگر سقیفہ میں خلیفہ اول کی خلافت چند آدمیوں کی بیعت سے قانونی ہو گئی اور خلیفہ دوم کی خلافت ابوبکر کے نصب کرنے سے قانونی ہو گئی تو امام علیہ السلام کی خلافت تمام مہاجرین و انصار (علاوہ پانچ لوگوں) کی بیعت کی وجہ سے قطعاً حقیقی اور قانونی تھی اور اس کے بارے میں ہرگز شک و تردد نہیں کرنا چاہیے۔

اور تیسرے مرحلے میں بھی مثل دوسرے مرحلے کے اصلاً گفتگو نہ ہوئی کیونکہ دونوں حکم جانتے تھے کہ معاویہ کی مخالفت کرنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام کو منصب خلافت سے ہٹا کر خلافت پر قبضہ کر لے ، معاویہ کی پوری زندگی ، اس کے رفتار و کردار چاہے عثمان کے قتل سے پہلے چاہے اس کے بعد سب پر واضح ہے کہ وہ بہت دنوں سے خلافت کو بنی امیہ میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ خلافت اسلامی کے نام پر قیصر و کسریٰ کی سلطنت کو زندہ کرے اور "خلیفہ کے خون کا بدلہ اور قاتلوں کو سزا و قصاص دینا" یہ سب قانون

#### (۱) الاخبار الطوال ص ۱۹۹

توڑنے اور مخالفت کی توجیہ کرنے کے لئے ایک بہانہ تھا اگر وہ حقیقت میں اپنے کو عثمان کے خون کا ولی سمجھتا تو ضروری تھا کہ تمام مسلمانوں کی طرح امام علیہ السلام کی قانونی حکومت کی پیروی کرتا اور اس وقت خلیفہ وقت سے کہتا کہ عثمان کے قاتلوں کے قصاص کے بارے میں اقدام کریں۔

امام علیہ السلام نے معاویہ کی مخالفت کے اوائل ہی میں کئی مرتبہ خلیفہ کے مخالفوں کی مخالفت میں دلیل وغیرہ قائم کر کے دکھایا اور کہا کہ میرا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو متحد کروں اور مہاجرین و انصار کی شوریٰ (انجمن) کا احترام کروں اور پھر دعوے اور قصاص وغیرہ کے مسئلہ کو حل کروں اور جب تک وہ حکومت کو صحیح تصور نہیں کرتا تو وہ کسی بھی مسئلہ کو بیان کرنے کا حق نہیں رکھتا۔

چوتھے مرحلے میں ، ابو موسیٰ نے بجائے اس کے کہ معاویہ کی سرکشی کی اس حکومت پر جو مہاجرین و انصار کے توسط سے بنی تھی مذمت کرتا ، یا خود اپنے کو امام علیہ السلام کی خلافت کے اوائل میں بیعت نہ کرنے کی وجہ سے مقصر سمجھتا ، اس نے دونوں طرف کے لوگوں کو قصور وار ٹھہرایا اور چاہا کہ ایسے شخص کو خلافت کے لئے منصوب کرے کہ جس کے افتخار کے لئے یہی کافی تھا کہ وہ خلیفہ دوم کا بیٹا ہے اور ان تمام چیزوں سے دور تھا جب کہ عبداللہ بن عمر کام وغیرہ کرنے میں اتنا ضعیف تھا کہ اس کے باپ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ میرا بیٹا اس قدر سست ہے کہ اپنی عورت کو طلاق دینے سے بھی عاجز ہے (۱)

جب کہ حکمین کا فریضہ یہ تھا کہ ان چاروں موضوع پر منصفانہ بحث و گفتگو کرتے اور شاید امام علیہ السلام کی حکومت کا قانونی ہونا اور مرکزی حکومت معاویہ کی سرکشی پر توجہ دینا ہی کافی تھا کہ دوسرے موارد میں صحیح رائے و مشورہ لیا جاتا ، لیکن افسوس امام علیہ السلام کے نادان دوستوں نے آپ پر ایسے نمائندہ کو تحمیل کر دیا تھا کہ جو فیصلہ اور دلیل قائم کرنے میں ایسے ذرات کی طرح تھا جسے ہوا کے جھونکے ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔

عمرو عاص نے دوما الجندل میں قدم رکھتے ہی ابو موسیٰ اشعری کا پیغمبر کا صحابی اور اپنے سے بزرگ ہونے کی حیثیت سے اس کا احترام کرنے لگا اور گفتگو کرتے وقت ہمیشہ اسے مقدم کرتا تھا اور جس وقت یہ طے پایا کہ دونوں حکم

علی اور معاویہ کو معزول کریں اس وقت بھی عمرو عاص نے اپنا نظریہ ظاہر کرنے اور اپنے پیشوا کو

(۱) طبقات ابن سعد ج ۳، ص ۳۴۳ مطبوعہ بیروت

معزول کرنے میں بھی اسی کو مقدم رکھا ، کیونکہ دنوں کے دومتہ الجندل میں دونوں کی روش یہی تھی ، اسی وجہ سے پہلے ابو موسیٰ نے امام علیہ السلام کو خلافت سے دور کیا اور چلتے وقت تمام دوستوں نے جو سفارشیں کی تھیں اسے نظر انداز کر دیا لیکن عمرو عاص نے فوراً ہی معاویہ کو مسند خلافت پر بٹھا دیا ! یہاں بھی دونوں کے درمیان ہوئی باتوں کو نقل کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ حکمیت کا کھیل کس طریقے سے ختم ہوا اور امام علیہ السلام کے سادہ لوح اور ضدی ساتھیوں نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا :

عمرو عاص: کیا تم جانتے ہو کہ ، عثمان مظلوم قتل ہوئے ہیں ؟

ابوموسیٰ : ہاں ۔

عمرو عاص: اے لوگو تم لوگ گواہ رہنا علی کے نمائندے نے عثمان کے مظلوم ہونے کا اعتراف کر لیا ہے ، اس وقت ابو موسیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہا ، کیوں معاویہ سے کہ جو عثمان کا ولی ہے اپنا منہ پھیرے ہو جب کہ وہ بھی قرشی ہے ؟ اور اگر لوگوں کے اعتراض کرنے کی وجہ سے ڈر رہے ہو کہ لوگ کہیں گے کہ ایسے شخص کو خلافت کے لئے چنا ہے جس کا اسلام میں کوئی سابقہ ، خدمات نہیں ہے تو تم یہ جواب دے سکتے ہو کہ معاویہ خلیفہ مظلوم کا ولی ہے اور خلیفہ کے خون کا بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے اور تدبیر و سیاست کے لحاظ سے ممتاز ہے اور پیغمبر سے نسبت کے اعتبار سے پیغمبر کی بیوی ( ام حبیبہ) کا بھائی ہے اس کے علاوہ اگر خلافت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوگی تو سب سے زیادہ تمہارا احترام کرے گا۔

ابوموسیٰ : خدا سے ڈر ، خلافت ان لوگوں کے لئے ہے جو اہل دین و فضیلت ہیں اور اگر خلافت کے لئے خاندانی شرافت معیار ہے تو قریش میں سب سے شریف علی ہیں ، میں نے برگز پھلے مہاجرین کو نظر انداز نہیں کیا ، معاویہ کو خلافت کے لئے منتخب نہیں کروں گا ، یہاں تک اگر معاویہ میرے لئے خلافت سے دور ہو جائے پھر بھی میں اس کی خلافت کے لئے رائے نہیں دوں گا اگر تو چاہے تو عمر بن خطاب کا نام زندہ کریں اور عبداللہ بن عمر کو خلافت کے لئے منتخب کریں۔

عمرو عاص : اگر تو عبداللہ بن عمر کی خلافت چاہتا ہے تو کیوں میرے بیٹے عبداللہ کی تائید نہیں کرتا کہ وہ برگز اس سے کم نہیں ہے اور اس کی سچائی اور فضیلت سب پر واضح ہے ؟

ابوموسیٰ: وہ بھی اپنے باپ کی طرح اس فتنے میں شریک ہے اور خلافت کے لائق نہیں ہے ۔

عمرو عاص: خلافت اس کے لئے قطعی ہے جو خود بھی کھائے اور دوسرے کو بھی کھلائے اور عمر کے بیٹے میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔

ابھی تک ہم لوگ کسی فرد پر متفق نہیں ہوئے کوئی دوسرا مشورہ دو شاید اس پر توافق ہو جائے اس کے بعد دونوں نے خفیہ طور پر جلسہ منعقد کیا جس چیز پر دونوں نے توافق کیا وہ حسب ذیل ہیں:

ابوموسیٰ : میرا نظریہ ہے کہ دونوں (علی اور معاویہ) کو خلافت سے معزول کر دیں اور خلافت کا فیصلہ مسلمانوں کی شوریٰ کے حوالے کر دیں ، تاکہ وہ لوگ جس کو بھی چاہیں خلیفہ منتخب کریں۔

عمرو عاص: میں اس نظریہ سے موافق ہوں اور ضروری ہے کہ اپنے نظریہ کو باقاعدہ طور پر اعلان کروں ، ناظر اور دوسرے افراد جو حکمین کے فیصلے کے منتظر تھے سب کے سب جمع ہو گئے تاکہ ان دونوں کی گفتگو سنیں ، اس وقت عمرو نے ابوموسیٰ کی بیوقوفی اور کم عقلی سے فائدہ اٹھایا اور اسے مقدم کیا کہ گفتگو کا آغاز کرے اور اپنے نظریہ کو بیان کرے ، ابوموسیٰ ان تمام چیزوں سے غافل تھا کہ ممکن ہے کہ عمرو عاص میری گفتگو کے بعد اس نظریہ کی جس پر دونوں نے موافقت کی تھی تائید نہ کرے لہذا اس نے اپنی گفتگو شروع کی اور کہا:

" میں اور عمرو عاص ایک نظریہ پر متحد ہیں اور امید ہے کہ اس میں مسلمانوں کی کامیابی اور مصلحت ہو گی ۔

عمرو عاص: بالکل صحیح ہے اپنی گفتگو کو جاری رکھئے۔

اس موقع پر ابن عباس ابوموسیٰ کے پاس پہنچے اور اسے متنبہ کیا اور کہا کہ اگر تم لوگ ایک ہی نظریہ پر متحد ہوتو اجازت دو کہ پہلے عمرو عاص گفتگو کرے اور پھر تم اپنے نظریہ کو بیان کرو ، کیونکہ اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ جس چیز پر متحد ہے اس کے برخلاف بیان کرے ، لیکن ابوموسیٰ نے ابن عباس کے منع کرنے کے باوجود اس پر کوئی

توجہ نہیں دی اور کہا، چھوڑ دو، ہم دونوں نے ایک ہی نظریہ پر موافقت کی ہے اور پھر اٹھا اور کہا: ہم لوگوں نے امت کے حالات کا جائزہ لیا اور اختلاف ختم کرنے اور پھر سے متحد ہونے کے لئے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں دیکھا کہ علی اور معاویہ کو خلافت سے معزول کر دیں اور خلافت کے مسئلے کو مسلمانوں کی شوریٰ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ لوگ جس کو چاہیں بہ عنوان خلیفہ منتخب کر لیں، اس بنیاد پر، میں نے علی اور معاویہ کو خلافت سے معزول کر دیا۔

یہ جملے کہنے کے بعد وہ بیٹھ گیا پھر عمرو عاص ابو موسیٰ کی جگہ پر کھڑا ہوا اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد کہا "اے لوگو، تم نے ابو موسیٰ کی گفتگو سنی اس نے اپنے امام کو معزول کر دیا اور میں اس سلسلے میں اس کا موافق ہوں اور انہیں خلافت سے معزول کر رہا ہوں لیکن اس کے برخلاف، میں نے معاویہ کو خلافت پر باقی رکھا ہے وہ عثمان کا ولی اور اس کے خون کا بدلہ لینے والا ہے اور خلافت کے لئے بہترین شخص ہے۔" ابو موسیٰ نے غصہ میں آکر عمرو عاص سے کہا: تو کامیاب نہیں ہوگا جو تو نے مکرو فریب اور گناہ کیا ہے تیری مثال اس کتے کی ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا جائے تو اپنا منہ کھولتا ہے اور اپنی زبان کو باہر نکالتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دیا جب بھی وہ ویسا ہی ہے (۱)

عمرو عاص: تیری بھی حالت گدھے کی طرح ہے اگرچہ اس کی پیٹھ پر بہت کتابیں ہوں (۲)  
اس وقت عمرو کا مکرو فریب سب پر ظاہر ہو گیا اور لوگ منتشر ہو گئے (۳)  
شریح بن ہانی اپنی جگہ سے اٹھے اور زبردست تازیانہ عمرو کے سر پر مارا، عمرو عاص کا بیٹا اپنے باپ کی مدد کے لئے دوڑا اور شریح پر تازیانہ مارا اور لوگ دونوں کے درمیان میں آگئے۔ شریح بن ہانی بعد میں یہی کہتے تھے کہ، میں بہت پشیمان ہوں کہ کیوں تازیانہ کہ جگہ پر میں نے اس کے سر پر تلوار نہیں ماری۔ (۴)  
ابن عباس: خدا ابو موسیٰ کے چہرے کو برباد کر دے میں نے اسے عمرو عاص کے دھوکہ و فریب سے آگاہ کیا تھا لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی۔

(۱) یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ خدا کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں کتے سے شبابت دی جاتی ہے خدا فرماتا ہے "مثله کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا" (سورہ اعراف ۱۷۶)  
(۲) قرآن مجید کی اس آیت سے اقتباس "کمثل الحماری حمل اسفار" سورہ جمعہ آیت ۵  
(۳) الاخبار الطوال ص ۱۹۹۔ الامامة والسياسة ج ۱، ص ۱۱۸ تاریخ طبری ج ۳، جزء ۶، ص ۳۸۔ کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۱۶۷۔ تجارب السلف ص ۴۸۔ مروج الذهب ج ۲، ص ۴۰۸  
(۴) تاریخ طبری ج ۳، جزء ۶، ص ۴۰۔ کامل ابن اثیر ص ۱۶۸، وقعہ صفین ص ۵۶

ابو موسیٰ: یہ صحیح ہے کہ ابن عباس نے مجھے اس فاسق کے دھوکہ و فریب سے آگاہ کیا تھا لیکن میں نے اس پر یقین و اطمینان کر لیا اور کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میری خیر خواہی کے علاوہ میرے بارے میں کچھ کہے گا۔ (۱)  
سعید بن قیس نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اگر تم لوگ سچائی پر متفق ہو جاتے تو بھی ہم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا چہ جائیکہ تم لوگوں نے گمراہی اور ضلالت پر اتفاق و اتحاد کیا، اور تم لوگوں کا نظریہ ہم حجت نہیں ہے آج بھی اسی حالت میں ہیں جیسے پہلے تھے اور سرکشوں کے ساتھ جنگ جاری رہے گی (۲)۔  
اس واقعہ میں سب سے زیادہ ابو موسیٰ اشعری اور اشعث بن قیس (مسئلہ حکمیت کا کھلاڑی) لعنت و ملامت کے مستحق قرار پائے، ابو موسیٰ مسلسل عمرو عاص کو برا بھلا کہتا رہا اور اشعث کی زبان بند ہو گئی تھی وہ بالکل خاموش تھا، آخر کار عمرو عاص اور معاویہ کے ساتھیوں نے اپنا بوریہ بستر باندھا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے اور پورا واقعہ معاویہ کو تفصیل سے سنایا اور اسے خلیفہ مسلمین کے عنوان سے سلام کیا۔ ابن عباس اور شریح بن ہانی بھی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور پورا ماجرا بیان کیا، لیکن ابو موسیٰ اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو اس نے انجام دی تھیں مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور وہیں رہنے لگا۔ (۳)  
بالآخر جنگ صفین اور حاکمیت کا واقعہ ۴۵ ہزار لوگوں یا ایک قول کی بناء پر ۹۰ ہزار شامی اور ۲۰ یا ۲۵ ہزار عراقیوں کے قتل (۴) کے بعد شعبان ۳۷ ہجری کو ختم ہو گیا (۵) اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت اور اسلامی خلافت کے لئے مختلف مشکلیں پیدا ہو گئیں جس میں سے اکثر ختم نہ ہو سکیں۔



- (۱) تاریخ طبری ج ۳، جزء ۶، ص ۴۰۔ کامل ابن اثیر ص ۱۶۸، وقعہ صفین ص ۵۴۶
- (۲) وقعہ صفین ص ۵۴۷
- (۳) الاخبار الطوال ص ۲۰۰۔ کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۱۶۸۔ تجارب السلف ص ۴۹۔ الامامة والسياسة ج ۱، ص ۱۱۸
- (۴) مروج الذهب ج ۲، ص ۴۰۴
- (۵) تاریخ طبری ج ۳، جزء ۶، ص ۴۰۔ طبری نے اس قول کو واقفی سے نقل کیا ہے اور مسعودی نے مروج الذهب (ج ۲، ص ۴۰۲) اور التنبیہ الاشراف (ص ۲۶۵) نے بھی اسی قول کو نقل کیا ہے لیکن سب سے صحیح قول ماہ صفر ۳۷ ہجری۔ تجارب السلف ص ۵۰

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### بائیسویں فصل

جنگ نہروان یا قرآن کو نیزہ پر بلند کرنے کا نتیجہ

ابوسفیان کے بیٹے کی غلط سیاست اور اس کی دوسری عقل عمرو عاص کی وجہ سے بہت زیادہ تلخ اور غم انگیز واقعات رونما ہوئے، اس کی پلاننگ بنانے والا پہلے ہی دن سے اس کے برے آثار سے آگاہ تھا اور اپنی کامیابی کے لئے حکمت کے مسئلہ پر اسے مکمل اطمینان تھا اس سیاست کو سمجھنے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس بدترین سیاست کی وجہ سے دشمن نے اپنی آرزو حاصل کی، جو نتیجہ اس سلسلہ میں نکلا ہے اس میں سے درج ذیل چیزوں کا نام لے سکتے ہیں:

۱۔ شام پر معاویہ کا قبضہ ہو گیا اور اس کے تمام سردار اور اس علاقہ میں اس کے نمائندے صدق دل سے اس کے مطیع و فرمان بردار ہو گئے اور اگر کسی وجہ یا غرض کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام سے دل لگائے ہوئے تھے تو ان کو چھوڑ کر معاویہ سے ملحق ہو گئے۔

۲۔ امام علیہ السلام جو کامیابی کی آخری منزل پر تھے اس سے بہت دور ہو گئے اور پھر کامیابی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ امام علیہ السلام کی فوج میں جہاد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا تھا اور اب لوگوں کے اندر شہادت کا جوش و جذبہ نہیں تھا۔

۳۔ معاویہ کی برباد ہوتی ہوئی فوج دوبارہ زندہ ہو گئی، اور وہ پھر سے جوان ہو گئی اور عراق کے لوگوں کی روح کو کمزور کرنے کے لئے اس نے لوٹ مار اور غارت گری شروع کر دی تاکہ اس علاقے کا امن و چین ختم ہو جائے اور مرکزی حکومت کو کمزور اعلان کر دے،

۴۔ ان تمام چیزوں سے بدتر یہ کہ عراق کے لوگ دو گروہ میں بٹ گئے ایک گروہ نے حکمت کو قبول کیا اور دوسرے نے اسے کفر اور گناہ سے تعبیر کیا اور امام علیہ السلام کے لئے ضروری سمجھا کہ وہ اس کام سے توبہ کریں ورنہ اطاعت کی ریسمان گردن سے کھول دیں گے اور ان سے معاویہ کی طرح جنگ کے لئے آمادہ ہو جائیں گے۔

۵۔ ایسی فکر رکھنے کے باوجود، حکمت کے مخالفین جو ایک وقت امام کے طرفدار اور چاہنے والے تھے اور امام علیہ السلام نے اس گروہ کے دباؤ کی وجہ سے اپنی مرضی اور اپنے نظریے کے برخلاف حکمت کو قبول کیا تھا حضرت کے کوفہ میں آنے کے بعد ہی ان لوگوں نے حکومت وقت کی مخالفت کرنے والوں کے عنوان سے شہر چھوڑ دیا اور کوفہ سے دو میل کی دوری پر پڑاؤ ڈالا، ابھی جنگ صفین کے برے اثرات ختم نہ ہوئے تھے کہ ایک بدترین جنگ بنام "نہروان" رونما ہو گئی اور یہ سرکش گروہ اگرچہ ظاہری طور پر نابود ہو گیا لیکن اس گروہ کے باقی لوگ اطراف و جوانب میں لوگوں کو آمادہ کرنے لگے جس کی وجہ سے ۱۹ رمضان ۴۰ ہجری کو علی علیہ السلام خوارج کی اسی سازش کی بنا پر اور محراب عبادت میں شہید ہو گئے۔

جی ہاں، امام علیہ السلام نے اپنی حکومت کے زمانے میں تین بہت سخت جنگوں کا سامنا کیا جو تاریخ اسلام میں بے مثال ہیں:

پہلی جنگ میں عہد و پیمانہ توڑنے والے طلحہ وزبیر نے ام المومنین کی شخصیت سے جو کہ رسول اسلام کی شخصیت کی طرح تھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خونین جنگ کھڑی کی مگر شکست کھانی پڑی۔



دوسری جنگ میں مد مقابل ابوسفیان کا بیٹا معاویہ تھا جس نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا بہانہ بنایا اور سرکشی کے ذریعے مرکزی حکومت اور امام منصوب اور مہاجرین و انصار کے ذریعے چنے گئے خلیفہ کی مخالفت کی اور حق و عدالت کے راستے سے منحرف ہو گیا۔

تیسری جنگ میں جنگ کرنے والے امام علیہ السلام کے قدیمی ساتھی تھے جن کی پیشانیوں پر عبادتوں کی کثرت سے سجدوں کے نشان تھے اور ان کی تلاوتوں کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی اس گروہ سے جنگ پہلی دو جنگوں سے زیادہ مشکل تھی، مگر امام علیہ السلام نے کئی مہینہ صبر تحمل، تقریروں اور بااثر شخصیتوں کے بھیجنے کے بعد بھی جب ان کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور جب وہ لوگ اسلحوں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تو ان کے ساتھ جنگ کی اور خود آپ کی تعبیر کے مطابق " فتنہ کی آنکھ کو جڑ سے نکال دیا" امام علیہ السلام کے علاوہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ ان مقدس نما افراد کے ساتھ جنگ کرنا لیکن حضرت علی علیہ السلام کا اسلام کے ساتھ سابقہ اور پیغمبر اسلام (ص) کے زمانے میں جنگ کے میدان میں آپ کی ہجرت اور ایثار اور پوری زندگی میں زہد و تقویٰ اور مناظرہ کے میدان میں علم و دانش سے سرشار اور بہترین منطقی دلیل وغیرہ جیسی صلاحیتوں نے آپ کو وہ قدرت عطا کی تھی کہ جس کے ذریعے آپ نے فساد کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔

تاریخ اسلام میں یہ تینوں گروہ ناکثین ( عہد و پیمانہ توڑنے والے ) اور قاسطین ( ظالم و ستمگر اور حق سے دور ہونے والے ) اور مارقین ( گمراہ اور دین سے خارج ہونے والے افراد ) کے نام سے مشہور ہیں یہ تینوں نام پیغمبر کے زمانے میں رکھے گئے تھے خود رسول اسلام (ص) نے ان تینوں گروہوں کے اس طرح سے صفات بیان کئے تھے اور علی علیہ السلام اور دوسرے لوگوں سے کہا تھا کہ علی ان تینوں گروہ سے جنگ کریں گے، پیغمبر اسلام (ص) کا یہ کام خونی جنگ اور غیب کی خبر دینا ہے جسے اسلامی محدثین نے حدیث کی کتابوں میں مختلف مناسبتوں سے یاد کیا ہے نمونہ کے طور پر یہاں ان میں سے ایک کو ذکر کر رہے ہیں علی علیہ السلام فرماتے ہیں :

" امرنی رسول اللہ (ص) بقتال الناکثین والقاسطین و المارقین" (۱)

پیغمبر اسلام (ص) نے مجھے حکم دیا کہ ناکثین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگ کروں۔

ابن کثیر متوفی ۷۷۴ ہجری نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کے کچھ حصے کو نقل کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) ام سلمہ کے گھر میں داخل ہوئے اور کچھ دیر بعد علی - بھی آگئے پیغمبر (ص) نے اپنی بیوی کی طرف رخ کر کے کہا: " یا اُمَّةَ سَلَمَةَ هَذَا وَاللَّهِ قَاتِلُ النَّاكِثِيْنَ وَالْقَاسِطِيْنَ وَالْمَارِقِيْنَ مِنْ بَعْدِي " (۲) یعنی، اے ام سلمہ، یہ علی، ناکثین، قاسطین اور مارقین سے میرے بعد جنگ کرے گا۔

تاریخ اور حدیث کی کتابوں سے رجوع کرنے پر یہ حدیث صحیح اور محکم ثابت ہوئی ہے اسی وجہ سے یہاں پر مختصر کر رہے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ محقق بزرگوار علامہ امینی نے اپنی کتاب " الغدير " میں اس حدیث کے متعلق بیان کیا ہے اور اس کی سند اور حوالے وغیرہ کو جمع کیا ہے (۳)۔

مارقین کی تاریخ شاید ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنے زمانے کی حکومتوں سے لڑتے تھے اور کسی کی حکومت کو قبول نہیں کیا یہ حاکم کو رسمی طور پر پہچانتے تھے اور نہ حکومت ہی سے کوئی واسطہ رکھتے تھے حاکم عادل اور حاکم منحرف، مثل علی علیہ السلام اور معاویہ ان کی نظروں میں برابر تھے اور ان لوگوں کا یزید مروان کے ساتھ رویہ اور عمر بن عبد العزیز کے ساتھ رویہ برابر تھا۔

(۱) تاریخ بغدادی ج ۸، ص ۳۴۰

(۲) البدایہ والنہایہ جزئ ۷، ج ۴، ص ۳۰۵

(۳) الغدير ج ۳، ص ۱۹۵-۱۸۸، نقد کتاب منہاج السنة

خوارج کی بنیاد

خوارج کا وجود پیغمبر اسلام (ص) کے زمانے سے مرتبط ہے یہ گروہ پیغمبر کے زمانے میں اپنی فکر اور نظریہ پیش کرتا تھا اور ایسی باتیں کرتا تھا کہ وجدان اسے تسلیم نہیں کر سکتا اور لڑائی جھگڑا ان سے ظاہر ہوتا تھا درج ذیل موارد اسی موضوع سے متعلق ہیں :

پیغمبر اسلام (ص) نے جنگ "حنین" سے حاصل ہوئے مال غنیمت کو مصلحت کی بنا پر تقسیم کر دیا اور مشرکوں میں سے جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف کرنے کے لئے جو بہت سالوں سے اسلام سے جنگ کر رہے تھے زیادہ مال غنیمت دیا، اس وقت حرقوص بن زبیر نے اعتراض کیا اور غیر مہذب طور سے پیغمبر سے کہا، عدالت سے کام لیجئے۔

اس کی غیر مہذب گفتگو نے پیغمبر اسلام (ص) کو ناراض کر دیا اور اس کا جواب دیا، لعنت ہو تجھ پر اگر عدالت ہمارے پاس نہ ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ عمر نے اس وقت درخواست کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن پیغمبر نے اس کی درخواست قبول نہیں کی اور ان کے بھیانک نتیجے کے بارے میں کہا، اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کی پیروی کرنے والے ایسے ہوں گے جو دینی امور میں حد سے زیادہ تحقیق و جستجو کرنے والے ہوں گے اور بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے تیر کمان سے خارج ہوتا ہے وہ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ (۱)

بخاری نے اپنی کتاب "مولفۃ القلوب" میں اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں:

پیغمبر نے اس کے اور اس کے دوستوں کے بارے میں یہ کہا ہے " یمرقون من الدین ما یمرق السہم من الرمیة " (۲)

پیغمبر نے لفظ "مرق" استعمال کیا ہے جس کے معنی پھینکنے کے ہیں کیونکہ یہ گروہ دین کے سمجھنے میں اس قدر ٹیڑھی راہوں پر چلے گئے کہ دین کی حقیقت سے دور ہو گئے اور مسلمانوں کے درمیان

(۱) سیرہ ابن ہشام ج ۲، ص ۴۹۷  
(۲) صحیح بخاری

مارقین " کے نام سے مشہور ہو گئے۔ (۱)

اعتراض کرنے والا حرقوص کے لئے سزاوار یہ تھا کہ شبخین کی خلافت کے زمانے میں خاموشی کو ختم کر دیتا اور ان دونوں خلیفہ کے چنے جانے اور ان کی سیرت پر اعتراض کرتا، لیکن تاریخ نے اس سلسلے میں اس کا کوئی رد عمل نقل نہیں کیا ہے، صرف ابن اثیر نے "کامل" میں تحریر کیا ہے کہ ابواز کی فتح کے بعد حرقوص خلیفہ کی طرف سے اسلامی فوج کا سردار معین تھا اور عمر نے ابواز اور ورق کے بعد جو اسے خط لکھا اس کی عبارت بھی ذکر کی ہے (۲)

طبری نقل کرتے ہیں کہ ۳۵ ہجری میں حرقوص بصریوں پر حملہ کر کے، عثمان کی حکومت میں مدینہ آگیا اور مصر اور کوفہ کے لوگوں کے ساتھ خلیفہ کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ (۳)

اس کے بعد سے تاریخ میں اس کے نام و نشان کا پتہ نہیں ملتا اور اس وقت جب حضرت علی - نے چاہا کہ ابوموسیٰ کو فیصلہ کرنے کے لئے بھیجیں، تو اس وقت اچانک حرقوص زر عہ بن نوح طائی کے ساتھ امام کے پاس آیا اور دونوں کے درمیان سخت بحث و مباحثہ ہوا جسے ہم ذکر کر رہے ہیں۔

حرقوص: وہ غلطیاں جو تم نے انجام دی ہیں اس کے لئے توبہ کرو اور حکمین کو قبول نہ کرو اور ہمیں دشمن سے جنگ کرنے کے لئے میدان میں روانہ کرو تاکہ ان کے ساتھ جنگ کریں اور شہید ہو جائیں۔

امام علیہ السلام: جب حکمین کا مسئلہ طے ہو رہا تھا اس وقت میں نے اس کے بارے میں تم کو بتایا تھا لیکن تم نے میری مخالفت کی اور اب جب کہ ہم نے عہد و پیمانہ کر لیا ہے تو مجھ سے واپس جانے کی درخواست کر رہے ہو؟ خداوند عالم فرماتا ہے " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْعَلُونَ " (نحل ۹۱)

یعنی خدا کے عہد و پیمانہ، جب تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اس کو وفا کرو اور جو تم نے قسمیں کھائی ہیں ان کو نہ توڑو، جب کہ تم نے اپنی قسموں پر خدا کو ضامن قرار دیا ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔

(۱) التنبیہ والرد۔ منطی ص ۵۰  
(۲) کامل ج ۲، ص ۵۴۵۔ مطبوعہ دارصادر  
(۳) تاریخ طبری ج ۳، ص ۳۸۶ مطبوعہ الاعلمی

حرقوص: یہ ایسا گناہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس سے توبہ کرو۔

امام علیہ السلام: یہ گناہ نہیں ہے بلکہ فکرو عمل میں ایک قسم کی سستی ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے مجھ پر آپڑی ہے اور میں نے اسی وقت تم کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا اور اس سے روکا تھا۔

زرعہ بن نوح طائی : اگر حکمیت سے باز نہیں آئے تو خدا اور اس کی مرضی حاصل کرنے کیلئے تم سے جنگ کریں گے!

علی علیہ السلام : بے چارہ بدبخت، تمہارے مردہ جسم کو میدان جنگ میں دیکھ رہا ہوں گا کہ ہوا اس پر مٹی ڈال رہی ہے، زرعہ : میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہو۔

علی علیہ السلام : شیطان نے تم دونوں کو گمراہ کر دیا ہے۔

پیغمبر اسلام (ص) اور امیر المومنین علیہ السلام سے حرقوص کی غیر مہذب اور احمقانہ باتیں اس کے برخلاف ہیں کہ اسے ایک معمولی مسلمان سمجھیں ، جب کہ وہ مفسرین اسلامی (۱) کی نظر میں منافقوں میں سے ہے اور یہ آیت اس کی شان میں نازل ہوئی ہے :

" ومنہم من لم یلمزک فی الصدقات فان أعطوا منہارضوا وان لم یعطوا منہا ذاہم یسخطون " (توبہ ۵۸)، منافقوں میں سے بعض غنیمت تقسیم کرنے کے بارے میں تم پر اعتراض کرتے ہیں اگر ان کو کچھ حصہ دیدیا جائے تو وہ راضی ہوجائیں گے اور اگر محروم ہوجائیں تو اچانک غصہ ہوجائیں گے۔

(۱) مجمع البیان ج ۳، ص ۴۰

خوارج کی دوسری اہم فرد

خوارج کی ایک ذوالثدیہ کی ہے اور رجال کی کتابوں میں اس کا نام " نافع " ذکر ہوا ہے اکثر محدثین کا خیال یہ ہے کہ حرقوص جو ذوالخویصرہ کے نام سے مشہور ہے وہی ذوالثدیہ ہے لیکن شہرستانی نے اپنی کتاب ملل و نحل میں اس کے برخلاف نظریہ پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں " وأولہم ذوالخویصرہ وأخرہم

ذوالثدیہ " (۱) جب کے پیغمبر پر دونوں کے اعتراض کا طریقہ ایک ہی تھا اور دونوں نے مال غنیمت بانٹتے پر پیغمبر سے کہا تھا " عدالت کرو " اور آپ نے دونوں کو ایک جواب دیا تھا (۲) غالباً تصور یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے ہیں لیکن تاریخ میں ذوالثدیہ کی جو صفت بیان کی گئی ہے اور جو پیغمبر کی زبان پر آیا ہے برگز اس طرح ذوالخویصرہ کے بارے میں وارد نہیں ہو ا ہے۔

ابن کثیر جس نے مارقین سے متعلق تمام آیتوں اور روایتوں کو جمع کیا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے، پیغمبر اسلام (ص) نے فرمایا:

کچھ گروہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے اور دوبارہ واپس نہیں آتے اور اس گروہ کی نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان کالے رنگ کے آدمی جس کے ہاتھ ناقص ہوں گے اس کے آخر میں گوشت کا ٹکڑا عورت کے پستان کی طرح اور جاذب ہوگا پرکشش (۳)۔ امام - نے جنگ نہروان سے فارغ ہونے کے بعد حکم دیا کہ ذوالثدیہ کی لاش کو قتل ہوئے لوگوں میں تلاش کریں اور اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کے بارے میں تحقیق کریں جس وقت اس کی لاش لے کر آئے تو اس کا ہاتھ اسی طرح تھا جیسا کہ رسول خدا (ص) نے فرمایا تھا۔

(۱) الملل والنحل ج ۱، ص ۱۱۶۔ لیکن اس نے اسی کتاب کے ص ۱۱۵ پر دونوں کو ایک شمار کیا ہے اور کہتا ہے کہ حرقوص بن زبیر مشہور " بہ بدی الثدیہ "

(۲) کامل میرد ج ۳، ص ۹۱۹ مطبوعہ حلبی۔

(۳) سیرت ابن ہشام ج ۲، ص ۹۶

خوارج کے درمیان مختلف اعتقادی فرقے

خوارج نے سب سے پہلے حکمیت کے مسئلہ پر امام علیہ السلام کی مخالفت کی اور اسے قرآن مجید کے خلاف شمار کیا

اس سلسلے میں کوئی دوسری علت نہ تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی واقعہ ایک عقیدتی مذہب کی صورت میں ابھر کر سامنے آگیا اور اس کے اندر مختلف شعبے اور فرقے وجود میں آگئے اور "محکمہ" کے علاوہ بہت سے دوسرے فرقے وجود میں آگئے مثلاً ، ازارقہ ، نجدات ، بیہسیہ ، عجارده، ثعالیہ ، اباضیہ اور صفریہ۔ یہ تمام گروہ زمانے کے ساتھ ختم ہو گئے لیکن صرف فرقہ اباضیہ ( عبد اللہ بن اباض کا پیرو جس نے

مروانیوں کی حکومت کے آخر میں خروج کیا) باقی بچا ہے جو خوارج کے معتدل لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور عمان ، خلیج فارس اور مغرب مثلاً الجزائر وغیرہ میں منتشر ہوئے۔

خوارج کی تاریخ، جنگ نہروان کے علاوہ بھی تمام اسلامی مؤرخین کے نزدیک قابل توجہ رہی ہے اور اس سلسلے میں طبری نے اپنی "تاریخ" میں میرد نے "کامل" میں اور بلاذری نے "انساب" میں اور . . . خوارج کے سلسلے میں تمام واقعات کو نقل کیا ہے اور ان واقعات نقلی تاریخ کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ آخری زمانے کے مورخین نے چاہے وہ اسلامی ہوں یا غیر اسلامی ، اس سلسلے میں متعدد تنقیدی و تجزیاتی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:

۱۔ تلخیص تاریخ الخوارج : مؤلف محمد شریف سلیم ، ۱۳۴۲ ہجری ، قاہرہ سے شائع ہوئی۔

۲۔ الخوارج فی الاسلام : مؤلف عمر ابو النصر ، ۱۹۴۹ عیسوی ، بیروت سے شائع ہوئی۔

۳۔ وقعة النهروان : مؤلف خطیب ہاشمی ، ۱۳۷۲ ہجری ، تہران سے شائع ہوئی۔

۴۔ الخوارج فی العصر الاموی : مؤلف ڈاکٹر نایف محمود جو دو مرتبہ بیروت سے شائع ہوئی دوسری مرتبہ کی تاریخ ۱۴۰۱ ہجری ہے۔

مستشرقین میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس موضوع کی طرف توجہ دی ہے اور مختصر کتابیں تحریر کی ہیں۔ مثلاً:

۵۔ الخوارج والشیعہ: جرمنی مؤلف فلوزن نے ۱۹۰۲ء میں جرمنی زبان میں لکھا ہے عبدالرحمن بدوی نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔

۶۔ ادب الخوارج: یہ زبیر قلمای کے ۱۹۳۰ء سے ۱۹۴۰ء ایم اے کی تحقیق (تھیسس) تک بے قلمای نے اس تحقیق میں خوارج کے بہت سے شاعروں کا تذکرہ کیا ہے مثلاً عمران بن حطان یہ کتاب ۱۹۴۰ء میں شائع ہوئی ہے۔

میں نے (اس کتاب کے مؤلف نے) خوارج کے واقعات کی تحقیق و تنقید میں اسلام کی اصل کتابوں سے رجوع کیا ہے اور ایک خاص طریقے سے جیسا کہ اسلامی تاریخ میں تحقیق و تنقید کا رواج ہے موضوعات کو تحریر کیا ہے خود کو ان کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز نہیں سمجھتا۔

خوارج کا بدترین مظاہرہ

لفظ خوارج بہت زیادہ استعمال ہونے والے لفظوں میں سے ہے اور علم تاریخ اور علم کلام کی بحثوں میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور عربی لغت میں یہ لفظ حکومت پر شورش و حملہ کرنے والوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور خوارج ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو حکومت وقت پر کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرے اور اسے قانونی نہ جانے ، لیکن علم کلام اور تاریخ کے علماء کی اصطلاح میں امام علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے نکلے ہوئے گروہ کو کہتے ہیں جنہوں نے ابوموسیٰ اشعری اور عمرو عاص کی حکمیت کو قبول کرنے کی وجہ سے اپنے کو امام علیہ السلام سے جدا کر لیا اور اس جملے سے اپنا نعرہ قرار دیا " ان الحکم الا للہ " اور یہ نعرہ ان کے درمیان باقی رہا اور اسی نعرہ کی وجہ سے علم ملل و نحل میں انہیں " محکمہ " کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

امام علیہ السلام نے حکمیت قبول کرنے کے بعد مصلحت سمجھی کہ میدان صفین کو چھوڑ دیں اور کوفہ واپس چلے جائیں اور ابوموسیٰ اور عمرو عاص کے فیصلے کا انتظار کریں ، حضرت جس وقت کوفہ پہنچے تو اپنی فوج کے کئی باغی گروہ سے روبرو ہوئے ، آپ اور آپ کے جانبازوں نے مشاہدہ کیا کہ بہت سے سپاہیوں نے جن کی تعداد بارہ ہزار لوگوں پر مشتمل تھی کوفہ میں آنے سے پرہیز کیا اور حکمیت کے قبول کرنے کی وجہ سے بعنوان اعتراض کوفہ میں آنے کے بجائے " حرورائ" نامی دیہات کی طرف چلے گئے اور ان میں سے بعض لوگوں نے " نخیلہ " کی چھاؤنی میں پڑاؤ ڈالا حکمیت ، جسے خوارج نے عثمان کا پیرا بن کر امام علیہ السلام کے سامنے لٹکایا تھا ، وہی موضوع تھا کہ ان لوگوں نے خود اس دن ، جس دن قرآن کو نیزہ پر بلند کیا گیا تھا ، امام علیہ السلام پر اسے قبول کرنے کے لئے بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا یہاں تک کہ قبول نہ کرنے کی صورت میں آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد اپنی شیطانی فکروں اور اعتراضی مزاج کی وجہ سے اپنے عقیدے سے پلٹ گئے اور اسے گناہ اور خلاف شرع بلکہ شرک اور دین سے خارج جانا اور خود توبہ کیا اور امام علیہ السلام سے کہا کہ وہ بھی اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کریں اور حکمیت کے نتیجے کے اعلان سے پہلے فوج کو تیار کریں اور معاویہ کے ساتھ جنگ کو جاری رکھیں۔

لیکن علی علیہ السلام ایسے نہ تھے کہ جو گناہ انجام دیتے اور غیر شرعی چیزوں کو قبول کرتے اور جو عہد و پیمان باندھا ہے اسے نظر انداز کر دیتے امام علیہ السلام نے اس گروہ پر کوئی توجہ نہیں دی اور کوفہ پہنچنے کے بعد پھر اپنی زندگی بسر کرنے لگے ، لیکن شریک خوارج نے اپنے برے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مختلف کام کیے جن میں بعض یہ ہیں :

- ۱۔ امام علیہ السلام سے خصوصی ملاقاتیں کرنا تاکہ انہیں عہد و پیمان توڑنے پر آمادہ کریں ۔
  - ۲۔ نماز جماعت میں حاضر نہ ہونا۔
  - ۳۔ مسجد میں علی علیہ السلام کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگانا۔
  - ۴۔ علی علیہ السلام اور جو لوگ صفین کے عہد و پیمان کو مانتے تھے انہیں کافر کہنا۔
  - ۵۔ عظیم شخصیتوں کو قتل کر کے عراق میں بد امنی پیدا کرنا۔
  - ۶۔ امام علیہ السلام کی حکومت کے مقابلے میں مسلحانہ قیام۔
- اس کے مقابلے میں امام علیہ السلام نے جو کام خوارج کے فتنے کو ختم کرنے کے لئے انجام دیا ان امور کو بطور خلاصہ پیش کر رہے ہیں :

- ۱۔ صفین میں حکمیت کے مسئلہ پر اپنے موقف کو واضح کرنا اور یہ بتانا کہ آپ نے ابتداء سے ہی اس چیز کی مخالفت کی اور اس پر دستخط کرانے کے لئے زور زبردستی اور دباؤ سے کام لیا گیا ہے۔
  - ۲۔ خوارج کے تمام سوالوں اور اعتراضوں کا جواب اپنی گفتگو اور تقریروں میں بڑی متانت و خوش اسلوبی سے دینا۔
  - ۳۔ اچھی شخصیتوں کو مثلاً ابن عباس کو ان لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح اور ہدایت کے لئے بھیجنا۔
  - ۴۔ تمام خوارج کو خوشخبری دینا کہ خاموشی اختیار کریں اگرچہ ان کی فکر و نظر تبدیل نہ ہونے دوسرے مسلمانوں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے بیت المال سے ان کا حصہ دیا گیا اور ان کے وظیفوں کو ختم نہیں کیا۔
  - ۵۔ مجرم خوارج جنہوں نے خباب اور ان کی حاملہ بیوی کو قتل کیا تھا ، ان کا تعاقب کرنا۔
  - ۶۔ ان کے مسلحانہ قیام کا مقابلہ کر کے فتنہ و فساد کو جڑ سے ختم کرنا۔
- یہ تمام عنوان اس حصے میں ہماری بحث کا موضوع ہیں اور خوش بختی یہ ہے کہ تاریخ نے ان تمام واقعوں کے وقوع کے وقت کو دقیق طور پر نقل کیا ہے اور ہم تمام واقعات کو طبیعی محاسبہ کے اعتبار سے بیان کریں گے۔

#### ۱۔ خصوصی ملاقاتیں

ایک دن خوارج کے دو سردار زرعه طائی اور حرقوص امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور بہت سخت تکرار و گفتگو جسے ہم نقل کر رہے ہیں ۔

زرعه و حرقوص: "لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ"

امام علیہ السلام: "میں بھی کہتا ہوں: "لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ"

حرقوص: اپنی غلطی کی توبہ کرو اور حکمیت کے مسئلے سے باز آ جاؤ اور ہم لوگوں کو معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ کرو، تاکہ اس کے ساتھ جنگ کریں اور خدا کی بارگاہ میں شہادت پا جائیں ۔

امام علیہ السلام: میں نے یہی کام کرنا چاہا تھا لیکن تم لوگوں نے صفین میں مجھ سے زور و زبردستی کی اور حکمیت کے مسئلہ کو مجھ پر تحمیل کر دیا اور اس وقت ہمارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہوا ہے اور ہم نے اس پر دستخط بھی کئے ہیں اور کچھ شرائط کو قبول کیا ہے اور ان لوگوں کو وعدہ دیا ہے اور خداوند عالم فرماتا ہے:

"وَوَفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ذَا عَابَدْتُمْ وَلَا تَنْفُتُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِنَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ" (نحل ۹۱)

اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ان کے استحکام کے بعد ہر گز نہ توڑو جب کہ تم اللہ کو کفیل اور نگران بنا چکے ہو کہ یقیناً اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے ۔

حرقوص: یہ کام گناہ ہے اور ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں ۔

امام علیہ السلام: یہ کام گناہ نہیں ہے بلکہ مینتم کمزور فکر و رائے تھے (جس کا باعث خود تم لوگ تھے) اور میں نے تم لوگوں کو اس سلسلے میں پہلے ہی بتایا تھا اور اس کے انجام سے منع کیا تھا ۔

زرعه: خدا کی قسم اگر مردوں کی حاکمیت کو خدا کی کتاب (۱) میں (قرآن کے مطابق) ترک نہیں کیا تو خدا کی مرضی کے لئے ہم تم سے جنگ کریں گے۔

(۱) تاریخ طبری میں عبارت " کتاب اللہ " ہے لیکن ظاہراً دین اللہ صحیح ہے۔

امام علیہ السلام (غیظ و غضب کے عالم میں): اے بدبخت تو کتنا برا آدمی ہے بہت ہی جلد تجھے ہلاک شدہ دیکھوں گا اور ہوائیں تیرے لاشے پر چل رہی ہوں گی۔  
زرعہ: میری آرزو ہے کہ ایسا ہی ہو۔  
امام علیہ السلام: شیطان نے تم دونوں کی عقل چھین لیا ہے خدا کے عذاب سے ڈرو، اس دنیا میں جس چیز کے لئے جنگ کرنا چاہتے ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔  
اس وقت دونوں لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ کا نعرہ لگاتے ہوئے امام کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے (۱)۔

۲۔ حکومت کی مخالفت میں نماز جماعت سے دوری

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک مستحب عمل ہے اور اس کی مخالفت گناہ نہیں ہے لیکن اسلام کے آغاز میں دوسرے حالات تھے اور جماعت میں مسلسل شرکت نہ کرنے کی صورت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت وقت پر معترض اور منافق ہے، اسی وجہ سے اسلامی روایتوں میں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ فی الحال یہاں پر بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے (۲)۔  
خوارج نے مسجد میں حاضری نہ دے کر اور نماز جماعت میں شریک نہ ہو کر اپنی مخالفت کو ظاہر کر دیا بلکہ جب نماز جماعت ہوتی تھی تو اشتعال انگیز نعرے لگاتے تھے۔  
ایک دن امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ خوارج کے ایک سردار " ابن کوّاء " نے اعتراض کے طور پر یہ آیت پڑھی: " وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مَن قَبْلِكَ لَنُؤْتِيَنَّكَ الْكِتَابَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ " (سورہ زمر ۶۵)  
اور (اے رسول) تمہاری طرف اور ان (پیغمبروں) کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یقیناً یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر (کہیں) شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم ضرور گھٹائے میں ہو گے۔

(۱) تاریخ طبری: ج ۴ ص ۵۳

(۲) رجوع کیجئے، وسائل الشیعہ: ج ۵، باب نماز جماعت، باب ۱، ص ۳۷۰۔

امام علیہ السلام نے پوری سنجیدگی اور قرآن کے حکم کے مطابق " وَأَذْأَفَرَى الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " (سورہ اعراف، ۲۰۴)، خاموش رہے تاکہ ابن کوّاء آیت کو تمام کر دے، پھر آپ نے نماز پڑھی لیکن اس نے پھر آیت پڑھی اور امام پھر خاموش رہے، ابن کوّاء نے کئی مرتبہ یہی کام کیا اور امام علیہ السلام صبر و ضبط کے ساتھ خاموش رہے، بالآخر امام علیہ السلام نے درج ذیل آیت کی تلاوت فرما کر اس کا جواب اس طرح دیا کہ نماز پر بھی کوئی اثر نہ پڑا اور اسے خاموش و سرکوب کر دیا، آیت یہ ہے: "فَا صَبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ " (روم، ۶۰)، (اے رسول) تم صبر کرو بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے اور (کہیں) ایسا نہ ہو کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تمہیں ہلکا بنا دیں۔ (۲)

ابن کوّاء نے اس آیت کی تلاوت کر کے بڑی بے حیائی و بے شرمی سے پیغمبر اسلام کے بعد سب سے پہلے مومن کو مشرک قرار دیا تھا کیونکہ غیر خدا کو حکمیت کے مسئلہ میں شریک قرار دیا تھا۔ ہم بعد میں الہی حاکمیت کے بارے میں تفصیل سے بحث کریں گے۔

(۱) ترجمہ: (لوگوں) جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ (اسی بہانے) تم پر رحم کیا جائے۔

(۲) تاریخ طبری: ج ۴، ص ۵۴۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید: ج ۲، ص ۲۲۹۔

۳۔ لا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ کا نعرہ لگانا

خوارج اپنی موجودگی کا اعلان اور امام علیہ السلام کی حکومت سے مخالفت ظاہر کرنے کے لئے مسلسل مسجد اور غیر مسجد میں لاکھ لاکھ کا نعرہ لگاتے تھے اور یہ نعرہ قرآن سے لیا تھا اور یہ درج ذیل جگہوں پر استعمال ہوا ہے :

۱۔ "إِنَّ الْحُكْمَ لَأَبَىٰ لِلَّهِ يَفْصُلُ الْحَقَّ وَبُؤْسُ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ" (سورہ انعام: ۵۷)

حکم خدا سے مخصوص ہے اور وہ حق کا حکم دیتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

۲۔ "لَأَلَّهُ الْحُكْمُ وَبُؤْسُ سَرَعِ الْحَاسِبِينَ" (سورہ انعام: ۶۲)

آگاہ بوجاؤ کہ حکم صرف اسی کے لئے ہے اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔

۳۔ "إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" (سورہ یوسف: ۴۰)

حکم صرف خدا سے مخصوص ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔

۴۔ "إِنَّ الْحُكْمَ لَأَبَىٰ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ" (سورہ یوسف: ۶۸)

حکم خدا سے مخصوص ہے اسی پر بھروسہ کرو اور بھروسہ کرنے والے بھی اسی پر بھروسہ کئے ہیں۔

۵۔ "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْوَالِي وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" (سورہ قصص: ۷۰)

دنیا و آخرت میں تعریف اسی سے مخصوص ہے اور حکم بھی اسی کا ہے اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔

۶۔ "إِنَّ يَسْرُوكَ بِهِ تَوْمِنَا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ" (سورہ غافر: ۱۲)

اگر اس کے لئے شریک قرار دیا تو تم فوراً مان لیتے ہو تو اب حکم بھی اسی بزرگ و اعلیٰ خدا سے مخصوص ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان تمام آیتوں میں "حکم" خدا سے مخصوص ہے اور حکم کو خدا کے علاوہ کسی دوسرے

سے منسوب کرنا شرک ہے لیکن دوسری آیت میں بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت دیا ہے: "وَلَقَدْ آتَيْنَا

بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ" (سورہ جاثیہ: ۱۶)

ایک دوسری جگہ خداوند عالم نے پیغمبر (ص) کو حکم دیا کہ حق کا حکم کریں۔

"فَاخُكُم بَيْنَهُمْ بِمَا نَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا بِأَنفُسِكُمْ" (سورہ مائدہ: ۴۸)

آپ ان لوگوں کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔

ایک جگہ پر حضرت داؤد کو حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان کے ساتھ فیصلہ کریں۔

"فَاخُكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ" (سورہ ص: ۲۶)

کتنے رنج و افسوس کی بات ہے کہ امام علیہ السلام ایسے مٹھی بھر جاہل اور نادان گروہ سے دوچار ہوئے جو ظاہر آیات کو

اپنی دستاویز قرار دیتے تھے اور معاشرے کو گمراہ اور برباد کرتے تھے۔

گروہ خوارج قرآن کا حافظ و قاری تھالیکن پیغمبر کے فرمان کے مطابق، قرآن ان کے حلق اور سینہ سے نیچے نہیں اترتا

تھا، اور ان کی فکر اور سمجھ سے بہت دور تھا۔

وہ سب اس فکر میں نہ تھے کہ امام علیہ السلام اور قرآن کے واقعی مفسر یا ان کے تربیت یافتہ حضرات کی خدمت میں

پہنچیں، تاکہ ان لوگوں کو قرآن کی آیتوں کے معانی و مفہیم کے مطابق ان کی رہبری کریں اور ان لوگوں کو سمجھائیں

کہ حکم کس معنی میں خدا سے مخصوص ہے کیونکہ جیسا گذر چکا ہے، حکم کے کئی معنی ہیں یا اصطلاحاً یہ کہیں کہ

اس کے بہت سے ایسے موارد ہیں بطور خلاصہ ہم تحریر کر رہے ہیں :

۱۔ عالم خلقت کی تدبیر اور خدا کے ارادے کا نفوذ، (یوسف: ۶۰)

۲۔ قانون سازی اور تشریع (انعام: ۵۷)

۳۔ لوگوں پر حکومت اور تسلط ایک اصل حق کے طور پر (یوسف: ۴۰)

۴۔ الہی اصول و قوانین کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان ہوئے اختلاف کا فیصلہ و انصاف (مائدہ: ۴۹)

۵۔ لوگوں کی سرپرستی، رہبری اور پیشوائی، الہی امانت دار کے عنوان سے (جاثیہ: ۱۶)

اب جبکہ ہمیں معلوم ہوا کہ حکم کے بہت سے مفہیم ہیں یا بہ عبارت صحیح، مختلف موارد مقامات ہیں تو کس طرح ممکن

ہے کہ ایک آیت کے ظاہری معنی پر عمل کیا جائے اور صفین میں حکمین کا کی طرف رجوع کرنے اس کے مخالف قرار

دیا جائے؟

اب اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ کون سا حکم خدا سے مخصوص ہے پھر امام علیہ السلام کے عمل کی تحقیق ہو اور اس کی

موافقت یا مخالفت کو دیکھا جائے اور یہ ایسا کام ہے جس میں صبر، ضبط، تدبیر اور فکر کا ہونا ضروری ہے اور یہ

کبھی بھی نعروں اور شور و غوغا سے حل نہیں ہو سکتا۔

امام علیہ السلام نے اپنے مخصوص صبر و ضبط کے ساتھ اپنے بعض احتجاجات میں ان لوگوں کو آیتوں کے مقصد

اور مفہوم سے روشناس کرایا، اسی وجہ سے ان لوگوں کو تسلیم ہونا پڑا لیکن ضد، ہٹ دھرمی اور دشمنی کا کوئی علاج



نہیں ہے اور تمام انبیاء اور مصلحین اس کے علاج سے عاجز و ناتواں رہے ہیں۔ ہم گذشتہ آیتوں کے معانی و مفاہیم تحقیق کرنے سے پہلے خوارج کی بعض اشتعال انگیز اور تندسخت مقابلوں کو یہاں نقل کر رہے ہیں تاکہ اس گروہ کی سرکشی اور ہٹ دھرمی بخوبی واضح ہو جائے۔

امام کی بلند ہمتی اور خوش اخلاقی

ہر صاحب قدرت ایسے بے ادب اور بے غیرت جسور لوگوں کو جو ملک کے حاکم کو کافر اور مشرک کہتے تھے، ضرور سزا دیتا لیکن امام علیہ السلام نے تمام حاکموں کے طریقے کے برخلاف بڑی ہی بلند ہمتی اور کشادہ دلی کے ساتھ ان سب کے ساتھ رویرو ہوئے۔

ایک دن امام علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں کو موعظہ و نصیحت کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک خوارج میں سے ایک شخص مسجد کے گوشہ سے اٹھا اور بلند آواز سے کہا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ جب وہ نعرہ لگا چکا تو دوسرا شخص اٹھا اور وہی نعرہ لگایا اس کے بعد ایک گروہ اٹھا اور وہی نعرہ لگانا شروع کر دیا۔

امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا: ان لوگوں کا کلام ظاہر مینتو حق ہے لیکن وہ لوگ باطل کو مراد لے رہے ہیں پھر فرمایا "أَمَا إِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا ثَلَاثًا فَأَصْبَحْتُمْ نَا" یعنی جب تک تم لوگ ہمارے ساتھ ہو تین حق سے بہرہ مند رہو گے (اور تمہاری جسارتیں اور بے ادبیاں اس سے مانع نہیں ہوں گی کہ ہم تمہیں ان حقوق سے محروم کر دیں۔)  
۱۔ "لَا تَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَهُ" تم کو مسجد میں داخل ہونے سے محروم نہیں کریں گے تاکہ تم وہاں نماز پڑھو۔

۲۔ "لَا نَمْنَعُكُمْ مِنَ الْفَنَى مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا" تم کو بیت المال سے محروم نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہماری مصاحبت میں ہو (اور دشمن سے نہیں ملے ہو)۔

۳۔ "لَا نَقَاتِلُكُمْ حَتَّى تَبْدُوْنَا" جب تک تم جنگ نہیں کرو گے ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے (۱)۔  
ایک دوسرے دن بھی جب امام علیہ السلام مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ خوارج میں سے ایک شخص نے نعرہ لگایا اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کر لیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: "اللَّهُ أَكْبَرُ، كَلِمَةُ حَقٍّ يَرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ" یعنی بات تو حق ہے لیکن اس سے باطل معنی مراد لیا جا رہا ہے پھر فرمایا: اگر یہ لوگ خاموش رہیں تو دوسروں کی طرح ان سے بھی پیش

#### (۱) تاریخ طبری ج ۴، ص ۵۳۔

اؤں گا اور اگر بات کریں تو جواب دوں گا اور اگر فتنہ و فساد برپا کریں گے تو ان سے جنگ کروں گا۔ اس وقت خوارج میں سے ایک دوسرا شخص یزید بن عاصم محاربی اٹھا اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد کہا: خدا کے دین میں ذلت قبول کرنے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، خدا کے کام میں یہ ایک ایسا دھوکہ اور ذلت ہے کہ اس کا انجام دینے والا خدا کے غضب کا شکار ہوتا ہے، علی مجھے قتل سے ڈراتے ہو؟  
امام علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا (اس لئے کہ جواب جاہلان باشد خموشی) اور آئندہ کے حادثوں کا انتظار کرنے لگے۔ (۱)

امام - کی ہدایت

امام علیہ السلام کی فوج کا ایک حصہ جو آپ کا مستحکم بازو شمار ہوتا تھا اس کے فتنہ و فساد نے امام کے لئے مشکلات کھڑی کر دیں اور یہ فتنہ دوبار اٹھا ایک مرتبہ صفین میں، فتنہ و فساد کرنے والوں کی وہاں مانگ یہ تھی کہ جنگ روک دیں اور حکمین کے فیصلے کو قبول کریں ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ دوسری مرتبہ یہ فتنہ اس وقت اٹھا کہ جب عہد و پیمانہ ہو گیا اور حکمیت کو اسی گروہ کی وجہ سے مان لیا جو کہ اس مرتبہ پہلے مطالبہ سے بالکل برعکس مطالبہ کر رہے تھے اور عہد و پیمانہ کو توڑنے اور اسے نظر انداز کرنے کے خواہاں تھے۔

ان کی پہلی خواہش نے اگرچہ امام علیہ السلام کی جیت اور فتح کو ختم کر دیا لیکن صلح کرنا ایسے حالات میں کہ امام علیہ السلام کے سادہ لوح سپاہی نہ صرف جنگ کرنے کے لئے حاضر نہ تھے بلکہ یہاں تک آمادہ تھے کہ حضرت کو قتل کر دیں، غیر شرعی کام اور عقل کے اصول و قوانین کے خلاف نہ تھا؟ اور خود امام علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق، (جیسا کہ)



آپ نے خوارج کے سرداروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: " حکمین کے فیصلے کا قبول کرنا اپنے فوجیوں کے دباؤ کی وجہ سے تھا جو تدبیر میں ناتوان اور انجام کار میں کمزور تھے انہیں لوگوں کی وجہ سے مجھے قبول کرنا پڑا " (۲) جب کہ ان کی دوسری خواہش قرآن کے صریحاً برخلاف تھی کیونکہ قرآن تمام لوگوں کو اپنے عہدو میثاق اور پیمانہ کو پورا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

اس صورت میں امام علیہ السلام کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ آپ ثابت و استوار رہیں اور

(۱) تاریخ طبری ج ۴، ص ۵۳۔  
(۲) "ما هو ذنب لکنہ" عجز فی الرأی وضعف فی الفعل، تاریخ طبری ج ۴، ص ۵۳۔

فریب خوردہ افراد کو ہدایت و نصیحت کریں اور ان کو منتشر اور متفرق کرنے کی کوشش کریں، اسی وجہ سے آپ نے پہلے ہدایت کرنا شروع کیا اور جب یہ چیز مؤثر ثابت نہ ہوئی تو حالات کے مطابق دوسرے طریقے استعمال کئے مثلاً آپ نے اپنے فاضل و عالم اصحاب جو کہ مسلمانوں کے درمیان کتاب و سنت کی تعلیم کی آگاہی میں مشہور و معروف تھے اور انہیں خوارج کی قیام گاہ بھیجا۔

ابن عباس کی دلیل اور خوارج  
ابن عباس امام علیہ السلام کے حکم سے خوارج کی قیام گاہ (چھاؤنی) گئے اور ان سے گفتگو کی جسے ہم نقل کر رہے ہیں :

ابن عباس: تمہارا کیا کہنا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام پر تمہارا کیا اعتراض ہے؟  
خوارج: وہ امیر المومنین تھے لیکن جب حکمیت قبول کی تو کافر ہو گئے، انہیں چاہیے کہ اپنے کفر کا اعتراف کر کے توبہ کریں تاکہ ہم لوگ ان کے پاس واپس چلے جائیں۔  
ابن عباس: ہرگز مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ جب تک اس کا یقین اصول اسلامی میں شک سے آلودہ نہ ہو اپنے کفر کا اقرار کرے۔

خوارج: ان کے کفر کی علت یہ ہے کہ انہوں نے حکمیت کو قبول کیا۔  
ابن عباس: حکمیت قبول کرنا ایک قرآنی مسئلہ ہے کہ خدا نے کئی جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے، خدا فرماتا ہے: " وَمَنْ قَتَلْهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ بِحُكْمٍ بِهٖ دَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ " (سورہ مائدہ: ۹۵)  
(اے ایمان لانے والو شکار کو حالت احرام میں قتل نہ کرو) اور تم میں سے جو بھی اسے عمدتاً قتل کرے تو اسے چاہیے کہ اسی طرح کا کفارہ چوپایونسے دے، ایسا کفارہ کہ تم میں سے دو عادل شخص اسی جانور کی طرح کے کفارے کی تصدیق کریں۔

اگر خداوند عالم حالت احرام میں شکار کرنے کے مسئلہ میں کہ جس میں کم مشکلات ہیں، تحکیم کا حکم دے تو وہ امامت کے مسئلہ میں کیوں نہ حکم دے اور وہ بھی اس وقت جب مسلمانوں کے لئے مشکل پیش آئے اس وقت یہ حکم قابل اجراء نہ ہو؟

خوارج: فیصلہ کرنے والوں نے ان کے نظریہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا ہے۔  
ابن عباس: فیصلہ کرنے والوں کا مرتبہ امام علیہ السلام کے مرتبہ و عظمت سے بلند نہیں ہے۔ جب بھی مسلمانوں کا امام غیر شرعی کام کرے تو امت کو چاہیے کہ اس کی مخالفت کرے، تو پھر اس قاضی کی کیا حیثیت جو حق کے خلاف حکم کرے؟

اس وقت خوارج لاجواب ہو گئے اور انہوں نے شکست تو کوردل کافروں کی طرح دشمنی اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور ابن عباس پر اعتراض کیا اور کہا: تم اسی قریش کے قبیلے سے ہو جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے: " بَلْ هُمْ قَوْمٌ خِصْمُونَ " (زخرف: ۵۸) یعنی قریش جھگڑالو گروہ ہے۔ اور نیز خدا نے کہا ہے: " وَتُنذِر بھ قوماً لداً " (مریم: ۹۷) قرآن کے ذریعہ جھگڑالو گروہ کو ڈراؤ۔ (۱)

اگر وہ لوگ حق کے طلبگار ہوتے اور کوردلی، اکثر اور ہٹ دھرمی ان پر مسلط نہ ہو تو ابن عباس کی محکم و مدلل معقول باتوں کو ضرور قبول کر لیتے اور اسلحہ زمین پر رکھ کر امام علیہ السلام سے مل جاتے اور اپنے حقیقی دشمن سے جنگ کرتے، لیکن نہایت ہی افسوس ہے کہ امام علیہ السلام کے ابن عم کے جواب میں ایسی آیتوں کی تلاوت کی جو مشرکین

قریش سے مربوط ہیں نہ کہ قریش کے مومنین سے۔

حکم کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں بھی مثلاً گھریلو اختلاف کو حل کرنے کے لئے جائز قرار دیا ہے اور اس کے نتیجے کو دونوں طرف کے حسن نیت کو نیک شمار کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے: "وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا" (سورہ نساء: ۳۵)" اور اگر تمہیں میاں بیوی کی نااتفاقی کا خوف ہو تو مرد کے کنبہ سے ایک حکم اور زوجہ کے کنبہ سے ایک حکم بھیجو اگر یہ دونوں میں میل کرانا چاہیں گے تو خدا ان کے درمیان اس کا موافقت پیدا کر دے گا، خدا تو بے شک واقف و باخبر ہے۔"

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۲۷۳، بحوالہ کامل میرد (ص ۵۸۲ مطبوعہ یورپ)۔

یہ ہر گز نہیں کہا جا سکتا کہ امت کا اختلاف تین مہینے کی شدید جنگ کے بعد میاں اور بیوی کے اختلاف سے کم ہے لہذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر امت دونوں طرف سے دو آدمیوں کے فیصلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں چاہے تو کام انجام دیا ہے اور کفر اختیار کیا ہے جس کے لئے ضروری ہے کہ توبہ کرے (۱) ان آیتوں پر توجہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خوارج کا مسئلہ حکمین کو غلط کہنا سوائے ہٹ دھرمی، دشمنی اور انانیت کے کچھ نہ تھا۔ ابن عباس نے صرف ایک ہی مرتبہ احتجاج نہیں کیا بلکہ دوسری مرتبہ بھی امام علی السلام نے ان لوگوں کی ہدایت کے لئے ابن عباس کو بھیجا اور اس پر گواہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے مناظرہ میں قرآنی آیتوں سے دلیلیں پیش کی تھیں، جب کہ امام علیہ السلام نے اپنی ایک گفتگو میں انہیں حکم دیا تھا کہ خوارج کے ساتھ پیغمبر کی سنت سے مناظرہ کریں، کیونکہ قرآن کی آیتوں میں بہت زیادہ احتمال اور مختلف توجیہیں کی جا سکتی ہیں اور ممکن ہے خوارج ایسے احتمال کو لیں جو ان کے لئے مفید ہو، جیسا کہ حضرت فرماتے ہیں: "لا تخصمہم بالقرآن، فان القرآن حمّال ذو وجوہ تقول ویقولون ولكن حاججہم بالسنة فانہم لن یجدوا عنہا محیصاً" (۲) خوارج کے ساتھ قرآن کی آیتوں سے مناظرہ نہ کرو کیونکہ قرآن کی آیتوں میں بہت سے وجوہ و احتمالات پائے جاتے ہیں اس صورت میں تم کچھ کہو گے اور وہ کچھ کہیں گے (اور کوئی فائدہ نہ ہوگا) لیکن سنت کے ذریعے ان پر دلیل قائم کرو تو قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ان کے پاس نہ ہوگا۔

خود امام علیہ السلام کا خوارج کی چھاؤنی پر جانا

جب امام علیہ السلام عظیم اور بزرگ شخصیتوں مثلاً صعصعہ بن صوحان عبدی، زیاد بن النضر اور ابن عباس وغیرہ کو ان کے پاس ہدایت و رہنمائی کے لئے بھیجا مگر مایوس ہوئے تو خود آپ نے ارادہ کیا ان کے پاس جائیں تاکہ پوری تشریح، وضاحت کے ساتھ حکمین کے قبول کرنے کے مقدمات اور عوامل و اسباب کو ان کے سامنے بیان کریں اور یہ بتائیں کہ وہ لوگ خود اس کام کے باعث بنے ہیں (مجبور کیا تھا)، شاید اس کے ذریعے تمام خوارج یا ان میں سے کچھ لوگوں کو فتنہ و فساد سے روک دیں۔

(۱) میاں اور بیوی کے اختلاف سے مربوط یہ آیت امام علیہ السلام کی دلیلوں میں بیان کی جائے گی۔  
(۲) شرح نہج البلاغہ مکتوب نمبر ۷۷۔

امام نے روانہ ہوتے وقت صعصعہ سے پوچھا: فتنہ و فساد کرنے والے خوارج کون سے سردار کے زیر نظر ہیں؟ انہوں نے کہا: یزید بن قیس ارحبی (۱) لہذا امام علیہ السلام اپنے مرکب پر سوار ہوئے اور اپنی چھاؤنی سے نکل گئے اور یزید بن قیس ارحبی کے خیمے کے سامنے پہنچے اور دو رکعت نماز پڑھی پھر اپنی کمان پر ٹیک لگائی اور خوارج کی طرف رخ کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کیا:

کیا تم سب لوگ صفین میں حاضر تھے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: تم لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ تاکہ ہر گروہ سے اس کے مطابق گفتگو کروں۔ پھر آپ نے بلند آواز سے فرمایا: "خاموش رہو شور و غل نہ کرو اور میری باتوں کو غور سے سنو، اپنے دل کو میری طرف متوجہ کرو اور جس سے بھی میں گواہی طلب کروں وہ اپنے علم و آگاہی کے اعتبار سے گواہی دے" اس وقت اس سے پہلے کہ آپ ان لوگوں سے گفتگو کرتے اپنے دل کو پروردگار کی طرف متوجہ

کیا اور پھر تمام لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کیا اور کہا:  
 "خدا یا یہ ایسی جگہ ہے کہ جو بھی اس میں کامیاب ہوا وہ قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا اور جو بھی اس میں محکوم  
 مذموم ہوگا وہ اس دوسری دنیا میں بھی نابینا اور گمراہ ہوگا"۔

"کیا تم لوگوں نے قرآن کو دھوکہ اور فریب کے ساتھ نیزہ پر بلند کرتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ وہ لوگ ہمارے بھائی اور  
 ہمارے ساتھ کے مسلمان ہیں اور اپنے گزشتہ کاموں کو چھوڑ دیا ہے اور پشیمان ہو گئے ہیں اور خدا کی کتاب کے سایہ میں  
 پناہ لئے ہوئے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان کی بات کو قبول کریں اور ان کے غم و اندوہ کو دور کر دیں؟ اور میں نے  
 تمہارے جواب میں کہا تھا: یہ ایک ایسی درخواست ہے کہ جس کا ظاہر ایمان اور باطن دشمنی، بغض و حسد اور کینہ ہے اس  
 کی ابتدا رحمت اور راحت اور اس کا انجام پشیمانی اور ندامت ہے لہذا اپنے کام پر باقی رہو اپنے راستہ سے نہ ہٹو، اور  
 دشمن سے جہاد کرنے پر دانتوں کو بھینچے رہو اور کسی بھی نعرہ باز کی طرف توجہ نہ دو، کیونکہ اگر اس سے  
 موافقت کرو گے تو گمراہ ہو جائو گے اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ بہر حال یہ کام  
 (مسئلہ تحکیم) میری تاکید کے برخلاف انجام پایا اور میں نے دیکھا کہ ایسا موقع تم نے دشمن کو دیدیا ہے (۲)۔

(۱) خوارج کا ایک سردار، قبیلہ یشکر بن بکر بن وائل سے۔  
 (۲) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۲۸۰۔

ابن ابی الحدید ۳۶ ویں خطبہ کی شرح میں کہتا ہے: خوارج نے کہا: جو کچھ بھی تم نے کہا ہے وہ سب حق ہے اور بجا ہے  
 لیکن ہم کیا کریں ہم سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور ہم نے توبہ کر لیا ہے اور تم بھی توبہ کرو، امام علیہ السلام نے بغیر  
 اس کے کہ کسی خاص گناہ کی طرف اشارہ کریں، بطور کلی کہا: "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ" اس وقت چھ ہزار لوگ خوارج  
 کی چھاؤنی سے نکل آئے اور امام علیہ السلام کے انصار میں شامل ہو گئے اور ان پر ایمان لے آئے۔  
 ابن ابی الحدید اس استغفار کی توضیح میں کہتا ہے: امام علیہ السلام کی توبہ ایک قسم کا توریہ اور "الحرب خُدعة" کے  
 مصادیق میں سے ہے۔ آپ نے ایک ایسی مجمل بات کہی جو تمام پیغمبر کہتے ہیں اور دشمن بھی اس پر راضی ہو گئے، اس  
 کے بغیر کہ امام علیہ السلام نے گناہ کا اقرار کیا ہو۔ (۱)

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۲۸۰۔

دوست نما دشمن کی شرارت

جب خوارج اپنی چھاؤنی سے کوفہ واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کے درمیان یہ خبر پھیلا دی کہ امام نے حکمیت قبول  
 کرنے سے انکار کر دیا ہے، اسے ضلالت و گمراہی سمجھا ہے اور ایسے وسائل آمادہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو حکمین کی  
 رائے کے اعلان سے پہلے معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ کریں۔  
 اسی دوران اشعث بن قیس جس کی زندگی اور امام علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی روش مکمل طور پر نفاق آمیز تھی،  
 ظاہر میں دوستانہ طور پر لیکن باطن میں معاویہ کے نفع کے لئے اس نے کام کرنا شروع کیا اور کہا: لوگ کہتے ہیں کہ  
 امیر المومنین نے اپنے عہد و پیمانہ کو توڑ دیا ہے اور مسئلہ حکمیت کو کفر و گمراہی سے تعبیر کیا ہے اور مدت ختم ہونے  
 کے انتظار کو خلاف جانا ہے۔

اشعث کی گفتگو نے امام علیہ السلام کو ایسی مصیبت میں قرار دیا کہ ناچار امام علیہ السلام نے حقیقت بیان کر دی اور کہا:  
 جو شخص یہ فکر کر رہا ہے کہ میں نے تحکیم کے عہد و پیمانہ کو توڑ دیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جو شخص بھی اس  
 کو گمراہی و ضلالت سے تعبیر کر رہا ہے وہ خود گمراہ ہے۔  
 حقیقت بیان کرنا خوارج کے لئے اتنا سخت ہوا کہ لاحقہ الا للہ کا نعرہ لگاتے ہوئے مسجد سے  
 باہر چلے گئے اور دوبارہ اپنی چھاؤنی میں واپس چلے گئے۔

ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی حکومت میں ہر طرح کا رخنہ و فساد اشعث کی وجہ سے تھا کیونکہ اگر وہ

اس مسئلہ کو نہ چھیڑتا تو امام علیہ السلام حقیقت کو بیان نہ کرتے ، اور خوارج جو استغفار کلی پر قناعت کئے ہوئے تھے امام علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر معاویہ سے جنگ کرتے، لیکن وہی (اشعث) سبب بنا کہ امام علیہ السلام تورہ کے پردہ کو چاک کر کے حقیقت کو واضح و آشکار کر دیں۔

خوارج کی ہدایت کی دوبارہ کوشش

مبّرذ اپنی کتاب "کامل" میں امام علیہ السلام کا دوسرا مناظرہ نقل کرتے ہیں جو پہلے والے مناظرہ سے بالکل الگ ہے اور احتمال یہ ہے کہ یہ دوسرا مناظرہ ہے جو امام علیہ السلام نے خوارج سے کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے:

امام علیہ السلام: کیا تمہیں یاد ہے جس وقت لوگوں نے قرآن کو نیزے پر بلند کیا اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ کام دھوکہ اور فریب ہے، اگر وہ لوگ قرآن سے فیصلہ چاہتے تو میرے پاس آتے اور مجھ سے فیصلے کے لئے کہتے؟ کیا تمہاری نگاہ میں کوئی ایسا ہے جو ان دونوں آدمیوں کے مسئلہ حکمیت کو میرے اتنا برا اور خراب کہتا؟

خوارج: نہیں۔

امام علیہ السلام: کیا تم لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ تم لوگوں نے مجھے اس کام مجبور کیا جبکہ میں اسے ہر گز نہیں چاہ رہا تھا اور میں نے مجبور ہو کر تمہاری درخواست کو قبول کیا اور یہ شرط رکھی کہ قاضیوں کا حکم اس وقت قابل قبول ہوگا جب خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں؟ اور تم سب جانتے ہو کہ خدا کا حکم مجھ سے تجاوز نہیں کرے گا (اور میں امام برحق اور مہاجرین و انصار کا چنا ہوا خلیفہ ہوں)۔

عبداللہ بن کوّائ: یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگوں کے اصرار پر آپ نے ان دونوں آدمیوں کو دین خدا کے لئے حکم قرار دیا لیکن ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے ہم کافر ہو گئے اور اب اس سے توبہ کر رہے ہیں اور آپ بھی ہم لوگوں کی طرح اپنے کفر کا اقرار کیجئے اور اس سے توبہ کیجئے اور پھر ہم سب کو معاویہ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیجئے۔

امام علیہ السلام: کیا تم جانتے ہو کہ خدا نے میان بیوی کے اختلاف کے بارے میں حکم دیا ہے کہ دو آدمیوں کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ فرمایا ہے: "فابعثوا حکماً من اہلہ و حکماً من اہلہا؟" اور اسی طرح احرام میں شکار کے قتل کا کفارہ معین کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے کہ حکم (فیصلہ کرنے والے) کے عنوان سے دد عادلوں کی طرف رجوع کریں جیسا کہ فرمایا ہے: "یحکم بہ ذوا عدلٍ منکم؟"

ابن کوّائ: آپ نے اپنے نام سے "امیر المومنین" کا لقب مٹا کر اپنے کو حکومت سے خلع اور برکنار کر دیا۔

امام علیہ السلام: پیغمبر اسلام (ص) ہمارے لئے نمونہ ہیں۔ جنگ حدیبیہ میں جس وقت پیغمبر اور قریش کے درمیان صلح نامہ اس طریقے سے لکھا گیا: "ہذا کتاب کتبہ محمد رسول اللہ وسُہیل بن عمرو" اس وقت قریش کے نمائندے نے اعتراض کیا اور کہا: "اگر آپ کی رسالت کا مجھے اقرار ہوتا تو آپ کی مخالفت نہ کرتا، لہذا اپنے نام سے "رسول اللہ" کا لقب مٹا دیجیے، اور پیغمبر نے مجھ سے فرمایا: اے علی! میرے نام کے آگے سے "رسول اللہ" کا لقب مٹادو، میں نے کہا: اے پیغمبر خدا (ص)! میرا دل راضی نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں، اس وقت پیغمبر نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا لقب مٹا دیا اور مجھ سے مسکرا کر فرمایا: اے علی! تم بھی میری ہی طرح ایسی سرنوشت سے دوچار ہو گے۔

جب امام علیہ السلام کی گفتگو ختم ہوئی اس وقت دو ہزار آدمی جو "حروراء" میں جمع ہوئے تھے وہ حضرت کی طرف واپس آگئے اور چونکہ وہ لوگ (خوارج) اس جگہ پر جمع ہوئے تھے اس لئے انہیں "حروریہ" کہتے ہیں (۱)۔

(۱) کامل مبرّد: ص ۴۵ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۲۷۴، ۲۷۵۔

دوسرا مناظرہ

خوارج کے سلسلے میں امام علیہ السلام کی سیاست یہ تھی کہ جب تک خون ریزی نہ کریں اور لوگوں کے مال کو برباد نہ کریں اس وقت تک کوفہ اور اس کے اطراف میں آزاد زندگی بسر کر سکتے ہیں، اگرچہ روزانہ رات دن ان کے انکار کے نعرے مسجد میں گونجتے رہیں اور امام کے خلاف نعرے لگاتے بنیاس وجہ سے امام علیہ السلام نے ابن عباس کو دوبارہ "حروراء" دیہات روانہ کیا، انہوں نے ان لوگوں سے کہا: تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا: جتنے لوگ صفین میں موجود تھے اور حکمیت کی موافقت کی ہے وہ کوفہ سے نکل جائیں

اور سب لوگ صفین چلیں اور وہاں تین دن ٹھہریں اور جو کچھ انجام دیا ہے اس کے لئے توبہ کریں اور پھر معاویہ سے جنگ کرنے کے لئے شام روانہ ہوں۔

اس درخواست میں صاف و بیوقوفی واضح ہے کیونکہ اگر حکمیت کا مسئلہ برا اور گناہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ توبہ اسی جگہ کی جائے جہاں گناہ کیا ہے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہاں تین دن تک قیام کیا جائے! بلکہ توبہ تو صرف ایک لمحہ بھر ہی واقعی شرمندگی اور کلمہ استغفار کے ذریعہ ہوجاتی ہے۔

امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا: کیوں اس وقت ایسی باتیں کر رہے ہو جب کہ دو حکم معین کر کے بھیج دیئے گئے ہیں اور دونوں طرف کے لوگوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمانہ کر لیا ہے؟

ان لوگوں نے کہا: اس وقت جنگ طولانی ہو گئی تھی، بہت زیادہ سختی و شدت بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور ہم نے بہت زیادہ اسلحے اور سواریاں گنوا دی تھیں، اس لئے حکمیت کو قبول کیا تھا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا جس دن شدت اور سختی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس دن تم نے قبول کیا ہے؟ پیغمبر اسلام (ص) نے مشرکوں کے ساتھ عہد و پیمانہ کیا تھا، اس کا احترام کیا لیکن تم لوگ مجھ سے کہتے ہو کہ اپنے عہد و پیمانہ کو ختم توڑ دو!

خوارج نے اپنے اندر احساس ندامت کیا لیکن اپنے عقیدہ کے تعصب کی بنا پر ایک کے بعد ایک وارد ہوتے گئے اور نعرہ لگاتے رہے: "لا حکم الا للہ ولو کرہ المشرکون"۔

ایک دن خوارج کا ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور وہی نعرہ لگایا (جسے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے)، لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے پھر وہی نعرہ لگایا اور اس مرتبہ کہا: "لا حکم الا للہ ولو کرہ ابو الحسن"۔ امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا: میں ہرگز خدا کی حکومت (اور اس کے حکم) کو مکروہ تصور نہیں کرتا، لیکن تمہارے بارے میں خدا کے حکم کا منتظر ہوں۔ لوگوں نے امام علیہ السلام سے کہا: کیوں آپ نے ان لوگوں کو اتنی مہلت اور آزادی دی ہے؟ کیوں ان کو جڑ سے ختم نہیں کر دیتے؟ آپ نے فرمایا:

"لا یفتنون انہم لفی اصلاّب الرّجال و ارحام النّساء الی یوم القیامۃ" (۱) وہ لوگ ختم نہیں ہوں گے ان لوگوں کا ایک گروہ ان کے باپوں کے صلب اور ماؤں کے رحم میں باقی ہے اور یہ اسی طرح قیامت کے دن تک رہیں گے۔

(۱) شرح حدیدی ج ۲، ص ۳۱۰، ۳۱۱۔

فروع و لایط (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### تینیسویں فصل

خوارج کی مخالفت کی وجہ اور اس کی وضاحت

امام علیہ السلام سے خوارج کی مخالفت کی وجہ اور معاویہ کی مخالفت کی وجہ میں بہت فرق تھا، معاویہ نے عمر کی خلافت کے وقت سے ہی شام کی حکومت کی خود مختاری کے لئے مقدمات فراہم کرتے تھے اور خودکوشام کامطلق العنان حاکم (ڈکٹیٹر) سمجھتا تھا۔ عثمان کے قتل کے بعد جب اسے خبر ملی کہ امام علیہ السلام شام کی حکومت سے اس کو بر طرف کرنا چاہتے ہیں تو وہ مخالفت کرنے کے لئے اٹھ گیا پہلے تو طلحہ و زبیر کو ورغلا یا پھر جنگ صفین برپا کر کے امام علیہ السلام کے مقابلے میں آگیا اور پھر منحوس سیاست کے ذریعہ قرآن کو نیزہ پر بلند کر کے امام علیہ السلام کے لشکر میں اختلاف و تفرقہ پیدا کر دیا اور بالآخر امام علیہ السلام اسی اختلاف کی وجہ سے قربان ہو گئے۔

لیکن خوارج ظاہر بین تھے اور آج کی اصطلاح میں خشک مقدس تھے اور اپنی جہالت و نادانی اور سطحی فکر و نظر اور اسلام کے اصول و مبنی سے واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے امام علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے، اور کھوکھلے اور بے بنیاد علل و اسباب گڑھ کر خدا کے چراغ ہدایت کے مقابلے میں آگئے اور اس الہی چراغ کو خاموش کرنے کے لئے

ہزاروں پاؤں بیلے یہاں تک کہ خود کو ہلاک کرنے کے لئے بھی تیار ہو گئے۔  
 معاویہ اور خوارج کے درمیان اسی فرق کی وجہ سے امام علیہ السلام نے ان پر فتح و کامیابی حاصل کرنے کے بعد فرمایا:  
 " لَا تَقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي، فَيَسَّ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ هُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَادْرَكَهُ " (۱)، خیردار میرے بعد خوارج کو قتل نہ  
 کرنا کیونکہ جو حق کا طالب ہے اور اسے حاصل کرنے میں کسی وجہ سے اس سے غلطی ہو جائے وہ اس شخص کے مثل  
 نہیں ہے جس نے باطل کو چاہا اور اسے پا  
 بھی لیا۔ (یعنی معاویہ اور اس کے اصحاب)  
 خوارج کی مخالفت کے تمام عوامل و اسباب کی تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ لوگ، شامیوں کے برخلاف ہرگز  
 جاہ و منصب اور حکومت کے طلبگار نہ تھے بلکہ ایک خاص کج فکری اور ذہنی پستی

## نہج البلاغہ خطبہ ۵۸ (عبدہ)۔

ان پر مسلط تھی - یہاں ہم خوارج کے اہم ترین اعتراضات نقل کر رہے ہیں۔

### ۱۔ دین پر لوگوں کی حکومت

وہ لوگ ہمیشہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ دو مخالف گروہ کے دو آدمی اپنے اپنے سلیقے کے  
 اعتبار سے مسلمانوں کی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنی رائے کو مسلمانوں کے معین شدہ رہبر کی رائے پر مقدم کریں  
 ، دین اور مسلمانوں کا مقدر اس سے بلند و برتر ہے کہ لوگ اپنی ناقص عقولوں سے ان کے اوپر حکومت کریں۔ وہ لوگ  
 مستقل کہہ رہے تھے: " حکم الرجال فی دین اللہ " یعنی علی نے لوگوں کو دین خدا پر حاکم قرار دیا ہے۔  
 یہ اعتراض اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ وہ لوگ حکمین کے فیصلے کے قبول کرنے کے شرائط سے باخبر نہ تھے اور  
 ان لوگوں نے خیال کیا کہ امام علیہ السلام نے ان دونوں کو مسلمانوں کی قسمت معین کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ  
 جس طرح چاہیں ان کے لئے حکم معین کریں۔ امام علیہ السلام نے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا: "إنا لم نحکم الرجال  
 وإنما حکمنا القرآن، هذا القرآن إنما هو خط مستور بین الدفتین لا ینطق بلسان ولا یدلہ من ترجمان، وإنما ینطق عنہ الرجال،  
 ولما دعانا القوم الی ان نحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتول عن کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وقد قال اللہ سبحانہ: " فان تنازعتم  
 فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول " فردوہ الی اللہ ان نحکم بکتابہ، وردہ الی الرسول ان ناخذ بسنتہ، فاذا حکم بالصدق فی کتاب  
 اللہ فنحن احق الناس بہ وان حکم بسنتہ رسول اللہ (ص) فنحن احق الناس و اولاً ہم بہا۔ (۱)  
 ہم نے لوگوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم مقرر کیا ہوا ہے کہ قرآن دودفتیوں کے درمیان لکھی ہوئی کتاب ہے جو زبان سے  
 نہیں بولتی اس کے لئے ترجمان ضروری ہے اور وہ ترجمان آدمی ہی ہوتے ہیں جو قرآن کی روشنی میں کلام کرتے ہیں  
 جب قوم (اہل شام) نے ہم سے خواہش کی کہ ہم اپنے اور ان کے درمیان قرآن مجید کو حکم قرار دیں تو ہم ایسے لوگ نہ  
 تھے کہ اللہ کی کتاب سے منحرف ہوں حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے: "اگر

### (۱) نہج البلاغہ: خطبہ ۱۲۱۔

تم کسی بات میں اختلاف کرو تو خدا اور رسول کی طرف سے پیہر دو" خدا کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم  
 اس کی کتاب کو حکم مانیں اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ہم ان کی سنت کو اختیار کریں، پس اگر  
 سچائی کے ساتھ کتاب خدا سے حکم حاصل کیا جائے تو اس کی رو سے لوگوں میں سب سے زیادہ ہم اس کے حق دار ہیں  
 اور اگر سنت رسول کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو ہم سب سے زیادہ اس کے اہل ہیں۔  
 امام علیہ السلام ایک دوسرے خطبہ میں اسی جواب کو دوسری عبارت میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: " دونوں حکم  
 کو اس لئے مقرر کیا گیا تھا کہ وہ انہیں چیزوں کو زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے اور جن چیزوں کو قرآن نے ختم  
 کیا ہے انہیں یہ بھی ختم کر دیں (حق کو زندہ اور باطل کو نابود کر دیں) اور قرآن کا زندہ کرنا اس پر اتفاق کرنا ہے اور  
 اسے ہلاک کرنا اس سے دوری اختیار کرنا ہے پس قرآن اگر ہمیں ان (شامیوں) کی طرف کھینچ لے جائے تو ہم ان کی  
 پیروی کریں گے اور اگر وہ انہیں ہماری طرف کھینچ لائے تو انہیں ہماری پیروی کرنی چاہیے، تمہارا برا ہو، میں نے اس

بات میں کوئی غلط کام تو نہیں کیا نہ تمہیں دھوکہ دیا ہے اور نہ کسی بات کو شبہہ میں رکھا ہے۔ (۱)

(۱) نبج البلاغہ خطبہ ۱۷، ۱۲۳۔

۲۔ وقت کا تعین

خوارج کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کیوں فیصلہ کرنے والوں کے لئے وقت معین ہوا ہے اور یہ طے پایا ہے کہ دونوں (عمرو عاص اور ابوموسیٰ) غیر جانب دار علاقہ (دومۃ الجندل) میں ماہ رمضان ختم ہونے تک اختلاف کے بارے میں اپنی اپنی رائے پیش کر دیں اور یہ کام میدان صفین ہی میں اس دن کیوں نہیں انجام دیا گیا جس دن قرآن کو نیزہ بر بلند کیا گیا تھا؟! حقیقتاً اس طرح کے اعتراضات کیا ان کی جہالت پر دلالت نہیں کرتے؟ کیا ایسا عظیم فیصلہ، اور وہ بھی اس وقت دونوں

گروہ کا ہاتھ کہنی تک ایک دوسرے کے خون میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی آسان کام تھا کہ ایک دو دن کے اندر فیصلہ ہو جاتا اور دونوں گروہ اُسے قبول کر لیتے؟ یا اس کے لئے صبر و ضبط کی ضرورت تھی تاکہ جاہل کی بیداری اور عالم کے استحکام کا امکان زیادہ پیدا ہو جائے اور امت کے درمیان صلح کا ذریعہ اور زیادہ فراہم ہو جائے۔

امام علیہ السلام اس جواب کے اعتراضات میں فرماتے ہیں: "وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: لِمَ جَعَلْتُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ أَجْلاً فِي التَّحْكِيمِ؟ فَاِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِئَتَى يَنْتَبِهُ الْعَالَمُ وَأَعْلَى اللَّهُ أَنْ يَصْلَحَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ" (۱) اب تمہارا یہ کہنا کہ آپ نے اپنے اور ان کے درمیان تحکیم کی مہلت کیوں دی تو میں نے یہ موقع اس لئے دیا کہ جاہل تحقیق کرے اور عالم ثابت قدم ہو جائے، اور شاید خداوند عالم اس مہلت کے ذریعے اس امت کے حالات کی اصلاح فرمادے۔

(۱) نبج البلاغہ خطبہ ۱۲۱

۳۔ حاکمیت انسان اور حاکمیت خدا کے انحصار سے تارض

خوارج نے امام علیہ السلام سے مخالفت کے زمانے میں آیا "لاحکم الا للہ" کا سہارا لیا اور حضرت کے کام کو نص قرآن کے خلاف شمار کیا اور یہ نعرہ لگایا: "لاحکم الا للہ لا لک و لا لأصحابک یا عل" یعنی حاکمیت خدا سے مخصوص ہے نہ کہ تم سے اور نہ تمہارے ساتھیوں سے اور یہ نعرہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے قرآن سے اقتباس ہے جو سورہ یوسف آیت نمبر ۴۰ اور ۶۷ میں وارد ہوا ہے اور اس کا مفہوم توحید کے اصول میں شمار ہوتا ہے اور اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ حاکمیت اور فرمانروائی ایک حقیقی اور اصل حق ہے جو خدا سے مخصوص ہے اور کوئی بھی انسان اس طرح کا حق دوسرے انسان پر نہیں رکھتا۔ لیکن خدا میں حاکمیت کا منحصر ہونا اس چیز کے منافی نہیں کہ کوئی گروہ ایک خاص ضوابط کے ساتھ جن میں سب سے اہم خدا کی اجازت ہے دنیا پر حکومت کرے، اور خدا کی حاکمیت کی تجلی گاہ ہو جائے اور کوئی بھی عقلمند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اجتماعی زندگی، بغیر حکومت کے ممکن ہے، کیونکہ وظائف و فرائض کا انجام دینا، اختلافات کا حل ہونا اور لڑائی جھگڑے کا ختم ہونا وغیرہ یہ تمام چیزیں ایک حکومت کے سایہ میں انجام پاسکتی ہیں۔

امام علیہ السلام نے جب ان کے نعرہ کو سنا تو فرمایا، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ حکومت کا حق صرف خدا کو ہے لیکن اس حق کی بات سے باطل مراد لیا جا رہا ہے: "کلمۃ حق یراد بها الباطل، نعم انہ لا حکم الا للہ ولكن هولاء یقولون لا امرۃ الا للہ وانہ لا یدل للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرتہ المومن ویستمع فیہا الکافر" (۱)



"بات حق ہے مگر اس سے مراد باطل لیا جا رہا ہے ہاں بے شک حکم خدا ہی کے لئے ہے لیکن یہ لوگ تو کہتے ہیںکہ امیر (حاکم) بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے حالانکہ لوگوں کے لئے ایک نہ ایک امیر (حاکم) کا ہونا لازم ہے نیکو کار ہویا فاسق و فاجر ، تاکہ اس حکومت میں مومن عمل (خیر) کرے اور کافر اس میں اپنے پورے پورے حقوق حاصل کرے۔" اگر حکومت نہ ہو تو امن اور چین نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں نہ مومن اپنے کار خیر میں کامیاب ہوسکے گا اور نہ کافر دنیا کی زندگی سے فیضیاب ہوسکے گا اور اگر حقیقت میں مقصد، حکومت کا تشکیل نہیں دینا ہے تو اس صورت میں پیغمبر اسلام (ص) اور شیخین کی حکومت کی کس طرح توجیہ کریں گے؟

خوارج اپنے عقیدہ و عمل میں ہمیشہ کشمکش میں مبتلا تھے ، ایک طرف سمجھتے تھے کہ اجتماعی زندگی ایک با اثر مدیر اور رہبر کے بغیر ممن نہیں ہے اور دوسری طرف اپنی کج فہمی کے زیر اثر ہر طرح کی حکومت کی تشکیل کو حاکمیت خدا کے انحصار کے خلاف سمجھتے تھے۔

اس سے بھی تعجب خیز بات یہ ہے کہ یہ کہ خوارج نے خود اپنے کام کے آغاز میں اپنے گروہ کے لئے حاکم کا انتخاب کیا ! طبری لکھتا ہے : ماہ شوال ۳۸ ہجری میں خوارج کے کچھ گروہ عبداللہ بن وہب راسبی کے گھر جمع ہوئے اور عبداللہ نے اپنی تقریر میں کہا: یہ بات شائستہ نہیں ہے کہ لوگ خدا پر ایمان لائیں اور حکم قرآن کو تسلیم کریں اور دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے زیادہ باعث مشقت ہو ، پھر اس کے بعد حر قوص بن زبیر اور حمزہ بن سنان نے بھی گفتگو کی، اور تیسرے نے اپنے کلام کے آخر میں کہا: فلولوا أمرکم رجلاً فانہ لابد لکم من عمادٍ و سنادٍ و رایة تحفون بها وترجعون الیہا۔ (۲)

تم کسی شخص کو اپنا امیر اور حاکم بناؤ اس لئے کہ تمہارے لئے ایک ستون ، معتمد اور جھنڈا ضروری ہے جس کے پاس آؤ اور رجوع کرو۔

(۱) نہج البلاغہ خطبہ ۴۰  
(۲) تاریخ طبری ج ۶، ص ۵۵

حکیمیت، آخری امید

مسلمانوں کے درمیان، جنگ صفین سے پہلے اور اس کے بعد بہت سے ایسے بنیادی مسائل تھے کہ جن کے حل کا ایک طریقہ ایسے فیصلہ کرنے والوں کا انتخاب کرنا تھا جو حقیقت بینی کے ساتھ مسائل کی دقیق اور بہترین تحقیق کریں اور پھر ان کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کریں۔ وہ مسائل یہ تھے:

۱۔ عثمان کا قتل۔

۲۔ امام کے دوستوں پر خلیفہ کے قتل کا الزام۔

۳۔ معاویہ کا دعویٰ کہ وہ عثمان کے خون کا ولی ہے۔

بنیادی طور پر یہی مسائل تھے جس کی بنا پر جنگ صفین ہوئی اور ان مشکلوں کے حل کے لئے دو راستے تھے: پہلا راستہ یہ کہ دونوں فریق اپنے اختلافی مسائل کو مہاجرین اور انصار کے ذریعہ چنے ہوئے امام کے پاس پیش کریں اور وہ ایک آزاد شرعی عدالت میں خدا کے حکم کو ان کے بارے میں جاری کریں اور یہ وہی راہ تھی جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے صفین سے پہلے تاکید کی تھی اور اپنے خط میں معاویہ کو لکھا تھا: " قد اکثر فی قتلة عثمان فادخل فیما دخل فیہ الناس ثم حاکم القوم الی ان احملک وایا ہم علی کتاب اللہ" (۱) اور تم نے عثمان کے قاتلوں کا بار بار ذکر کیا ہے اور جس دائرہ اطاعت میں لوگ داخل ہوچکے ہیں تم بھی (بیعت کر کے) داخل ہو جاؤ پھر میری عدالت میں ان لوگوں کا مقدمہ پیش کرو تاکہ میں کتاب خدا کے مطابق تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کروں۔

دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک صلح پسند عدالت میں بھیج دیا جائے تاکہ وہاں منصف مزاج اور حقیقت پسند قاضی مشکل کا حل تلاش کریں اور فیصلہ کرتے وقت اسلام اور مسلمانوں کی حقیقی اور واقعی مصلحتوں سے چشم پوشی نہ کریں اور عمرو عاص جیسے لوگوں کی ہر طرح کی بن الوقتی اور مفاد پرستی سیاور ابو موسیٰ جیسے لوگوں کے کینہ و بغض سے دو رہوں ، ایسی عدالت میں امام علیہ السلام اپنے حقیقی مقصد تک پہنچ سکتے تھے اور مشکلات کا حل و فیصلہ کرسکتے تھے۔

خلیفہ کا قتل بہت پیچیدہ مسئلہ نہ تھا۔ اس کے عوامل و اسباب کئی سالوں پہلے سے وجود میں آچکے تھے



اور روز بروز بڑھتے ہی جا رہے تھے یہاں تک کہ دبائو اور گھٹن کی شدت صالحین پر ظلم و ستم اور مصلحین پر سختی و شکنجہ دھماکے (قت) کا سبب بن گیا یہ ایسا دھماکاتھا جسے علی علیہ السلام بھی روک نہیں سکے اور خلیفہ کو قتل سے بچانہیں سکے۔

معاویہ اور مقتول خلیفہ کے ہواخواہوں کے دعوے کے لئے ضروری تھا کہ اُسے شرعی عدالت میں پیش کیا جاتا اور حق و باطل میں تمیز پیدا کی جاتی۔ دنیا کی کسی بھی جگہ مقتول کے خون کا بدلہ لینے کے لئے لشکر کشی جائز نہیں سمجھی جاتی، تو پھر تقریباً ۶۵ ہزار انسانوں کے قتل کا جواز کیسے ہو سکتا ہے؟

"دومة الجندل" کی عدالت میں اگر صحیح طریقہ سے فیصلہ ہوتا تو ان تمام مسائل کی صحیح چھان بین ہوتی اور مسلمانوں کا وظیفہ ان واقعات کے بارے میں واضح ہوجاتا۔ مگر افسوس، اس عدالت میں جس چیز کے بارے میں بحث نہیں ہوئی وہ اختلاف کی جڑیں اور بنیادیں تھیں۔ عمرو عاص اپنے رقیب (ابوموسیٰ) کی عقل و رائے کو سلب کرنے کی فکر میں تھا تاکہ امام علیہ السلام کو خلافت سے معزول کرنے کے لئے اس کو راضی کرلے اور معاویہ کی خلافت نافذ کر دے اور ابوموسیٰ اس فکر میں تھا کہ اپنے ہمفکر وہم خیال عبداللہ بن عمر کو خلافت تک پہنچادے کیونکہ اس کا ہاتھ دونوں طرف میں سے کسی ایک کے خون سے آلودہ نہ ہوا تھا۔ جب عدالت کے نظریہ کا اعلان ہوا تو علی علیہ السلام نے اسے قانونی و اصولی طور پر قبول نہ کیا اور فرمایا: فیصلہ کرنے والوں نے اپنے عہد و پیمان کے خلاف عمل کیا ہے اور ارادہ کیا کہ اپنی فوج کو منظم کر کے معاویہ سے جنگ کرنے کو روانہ ہوں لیکن خوارج کے حادثہ نے معاویہ کا پیچھا کرنے سے روک دیا۔

فساد کو جڑ سے ختم کرنا خوارج کے ساتھ امام علیہ السلام کا برتاؤ بہت ہی نرم اور لطف و مہربانی سے پُر تھا اور آپ بھی ان کو خطاب کرتے تھے تو صرف محبت، نصیحت اور ہدایت و راہنمائی کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز آپ سے نہیں سنی گئی، حضرت نے بالکل اس باپ کے مثل جو چاہتا ہے کہ اپنے عاق اور سرکش بیٹے کو صحیح راستے پر لائے ان لوگوں سے برتاؤ کرتے تھے، ان کے حقوق کو بیت المال سے ادا کرتے تھے، مسجد اور اس کے اطراف میں ان کے ظلم و ستم اور شور و غل کرتے تھے، پرواہ نہ کی اور آپ کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس گروہ کو مسخّر اور قابو میں کر کے معاشرے میں اتحاد کو واپس لے آئیں اور شام کے سرطانی غدّہ کو جڑ سے ختم کردینے کیونکہ خوارج بھی اسی کی پیداوار تھے، اور صفین کا عہد و پیمان بھی امام علیہ السلام کو یہ حق دے رہا تھا کیونکہ عہدنامہ کی عبارت میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ اگر حکمین نے قرآن و سنت کے برخلاف فیصلہ کیا تو امام علیہ السلام اپنے پہلے اصل منصب پر باقی رہیں گے (۱)۔

امام علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بات واضح کرنے کے لئے بہت سی تقریریں کیں کہ معاویہ سے دوبارہ جنگ صفین کے عہد نامہ کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق تو جنگ دوبارہ ہونا چاہیے تاکہ دشمن کا خاتمہ ہوجائے۔ آپ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں: "وقد سبق استثنائنا علیہما فی الحکم بالعدل والعمل بالحقّ سوء رأیہما وجور حکمہما، والثّقۃ فی ایدینا بانفسنا حین خالفا سبیل الحق و آتیا بما لایعرف من معکوس الحکم" (۲)، ہم نے تو ان کی غلط رائے اور ناروا فیصلوں سے پہلے ہی ان سے شرط کرلی تھی کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق پر قائم رہنے میں بددینی اور ناانصافی کو دخل نہ دیں گے، اب جب کہ انہوں نے راہ حق سے انحراف کیا ہے اور طے شدہ قرار داد کے برعکس حکم لگایا ہے تو ہمارے ہاتھ میں ان کا فیصلہ ٹھکرادینے کے لئے ایک مستحکم دلیل اور معقول وجہ موجود ہے۔

امام علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی نظر میں شجرہ خبیثہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور فساد کے غدہ کو نکال باہر کرنے کے علاوہ کچھ نہ تھا اور ان لوگوں کی پوری سعی و کوشش یہی تھی لیکن اچانک تاریخ نے ورق پلٹا اور یہ واقعہ اس فکرو نظر کے برخلاف ہو گیا اور معاویہ سے جنگ کے بجائے، خوارج سے جنگ ایک قطعی مسئلہ کی صورت میں چھڑ گئی، اب اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ آخر کون سی چیز سبب بنی کہ امام علیہ السلام کے صبر و تحمل کا جام لبریز ہو گیا اور آپ کو ان لوگوں سے جنگ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس مسئلہ کی علت کو دوندرجہ ذیل باتوں سے معلوم کرسکتے ہیں :

(۱) عبد نامہ کی عبارت یہ تھی : وان كتاب الله سبحانه وتعالى بينا عن فاتحته الى خاتمته ، نحى ما احبى القرآن ونميت ما اومات القرآن . فان وجد الحكمان ذالك في كتاب الله اتبعناه وان لم يجدها اخذا بالسنة العادلة وغير المفرقة. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج ۲ ص ۲۳۴ (۲) نهج البلاغه (عبدہ) خطبہ ۱۷۲

۱۔ خبر ملی کی خوارج عبداللہ بن وبن راسبی کے گھر جمع ہوئے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی مقصد کے لئے بصرہ میں موجود اپنے ہمفکروں کو خط لکھا ہے اور ان لوگوں کو دعوت دی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو خوارج کی چھاؤنی "خیر" کے پاس نہروان پہنچ جائیں ، بصرہ کے خوارج نے بھی اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا ہے۔ (۱)

۲۔ دومة الجندل کے قاضیوں کے فیصلے نے ، کہ جس میں نہایت بے حیائی سے امام علیہ السلام کو ان کے منصب سے معزول اور معاویہ کو ان کی جگہ پر منصوب کیا گیا تھا، امام علیہ السلام کو عمومی افکار کے واضح کرنے پر مجبور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کوفہ کے منبر پر تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: "نیک، خیر خواہ اور صاحب علم و بصیرت شخص کی مخالفت حسرت و شرمندگی کا سبب ہے ، میں مسئلہ حکمیت اور ان دونوں آدمیوں کی قضاوت کے بارے میں منفی نظریہ رکھتا تھا لیکن تم لوگوں نے میرے نظریہ کو قبول نہیں کیا اور ان دونوں کو حاکمیت کے لئے معین کر دیا اور ان لوگوں نے اپنے عہد و پیمان کے برخلاف جس چیز کو قرآن نے مردہ کیا تھا اسے زندہ کر دیا اور جس چیز کو قرآن نے زندہ کیا تھا اسے مردہ کر دیا اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی اور بغیر دلیل اور حجت کے حکم جاری کر دیا ، اسی وجہ سے خدا و پیغمبر اور مومنین ان دونوں قاضیوں سے بری ء الذمہ ہیں ، جہاد کے لئے آمادہ اور شام چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ ، اور دوشنبہ کے دن نخیلہ کی چھاؤنی کے پاس جمع ہو جاؤ ، خدا کی قسم ! میں اس گروہ (شامیوں) سے جنگ کروں گا ، اگرچہ ہمارے لشکر میں میرے علاوہ کوئی بھی باقی نہ رہے۔"

۳۔ امام علیہ السلام نے سوچا کہ جتنی جلدی ممکن ہو کوفہ چھوڑ کر صفین پہنچ جائیں ، آپ کے بعض دوستوں نے آپ سے کہا کہ بہتر ہے کہ خوارج جو ہمارے راستے سے دور ہو گئے ہیں انہیں بھی جنگ میں شریک ہونے کے لئے دعوت دیں ، اس وجہ سے امام علیہ السلام نے خوارج کے سرداروں کے پاس خط لکھا اور یاد دہانی کی کہ عمرو عاص اور ابو موسیٰ نے گناہ کیا ہے اور کتاب خدا کی مخالفت کی ہے اور اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے نہ سنت پر عمل کیا ہے اور نہ ہی قرآن پر ، خدا اور اس کا رسول اور مومنین ان کے کرتوت سے بری ء الذمہ ہیں ، جب میرا خط تمہارے پاس پہنچے تو میری طرف آنے میں جلدی کرو تاکہ مشترک دشمن سے جنگ کرنے کے لئے ایک ساتھ چلیں ۔

(۱) الامامة والسياسة ج ۱ ، ص ۱۳۲

۴۔ امام علیہ السلام کا خط خوارج کے لئے ذرہ برابر بھی مؤثر ثابت نہ ہوا ان لوگوں نے حضرت کی درخواست کو رد کر دیا۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام ان لوگوں سے مایوس ہو گئے اور ارادہ کیا کہ ان لوگوں کا انتظار نہ کریں اور جنتے سپاہی موجود ہیں یا آنے والے ہیں ان کے ساتھ صفین کی طرف جائیں، پھر آپ نے بصرہ کے حاکم ابن عباس کے پاس خط لکھا اور ان سے مدد طلب کی، جب امام علیہ السلام کا خط بصرہ کے حاکم کے پاس پہنچا تو انہوں نے لوگوں کے درمیان اس خط کو پڑھ کر سنایا مگر افسوس کہ صرف پندرہ سو آدمیوں نے اخف بن قیس کی سرداری میں امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہی۔ ابن عباس فوج کی اقلیت پر بہت رنجیدہ ہوئے اور لوگوں کے مجمع میں بہترین تقریر کی اور کہا: "امیر المومنین علیہ السلام کا خط میرے پاس آیا ہے اور اس میں مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو میرے پاس جنگ میں شرکت کرنے کے لئے روانہ کرو لیکن صرف پندرہ سو (۱۵۰۰) لوگ جہاد کے لئے آمادہ ہیں جب کہ سرکاری رجسٹر میں ساٹھ ہزار آدمی کا نام درج ہے جلد سے جلد روانہ ہو جاؤ اور عنبر اور بہانہ سے پرہیز کرو اور جو شخص بھی اپنے امام کی دعوت کی مخالفت کرے گا بہت زیادہ شرمندہ ہوگا ۔ میں نے ابوالاسود کو حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کی روانگی کا پروگرام ترتیب دیں۔

ابوالاسود اور دوسرے افراد کی تمام تر کوششوں کے باوجود صرف اٹھارہ سو (۱۸۰۰) لوگ پہلے گروہ سے ملحق ہوئے اور بالآخر تین ہزار دوسو (۳۳۰۰) افراد پر مشتمل ایک لشکر کوفہ کے لئے روانہ ہوا ، امام علیہ السلام بصرہ کی فوج کی

کمی پر بے حد رنجیدہ ہوئے اور کوفہ کے لوگوں کے درمیان آپ تقریر کرنے کے لئے اٹھے اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: اے کوفہ کے لوگو! تم لوگ حق کے امور میں میرے بھائی اور میرے دوست ہو میں تم لوگوں کی مدد سے، جو حق سے منہ موڑے گا اسے سرنگوں کردوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگ اس راہ میں حق کے پاسدار اور ثابت قدم رہو گے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بصرہ سے صرف تین ہزار دوسو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں۔ تم لوگوں پر لازم ہے کہ خلوص کے ساتھ اور دھوکہ، فریب و خیانت سے دور رہ کر میری مدد کرو، اور قبیلے کے بزرگ اور سردار اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کو خط لکھنا اور ان سے کہیں کہ جو لوگ جنگ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اس جنگ میں شرکت کریں۔

بڑی شخصیتیں مثلاً سعد بن قیس ہمدانی، عدی بن حاتم، حجر بن عدی اور قبیلوں کے بزرگ افراد نے امام کے فرمان کو دل و جان سے قبول کیا اور اپنے اپنے قبیلوں کو خط لکھا، اور اس طرح چالیس ہزار (۴۰،۰۰۰) بہادر جنگجو اور سترہ ہزار (۱۷۰۰۰) نوجوان اور آٹھ ہزار (۸۰۰۰) غلام کوفہ میں داخل ہوئے اور بصرہ کا لشکر بھی اسی میں شامل ہو گیا اور ایک قابل دید اور دشمن شکن لشکر امام علیہ السلام کے پرچم تلے جمع ہو گیا۔

کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ معاویہ سے جنگ کرنے سے پہلے خوارج کے معاملے کو ختم کر دیں، لیکن امام علیہ السلام نے ان کی درخواست پر توجہ نہ دی اور فرمایا: ان لوگوں کو چھوڑ دو اور ایسے گروہ کی طرف چلو جو چاہتے ہیں کہ زمین پر ستمگروں کے بادشاہ رہیں، اور مومنین کو اپنا غلام بنائیں، اس وقت فوج کے ہر گوشہ سے آواز بلند ہوئی اور لوگوں نے امام سے کہا: آپ جہاں بھی مصلحت سمجھیں ہمیں بھیج دیں کیونکہ ہم سب کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہے اور آپ کی نصرت و مدد کے لئے تڑپ رہا ہے۔

۵۔ ایسے حساس حالات میں خبر پہنچی کہ خوارج نے عبداللہ بن خیاب کو نہر کے کنارے بھیڑ کی طرح ذبح کر دیا ہے اور صرف اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ ان کی بیوی کو بھی قتل کر دیا ہے اور ان کے شکم سے بچہ نکال کر اسے بھی ذبح کر دیا ہے۔

ابن قتیبہ "الامامة والسياسة" میں اس بارے میں لکھتے ہیں: جب خوارج عبداللہ کے سامنے آئے تو ان سے کہا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا خدا کا مومن بندہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا: علی کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کہا: وہ امیر المومنین اور خدا اور اس کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لائے والے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا: تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، عبداللہ بن خیاب بن الارث۔ ان لوگوں نے کہا: تمہارا باپ پیغمبر کا صحابی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ ان لوگوں نے کہا: ہم نے تمہیں ناراض کیا ہے؟ کہا: ہاں ان لوگوں نے کہا۔ وہ حدیث جو کہ تم نے اپنے باپ سے اور انہوں نے پیغمبر سے سنی ہے ہمارے لئے نقل کرو۔ انہوں نے کہا: میرے باپ نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے: "میرے بعد ایسا فتنہ برپا ہوگا کہ مومن کا دل اس میں مرجائے گا، رات کو باایمان سوئے گا اور دن میں کافر بوجائے گا۔" ان لوگوں نے کہا: ہم لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ حدیث تم سے سنیں قسم ہے تمہیں اس طرح قتل کریں گے کہ آج تک اس طرح کسی کو قتل نہیں کیا ہے اور پھر فوراً ہی ان کے ہاتھ پیر باندھ دیئے اور انہیں ان کی حاملہ بیوی کے ساتھ کھجور کے درخت کے پاس لائے۔ اس وقت ایک کھجور پیڑ سے گری اور خوارج میں سے ایک شخص نے اسے منہ میں رکھ لیا فوراً ہی اس کے ہم خیالوں نے اعتراض کیا کہ لوگوں کے مال کو بغیر اجازت یا بغیر قیمت دیئے ہوئے کھا رہے ہو؟ اس نے فوراً کھجور منہ سے نکال دی اور پھینک دیا! اور اسی طرح ایک عیسائی کا سر وہاں سے گزر رہا تھا جو کسی خوارج کے تیر سے اس وقت دوسروں نے اعتراض کیا کہ تمہارا یہ کام زمین پر فساد کرنا ہے لہذا اس کے مالک سے لوگوں نے رضایت طلب کی پھر عبداللہ کو جنہیں باندھ رکھا تھا نہر کے کنارے لائے اور بھیڑ کی طرح ذبح کر دیا اور صرف اسی پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ ان کی بیوی کو بھی قتل کر دیا اور ان کے شکم کو چاک کر کے بچے کے سر کو بھی کاٹ دیا، اور پھر بھی اتنے ہی پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ تین اور دوسری عورتوں کو بھی قتل کر دیا جن میں سے ایک صحابیہ تھیں جن کا نام ام سنان تھا (۱)۔

خیاب بن الارث، عبداللہ کے والد، اسلام کے سابقین میں سے تھے اور قریش کے شکنجوں کے نشانات ان کے بدن پر آخر وقت تک موجود تھے۔ وہ امام علیہ السلام کے صفین سے کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے اور امام علیہ السلام صفین سے آنے کے بعد ان کی قبر پر گئے اور ان کے رحمت کی اور تعریف کی۔

میرڈنے اپنی کتاب "کامل" میں عبداللہ کے دردناک قتل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب قاتل نے انہیں پکڑا تو عبداللہ نے کہا: میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ جس چیز کو قرآن نے زندہ کیا ہے اسے زندہ کرو اور جس چیز کو مردہ کیا ہے اسے مار دو، پھر عبداللہ کی روایت ان کے والد کے واسطے پیغمبر سے نقل کرنے کے بعد میرڈ لکھتے ہیں: خوارج نے کھجور کے مالک سے درخواست کی کہ اس کی قیمت لے لے، اس نے کہا کہ میں نے اس پیڑ کی کھجور کے استعمال کو

تم لوگوں کے لئے بخش دیا ہے لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ تم کو اس کی قیمت لینا پڑے گی ، اس وقت ایک عیسائی نے فریاد بلند کی کہ تم لوگ ایک مسلمان کا خون بہانے سے نہینڈرتے لیکن ایک پھل کھانے سے پرہیز کرتے ہو جب کہ اس کے مالک

(۱) الامامة والسياسة: ص ۱۳۶۔

نے رضایت بھی دیدی ہے!؟ (۱)

۶۔ امیر المومنین علیہ السلام جب عبداللہ کے قتل سے باخبر ہوئے تو حارث بن مرہ کو خوارج کی چھاؤنی بھیجا تاکہ واقعہ کی حقیقت معلوم کریں جب حارث ان کے پاس پہنچے تاکہ واقعہ کا صحیح پتہ لگائیں تو ان لوگوں نے تمام اسلامی اور انسانی اصولوں کے برخلاف انہیں قتل کر دیا۔ امام علیہ السلام پر سفیر کے قتل ہونے کی وجہ سے بہت اثر ہوا۔ اس موقع پر کچھ لوگ امام علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا: کیا یہ صحیح ہے کہ ایسے خطروں کے باوجود ہم شام جائیں اور اپنے بچوں اور عورتوں کو ان کے پاس چھوڑ دیں؟

(۱) الکامل: ص ۵۶۰، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید: ج ۲، ص ۲۸۲۔

عبداللہ کے قاتلوں کی تنبیہ

عبداللہ کے قتل سے جو وحشت اور رعب پیدا ہوا اس نے امام علیہ السلام کو آمادہ کیا کہ جہالت اور بدبختی کو جڑ سے ختم کر دیں ، اسی وجہ سے آپ نے ارادہ کیا کہ حروراء یا نہروان جائیں جب امام روانہ ہونے لگے تو اس وقت آپ کے دوستوں میں سے ایک شخص نے جو علم نجوم میں ماہر تھا ، علی علیہ السلام کو اس وقت سفر کرنے سے منع کیا اور کہا: اگر اس وقت آپ نے سفر کیا تو بہت سخت مشکل میں گرفتار ہوں گے امام علیہ السلام نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور ان مسائل میں علم نجوم سے استفادہ کرنے کے سلسلہ میں تنقید کرتے ہوئے فرمایا: نجوم کو جنگل کی تاریکیوں اور دریاؤں میں رہنمائی کے لئے استعمال کرو ، قضاء الہی سے امام علیہ السلام کو عظیم کامیابی ملی۔ امام علیہ السلام کوفہ سے کچھ ہی دور ہوئے تھے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور کہا: امیر المومنین! بشارت دیجئے کہ خوارج کا گروہ آپ کے سفر سے آگاہ ہو گیا اور بھاگ گیا اور نہر عبور کر چکا ہے ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو نہر عبور کرتے دیکھا ہے ؟ اس نے کہا: ہاں ، امام نے اُسے تین مرتبہ قسم دی اور اس نے تینوں مرتبہ قسم کھا کر کہا: میں نے خوارج کو پانی اور پل پر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: " واللہ ما عبروہ ولن یعبروہ وانّ مصارعہم دون النّطفة والذی خلق الحبة وبرئ النّسمة لن یبلغوا الا ثلاث ولا قصر

بوازن" (۱) خدا کی قسم ان لوگوں نے دریا کو عبور نہیں کیا ہے اور عبور کر بھی نہیں کر سکتے ، ان کا مقتل دریا کے کنارے ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے دانوں کو چاک کیا اور انسانوں کو پیدا کیا وہ لوگ " ا ثلاث " اور " قصر بوازن " بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔

اس شخص کی دو آدمیوں نے اور بھی تائید کی لیکن امام علیہ السلام نے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا اور امام کس طرح سے قبول کرتے کیونکہ پیغمبر معصوم (ص) نے آپ کو خبر دی تھی کہ تین گروہ سے تمہاری جنگ ہوگی ؟ دو گروہوں سے جنگ ہو چکی تھی اور تیسرا گروہ پیغمبر کے قول میں ذکر شدہ نشانوں کے مطابق یہی گروہ تھا ۔ اس وقت ایک جوان شک و شبہ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ عینی شابدوں کی بات مانے یا امام علیہ السلام کی غیبی باتوں کو صحیح مانے ، آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اگر امام علیہ السلام کی بات کے برخلاف ثابت ہوا تو ان کے دشمن سے مل جائے گا۔ امام علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ کی فوج بھی پیچھے پیچھے چلی، جب خوارج کی چھاؤنی پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے نیام کو توڑ ڈالا ہے اور گھوڑوں کو چھوڑ دیا ہوا اور جنگ کے لئے تیار ہیں اس وقت وہ سادہ لوح نوجوان امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنے برے خیال کے متعلق امام سے معافی مانگی۔

تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام علیہ السلام مدائن سے گزر کر نہروان پہنچے اور انہیں پیغام دیا کہ عبداللہ اور اس کی بیوی بچے کے قاتل کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ان کا قصاص لیں۔ خوارج نے جواب دیا ہم سب نے مل کر انہیں قتل کیا ہے اور ان کے خون کو حلال سمجھا ہے۔ امام علیہ السلام ان کے نزدیک پہنچے اور فرمایا:

"اے (سرکش)گروہ میں تم کو متنبہ کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کل امت اسلامی تم کو لعنت کا مستحق قرار دے اور بغیر کسی واضح دلیل کے دریا کے کنارے قتل کر دیئے جاؤ۔

... میں نے تم لوگوں کو مسئلہ حکمیت قبول کرنے سے منع کیا اور میں نے کہا تھا کہ بنی امیہ کو نہ دین

(۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۲۷۲ "مضار عہم دون النطفة واللہ لا یفلت منهم عشر قولا یہلک منکم عشرۃ" خطبہ ۵۸،

سے محبت ہے اور نہ قرآن ہی چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بچپن سے لے کر اس وقت تک کہ وہ بڑے ہوئے ہیں خوب پہچانتا ہوں، وہ لوگ بدترین بچے اور بدترین لوگ ہیں۔ لیکن تم لوگوں نے میری بات غور سے نہیں سنی اور میری مخالفت کی اور میں نے ایسے ہی دن کے لئے دونوں قاضیوں سے عہد و پیمانہ لیا کہ جو کچھ قرآن نے زندہ کیا ہے اُسے زندہ کریں اور جس چیز کو ختم کیا ہے اسے ختم کر دیں اب جبکہ دونوں نے قرآن و سنت کے برخلاف حکم کر دیا ہے ہم اپنے پہلے ہی قول اور طریقے پر باقی ہیں (۱)

"خوارج کے پاس امام علیہ السلام کی معقول اور محکم گفتگو کے جواب میں بے ہودہ باتوں کی تکرار کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور اصرار کر رہے تھے کہ مسئلہ حکمیت قبول کرنے کی وجہ سے ہم سب کافر ہو گئے ہیں اور ہم نے توبہ کی ہے آپ بھی اپنے کفر کا اعتراف کیجیے اور توبہ کیجئے، اس صورت میں ہم آپ کے ہمراہ ہیں اور اگر ایسا نہیں کیا تو ہم کوچھوڑ دیجیے اور اگر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم جنگ کے لئے تیار ہیں۔"

امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا رسول اسلام پر ایمان اور ان کی رکاب میں جہاد کرنے کے بعد اپنے کفر پر گواہی دوں؟ کیا مسئلہ حکمیت قبول کرنے کی وجہ سے تم لوگوں نے اپنی تلواروں کو کاندھوں پر رکھا ہے اور انہیں لوگوں کے سروں پر مارنا چاہتے ہو اور لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہو؟ یہ تو کھلا ہوا گھات ہے۔

(۱) شرح نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۳۶ کی طرف رجوع کریں

آخری اتمام حجت

امام علیہ السلام ان کے ساتھ گفتگو کرنے سے مایوس ہو گئے اور اپنی فوج منظم کرنے لگے فوج کے میمنہ کا سردار حجر بن عدی کو اور میسرہ کا سردار شبث بن ربعی کو بنایا اور ابو ایوب انصاری کو سواروں کا سردار اور ابو قتادہ کو پیادہ چلنے والوں کا سردار بنایا۔ اس جنگ میں امام علیہ السلام کے ساتھ آٹھ سو صحابی شریک تھے اسی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کا سردار قیس بن سعد بن عبادہ کو بنایا اور خود مینتھے پھر سوار لوچگوں میں ایک پرچم بلند کیا اور ابو ایوب انصاری کو حکم دیا کہ بلند آواز سے کہیں کہ واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے اور جو لوگ اس پرچم کے سایہ میں آجائیں گے ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور جو شخص بھی کوفہ چلا جائے یا اس گروہ سے الگ ہو جائے وہ امن و امان میں رہے گا، ہم تم لوگوں کا خون بہانا نہیں چاہتے اس وقت ایک گروہ پرچم کے نیچے آگیا اور امام علیہ السلام نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ (۱) بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خوارج میں سے ایک ہزار لوگوں نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا اور پرچم کے سایہ میں آگئے خوارج کے بعض سردار جو امام علیہ السلام کی طرف آگئے ان کے نام یہ ہیں، مسعر بن فدکی، عبداللہ طائی، ابومریم سعدی، اشرس بن عوف اور سالم بن ربیعہ۔ حقیقت میں صرف عبداللہ بن وہب راسبی کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی بھی سردار نہ بچا (۲)۔

طبری لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی فوج میں اس گروہ کے شامل ہونے کے بعد خوارج کی فوج میں کل دو ہزار آٹھ سو (۲۸۰۰) سپاہی بچے، (۳) اور ابن اثیر نے ان کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو (۱۸۰۰) لکھی ہے۔

امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جب تک دشمن جنگ شروع نہ کرے تم لوگ جنگ شروع نہ کرنا۔ اسی

وقت خوارج میں سے ایک شخص بڑھا اور امام علیہ السلام کے ساتھیوں پر حملہ کیا اور تین آدمیوں کو قتل کر دیا ، اب امام علیہ السلام نے اپنے حملہ سے جنگ شروع کی اور اپنے پہلے ہی حملے میں اس شخص کو قتل کر دیا اور پھر اپنے فوجیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: خدا کی قسم تم لوگوں میں دس آدمی کے علاوہ کوئی قتل نہیں ہوگا اور ان میں سے صرف دس آدمی کے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہے گا(۴)۔

اس وقت عبداللہ بن وہب راسبی میدان میں آیا اور کہا : اے ابوطالب کے بیٹے! تم سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک تمہیں قتل نہیں کر دو یا تم مجھے قتل کر دو ۔ امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا: خدا سے قتل کرے کتنا ہے حیا شخص ہے وہ جانتا ہے کہ میں تلوار اور نیزہ کا دوست ہوں۔ اور فرمایا کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہے اور جھوٹی امید میرے خلاف باندھے ہے۔ پھر ایک ہی حملہ میں اسے قتل کر کے اس کے دوستوں سے ملحق کر دیا(۵)۔

اس جنگ میں بہت کم وقت میں امام علیہ السلام کو کامیابی مل گئی، امام علیہ السلام کے بہادر سپاہیوں

(۱) الاخبار الطوال ص ۲۱۰۔

(۲) مقالات اسلامیین ج ۱، ص ۲۱۰۔

(۳) کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۳۴۶۔ تاریخ طبری ج ۴، ص ۶۴۔

(۴) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۲۸۲، ۲۷۳۔

(۵) الامامة والسياسة ص ۱۳۸۔

نے دابنہ بانیوں سے اور خود امام علیہ السلام نے قلب لشکر سے اپنے بدترین و ذلیل دشمن پر حملہ کیا اور کچھ ہی دیر میں خوارج کے بے جان جسم زمین پر پڑنے ہوئے نظر آئے۔ اس جنگ میں تمام خوارج قتل ہو گئے ، صرف نو آدمی باقی بچے تھے جن میں دو شخص خراسان میں، دو شخص عمان میں، دو شخص یمن میں، دو شخص جزیرہ عراق میں اور ایک شخص نے " تلّ موزن " میں پناہ لی ، اور وہیں زندگی بسر کرنے لگے اور خوارج کی نسل کو باقی رکھا(۱)۔

امام علیہ السلام جنگ کے بعد ان کے مردہ جسموں کے درمیان کھڑے ہوئے اور بہت ہی افسوس کرتے ہوئے فرمایا: "بؤساً لکم ، لقد ضرّکم من غرّکم ، فقيل له' من غرّهم يا اميرالمومنين ؟ فقال: الشيطان المضلّ والا نفس الامارة بالسوء عزّتهم بالامانيّ وفسحت لهم بالمعاصي ووعدتهم الا ظهار فأفتحمت بهم النار"(۲) تمہارے لئے بدبختی ہو ، جس نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا اس نے تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ لوگوں نے پوچھا: کس نے انہیں دھوکہ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: گمراہ کن شیطان اور سرکش نفسوں نے ان لوگوں کو لالچ دے کر دھوکہ دیا اور نافرمانی کی راہوں کو ان کے لئے کھول دیا اور انہیں کامیابی کا وعدہ دیا اور بالآخر ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا۔

امام علیہ السلام کے دوستوں نے سمجھا کہ خوارج کی نسل ختم ہو گئی ہے لیکن امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا: "کلا ، والله انهم نطفی اصلاّب الرجال وقرارات النساء ، کما نَجَمَ منهم قرن فُطِعَ حَتَّى يَكُونَ آخِرهم لصوصاً سلاّبين"(۳) نہیں ایسا پرگزنہیں ہے ، خدا واہ ہے کہ وہ لوگ بصورت نطفہ مردوں کے صلب میں اور عورتوں کے رحم میں موجود ہیں اور جب بھی ان میں سے کوئی سر نکالے گا (حکومتوں کی طرف سے اسے) کاٹ دیا جائے گا ( اور دوسرا سروہیں پر نکل آئے گا) یہاں تک کہ آخر میں صرف چور اور لٹیڑے ہو کر رہ جائیں گے ۔

(۱) کلمات قصار نمبر ۳۱۵۔

(۲) كشف الغمہ ج ۱، ص ۲۶۷۔

(۳) نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۵۹۔

پھر آپ نے فرمایا: میرے بعد تم لوگ خوارج سے جنگ نہ کرنا کیونکہ تمہارا اصلی دشمن معاویہ ہے اور میں نے امن و امان کی حفاظت کے لئے ان لوگوں سے جنگ کی ہے ان میں سے بہت کم لوگ بچے ہیں اور وہ جنگ کرنے کے لائق نہیں ہیں ۔

امام علیہ السلام نے جنگی غنائم میں سے اسلحہ اور چوپایوں کو اپنے فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ان کے سامان زندگی، کنیزوں اور غلاموں کو ان کے وارثوں کو واپس کر دیا ۔ پھر اپنی ہماری تلواریں ٹوٹ گئی ہیں اور تیر ختم ہو گئے ہیں ، لہذا بہتر یہ ہے کہ کوفہ واپس چلیں اپنی قوت میں اضافہ کریں پھر آگے بڑھیں جو ج میں آئے اور فوجیوں کی جواں

مردی کی تعریفیں کیں اور فرمایا اسی وقت صفین کی طرف بڑھنا ہے تاکہ فتنہ کو جڑ سے ختم کر دیا جائے مگر فوجیوں نے کہا ہم تھک گئے ہیں ان لوگوں نے واپس جانے پر اتنا زیادہ اصرار کیا کہ امام علیہ السلام کو افسوس ہوا اور مجبوراً آپ ان لوگوں کے ساتھ نخیلہ کوفہ کی چھاؤنی پر واپس آگئے۔ وہ لوگ دھیرے دھیرے کوفہ چلے جاتے تھے اور اپنی بیوی بچوں سے ملتے تھے اور زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ چھاؤنی پر کچھ ہی لوگ باقی بچے۔ اتنے کم سپاہیوں کے ساتھ شامیوں سے جنگ کرنا ممکن نہ تھا۔

فتنہ خوارج کے خاتمہ کی تاریخ

سرزمین صفین پر امام علیہ السلام کے اوپر خروج کرنے کی فکر ماہ صفر ۳۸ ہجری میں پیدا ہوئی اور زمانے کے ساتھ ساتھ کتاب خدا کے حکم کی مخالفت شدید ہوتی گئی، کوفہ کے خوارج ماہ شوال ۳۸ کو عبداللہ بن وہب راسبی کے گھر جمع ہوئے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور کوفہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور وہاں سے "حروراء" اور پھر "نہروان" چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے شام کے پروگرام کو مجبوراً بدل کر خوارج سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور مؤرخین کے نقل کرنے کے مطابق ۹ صفر ۳۸ ہجری کو فساد کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ (۱)

(۱) تاریخ طبری ج ۳، ص ۹۸، الخوارج

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

چھٹاباب

جنگ نہروان کے بعد کے واقعات

اور

حضرت علی علیہ السلام کی شہادت

پہلی فصل

لوٹ مار، بدامنی اور دردناک قتل عام

جنگ نہروان کی ناگہانی آفت و بلا امام علیہ السلام کے استقلال اور آپ کے باوقا ساتھیوں کی ہمت سے ختم ہوئی اور اب وہ وقت آگیا کہ امام علیہ السلام سرکشوں سے اپنی فوج کی پاکسازی کے لئے دوسری مرتبہ اسلامی سرزمین پر امن اور راحت کوزندہ کریں، اور معاویہ اور فریب خوردہ شامیوں کی خود غرضی کو ختم کر دیں کیونکہ تمام فتنہ و فساد کی جڑ ابوسفیان کا بیٹا تھا۔

معاویہ نے عراق میں اپنے جاسوس معین کئے تھے تاکہ مسلسل ساتھ تمام واقعوں کی خبر اسے دیتے رہیں، ان میں سے بعض جاسوس علی علیہ السلام سے پرانا کینہ اور بغض و حسد رکھتے تھے مثلاً ولید بن عقبہ بھائی عمارہ بن عقبہ، یہ دونوں بھائی جو بنی امیہ کے شجرہ خبیثہ کی شاخوں میں سے تھے، چونکہ امام علیہ السلام نے اس خبیث خاندان کے بہت سے افراد پر زبردست اور کاری ضربیں لگائی تھیں اس لئے یہ لوگ امام علیہ السلام کی دشمنی کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے خصوصاً ولید کا باپ جنگ بدر میں علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، ولید وہی شخص ہے جس کو قرآن نے سورہ حجرات کی چھٹی آیت میں فاسق کہا ہے اور عثمان کی حکومت کے زمانے میں امام علیہ السلام نے اسے تازیانہ مارا اور شراب پینے کی وجہ سے اس پر حد جاری کی، اس بنا پر کوئی تعجب نہیں ہے کہ اس کابھائی عمارہ کوفہ میں معاویہ کا جاسوس ہو اور خود ولید امام علیہ السلام کی تمام جنگوں میں معاویہ کو تشویق اور ترغیب دلانے والا ہو۔ عمارہ نے معاویہ کو خط لکھا جس میں علی - کے ساتھیوں کے درمیان تفرقہ و اختلاف اور نہروان کے واقعہ کو تحریر کیا اور لکھا کہ بہت سے قاریان قرآن اس جنگ میں علی اور ان کے دوستوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کے درمیان اختلاف اور نااتفاقی بڑھ گئی ہے۔ اس نے ایک مسافر کے ذریعہ خط کو شام روانہ کیا۔ معاویہ نے خط پڑھا اور



دونوں بھائیوں کا شکر یہ ادا کیا جن میں ایک موجود تھا اور دوسرا غائب تھا (۱)۔

### (۱) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید: ج ۲ ص ۱۱۵، ۱۱۶ بحوالہ تاریخ۔

معاویہ نے بدامنی پھیلانے، لوٹ مار کرنے اور امام علیہ السلام کے شیعوں کے قتل کے لئے مناسب موقع دیکھا، اسی وجہ سے اس نے چند گروہ حجاز، یمن اور عراق کے علاقوں میں بھیج کر ذہنی و نفسیاتی جنگ کا آغاز کر دیا وہ دھوکہ، فریب، بے گناہ افراد کا قتل، عورتوں اور محتاجوں کا مال غارت و برباد کر کے نہ صرف امام علیہ السلام کے ذہن سے شام کو شکست دینے کا خیال نکالنا چاہ رہا تھا بلکہ عملی طور پر یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ مرکزی حکومت اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے۔

یہ سیاست جو حقیقت میں شیطانی سیاست تھی اس نے اپنا اثر دکھایا، معاویہ نے حضرت علی - حکومت کے حدود میں بہت سے سنگدلوں کو بھیج کر امام علی علیہ السلام کی حکومت کے ایک ہزار آدمیوں کو قتل کر دیا اور ان سرکش و نافرمان حملہ کرنے والوں نے بچوں اور عورتوں پر بھی رحم نہیں کیا اور جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا ان لوگوں نے عبید اللہ بن عباس کے دو بچوں کا سر لوگوں کے سامنے قلم کر دیا۔

امام علیہ السلام کی حکومت کا یہ دور تاریخ کا بہت غمگین اور درد ناک دور تھا البتہ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ امام علیہ السلام کے پاس دشمن کو نابود و برباد کرنے کے لئے کوئی سیاسی تدبیر یا دوسرا طریقہ نہ تھا بلکہ جو چیز مشکل تھی وہ صرف مٹھی بھر فضول اور بہانے باز، آرام طلب اور اس سے بھی بدتر وہ لوگ تھے ایسے سادہ لوح تھے کہ ہر کسی کی بات سن کر مان لیتے تھے، یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام اپنے بلند و عالی ترین مقصد تک نہیں پہنچ سکے، تاریخ نے ان وحشیانہ حملوں کو بہت ہی دقیق ذکر کیا ہے اور ہم یہاں پر اسین حملوں کی ایک واضح تصویر پیش کر رہے ہیں تاکہ معاویہ کا عہد و پیمانہ، اسلامی اور انسانی اصولوں کی نسبت سے واضح ہو جائے۔

#### ۱۔ ضحاک بن قیس کی لوٹ مار

معاویہ کو خبر ملی کہ امیر المومنین شام کی طرف روانہ ہونے والے ہیں تاکہ دوبارہ جنگ کا آغاز کریں، معاویہ نے اس سلسلے میں خطوط لکھے اور اپنے نمائندوں کو شام کے تمام علاقوں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو خط کے مضمون سے آگاہ کریں، شام کا ایک گروہ عراق کی طرف جانے کے لئے تیار ہو گیا۔ حبیب بن مسلمہ نے ان لوگوں سے کہا: صفین سے آگے نہ بڑھنا کیونکہ ہم نے اسی جگہ پر دشمن غلبہ حاصل کیا تھا اور کامیاب ہوئے تھے لیکن عمرو عاص نے رائے دی کہ معاویہ اپنی فوج کے ساتھ عراق کی سرزمین کے اندر تک گھس جائے کیونکہ یہ کام شام کے فوجیوں کو حوصلہ اور قوت عطا کرے گا اور اہل عراق کے لئے نذرت کا باعث ہو گا معاویہ نے اس کی بات مان لی مگر کہا: شام کے لوگ صفین سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ ابھی اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ فوج کہاں قیام کرے کہ اچانک خبر ملی کہ امام علیہ السلام اور خوارج کے درمیان بہت زبردست جنگ ہوئی ہے اور وہ اپنی فوج کے سرکشوں پر کامیاب ہو گئے ہیں اور لوگوں سے کہا ہے کہ شام کی طرف روانہ ہوں لیکن ان لوگوں نے مہلت طلب کی ہے۔ پھر عمارۃ بن عقبہ بن ابی معیط کا خط پہنچا جس میں اس نے لکھا کہ علی علیہ السلام کے دوستوں میں تفرقہ و اختلاف اور فوج کے قاریوں اور عابدوں نے ان کے خلاف فساد برپا کر رکھا ہے اور ان کے درمیان شدید جنگ اور ان کی سرکوبی کے باوجود اختلاف ابھی بھی باقی ہے۔ ایسے حالات میں معاویہ نے ضحاک بن قیس فہری کی سرداری میں تین سے چار ہزار لوگوں کو چنا اور حکم دیا کہ کوفہ جائیں اور جن قبیلوں کے لوگ امام کے مطیع و فرمان بردار ہیں انہیں غارت و برباد کر دیں اور یہ کام بہت تیزی کے ساتھ انجام دیں اس طرح سے کہ اگر کسی شہر میں بالکل صبح سویرے داخل ہوں تو اسی دن شام کو دوسرے شہر میں رہیں اور کہیں پر بھی قیام نہ کریں کہ اپنے مقابلے والوں سے جنگ کرنی پڑے بلکہ جنگ و گریز اور لوٹ مار کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھیں۔

ضحاک چلتے چلتے "تعلیہ" دیہات پہنچا جو عراقیوں کے مکہ جانے کا راستہ تھا اس نے حاجیوں کے مال و سامان کو لوٹا اور پھر اپنا سفر جاری رکھا اور پھر عمرو بن عمیس عبداللہ بن مسعود کے بھتیجے کے روبرو ہوا اور انہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو ضحاک کی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی خبر ملی تو امام علیہ السلام منبر پر گئے اور کہا: "اے لوگو!، بندہ صالح عمرو بن عمیس کی طرف جلدی جاؤ، اپنے دوستوں کی مدد کے لئے اٹھو جو دشمن کے حملے سے زخمی ہوئے ہیں، روانہ ہو جاؤ اور اپنے دشمن سے جنگ کرو اور اپنی



سرحدوں کی حفاظت کرو تاکہ دشمن اسے عبور نہ کر سکے ، ان لوگوں نے امام علیہ السلام کی تقریر کے مقابلے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی ، جب امام نے ان کی سستی اور ناتوانی کو مشاہدہ کیا تو فرمایا: "خدا کی قسم! میں حاضر ہوں کہ تم لوگوں میں سے دس آدمیوں کو معاویہ کے ایک آدمی سے بدل لوں ، لعنت ہو تم پر کہ میرے ساتھ میدان میں آؤ اور مجھے بیچ میدان میں چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ ، خدا کی قسم میں بابصیرت موت سے ناخوش نہیں ہوں اور اس میں میرے لئے بہت بڑی آسائش ہے کہ تم سے اور تمہاری سختیوں سے نجات پا جاؤں گا"۔ (۱)

امام علیہ السلام منبر سے اترے اور روانہ ہو گئے یہاں تک کہ آپ سرزمین " غریبین" پہنچے اور پھر حجر بن عدی کو چار ہزار فوج کا سردار بنایا اور ان کے لئے علم باندھا ، حجر روانہ ہوئے اور سرزمین " سماوہ" پہنچے اور مستقل ضحاک کی تلاش میں تھے یہاں تک کہ " تدمر" کے علاقہ میں اس کو پالیا۔ دونوں گروہوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور دشمن کی فوج کے ۱۹ آدمی اور علی علیہ السلام کے دو آدمی مارے گئے ، ضحاک نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور بھاگ گیا اور صبح تک اس کا کوئی پتہ نہ تھا۔ ضحاک عراق سے بھاگنے کے بعد پیاس کی شدت سے جاں بلب ہوا ، کیونکہ جس اونٹ پر اس نے پانی رکھا تھا وہ راستے میں غائب ہو گیا لیکن بالآخر اس نے اطراف میں رہنے والوں سے پانی طلب کیا اور اپنی پیاس بجھائی ۔

امام علیہ السلام نے ضحاک کی لوٹ مار اور غارتگری پر ایک خطبہ دیا جس کا خلاصہ یہاں تحریر کر رہے ہیں: "ایہا الناس، المجتمعۃ ابد انہم المختلفۃ اہوا و ہم کلا مکم یوہی الصمّ الصلاب و فعلکم یطمع فیکم الاعداء تقولون فی المجالس: کیت و کیت فاذا جائ القتال قلتم حیدی حید" ، اے وہ لوگو! جن کے جسم یکجا اور خواہشیں مختلف ہیں تمہاری باتیں سخت پتھروں کو نرم کر دیتی ہیں مگر تمہارا عمل تمہارے بارے میں دشمنوں کو لالچ دلاتا ہے اپنی مجلس میں بیٹھ کر کہتے ہو کہ یہ کرینگے وہ کرینگے اور جب جنگ کا وقت آجائے تو کہتے ہو ائے جنگ دور ہو، دور ہو ۔

"... ائی دار بعد دار کم تمنعون؟ ومع ای امام بعدی تقاتلون؟ المعزور والله من ا غرتموه و من فاز بکم فقد فاز والله بالسہم الاخیب ومن رمی بکم فقد رمی بأفوق ناصیل" ، " اپنا گھر چھن جانے کے بعد کس کے گھر کی حفاظت کرو گے؟ اور میرے بعد کس امام کے ساتھ رہ کر جہاد کرو گے؟، خدا کی قسم جسے تم اپنے فریب میں مبتلا کر لو وہ دھوکہ میں ہے اور جو تمہارے ذریعہ کامیاب ہونا چاہے اس کے حصے میں ناکام تیر آئے گا ( جس کا کوئی انعام نہ ہو) اور جس نے تمہارے ذریعہ تیر چلایا گا اس نے (گویا) شکستہ پیکان سے نشانہ لگایا!"۔

#### (۱) نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۹۷

خطبہ کے آخر میں فرماتے ہیں : " القوم رجال أمثالکم، أقولاً بغير علمٍ و غفلةً من غير ورع؟ وطمعاً فی غیر حق؟" (۱) " (دشمن) لوگ (شامی) بھی تمہارے ہی جیسے مرد ہیں ، کیا عقیدہ کے بغیر باتیں صحیح ہیں؟ تقویٰ کے بغیر غفلت صحیح ہے؟ کیا نا حق چیز میں طمع صحیح ہے؟

امام علیہ السلام کے بھائی عقیل کو ضحاک کے حملہ کی خبر ملی اور مکہ سے آپ کے پاس بمدردی کے طور پر خط لکھا اور خط کے آخر میں لکھا کہ اگر اجازت دیں تو اپنے بچوں کے ساتھ عراق آجاؤں اور اپنے بھائی کی خوشی اور غم میں شریک رہوں کیونکہ میں اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ حضرت کے بعد زندہ رہوں ، امام علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جواب لکھا جو کہ آپ کا تاریخی خط ہے اور اس میں قریش کے حالات اور ان کے ظلم و ستم کو اس انداز سے لکھا:

" الا وان العرب قد اجمعت علی حرب اخیک الیوم اجماعها علی حرب رسول اللہ قبل الیوم - فاصبحوا قد جہلوا حقہ و جحدوا فضله وبادروہ العداوۃ و نصبوا لہ الحرب و جہدوا علیہ کل الجحد و جزوا الیہ جیش الاحزاب" (۲) ، " آج عرب نے تمہارے بھائی کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے عہد کر لیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے پیغمبر سے جنگ کرنے کے لئے عہد و پیمانہ باندھا تھا۔ ان لوگوں نے تمہارے بھائی کے حق سے انکار کر دیا ہے اور اس کی فضیلت کو نظر انداز کر دیا ہے اور دشمنی کرنے میں بہت جلدی کی اور پیغمبر کے زمانے میں اس کی سخت ترین محنت و کوششوں سے چشم پوشی کر لی ہے اور بالآخر احزاب کی فوج لے کر اس کے سامنے آ گئے ہیں۔" امام - کایہ کلام اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ آپ معاویہ کے ساتھ جنگ کو پیغمبر کی ابوسفیان کے ساتھ جنگ کا سلسلہ سمجھتے ہیں۔ حقیقتاً جنگ احزاب عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے سے صفین میں دوبارہ برپا کی گئی۔

(۱) نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۲۹۔ الغارات ثقفی: ج ۲، ص ۱۶۴۔ تاریخ طبری: ج ۴، ص ۱۰۴۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید: ج ۲ ص ۱۱۱ تا ۱۲۵  
(۲) الغارات ج ۲، ص ۴۳۱

۲۔ بئر کو حجاز و یمن بھیجنا

امام علیہ السلام نے یمن کے ایک حصے کا والی عبید اللہ بن عباس کو بنایا تھا اور ایک دوسرے حصے جند (۱) کا والی سعید بن نمران کو بنایا تھا۔ یمن کے مرکزی علاقہ میں کچھ ایسے گروہ تھے جو عثمان اور عثمانیوں پیروی کرتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کی حکومت سے کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے بلکہ ہمیشہ دھوکہ، فریب اور فتنہ و فساد کی فکر مینرہتے تھے جب ان لوگوں کو خوارج کے حادثہ اور امام کی فوج میں اختلاف کی خبر ملی تو مخالفت کرنے لگے یہاں تک کہ سعید بن نمران کو جند کے علاقہ سے باہر نکال دیا، ایک گروہ جو فکر کے اعتبار سے عثمانی نہ تھا وہ بھی مالیات (ٹیکس) ادا نہ کرنے کی وجہ سے فسادوں کے ساتھ مل گیا۔

سعید بن نمران اور عبید اللہ ابن عباس نے مخالفین کے تمام حالات امام علیہ السلام کو دی۔ امام علیہ السلام نے کوفہ میں یمن کی ایک عظیم شخصیت یزید بن قیس ارحبی سے مشورہ کیا اور آخر میں یہ طے ہوا کہ فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کو خط لکھیں اور ان لوگوں کو نصیحت کریں اور پھر دوبارہ مرکزی حکومت کی اطاعت و پیروی کے لئے دعوت دیں۔

امام علیہ السلام نے خط کو یمن کے ایک آدمی کے ہمراہ جو قبیلہ ہمدان سے تھا ان لوگوں کے پاس بھیجا، امام علیہ السلام کے قاصد نے آپ کا خط ایک بہت بڑے اجتماع میں لوگوں کو سنایا، خط کامضمون بہت تربیتی اور مؤثر تھا، لیکن مخالفین نے اطاعت و پیروی کو اس شرط پر قبول کرنے کا وعدہ کیا کہ امام عبید اللہ اور سعید کو بر طرف کر دیں۔

ادھر فساد کرنے والوں نے فرصت کو غنیمت جانا اور معاویہ کو چند اشعار پر مشتمل ایک خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ اپنا نمائندہ صنعاء اور جند روانہ کرے تاکہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اگر اس کام میں تاخیر کی تو ہم لوگ علی علیہ السلام اور ان کے مشاور یزید ارحبی کی بیعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

جب فتنہ و فساد کرنے والوں کا خط معاویہ کو ملا تو اس نے طے کیا کہ یمن اور حجاز میں قتل و غارت گری،

(۱) یمن اس وقت تین حصوں میں تھا ایک حصہ حجاز پڑوس "حضر موت" اور مرکزی حصہ "صنعاء" اور سب سے دور کا علاقہ "جند" کے نام سے مشہور تھا۔ مراد الاطلاع، مادہ جند۔

بدامنی اور فساد کامزید ماحول پیدا کرے، اسی وجہ سے اپنی فوج کے سب سے سنگدل سردار بئرین ارطاة کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ تین ہزار کا لشکر لے کر حجاز اور مدینہ جاؤ اور راستے میں جہاں بھی پہنچنا وہ اگر علی کے ماننے والے ہوں تو انہیں خوب گالی گلوچ دینا، سب کو میری بیعت کے لئے دعوت دینا، بیعت کرنے والوں کو آزاد چھوڑ دینا اور جو لوگ بیعت نہ کریں انہیں قتل کر دینا اور جہاں بھی علی کے چاہنے والے ملیں انہیں قتل کر دینا۔

معاویہ نے یہ خاص طریقہ استعمال کیا جب کہ وہ خود شام میں تھا اور علی علیہ السلام سے روبرو ہو کر جنگ نہیں کی لیکن اسی مقابلے کی جنگ کا نتیجہ حاصل کیا اور ولید بن عقبہ جیسے لوگ کہ جنہوں نے معاویہ کو امام علیہ السلام سے روبرو ہو کر جنگ کرنے کے لئے کہا تھا اسے بیوقوف اور احمق کہا اور وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ سیاسی تجربہ میں ماہر نہیں ہیں۔

ابن ابی الحدید نے اس سلسلے میں بہت عمدہ تبصرہ کیا ہے، وہ لکھتا ہے: ولید امام علیہ السلام پر بہت غضبناک تھا کیونکہ جنگ بدر میں اس کے باپ کو مولائے کائنات نے قتل کیا تھا اور عثمان کی حکومت کے زمانے میں خود وہ امام کا تازیانہ کہا چکا تھا چونکہ اس نے بہت دنوں تک کوفہ پر حکومت کی تھی، اور آمنے سامنے ہو کر اس وقت اپنی میراث کو حضرت علی کے ہاتھوں میں دیکھ رہا تھا لہذا علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے علاوہ کسی اور فکر میں نہ تھا۔ لیکن معاویہ ولید کے برخلاف دوراندیش تھا کیونکہ اس نے صفین میں امام علیہ السلام سے جنگ کر کے تجربہ کر لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ اگر اس جنگ میں قرآن کو نیزے پر بلند کرنے کا فریب نہ کیا ہوتا تو علی علیہ السلام کے ہاتھوں اپنی جان نہیں بچا سکتا تھا اور اگر دوبارہ ان سے جنگ کرتا تو ممکن تھا جنگ کے شعلوں میں جل کر راکھ ہو جائے، اسی وجہ سے اس نے مصلحت سمجھی کہ بدامنی، خوف و وحشت اور فساد برپا کر کے حضرت علی کی حکومت کو کمزور کرے اور امام علیہ السلام کو مجبور اور ناتواں اسلامی ملک کی رببری کے لئے ثابت کرے (۱)۔

## بُسر کا سفر

بُسر تین ہزار لوگوں کے ساتھ شام سے روانہ ہوا اور جب دیر مردو کے پاس پہنچا تو اس میں سے چار سو لوگ بیماری کی وجہ سے مر گئے اور وہ ۲۶۰۰ آدمیوں کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جس آبادی سے بھی گزرتا لوگوں کے اونٹ کو زبردستی ان سے چھین لیتا ، اور خود اور اس کے فوجی اس پر سوار ہوتے تاکہ دوسری آبادی میں پہنچ جائیں پھر وہاں ان اونٹوں کو چھوڑ دیتے تھے اور اس دوسری آبادی کے اونٹوں کو لے لیتے تھے ۔ اسی طرح سے اپنا طولانی سفر طے کیا یہاں تک کہ مدینہ پہنچا بوسر نے مدینہ میں قدم رکھتے ہی وہاں کے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور عثمان کے قتل کا واقعہ چھیڑ دیا اور کہا: تم سب عثمان کے قتل میں شریک ہو یا ان کی طرف سے بے توجہی اختیار کر کے انہیں ذلیل و خوار کئے ہو۔ خدا کی قسم ایسا کام کروں گا کہ عثمان کا پورا خاندان قلبی سکون محسوس کرے گا۔

پھر دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور لوگوں نے اس کے خوف کی وجہ سے حویطب بن عبد العزیٰ کے گھر میں پناہ لی جو کہ اس کی ماں کے شوہر (سوتیلے باپ) کا گھر تھا اور اس کے سمجھانے کی وجہ سے بُسر کا غصہ ٹھنڈا ہوا ۔ اس وقت سب کو معاویہ کی بیعت کی دعوت دی کچھ لوگوں نے اس کی بیعت کی لیکن اس نے صرف اس گروہ کی بیعت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مدینہ کے اہم افراد کو جو فکری اعتبار سے معاویہ کے مخالف تھے یا عراق میں علی علیہ السلام کے بہت زیادہ نزدیک تھے ان کے گھروں میں آگ لگادی زرارہ بن حرون، رفاعہ بن رافع اور ابو ایوب انصاری کا گھر جل کر راکھ ہو گیا ۔ پھر بنی مسلمہ کے سرداروں کو بلایا اور ان سے پوچھا : جابر بن عبد اللہ کہاں ہے ؟ یا اسے حاضر کرو یا قتل ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ ، اس وقت جابر نے پیغمبر اسلام (ص) کی بیوی ام سلمہ کے گھر میں پناہ لی تھی اور جب ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر بیعت نہیں کروں گا تو قتل ہو جاؤں گا اور اگر بیعت کروں تو ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا لیکن " الغارات " کے نقل کرنے کے مطابق جابر نے ام سلمہ کے مشورہ کے مطابق بیعت کر لی ۔

جب بُسر اپنی خراب کاریوں کو مدینہ میں انجام دے چکا تو پھر مکہ کی طرف روانہ ہوا تعجب یہ ہے کہ ابوہریرہ کو مدینہ میں اپنا جانشین بنایا ، اس نے مدینہ سے مکہ جانے میں بہت سے گروہوں کو قتل کیا ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور جب مکہ کے قریب پہنچا تو امام علیہ السلام کے سردار قثم بن عباس مکہ سے باہر چلے گئے ، بُسر نے مکہ میں قدم رکھتے ہی اپنے پروگرام کو جاری رکھا اور لوگوں کو گالی اور فحش دینے لگا اور سب سے معاویہ کی بیعت لی اور ان لوگوں کو معاویہ کی مخالفت کرنے سے ڈرایا اور کہا: اگر معاویہ سے تم لوگوں کی مخالفت کی خبر مجھ تک پہنچی تو تمہاری نسلوں کو ختم کر دوں گا اور تمہارے مال کو برباد کر دوں گا اور تمہارے گھروں کو ویران کر دوں گا۔

بُسر کچھ دن مکہ میں رہنے کے بعد طائف چلا گیا اور اپنی طرف سے ایک شخص کو "تبالہ" روانہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہاں حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ رہتے ہیں اور حکم دیا کہ بغیر کسی بات اور سوال و جواب کے سب کو قتل کر دینا۔

بُسر کا نمائندہ "تبالہ" پہنچا اور اس نے سب کو باندھ دیا ، منیع نے اس سے درخواست کی کہ بُسر سے اس کے لئے امان نامہ لے آئے ، اس نے منیع کی درخواست قبول کر لی، قاصد طائف روانہ ہوا اور بُسر سے ملاقات کی اور اس سے امان نامہ مانگا لیکن بُسر نے امان نامہ دینے میں اس قدر وقت لگایا کہ جب تک امان نامہ سرزمین تبالہ پہنچے سب کے سب قتل ہو جائیں۔ بالآخر منیع امان نامہ لے کر اپنی سرزمین پر اس وقت پہنچا جب کہ تمام لوگوں کو قتل کرنے کے لئے شہر کے باہر لاچکے تھے ۔ ایک شخص کو وہاں آگے بڑھانے ہوئے تھے کہ اس کو قتل کریں لیکن جلاذ کی تلوار ٹوٹ گئی ، سپاہیوں نے ایک دوسرے سے کہا : اپنی تلواروں کو نیام سے نکالو تاکہ سورج کی گرمی سے نرم ہو جائے اور اسے ہوا میں لہراؤ ، قاصد نے دور سے تلواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا اور اپنے لباس کو ہلا کر اشارہ کیا کہ اپنا ہاتھ روک لیں شامیوں نے کہا: یہ شخص اپنے ساتھ خوشخبری لے کر آ رہا ہے لہذا اپنا ہاتھ روک لو، قاصد پہنچ گیا اور امان نامہ کو سردار کے حوالے کیا اور اس طرح سے سب کی جان بچائی سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ جس شخص کو قتل کے لئے

حاضر کیا تھا اور تلوار ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے قتل میں تاخیر ہوئی وہ شخص اس کا بھائی تھا۔  
 بُسر نے اپنا کام انجام دینے کے بعد طائف کو چھوڑ دیا اور عرب کے مشہور سیاست باز مغیرہ بن شعبہ نے اُسے کچھ دور  
 آکر رخصت کیا ، وہ یمن جاتے ہوئے راستے میں سرزمین " بنی کنانہ " پہنچا ۔ اسے خیر ملی کہ "صنعاء میں امام علیہ  
 السلام کے والی عبیداللہ بن عباس نے اپنے دو چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ وہاں چھوڑ دیا ہے ، عبیداللہ نے اپنے  
 بچوں کو بنی کنانہ کے ایک شخص کے سپرد کیا تھا وہ شخص ننگی تلوار لے کر شامیوں کے پاس آیا ، بُسر نے اس سے  
 کہا: تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے ، میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ میں عبیداللہ کے بچوں کو مانگ رہا  
 ہوں ، اس نے بُسر کو جواب دیا: میں ان لوگوں کی راہ میں جو میری حمایت میں قتل ہونے کے لئے تیار ہوں ، یہ جملہ  
 کہنے کے بعد شامیوں پر حملہ کیا اور بالآخر قتل ہو گیا، عبیداللہ کے چھوٹے بچوں کو قتل کرنے کے لئے لائے اور بہت ہی  
 قساوت قلبی سے دونوں کو قتل کر دیا ۔ بنی کنانہ کی ایک عورت نے فریاد بلند کی ، تم لوگ مردوں کو قتل کر رہے ہو ،  
 بچوں نے کیا غلطی کی ہے؟ خدا کی قسم چھوٹے بچوں کو نہ جاہلیت اور نہ ہی اسلام کے زمانے میں قتل کیا گیا ، خدا کی  
 قسم وہ حکومت جو اپنی طاقت و قدرت بوڑھوں اور بچوں کو قتل کر کے ثابت کرتی ہے اور ناکارہ حکومت ہے ، بُسر نے  
 کہا: خدا کی قسم ہمارا ارادہ تھا کہ عورتوں کو بھی قتل کریں۔ اس عورت نے کہا: میں خدا سے دعا کرتی ہوں تو اس کام کو  
 ضرور انجام دے۔

بُسر سرزمین کنانہ سے اور اپنے سفر کے درمیان نجران میں عبیداللہ بن عباس کے داماد عبداللہ بن عبد المدان کو قتل کر دیا  
 اور کہا: اے نجران کے لوگو اے عیسائیو! ، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ایسا کام کیا جس سے میں خوش نہ ہو تو میں  
 واپس آجاؤں گا اور ایسا کام کروں گا کہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری کھیتیاں برباد اور تمہارے گھر ویران ہو  
 جائیں گے۔

پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اور راستے میں ابوکرب جو امام علیہ السلام کے شیعوں اور ہمدان کے بزرگوں میں سے تھے  
 ان کو قتل کر دیا اور بالآخر سرزمین صنعاء پہنچا۔ امام علیہ السلام کے والی عبیداللہ بن عباس اور سعید بن نمران نے شہر  
 کو چھوڑ دیا اور عمر و ثقیی کو اپنا جانشین بنادیا تھا۔ عبیداللہ کے جانشین نے کچھ دیر تک مقابلہ کیا لیکن آخر کار قتل ہو گیا  
 خونریز بُسر شہر میں داخل ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا یہاں تک کہ وہ گروہ جو "مأرب" سے وہاں آیا تھا صر  
 ف ایک آدمی کے علاوہ سب کو قتل کر دیا۔ وہ نجات یافتہ شخص مأرب واپس چلا گیا اور کہا: میں ضعیفوں اور جوانوں کو  
 باخبر کر رہا ہوں کہ تمہارا تعاقب کر رہی ہے۔

بُسر ، صنعاء سے "جیشان" نامی علاقے کی طرف گیا۔ اس علاقے کے سبھی لوگ امام علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ بُسر اور  
 ان کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور بالآخر بہت زیادہ تلفات کے بعد مغلوب اور اسیر ہو گئے اور بہت ہی درد ناک طریقے  
 سے شہید ہوئے ۔ وہ دوبارہ صنعاء واپس گیا اور سو آدمیوں کو پھر اس جرم میں قتل کیا کہ ان میں سے ایک عورت نے  
 عبیداللہ بن عباس کے بچوں کو پناہ دی تھی ۔

یہ بُسر بن ارطاة کے ظلم و ستم کا بدترین سیاہ ورق تھا جسے تاریخ نے ضبط کیا ہے ۔  
 جب بُسر کے ظلم و ستم کی خیر حضرت علی علیہ السلام کو ملی تو آپ نے اپنے عظیم سردار جاریہ بن قدامہ کو دو ہزار کا  
 لشکر دے کر بُسر کے ظلم و ستم سے مقابلہ کرنے کے لئے حجاز روانہ کیا، وہ بصرہ کی طرف سے حجاز گئے اور یمن  
 پہنچے اور بُسر کا پیچھا کر رہے تھے یہاں تک کہ خیر ملی کہ وہ سرزمین " بنی تمیم" پر ہے۔ جب بُسر جاریہ کی آمد سے  
 باخبر ہوا تو وہ تمامہ کی طرف چلا گیا۔ جب لوگوں کو جاریہ کی آمد کی خبر ہوئی تو بُسر کے راستے میں مشکلات کھڑی  
 کر دیں۔ لیکن وہ کسی طرح سے اپنی جان بچا کر شام پہنچ گیا اور اپنے سفر کی مکمل روداد معاویہ سے بیان کی ۔ " اس  
 نے کہا: کہ میں نے سفر کی آمد و رفت میں تمہارے دشمنوں کو قتل کیا ہے ، معاویہ نے کہا: تونے یہ کام نہیں کیا ہے بلکہ  
 خدانے کیا ہے !۔

تاریخ نے لکھا ہے کہ بُسر نے اس سفر میں ۳۰ ہزار لوگوں کو قتل کیا اور کچھ لوگوں کو آگ میں جلا دیا ۔ امیر المومنین  
 علیہ السلام ہمیشہ اس پر لعنت، ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے: خدایا! اُسے موت نہ دینا جب تک اس کی عقل اس سے  
 چھین نہ لینا ، خدایا! بُسر ، عمروعاص اور معاویہ پر لعنت کر، اور اپنے غیض و غضب کو ان پر نازل کر۔ امام علیہ السلام  
 کی بددعا قبول ہوئی اور زیادہ دن نہ گذرا تھا کہ بُسر دیوانہ ہو گیا اور ہمیشہ کہتا تھا: مجھے ایک تلوار دیدو تاکہ میں لوگوں  
 کو قتل کروں ، اس کے محافظین کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو لکڑی کی ایک تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی اور وہ مسلسل  
 اس تلوار سے در و دیوار پر مارتا تھا یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا۔

بُسر کا کام مسلم بن عقبہ کی طرح تھا جو اس نے یزید کے حکم سے مدینہ میں حرّہ نامی جگہ پر انجام دیا تھا ، حقیقت میں  
 یہ باپ بیٹے ( معاویہ اور یزید) نہ صرف مزاج و ذہنیت کے اعتبار سے ایک تھے بلکہ ان عاملین بھی قساوت قلبی ،

سنگدلی میں انہیں جیسے تھے اور ابن ابی الحدید کی تعبیر کے مطابق " وَمَنْ أَشَبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ " (۱)۔ اس حصہ کے آخر میں امام علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ نے بُسر کے بارے میں دیا، بیان کر رہے ہیں " بس کوفہ ہی میرے تصرف میں رہ گیا ہے اسی کے قبض و بسط کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے اور اے کوفہ !

(۱) الغارات: ج ۲ ص ۲۲۸ تا ۵۹۱، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید: ج ۲، ص ۱۸۰۳، تاریخ طبری ج ۳، ص ۱۰۸، ۱۰۶، تاریخ یعقوبی ج ۱، ص ۱۸۶، ۱۸۹، کامل ابن اثیر: ج ۳، ص ۳۸۳، ۳۸۵

اگر تو ایسا اور تجھ میں بھی مخالفت کی آندھیاں چلتی رہیں تو خدا تیرا برا کرے گا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ بُسر یمن پہنچ گیا ہے اور مجھے خدا کی قسم یہ اندیشہ ہے کہ لوگ تم پر قابض ہوجائیں گے اور تم پر حکم چلائیں گے اس لئے کہ لوگ باطل پر ہوتے ہوئے بھی متحد ہیں اور تم اپنے حق پر منظم نہیں ہو (بلکہ) تم حق باتوں میں اپنے امام کی مخالفت و نافرمانی کرتے ہو اور وہ باطل میں اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں وہ اپنے ساتھی (معاویہ) کے ساتھ امانت داری کا حق ادا کرتے ہیں اور تم اپنے امام کی امانت میں خیانت کرتے ہو وہ اپنے شہروں میں امن وامان رکھتے ہیں اور تم شورش و فساد کرتے رہتے ہو، اگر میں تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالہ کا امین بنادوں تو تڑتا ہوں کہ اسے دستہ سمیت لے کر بھاگ جائے گا، اے اللہ! کوفہ کے لوگوں سے میرا دل تنگ ہو گیا ہے اور ان کا بھی دل مجھ سے تنگ ہو گیا ہوں۔ میں ان سے اکتانگیا ہوں، اور یہ مجھ سے اکتا چکے ہیں۔ تو اب ان کے بدلے میں ان سے بہتر لوگ مجھے عطا کر دے اور میرے بدلے میں کوئی برا حاکم انہیں دیدے۔ خدایا! ان کے دلوں کو (اپنے غضب سے) اس طرح پگھلا دے جیسے پانی میں نمک گھولا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے تمہارے عوض بنی فراس بنی غنم کے ایک ہزار سوار مل جائیں " (۱)۔

(۱) نہج البلاغہ: خطبہ ۲۵۔

۳۔ سفیان بن عوف کی لوٹ مار

سفیان بن عوف غامدی کو معاویہ کی طرف سے حکم ملا کہ ایک لشکر کے ساتھ فرات کی طرف جائے تاکہ " بیت " نامی شہر جائے جو " انبار " شہر کے پاس ہے اور پھر وہاں سے انبار جائے۔ اگر راستے میں کوئی مقابلہ کرے تو اس پر حملہ کرے اور انہیں غارت کر دے اور اگر راستے میں کسی نے مزاحمت نہ کی تو لوٹ مار کرتا ہوا شہر انبار تک جاتے اور اگر وہاں پر بھی کوئی لشکر وغیرہ نہ ہو تو مدائن تک جاتے اور پھر وہاں سے شام واپس آجاتے اور ہر گز ایک لمحہ کے لئے بھی کوفہ کے قریب نہ جاتے، پھر معاویہ نے اس سے کہا: اگر تم نے انبار اور مدائن کو برباد کر دیا تو گویا تم نے کوفہ کو برباد کر دیا ہے اور تمہارا یہ عمل عراق کے لوگوں کو مرعوب کر دے گا اور ہمارے چاہنے والوں کو خوش کر دے گا اور جو لوگ ہماری مدد کرنے سے خوف زدہ ہیں وہ ہماری طرف آجائیں گے۔ سفر کے راستہ میں اگر تمہارا کوئی موافق نہ ہو تو اسے قتل کر دینا اور دیہاتوں کو ویران کر دینا اور ان کے مال و اسباب کو مال غنیمت سمجھنا کیونکہ ان لوگوں سے مال غنیمت لینا ان لوگوں کو قتل کرنے کی طرح ہے اور یہ کام دلوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔

سفیان کہتا ہے: میں شام کی چھاؤنی میں گیا، معاویہ نے تقریر کی اور لوگوں کو میرے ساتھ جانے کے لئے دعوت دی کچھ ہی دیر میں چھ ہزار لوگ ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گئے میں فرات کی طرف روانہ ہو گیا اور بیت نامی جگہ پر پہنچا وہاں کے لوگ میری آمد سے باخبر ہو گئے اور فرات کو عبور کر گئے اور میں نے بھی فرات کو عبور کیا لیکن کسی سے ملاقات نہ ہوئی پھر میں " صندوق " پہنچا وہاں کے لوگ بھی مجھے دیکھ کر بھاگ گئے تو میں نے ارادہ کیا کہ انبار کی طرف جاؤں وہاں کے دو آدمیوں کو میں نے قید کر لیا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ علی کے لشکر میں کتنے فوجی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: وہ لوگ پانچ سو آدمی تھے لیکن ان میں سے کچھ لوگ کوفہ گئے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے لوگ باقی بچے ہیں شاید تقریباً دوسو لوگ باقی بچے ہوں۔ میں نے اپنے فوجیوں کو گروہ گروہ کیا اور انہیں تھوڑی

تھوڑی دیر بعد انبار بھیجا تاکہ شہر میں ایک ایک آدمیوں سے جنگ کریں لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ کام زیادہ مؤثر نہیں ہے تو دوسو فوجیوں کو پیادہ روانہ کیا اور ان لوگوںسوار فوجیوں سے مدد کی۔ اس طرح امام کی فوج کے تمام افراد منتشر ہو گئے اور اس کا سردار ۳۰ لوگوں کے ساتھ قتل ہو گیا پھر میں نے جو کچھ انبار میں تھا اسے برباد کر دیا اور شام واپس آ گیا۔ جب معاویہ کے پاس پہنچا تو پورا ماجرا بیان کیا، اس نے کہا: میں نے تمہارے بارے میں یہی گمان کیا تھا۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ عراق کے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور گروہ گروہ شام کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ (۱)

علی علیہ السلام کو خبر ملی کہ سفیان انبار میں داخل ہو گیا ہے اور آپ کے والی حسان بن حسان کو قتل کر دیا ہے حضرت غصے کے عالم میں گھر سے باہر آئے اور نخیلہ چھاؤنی گئے اور لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئے، امام علیہ السلام ایک بلند جگہ پر گئے خدا کی حمد و ثنا کی اور پیغمبر پر درود بھیجا پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا:

" اے لوگو! جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے خدا نے اپنے خاص دوستوں کے لئے کھولا ہے اور یہ پرہیز گاری کا لباس اللہ کی مستحکم زرہ اور دشمنوں سے بچنے کے لئے مضبوط سپر ہے اور جو شخص متفق ہو کر اسے چھوڑ دیتا ہے خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا دیتا ہے اور امتحان کی ردا اڑھا دیتا ہے اور بدنامیوں اور رسوائیوں کے ساتھ اسے ٹھکرادیا جاتا ہے اور اس کے دل پر بے عقلی کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور جہاد کے شرف و فضیلت کو ضائع کرنے کی وجہ سے اس کا حق اس سے پھیر لیا جاتا ہے اسے ذلت میں کر دیا جاتا ہے اور انصاف سے محروم کر دیا جاتا ہے... دیکھو! ابنی غامد کے آدمی (سفیان بن عوف) کی فوج انبار میں داخل ہو گئی ہے اور حسان بن حسان بکری کو قتل کر دیا ہے اور تمہارے فوجیوں چھاؤنی سے نکال دیا ہے۔

مجھے خبر ملی ہے کہ اس فوج کا کوئی شخص مسلمان اور ذمی عورت کے گھر گھس گیا اور اس کی پازیب، کنگن، گلے کا ہار اور گوشوارے اتار لئے اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ انا اللہ پڑھیں اور رحم و کرم کی درخواست کریں، پھر یہ لوگ لوٹ کا مال لے کر شام چلے گئے ان میں سے نہ تو کئی زخمی ہوا اور نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر اس کے بعد کوئی مسلمان اس غم میں مر جائے تو اس کی ملامت نہیں کی جاسکتی ہے بلکہ میرے نزدیک وہ اس کا حقدار ہے پس کس قدر حیرت ہے کہ خدا کی قسم ان لوگوں کا اپنے باطل پر اتفاق کر لینا اور تمہارا حق سے منتشر ہو جانا، یہ (تمہارا کرتوت) دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و غم کو بڑھا دیتا ہے، تمہارا برا ہو، اور حزن و غم میں مبتلا رہو... جب میں گرمی کے موسم میں ان کی طرف بڑھنے کے لئے حکم دیتا ہوں تو تم کہتے ہو بہت سخت گرمی ہے اتنی مہلت دیجئے کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے اور جب میں سردی کے موسم میں ان کی طرف بڑھنے کے لئے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو ابھی شدید ٹھنڈک پڑ رہی ہے اتنی مہلت دیجئے کہ سردی ختم ہو جائے یہ سب سردی اور گرمی (جنگ سے) بھاگنے کے بہانے ہیں جب تم سردی اور گرمی سے بھاگتے ہو تو تلوار کو دیکھ کر پہلے ہی بھاگ کھڑے ہو گے، اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردو، تمہاری فکریں بچوں جیسی اور عقلیں پردہ نشین دلہن کی طرح ہیں، کاش میں نے نہ تمہیں دیکھا ہوتا اور نہ پہچانتا ہوتا" (۲)

عراق کے لوگوں کے دل میں خوف و وحشت پیدا کرنے کے لئے معاویہ نے صرف ان تینوں کو ہی نہیں بھیجا تھا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایسی کارستانیوں کے لئے بھیجا تھا، مثلاً نعمان بن بشیر انصاری کو حکم دیا

(۱) الغارات: ج ۲ ص ۶۴ سے ۷۴ تک۔ تاریخ طبری: ج ۴، ص ۱۰۳

(۲) نہج البلاغہ ج ۲ ص ۲۷

کہ " عین التمر" پر، جو شہر فرات کے غرب میں واقع ہے حملہ کرے اور اسے برباد کر دے۔ (۱) اور یزید بن شجرہ رباوی کو حکم دیا کہ مکہ جائے اور وہاں کے لوگوں کے مال و اسباب کو برباد کر دے۔ (۲) بالآخر یہ سازشیں اپنے نتیجے پر پہنچ گئیں اور عراقیوں کے دل میں زبردست خوف و ہراس بیٹھ گیا۔ البتہ یہ تمام غم انگیز واقعات جنگ نہروان کے بعد رونما ہوئے کہ ایک طرف سے داخلی مشکلات نے اور دوسری طرف سے خارجی مشکلات نے عراق کے لوگوں کو خصوصاً امام کے چاہنے والوں کو سخت مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اے کاش یہ ناگوار حادثے یہیں ختم ہو جاتے لیکن دوسرے حادثوں نے بھی علی علیہ السلام کو سخت رنجیدہ کر دیا اور آپ کے دل کو ملول کر دیا۔ اب انہیں واقعات کو تحریر کر رہے ہیں۔

(۱) الغارات ج ۲، ص ۴۵

(۲) الغارات ج ۲، ص ۵۰۴

## فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

### دوسری فصل

مصر کی فتح اور محمد بن ابی بکر کی شہادت

عثمان کے قتل کے بعد شام کے علاوہ تمام اسلامی علاقے حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں شامل تھے، امام علیہ السلام نے ۳۶ ہجری اپنی حکومت کے پہلے سال قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر کا حاکم مقرر کیا اور مصر روانہ کیا، (۱) لیکن کچھ دنوں بعد امام علیہ السلام نے کسی وجہ سے انہیں اس منصب سے معزول کر کے اسی سال جنگ جمل کے بعد محمد ابن ابی بکر کو مصر کا حاکم معین کیا، اس سلسلے میں تاریخ نے امام علیہ السلام کے دو خط کا تذکرہ کیا ہے ایک خط حکومتی اعلان کے طور پر لکھا اور اُسے محمد بن ابی بکر کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا جب آپ مصر میں مستقر ہو گئے تب روانہ کیا۔ دونوں خط کو مولف "تحف العقول" نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے (۲) اسی طرح ابو اسحاق نے اپنی کتاب "الغارات" میں ان دونوں خطوط کو نقل کیا ہے اور تحریر کیا ہے کہ پہلا خط یکم رمضان المبارک ۳۶ ہجری کو لکھا گیا ہے۔ دوسرا خط کتاب کے آخر میں تفصیل سے نقل ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کئے ہیں۔ ہم آئندہ دوسرے خط کے متعلق تفصیل سے بحث کریں گے اور یہ بھی بیان کریں گے کہ آخر کس طرح سے یہ خط معاویہ کے ہاتھ میں پہنچا اور پھر اس کے خاندان میں ہر شخص تک دست بہ دست یکے بعد دیگرے پھرتا رہا۔ امام علیہ السلام کے پہلے خط کا ترجمہ یہ ہے:

"خداوند عالم کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے، یہ فرمان خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے محمد بن ابی بکر کے نام جب کہ انہیں مصر کی حکومت کی ذمہ داری سونپی، میرا حکم ہے کہ تقوائے الہی اختیار کرو، اس کی اطاعت خلوت و جلوت میں کرتے رہو، ظاہر و باطن میں اس سے ڈرو، مسلمانوں سے نرم مہربان اور بدکاروں سے سختی اور غصے سے پیش آؤ، اہل ذمہ کے ساتھ عدالت و مظلوموں کا حق دلو اور ظالموں پر سختی کرو اور لوگوں کے ساتھ جتنا ممکن ہو عفو و درگزر اور اچھائی سے پیش آؤ کیونکہ خدا نیک لوگوں کو

(۱) تاریخ طبری ج ۳، ص ۴۶۲۔  
(۲) تحف العقول ص ۱۷۷، ۱۷۶۔

دوست رکھتا ہے اور برے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔

میں حکم دیتا ہو کہ محمد بن ابی بکر لوگوں کو مرکزی حکومت کی اطاعت و پیروی اور مسلمانوں اتحاد کی دعوت دیں کیونکہ اس کام میں ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ اجر و ثواب اور عافیت ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اور نہ اسکی حقیقت و اصل کو پہچانا جاسکتا ہے۔

میں حکم دیتا ہوں کہ جس طرح سے زمین کا خراج (ٹیکس) پہلے لوگوں سے لیا جاتا تھا اسی طرح وصول کریں۔ نہ اس میں کچھ کم کریں نہ اس میں کچھ زیادہ کریں اور پھر اسے مستحقین کے درمیان جیسے پہلے تقسیم ہوتا تھا تقسیم کریں۔ میں حاکم کو حکم دیتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ اور ان کے جلسوں میں سب کو ایک نظر سے دیکھو اور اپنوں اور پیروں میں حق کے لحاظ سے کوئی فرق نہ کرو۔

میں اسے حکم دیتا ہوں کہ لوگوں کے امور میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور عدالت کو قائم کرو، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو اور خدا کی راہ میں ملامتگروں کی ملامت سے نہ ڈرو کیونکہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور تمام لوگوں کی اطاعت پر اس کی اطاعت کو مقدم کریں، والسلام۔

یہ خط عبید اللہ بن ابی رافع کے ہاتھوں، جسے رسول خدا (ص) نے آزاد کیا تھا، ۱ رمضان المبارک ۳۶ ہجری کو لکھا گیا۔ (۱)

اس خط کی تاریخ جو قیس بن عبادہ کی معزولی سے قریب ہے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ قیس کی حکومت بہت کم دنوں



تک تھی کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام ۳۵ ہجری کے آخر میں خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے منتخب ہوئے اور یہ خط آپ کی حکومت کے آٹھ مہینے گزر جانے کے بعد لکھا گیا، جب یہ خط محمد بن ابی بکر کے ہاتھ میں پہنچا تو وہ مصر کے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور تقریر کی اور امام علیہ السلام کا خط پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ محمد بن ابی بکر نے مصر سے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں حرام و حلال اور اسلامی سنتوں کے بارے میں سوال کیا اور حضرت سے رہنمائی کی درخواست کی۔ انہوں نے اپنے خط میں امام علیہ السلام کو لکھا :

#### (۱) الغارات ج ۱، ص ۲۲۴۔

"محمد بن ابی بکر کی طرف سے خدا کے بندے امیر المومنین علیہ السلام کے نام، آپ پر درود و سلام ہو، وہ خدا کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس کا شکر گزار ہوں۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام مصلحت سمجھیں تو مجھے ایک ایسا خط لکھیں جس میں واجبات کا تذکرہ کریں اور اسلام کے قضاوتی احکام کو لکھیں کیونکہ کچھ جیسے مینلوگ اس مسئلے میں مبتلا ہیں، خدا وند عالم امیر المومنین علیہ السلام کے اجر میں اضافہ کرے۔ امام علیہ السلام نے ان کے خط کے جواب میں قضاوت کے احکام، احکام وضو، نماز کے (۱) اوقات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، روزہ، اعتکاف کے مسائل کے متعلق بہت سے مطالب کو تحریر کیا اور پھر نصیحت کے طور پر موت، حساب اور جنت و جہنم کی خصوصیات کے متعلق مسائل تحریر کئے۔ مولف کتاب "الغارات" نے امام علیہ السلام کے خط کی مکمل عبارت کو اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے (۲)۔ ابواسحاق ثقفی لکھتے ہیں:

جب امام کا خط محمد بن ابی بکر کے پاس پہنچا تو ہمیشہ اس کو دیکھتے تھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے جس وقت عمر و عاص کے حملے میں محمد قتل ہو گئے تو وہ تمام خطوط عمر و عاص کے ہاتھ میں پہ لگ گئے، اس نے سب کو جمع کیا اور معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ تمام خطوط کے درمیان اس خط نے معاویہ کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کیا اور وہ اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے لگا، ولید بن عقبہ نے جب دیکھا کہ معاویہ بہت متعجب ہے تو اس نے کہا: حکم دو کہ اس خط کو جلا دیا جائے، معاویہ نے کہا: خاموش رہ، اس کے بارے میں اپنا نظریہ پیش نہ کر، ولید نے معاویہ کے جواب میں کہا، تو بھی اپنا نظریہ پیش کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیا یہ صحیح ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ابوتراب کی حدیثیں تیرے پاس ہیں اور تو ان سے درس حاصل کرتا ہے اور انہیں پڑھ کر فیصلہ کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں علی سے جنگ کر رہے ہو؟ معاویہ نے کہا: لعنت ہو تجھ، پر مجھے حکم دے رہا کہ ایسے علم کے خزانے کو جلا دوں؟ خدا کی قسم اس سے زیادہ جامع، محکم، واضح اور حقیقت پر مبنی علم میں نے آج تک نہیں سنا ہے۔ ولید نے اپنی بات دہرائی اور کہا: اگر علی کے علم اور قضاوت سے تجھے تعجب ہے تو کیوں اس سے جنگ کر رہے ہو؟ معاویہ نے کہا: اگر ابوتراب نے عثمان کو قتل نہ کیا ہوتا اور مسند

#### (۱)، (۲) الغارات ج ۱، ص ۲۲۴ تا ۲۵۰

علم پر بیٹھتے تو میں ان سے علم حاصل کرتا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا اور اپنے ساتھیوں پر نگاہ کی اور کہا: ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خطوط علی کے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خطوط ابو بکر صدیق کے ہیں جو محمد کو وراثت میں ملے ہیں اور ہم اسی کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے۔ اور فتویٰ دیں گے جی ہاں، امام علیہ السلام کے خطوط ہمیشہ بنو امیہ کے خزانوں میں تھے یہاں تک کہ حکومت عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ میں آئی اور اس نے اعلان کیا کہ یہ خطوط علی ابن ابیطالب علیہ السلام کی حدیثیں ہیں۔

جب علی علیہ السلام کو مصر کی فتح اور محمد کے قتل ہو جانے کے بعد خبر ملی کہ یہ خط معاویہ تک پہنچ گیا ہے تو بہت زیادہ افسوس کیا۔ عبد اللہ بن سلمہ کہتا ہے: امام علیہ السلام نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے آپ کے چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھے۔ آپ ایسا شعر پڑھ رہے تھے جس میں گزشتہ باتوں پر افسوس تھا ہم نے امام سے پوچھا: اس سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ امام نے فرمایا: میں نے محمد بن ابی بکر کو مصر کے لئے حاکم بنایا، اس نے مجھے خط لکھا کہ میں پیغمبر کی سنت سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا لہذا میں نے اسے ایک ایسا خط لکھا جس



میں رسولِ خدا کی سنت کی تشریح و وضاحت کی، مگر وہ شہید ہو گیا اور خط دشمن کے ہاتھ لگ گیا۔

امام - کا والی اور بے طرف لوگ

مصر کے معزول محمد بن قیس کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ان کی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے کو بے طرف تعارف کرایا (یعنی کسی بھی گروہ کے ساتھ نہیں ہیں) جب محمد بن ابی بکر کی حکومت کو امپینہ گزر گیا تو انہوں نے بے طرف لوگوں کو دو کاموں میں اختیار دیا کہ یا تو حکومت کے ساتھ رہیں اور اس کی پیروی کرنے کا اعلان کریں، یا مصر کو چھوڑ کر چلے جائیں، ان لوگوں نے حاکم مصر سے کہا کہ ہمیں مہلت دیجئے تاکہ ہم اس کے بارے میں فکر کریں، لیکن حاکم نے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا، وہ لوگ بھی اپنی بات پر اڑے رہے اور اپنا دفاع کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔

حالات میں جنگ صفین شروع ہو گئی اور جب خبر ملی کہ امام علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان حکمین قرار دئے گئے ہیں اور دونوں فوجوں نے جنگ روک دی ہے تو اس گروہ کی جرأت حاکم پر اور زیادہ ہو گئی اور بے طرفی کی حالت سے نکل کر کھلم کھلا حکومت کی مخالفت کرنے لگے حاکم نے مجبور ہو کر دو آدمیوں بنام حارث بن جہان اور یزید بن حارث کنانی کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کو موعظہ و نصیحت کریں، لیکن یہ دونوں اپنا وظیفہ انجام دیتے ہوئے مخالفین کے ہاتھوں قتل ہو گئے، محمد بن ابی بکر نے تیسرے آدمی کو بھیجا اور وہ بھی اس راہ میں قتل ہو گیا۔

ان لوگوں کے قتل ہونے کی وجہ سے بعض لوگ بہت جری ہو گئے اور ارادہ کیا کہ شامیوں کی طرح ہم بھی عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے لوگوں کو دعوت دیں اور چونکہ مخالفت کا ماحول پہلے سے بنا ہوا تھا لہذا دوسرے افراد بھی ان کے ساتھ ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ سرزمین مصر ظلم و فساد کا شکار ہو گئی اور جوان حاکم، مصر کی حکومت پر صحیح طور پر قابو نہ پاسکا۔ امیر المومنین علیہ السلام مصر کے حالات سے باخبر ہوئے اور فرمایا صرف دو آدمی ہیں جو مصر میں امن و امان بحال کر سکتے ہیں ایک قیس بن سعد جو اس سے پہلے مصر کے حاکم تھے اور دوسرے مالک اشتر آپ نے یہ بات اس وقت کہی جب مالک اشتر کو سرزمین "جزیرہ" کا حاکم مقرر کر چکے تھے، قیس بن سعد ہمیشہ امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور لیکن عراق میں جو فوج موجود تھی اس فوج میں اس کا رہنا ضروری تھا، اس لئے امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو خط لکھا وہ اس وقت عراق کی وسیع ترین سر زمین "نصبین" میں موجود تھے جو عراق اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس خط میں امام علیہ السلام نے اپنے اور مصر کے حالات کے بارے میں لکھا: "امابعد، تم ان لوگوں میں سے ہو جن کی مددو نصرت سے ہم دین کو مستحکم کرتے ہیں اور نافرمانوں کے تکبر کا قلع و قمع کرتے ہیں اور وحشناک راستوں کو صحیح کرتے ہیں، نے محمد ابن ابی بکر کا مصر کو حاکم مقرر کیا تھا، مگر کچھ لوگوں نے اس کی پیروی کرنے کے بجائے مخالفت کی اور وہ جوانی اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کامیاب نہ ہو سکا، جتنی جلدی ہو میرے پاس پہنچ جاؤ تاکہ جو کچھ انجام دینا ہے اس کے بارے میں تحقیق کریں، اور کسی معتبر اور قابل اعتماد شخص کو اپنا جانشین معین کر دو"۔

جب امام علیہ السلام کا خط مالک اشتر کو ملا تو انہوں نے شیبب بن عامر کو اپنا جانشین مقرر کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں آگئے اور مصر کے ناگوار حالات سے آگاہ ہوئے۔ امام نے ان سے فرمایا جتنی جلدی ممکن ہو مصر جاؤ کیونکہ تمہارے علاوہ کسی کو اس کام کا اہل نہیں سمجھتا میں تمہارے اندر جو عقل اور درایت دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے کسی چیز کی تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم کاموں کی انجام دہی کے لئے خدا سے مدد طلب کرو اور سختی کو نرمی کے ساتھ استعمال کرو اور جتنا ممکن ہو خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور جہاں پر صرف خشونت و سختی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو وہاں اپنی طاقت کا استعمال کرو۔

جب معاویہ کو خبر ملی کہ امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو مصر کا حاکم بنایا ہے تو وہ گھبرا گیا کیونکہ وہ مصر کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مصر کی حکومت مالک کے ہاتھوں میں آگئی تو وہاں کے حالات محمد بن ابی بکر کے زمانے سے اس کے لئے اور بھی بدتر ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے اس نے ایک طریقہ اپنایا اور خراج دینے والوں میں سے ایک شخص سے خراج کو معاف کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے ذریعے سے مالک اشتر کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مصر کے لوگوں نے امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ جتنی جلدی ہو سکے ایک دوسرا حاکم معین فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں لکھا: "خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے مصر کے مسلمانوں کے نام، تم لوگوں پر سلام، اس خدا کی تعریف جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ میں نے ایسے شخص کو تمہاری طرف بھیجا ہے جس کی آنکھوں میں خوف و براس کے دن بھی نیند نہیں، وحشت کے وقت ہرگز دشمن سے نہیں ڈرتا اور کفاروں کے لئے آگ سے زیادہ سخت ہے وہ مالک اشتر، حارث کا بیٹا اور قبیلہ مذحج سے ہے، اس کی باتوں کو سنو اور اس کے

فرمان کی جب تک حق باتیں کہے پیروی کرو، وہ خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو کند نہیں ہوتی اور اس کی ضربت خطاً نہیں کرتی، وہ اگر دشمن کی طرف جانے کا حکم دے تو فوراً روانہ ہو جاؤ اور اگر ٹھہرنے کا حکم دے تو ٹھہر جاؤ، اس لئے کہ اس کا حکم میرا حکم ہے میں نے اسے تمہارے پاس بھیج کر تمہارے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دی ہے اس لئے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارے دشمن کا سخت دشمن ہوں۔ (۱)

امام علیہ السلام کا نیا نمائندہ اور حاکم لازمی ساز و سامان کے ساتھ مصر کے لئے روانہ ہوا اور جب "قلزم" (۲) نامی علاقے میں پہنچے جو فسطاط کی دو منزل کے فاصلہ پر ہے (۳) وہاں ایک شخص کے گھر میں قیام کیا اس شخص نے ان کی بڑی اؤ بھکت اور خاطر مدارات کی جس کی وجہ سے مالک اشتر کو

- (۱) نہج البلاغہ مکتوب نمبر ۳۸۔ الغارت ج ۱ ص ۲۶۰۔  
 (۲) مصر کی طرف سے دریائے یمن کے کنارے ایک شہر ہے، قافلے وہاں سے مصر تک تین دن میں مسافت طے کرتے ہیں۔ (مراصد الاطلاع)۔  
 (۳) اسکندر یہ کے پاس ایک شہر ہے، (مراصد الاطلاع)۔

اپنے اعتماد میں لے لیا اور پھر شہد میں زہر ملا کر شربت بنایا اور مالک اشتر کو پلادیا اس طرح سے خدا کی یہ تیز تلوار ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نیام میں چلی گئی اور اپنی جان کو خدا کے حوالے کر دیا۔ وہ ۳۸ ہجری میں سرزمین قلزم پر شہید ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔

یہ بات مسلم ہے کہ یہ میزبان کوئی معمولی شخص نہ تھا بلکہ پہچانا ہوا شخص تھا اسی وجہ سے مالک اشتر نے اس کے گھر میں قیام کیا، اسے مالک کے دشمن معاویہ نے پہلے ہی خرید لیا تھا۔ (۱)

بعض مؤرخین نے مالک اشتر کی شہادت کو تفصیل سے دوسرے طریقے سے لکھا ہے، جب معاویہ کو یہ خبر ملی کہ امام نے مالک اشتر کو مصر کا حاکم معین کیا ہے تو اس نے "قلزم" کے ایک با رسوخ کسان سے کہا کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو مالک کو قتل کر دے اور جب مصر پر میرا قبضہ ہو جائیگا تو اس کے بدلے اسے مالیات (خراج) ادا کرنے سے معاف کر دیگا معاویہ نے صرف اسی کام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ لوگوں کے جذبات کو قوت عطا کرنے اور یہ دکھانے کے لئے کہ وہ اور اس کے تمام پیرو خدا کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں شام کے لوگوں سے اس نے کہا کہ مسلسل مالک اشتر پر لعنت کریں اور خدا سے دعا کریں کہ مالک کو نابود کر دے کیونکہ اگر مالک قتل ہو گئے تو شام کے لوگوں کے لئے خوشی کا سبب ہوگا اور یہ سبب ہوگا کہ وہ لوگ اپنے رب پر زیادہ اعتماد کریں گے۔

جب مالک اشتر "قلزم" پہنچے تو معاویہ کے خریدے ہوئے خبیث نے مالک سے کہا کہ میرے گھر میں آرام کریں اور اپنے اعتماد کو مستحکم کرنے کے لئے کہا کہ تمام اخراجات کو اپنے مالیات سے حساب کروں گا، میزبان نے مالک کے گھر میں آنے کے بعد امام علیہ السلام سے اپنی دوستی و محبت کا اظہار کیا یہاں تک کہ اس نے مالک کے اعتماد کو حاصل کر لیا۔ اس نے مالک کے لئے دسترخوان بچھایا اور اس پر شہد کا شربت رکھا۔ اس شربت میں اتنا زیادہ زہر ملا تھا کہ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مالک اشتر شہید ہو گئے۔

بہر حال جب معاویہ کو مالک اشتر کے قتل کی خبر ملی تو وہ منبر پر گیا اور کہا: اے لوگو ابوطالب کے بیٹے کے پاس دو مضبوط ہاتھ تھے جن میں سے ایک ہاتھ (عمار یاسر) جنگ صفین میں کاٹ دیا گیا اور دوسرا ہاتھ (مالک اشتر) آج کاٹ دیا گیا (۲)۔

(۱) تاریخ ابن کثیر ج ۷، ص ۳۱۳ (۲)۔ الغارت ج ۱، ص ۲۶۴، تاریخ طبری ج ۷، ص ۷۲، کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۳۵۲۔

وہ موت جس نے بعض کو ہنسایا اور بعض کو رلایا

مالک اشتر کی شہادت پر شامیوں نے خوشی منائی کیونکہ وہ لوگ جنگ صفین کے سے ہی مالک اشتر سے کینہ رکھتے تھے لیکن جب انکی شہادت کی خبر امام علیہ السلام کو ملی تو آپ نے ساختہ بلند آواز سے رونے لگے اور فرمایا: "علیٰ

مَثَلِكَ فَلْيُنَكِّحْنِ الْبُؤَا كَيْ يَأْ مَالِكُ" یعنی تمہارے جیسوں کے لئے عورتوں کو نوحہ و بکا کرنا چاہیئے پھر فرمایا: "اِنَّ مَثَلُ مَالِكٍ؟ یعنی مَالِك جیسا کوئی کہاں ہے؟

پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور تقریر فرمائی:

"ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جائیں گے تمام حمدو ثنا خدا ہی کے لئے ہے کہ وہ اس دنیا کا پروردگار ہے۔ خدا یا! میں مَالِك کی مصیبت کا اجر تجھی سے چاہتا ہوں کیونکہ اس کی موت زمانہ کی سب سے بڑی مصیبت ہے مَالِك پر خدا کی رحمتیں ہوں، اس نے اپنے عہد کو وفا کیا اور اپنی عمر کو ختم کیا اور اپنے رب سے ملاقات کی، ہم نے پیغمبر کے بعد باوجودیکہ اپنے کو آمادہ کر لیا تھا کہ ہر مصیبت پر صبر کریں گے، اس حالت میں بھی یہی کہتے ہیں کہ مَالِك کی شہادت ایک بہت بڑی مصیبت ہے، (۱)

فضیل کہتے ہیں: "جب مَالِك کی خبر شہادت حضرت علی علیہ السلام کو ملی تو میں آپ کی خدمت میں گیا، دیکھا کہ بے حد اظہار افسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں: خدایا! مَالِك کو بہترین درجہ عطا کر، واقعاً مَالِك کتنی اچھی شخصیت کے مالک تھے، اگر وہ پہاڑ تھے تو ایسا پہاڑ جس کی مثال نہیں اور اگر پتھر تھے تو بہت سخت پتھر، خدا کی قسم، اے مَالِك تمہاری موت نے ایک دنیا کو لرزہ برانداز کر دیا اور دوسری دنیا کو شاد و مسرور کر دیا۔ مَالِك جیسوں کی شہادت پر عورتوں کو نوحہ و بکا کرنا پڑنا چاہیے، کیا کوئی مَالِك جیسا ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں: علی علیہ السلام مسلسل اظہار افسوس کر رہے تھے اور بہت دنوں تک آپ کے چہرہ انور پر غم کے اثرات نمایاں تھے۔"

(۱) الغارت: ج ۱ ص ۲۶۴. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید: ج ۶، ص ۷۷.

امام علیہ السلام کا خط محمد بن ابی بکر کے نام

امام علیہ السلام نے جب مصر کی حکومت کی ذمہ داری محمد بن ابی بکر سے لیکر مَالِك اشتر کو سونپی تو محمد کچھ ملول تھے جب محمد کے ملال کی خبر امام علیہ السلام کو ملی تو آپ نے محمد کو خط لکھا جس میں مَالِك اشتر کی شہادت کی خبر کے بعد ان کی دلجوئی فرمائی اور لکھا:

"مجھے خبر ملی ہے کہ مَالِك اشتر کو مصر اعزام کرنے کی وجہ سے تم رنجیدہ ہو گئے ہو لیکن میں نے اس کام کو اس لئے انجام نہیں دیا تھا کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں میں غفلت یا کوتاہی کی ہے اور اگر میں نے تمہیں مصر کی حکومت سے معزول کیا ہے تو اسکے بدلے میں تمہیں کسی دوسری جگہ کا والی و حاکم قرار دوں گا جس کا چلانا کچھ مشکل اور سخت نہ ہوگا اور وہاں کی حکومت تمہارے لئے بہتر ہوگی، جس شخص کو میں نے مصر کی سرداری کیلئے چنا تھا وہ ہم لوگوں کے لئے خیر خواہ اور دشمنوں کے لئے بہت سخت تھا، خدا اس پر رحم کرے کہ اس نے اپنی زندگی بڑے آرام سے گذاری اور موت سے ملاقات کی جب کہ ہم اس سے راضی تھے، خدا بھی اس سے راضی ہوا اور اسے دوبرا ثواب عطا کرے۔ اب اس وقت تم پر لازم ہے کہ دشمن سے جنگ کرنے کے لئے اپنی فوج کو شہر سے باہر بھیج دو اور وہیں پر پڑاؤ ڈال دو اور عقل و خرد سے امور انجام دو اور جنگ کے لئے آمادہ ہو جاؤ، لوگوں کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دو اور خدا سے مدد طلب کرو کہ وہ تمہارے اہم کاموں میں کافی ہے اور مصیبت کے وقت تمہارا مددگار ہے"۔ (۱)

محمد بن ابی بکر کا خط امام علیہ السلام کے نام

جب امام علیہ السلام کا خط محمد کو ملا تو انہوں نے امام علیہ السلام کو یہ خط لکھا:

"امیر المومنین علیہ السلام کا خط مجھے ملا اور اس کے مضمون سے آگاہ ہوا کوئی بھی شخص امیر المومنین کے دشمن پر مجھ سے زیادہ سخت اور ان کے دوستوں پر مجھ سے زیادہ مہربان نہیں ہے۔ میں نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا ہے اور تمام لوگوں کو امان دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ہم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہیں اور ہم سے دشمنی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہر حال میں، میں امیر المومنین علیہ السلام کا مطیع و فرمان بردار ہوں۔ (۲)

(۱) الغارات ج ۱، ص ۲۶۸۔  
(۲) الغارات ج ۱، ص ۲۶۹۔

عمر و عاص کو مصر بھیجنا

معاویہ نے جنگ صفین ختم ہونے اور امیر المومنین علیہ السلام کی فوج مینخوارج کے ذریعہ اختلاف و تفرقہ ڈالنے کے بعد موقع غنیمت دیکھا کہ عمر و عاص کی سرداری میں اپنی فوج کو مصر روانہ کرے تاکہ مصر کو امیر المومنین علیہ السلام کے قبضے سے چھین لے، اس نے یہ پُر خطر کام انجام دینے کے لئے اپنی فوج کے بہت سے سرداروں کو دعوت دی اور ان میں عمرو عاص، حبیب بن مسلمہ فہری، بُسر بن ارطاة عامری، ضحاک بن قیس اور عبد الرحمان بن خالد وغیرہ شامل تھے اور قریش کے علاوہ دوسرے افراد کو بھی مشورے کے لئے بلایا اور پھر اس نے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہا: کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں یہاں جمع کیا ہے؟

عمر و عاص نے اس کے راز کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا: تو نے ہم لوگوں کو مصر فتح کرنے کے لئے بلایا ہے کیونکہ دہاں کی سرزمین بہت زرخیز ہے اور وہاں پر مالیات (خراج) بہت زیادہ ہے اور مصر کے فتح ہونے میں تمہاری اور تمہارے دوستوں کی عزت ہے۔

معاویہ، عمرو عاص کی تصدیق کرنے کے لئے اٹھا اور یاد دلایا کہ اس نے ابتدا میں عمر و عاص سے وعدہ کیا تھا کہ اگر علی پر میں نے فتح حاصل کر لی تو مصر کی حکومت اسے بخش دے گا، اس جلسہ میں بہت زیادہ گفتگو ہوئی اور بالآخر یہ طے پایا کہ مصر کے لوگوں کو، چاہے دوست ہوں یا دشمن بہت زیادہ خطوط لکھے جائیں دوستوں کو ثابت قدم رہنے اور مقابلے کا حکم دیا جائے اور دشمنوں کو صلح و خاموشی کا حکم دیا جائے یا جنگ کی دھمکی دی جائے، اس لئے معاویہ نے علی علیہ السلام کے دو مخالفوں، مسلمہ اور معاویہ کندی کے نام خط لکھا اور پھر عمرو عاص کو ایک بڑی فوج کے ہمراہ مصر روانہ کیا۔ جب عمر و عاص مصر کی سرحد پر پہنچا تو عثمان کے چاہنے والوں نے اس کا استقبال کیا اور اس سے ملحق ہو گئے عمر و عاص نے وہیں سے مصر کے حاکم کے نام خط لکھا "میں نہیں چاہتا کہ تم سے جنگ کروناور تمہارا خون بہاؤں، مصر کے لوگ تمہاری مخالفت پر متفق ہیں اور تمہاری پیروی کرنے سے پشیمان ہیں۔"

عمر و عاص نے اپنے اور معاویہ کے خط کو محمد کے پاس بھیجا۔ مصر کے حاکم نے دونوں خط پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اپنے خط میں شام کی فوج کے مصر کی سرحد پر پہنچنے کی خبر دی اور لکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصر کی حکومت آپ کے ہاتھ میں رہے تو میری مالی اور فوجی مدد کیجیے۔

امام علیہ السلام نے مصر کے حاکم کو مقابلہ کرنے کی تاکید کی

پھر محمد بن ابی بکر نے عمر و عاص اور معاویہ کے خط کا جواب دیا اور بالآخر مجبور ہوئے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لشکر ترتیب دیں اور عمرو عاص کی فوج کے مقابلہ کے لئے جائیں۔

ان کی فوج کے اگلے دستہ میں دو ہزار آدمی تھے جس کی سرداری کنانہ بن بشار کر رہے تھے اور خود بھی اس کے بعد دو ہزار کی فوج لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ جب مصر کی فوج کے اگلے دستہ نے شام کی فوج کا سامنا کیا شام کی فوج کو درہم برہم کر دیا لیکن فوج کی کمی کی وجہ سے کمزور پڑ گیا، کنانہ اپنے گھوڑے سے اتر آئے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک ایک کر کے دشمنوں سے جنگ کرنے لگے اور اس آیت کی تلاوت کرتے شہید ہو گئے:

"وما كان لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَاباً مُّجْتَلًّاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ" (آل عمران: ۱۴۵)

"اور بغیر حکم خدا کے تو کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا وقت معین ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے اور جو شخص (اپنے کئے کا) بدلہ دنیا میں چاہے تو ہم اس کو اس میں سے دیدیتے ہیں اور جو شخص آخرت میں بدلہ چاہے اسے اسی میں سے دینگے اور (نعمت ایمان کے) شکر کرنے والوں کو بہت جلد ہم جزائے خیر دیں گے۔"

محمد بن ابی بکر کی شہادت

کنانہ بن بشار کی شہادت کی وجہ سے شام کی فوج میں جرأت پیدا ہو گئی اور سب نے یہ طے کیا کہ آگے بڑھتے رہیں اور محمد بن ابی بکر کی چھانوئی کی طرف جائیں، جب ان کی چھانوئی پر پہنچے تو دیکھا کہ محمد کے ساتھی مختلف جگہوں پر منتشر ہو گئے ہیں، محمد خود مضطرب اور سرگردان ہیں یہاں تک کہ ایک کھنڈر میں پناہ حاصل کی، معاویہ بن حذیفہ محمد کی جگہ سے باخبر ہوا اور انہیں گرفتار کر لیا وہاں سے باہر لایا اور "فسطاط" نامی جگہ پر جہاں عمر و

عاص کے فوجی تھے پہونچا دیا جب کہ عنقریب تھا کہ پیاس کی شدت سے مرجائیں۔

عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد کا بھائی عمرو کی فوج میں تھا، اس نے فریاد بلند کی میں اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ میرے بھائی کو اس طرح قتل کرو اور عمر و عاص سے کہا کہ اپنی فوج کے سردار معاویہ بن حدیج کو حکم دو کہ اس کے قتل کرنے سے باز آجائے، عمرو عاص نے اپنے نمائندے کو ابن حدیج کی طرف بھیجا کہ محمد کو زندہ حوالے کرے لیکن معاویہ بن حدیج نے کہا: کنانہ بن بشر جو میرا چچا زاد بھائی تھا قتل ہو گیا محمد کو بھی، زندہ نہیں رہنا چاہیے، محمد جو اپنی قسمت دیکھ رہے تھے، درخواست کی کہ مجھے پانی پلا دو لیکن معاویہ بن حدیج نے بہانہ بنایا کہ عثمان بھی پیاسے قتل ہوئے تھے لہذا پانی نہیں دیا۔

اس وقت ابن حدیج نے محمد کو بہت بری باتیں کہیںجنہیں تحریر کرنے سے پرہیز کر رہے ہیں اور آخر میں اس نے کہا: میں تمہاری لاش کو اس مردہ گدھے کی کھال میں رکھوں گا اور پھر جلادوں کا محمد نے جواب دیا: تم خدا کے دشمنوں نے اولیاء خدا کے ساتھ بار ہا ایسا معاملہ انجام دیا ہے، مجھے امید ہے کہ خدا اس آگ کو میرے لئے ایسے ویسی ہی اور باعافیت کر دے گا جیسے ابراہیم کے لئے کیا تھا، اور اسے تمہارے اور تمہارے دوستوں کے لئے وبال بنادے گا اور خدا تجھے اور تیرے پیشوا معاویہ بن ابو سفیان اور عمر و عاص کو ایسی آگ میں جلائے گا کہ جب بھی چاہیں کہ خاموش ہو وہ اور شعلہ ور ہو جائے گا، بالآخر معاویہ بن حدیج کو غصہ آیا اور اس نے محمد کی گردن اڑا دی اور ان کے جسم کو مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال دیا اور جلادیا۔

محمد بن ابی بکر کی شہادت نے دوامیوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا، ایک ان کی بہن عائشہ تھیں جو ان کے حالات پر بہت روئیں، وہ ہر نماز کے آخر میں معاویہ ابن سفیان، عمر و عاص اور معاویہ بن حدیج پر بد دعا کرتی تھیں، عائشہ نے اپنے بھائی کے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری خود لے لی۔ اور محمد ابن ابی بکر کے بیٹے قاسم انہیں کی پرورش و کفالت میں پروان چڑھے اور دوسرے اسمائ بنت عمیس جو بہت دنوں تک جعفر ابن ابی طالب کی زوجہ تھیں اور جعفر کی شہادت کے بعد ابو بکر سے شادی ہو گئی اور انہیں سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے اور ابو بکر کے انتقال کے بعد علی علیہ السلام سے شادی کی اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا، یہ ماں جب اپنے بیٹے کی قسمت و شہادت سے باخبر ہوئی تو بہت زیادہ متاثر ہوئی لیکن اپنے غیظ و غضب کو قابو میں رکھا اور مصالحتے نماز پر گئیں اور ان کے قاتلوں پر لعنت و ملامت کی۔

عمر و عاص نے معاویہ کو خط کے ذریعے ان دونوں آدمیوں کی شہادت کے بارے میں خبر دی اور دوسرے سیاست بازوں کی طرح جھوٹ بولا اور اپنے کو برحق ظاہر کیا اور کہا: ہم نے ان لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلایا مگر ان لوگوں نے حق کی مخالفت کی اور اپنی گمراہی پر باقی رہے۔ بالآخر ان کے اور ہمارے درمیان جنگ ہوئی۔ ہم نے خدا سے مدد طلب کی اور خدا نے ان کے چہروں اور پشتوں پر ضرب لگائی اور ان سب لوگوں کو ہمارے سپرد کر دیا۔

حضرت علی علیہ السلام اور خیر شہادت محمد بن ابی بکر

عبد اللہ بن قعید روتا ہوا کوفہ میں داخل ہوا اور حضرت علی علیہ السلام کو محمد کی دردناک شہادت سے آگاہ کیا۔ امام نے حکم دیا کہ تمام لوگ اس کی بات سننے کے لئے جمع ہوں، اس وقت لوگوں سے فرمایا: "یہ نالہ و فریاد محمد اور تمہارے بھائیوں کا جو مصر میں تھے۔ خدا کا اور تمہارا دشمن عمر و عاص ان لوگوں کی طرف گیا اور ان پر غالب ہو گیا اور میں ہرگز یہ امید نہیں رکھتا کہ گمراہوں کا تعلق باطل سے اور ان کاسرکش حاکموں پر اس سے زیادہ ہو جتنا اعتماد تم لوگوں کا اعتقاد حق پر ہے، گویا ان لوگوں نے مصر پر حملہ کر کے تم لوگوں کو پر حملہ کیا ہے جتنی جلدی ممکن ہو ان کی مدد کے لئے جاؤ، اے خدا کے بندو! مصر خیر و برکت کے اعتبار سے شام سے بہتر اور مصر کے لوگ شام کے افراد سے بہتر ہیں، مصر کو اپنے قبضے سے نہ جانے دو، اگر مصر تم لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو تم لوگوں کے لئے عزت کا سبب ہوگا، اور دشمنوں کے لئے ذلت کا سبب ہوگا، جتنی جلدی ممکن ہو "جرعہ" کی چھاؤنی پہونچ جاؤ تاکہ کل ایک دوسرے تک پہونچ جائیں۔

کچھ دن گزرنے کے بعد اور عراق کے سرداروں کے امام علیہ السلام کے پاس آنے جانے کے بعد بالآخر مالک بن کعب کی سرداری میں دو ہزار فوج مصر کے لئے روانہ ہوئی۔ (۱)

امام علیہ السلام نے ابن عباس کو اپنے خط میں اس واقعہ کی خبر ان الفاظ میں دی:

"اما بعد، مصر پر دشمن کا قبضہ ہو گیا ہے اور محمد بن ابی بکر" (خدا ان پر رحمت کرے) شہید ہو گئے، اس مصیبت کا اجر ہم اللہ سے مانگتے ہیں کتنا خیر خواہ فرزند، اور محنت کش عامل تھا (جونہ رہا) کیاسیف قاطع، اور کیسا دفاعی ستون تھا (جو چل بسا) میں نے لوگوں کی بہت تشویق کی تھی کہ اس کی مدد کے لئے جائیں، میں نے لوگوں کو درپردہ اور بر

ملا ایک بار نہیں، بلکہ بار بار حکم دیا کہ جنگ سے پہلے ان سے مدد کو پہنچ جائیں لیکن کچھ لوگوں نے با دل نخواستہ آمادگی ظاہر کی اور کچھ لوگ جھوٹے بہانے بنانے لگے اور کچھ لوگ تو چپ چاپ بیٹھے ہی رہے اور مدد کے لئے نہ اٹھے، چنانچہ میں خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اے خدا! مجھے جلد از جلد ان

(۱) الغارات ج ۱، ص ۲۸۲ تا ۲۹۴۔

لوگوں سے نجات دیدے۔ (۱)

محمد بن ابی بکر کی شہادت حضرت علی علیہ السلام کے لئے بہت بڑا غم تھا، حضرت نے باچشم گریہ فرمایا:

"وہ میرا بیٹا اور میرے بیٹوں اور میرے بھتیجوں کے لئے بھائی تھا۔ (۲)

اور یہ بھی فرمایا: "وہ مجھے عزیز و پسند تھا اور خود میں نے اپنی آغوش میں اس کی پرورش کی تھی" (۳) جنگ صفین کے بعد اس طرح کے حادثات پے در پے ہوتے رہے اور عقلمند اور دور اندیش لوگ امام علی - کی حکومت کے زوال کی، ان کے نادان ساتھیوں کی وجہ سے پیشین گوئی کر سکتے تھے۔ اس وقت امام علیہ السلام ایسے حالات سے گزر رہے تھے کہ معاویہ کا شام پر قبضہ تھا اور مصر پر عمر و عاص نے قبضہ کر لیا تھا اور معاویہ کی طرف سے مرکزی حکومت کو ضعیف و کمزور کرنے کے لئے قاتل اور فساد گروہ طرف سے قتل و غارت گری کر رہے تھے، تاکہ امن و سکون کو جڑ سے ختم کر دیں، لیکن امام علیہ السلام کی تدبیر ایسے افسوسناک حالات پر قابو پانے کے لئے کیا تھی؟ اور آپ نے کس طرح سے مردہ دل عراقیوں سے فسادات کو ختم کرنے کے لئے مدد طلب کی؟ تاریخ کا کہنا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی ولولہ انگیز تقریر فرمائی، جس نے عراقیوں کو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔

(۱) نہج البلاغہ مکتوب ۳۵۔

(۲) تاریخ یعقوبی ج ۲، ص ۱۹۴۔

(۳) نہج البلاغہ مکتوب ۶۵ (مطبوعہ عہدہ)۔

امام علیہ السلام کا آخری خطبہ

نوفل بن فضالہ کہتے ہیں: امام علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں میں، جعدہ مخزومی نے پتھر کا ایک بلند چبوترہ امام علیہ السلام کے لئے بنایا، اور امام علیہ السلام اس پر تشریف لائے، آپ کا پیرا بن اون کا بنا ہوا تھا، اور نیام اور نعلین کچھور کی چھال کی بنی تھی اور کثرتِ سجود کی وجہ سے پیشانی کا نشان یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اونٹ کے گھٹھے کا گھٹا، اور پھر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: "الحمد لله الذي اتيه مصائر الخلق و عواقب الامر، نحمده على عظيم احسانه ونيربها به و نوايمى فضلهم و امتنا به۔"

اَيُّهَا النَّاسُ: اِنِّي قَدْ بَنَيْتُ لَكُمْ الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ الْاَنْبِيَاءُ بِهَا اَمَمَهُمْ وَاَدَيْتُ اِلَيْكُمْ اِدْتِ الْاِوَاكِيَّ اِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وَاَدَّ بَيْنَكُمْ بَسُوَطِي فَلَمْ تَسْتَقْبِمُوْا وَاَحَدُوْكُمْ، بِالزَّوْجِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُوْا. اللهُ اَنْتُمْ! اَنْتَوَقَعُونَ اَمَاماً غَيْرِيْ يَطْأُ بِكُمُ الطَّرِيْقَ وِ يَرْشِدُكُمْ السَّبِيْلَ؟ ... مَا ضَرَّ اِخْوَانَنَا الَّذِيْنَ سَفِكْتَ دِمَائِهِمْ. وَهُمْ بِصَفِيْنَ. الْاَلْاِيْكَوْنُوْا الْيَوْمَ اَحْيَاءُ؟ يُسِيْعُوْنَ الْغَصَصَ وَيَشْرَبُوْنَ الرَّقَّ نَقًا! قَدْ وَاللَّهِ لَقَوْلِ اللهِ فَوْقًا هُمْ اَجْرَهُمْ دَارَ الْاَلْمَنْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ. اَيْنَ اِخْوَانِي الَّذِيْنَ رَكِبُوا الطَّرِيْقَ وَاَمَضُوا عَلَيَّ الْحَقَّ؟ اَيْنَ عَمَّارُ وَاَيْنَ اَبْنُ الْتِيْهَانِ؟ وَاَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ؟ وَاَيْنَ نَظْرُ اِيَّاهُمْ مِنْ اِخْوَانِهِمْ الَّذِيْنَ تَعَاقَدُوا عَلَيَّ الْمَنِيَّةَ؟"

"تمام حمد اس خدا کے لئے ہے جس کی طرف تمام مخلوق کی باز گشت ہے اور ہر امر کی انتہا ہے، ہم اس کے عظیم احسان اور روشن برہان اور بڑھتے ہوئے فضل و کرم پر اس کی حمد کرتے ہیں۔"

اے لوگو، میں نے تمہیں اس طرح نصیحتیں کی ہیں جیسی انبیا اپنی امتوں کو کرتے رہے ہیں اور وہی باتیں تم تک پہنچائی ہیں جو اوصیا بعد والوں تک پہنچاتے رہے ہیں، مینے اپنے تازیانہ سے تمہاری تادیب کی مگر تم سیدھے نہ ہونے اور زجر و توبیخ سے تمہیں ہنکایا مگر تم لوگ یکجا اور متحد نہ ہونے، خدا ہی تمہیں سمجھے، کیا تم میرے بعد کسی

اور امام کے امیدوار ہو جو تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور صحیح راستہ دکھائے؟ ہمارے جن ساتھیوں کا خون جنگ صفین میں بہایا گیا انہیں کیا نقصان پہونچا وہ اگر آج زندہ نہیں ہیں کہ دنیا کے مصائب کے تلخ گھونٹ نوش کریں اور اس طرح کی ناگوار زندگی کا گندہ پانی پیئیں خدا کی قسم انہوں نے اللہ سے ملاقات کی تو اس نے انہیں پوری جزادی اور خوف و ہراس کے بعد انہیں امن و سلامتی کے گھر میں اتار دیا۔ میرے وہ بھائی کہاں ہیں جو سیدھی راہ پر چلتے رہے (اور اس دنیا سے) حق پر گزر گئے، کہاں ہیں عمار؟ کہاں ہیں ابن تیہان؟ کہاں ہیں ذوالشہادتین؟ اور کہاں ہیں ان کے ایسے دوسرے بھائی جو مرنے کا عہد کرچکے تھے؟

نوفل کہتے ہیں: اس کے بعد حضرت نے اپنا ہاتھ داڑھی پر پھیرا اور بہت دیر تک زارو قطار روتے رہے اور پھر فرمایا:

"أَوْهٖ عَلٰٓی اِخْوَانِی الَّذِیْنَ تَلُوْا الْقُرْآنَ فَاحْكُمُوْهُ وَتَدْبِرُوْا الْفَرَضَ فَا فَا مُوْهٖ ، اَحْبِیْوْا السَّنَّةَ وَا مَا تُو الْبِدْعَةَ . دُعُوْا لِلْجِهَادِ فَا جَابُوْا وَتَقُوْا بِالْقَائِدِ فَاتَّبِعُوْهُ"

"آہ! میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن پڑھا (تو اپنے عمل سے) اسے مضبوط کیا، اپنے فرض کو سوچا سمجھا اور اسے ادا کیا، سنت کو زندہ کیا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے لبیک کہی، اپنے رب پر اعتماد رکھا تو اس کی پیروی کی۔

پھر آپ نے بلند آواز سے پکار کر فرمایا: "الْجِهَادُ الْجِهَادَ عِبَادَ اللَّهِ! أَلَا وَ إِنِّیْ مُعَسِّرٌ لِّیَوْمِیْ هَذَا فَمَنْ أَرَادَ الرَّوَاحَ إِلَیَّ اللَّهُ فَلِیُخْرِجْ" جہاد جہاد، اے خدا کے بندو! آگاہ رہو کہ میں آج لشکر کو ترتیب دے رہا ہوں جو خدا کی طرف جانا چاہتا ہے وہ نکل کھڑا ہو۔ (۱)

امام علیہ السلام کے اس بیجان انگیز اور پر جوش کلام نے عراقیوں کے مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کر دیا کہ تھوڑی ہی دیر میں چالیس ہزار (۴۰،۰۰۰) لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرنے اور میدان صفین میں جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے، امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور قیس بن سعد اور ابو ایوب انصاری کے لئے پرچم تیار کیا اور ہر ایک کو دس دس ہزار کی فوج دے کر تیار ہونے کے لئے کہا اور دوسرے لوگوں کو بھی مختلف تعداد کے دستوں پر امیر مقرر فرما کر پرچم کے ساتھ تیار کیا لیکن افسوس کہ ایک ہفتہ نہ گزرنے پایا تھا کہ عبد الرحمن بن ملجم کی تلوار سے آپ شہید ہو گئے۔

جب کوفہ کے باہر رہنے والے سپاہیوں کو امام کی شہادت کی خبر ملی تو سب کے سب کوفہ واپس آگئے اور سب ہی کی حالت ان بھیڑ بکریوں کی طرح ہو گئی، جو اپنے محافظ سے محروم ہو گئی ہوں اور بھیڑنیے انہیں ہر طرف سے اچک لے جا رہے ہوں۔

اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی زندگی کے آخری ورق یعنی شہادت کا ماجرا بیان کریں۔

(۱) نہج البلاغہ خطبہ ۱۷۷ (مطبوعہ عبدہ)۔

فروغ ولایت (سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا مکمل جائزہ)

تیسری فصل

امام علیہ السلام کی زندگی کا آخری ورق

محراب عبادت میں آپ کی شہادت جنگ نہروان ختم ہو گئی اور علی علیہ السلام کوفہ واپس آگئے مگر خوارج میں سے کچھ لوگ جنہوں نے نہروان مینتوبہ کیا تھا دوبارہ مخالفت کرنے لگے اور فتنہ و فساد برپا کرنے لگے۔

علی علیہ السلام نے ان کے پاس پیغام بھیجا اور ان لوگوں کو صلح و خاموشی رہنے کی دعوت دی اور حکومت کی مخالفت کرنے سے منع کیا لیکن جب ان کے راہ راست پر آنے سے مایوس ہو گئے تو اپنی قدرت و طاقت سے اس سرکش، نافرمان



اور فتنہ پرداز گروہ پر حملہ کر کے اسے نابود کر دیا، اس میں سے کچھ لوگ قتل ہوئے تو کچھ لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ فرار کر گئے اور انہیں بھاگنے والوں میں سے عبد الرحمن بن ملجم تھا جو قبیلہ مراد کا رہنے والا تھا یہ مکہ بھاگ گیا تھا۔ بھاگے ہوئے خوارج نے مکہ کو مرکز بنایا اور ان میں سے تین لوگ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، برک بن عبد اللہ تمیمی (۱) اور عمرو بن بکر تمیمی (۲) ایک رات جمع ہوئے اور وقت کے حالات اور داخلی جنگ اور خون ریزیوں پر بحث کی اور نہروان اور اپنے مقتولین کو یاد کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ اس خون ریزی اور آپسی جنگ کا سبب علی علیہ السلام، معاویہ اور عمر و عاص ہیں اور اگر یہ تینوں آدمی ختم ہو جائیں تو مسلمان اپنی اپنی ذمہ داریوں کو خود جان لینگے اور اپنی خواہش اور من پسند خلیفہ چن لینگے پھر ان تینوں نے آپس میں عہد کیا اور اسے قسم کے ذریعے مزید مستحکم کیا کہ ان میں سے ہر ایک، ان تینوں میں سے ایک ایک کو قتل کرے گا۔

ابن ملجم نے علی علیہ السلام کو قتل کرنے کا عہد کیا، عمر و بن بکر نے عمرو و عاص کو مارنے کا ذمہ لیا اور

(۱) (۲) دینوری نے الاخبار الطوال میں ص ۲۱۳ پر برک بن عبد اللہ کا نام نزال بن عامر اور عمرو بن بکر کو عبد اللہ بن مالک صیداوی لکھا ہے اور مسعودی نے مروج الذهب (ج ۲، ص ۲۳) میں برک بن عبد اللہ کو حجاج بن عبد اللہ صریمی ملقب بہ برک اور عمرو بن بکر کو زادیہ لکھا ہے۔

برک بن عبد اللہ نے معاویہ کو قتل کرنے کا عہد کیا۔ (۱) اس سازش کا نقشہ خفیہ طور پر مکہ میں بنا یا گیا اور تینوں آدمی اپنے مقصد کو ایک ہی دن انجام دیں اس لئے رمضان المبارک کی انیسویں رات معین ہوئی ہر شخص اپنا کام انجام دینے کے لئے اپنے اپنے مورد نظر شہر چلا گیا عمرو بن بکر، عمرو و عاص کو قتل کرنے کے لئے مصر گیا اور برک بن عبد اللہ معاویہ کو قتل کرنے کے لئے شام گیا اور ابن ملجم بھی کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ (۲)

برک بن عبد اللہ شام پہنچا، اور معین شدہ رات میں مسجد گیا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا، اور جب معاویہ سجدے میں گیا تو اس نے تلوار سے حملہ کیا لیکن خوف و ہراس کی وجہ سے نشانہ چوک گیا اور تلوار خطا کر گئی، اور سر کے بجائے معاویہ کی ران پر لگی اور معاویہ شدید زخمی ہو گیا، اسے فوراً گھر میں لائے اور بستر پر لٹایا، جب حملہ کرنے والے کو اس کے سامنے حاضر کیا تو معاویہ نے اس سے پوچھا: تمہیں اس کام کے انجام دینے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا: اگر امیر مجھے معاف کریں تو ایک خوشخبری دوں، معاویہ نے کہا: تیری خوشخبری کیا ہے؟ برک نے کہا: علی کو آج ہی ہمارے ایک ساتھی نے قتل کیا ہے اور اگر یقین نہ ہو تو مجھے قید کر دیں یہاں تک کہ صحیح خبر آپ تک پہنچ جائے، اگر علی قتل نہ ہوئے تو میں عہد کرتا ہوں کہ میں وہاں جا کر انہیں قتل کرونگا اور پھر آپ کے پاس واپس آ جاؤنگا، معاویہ نے اسے علی کے قتل کی خبر آنے تک اپنے پاس روکے رکھا اور جب خبر کی تصدیق ہو گئی تو اسے آزاد کر دیا اور ایک دوسرے قول کے مطابق اسی وقت اسے قتل کرادیا۔ (۳)

جب طبیبوں نے معاویہ کے زخم کا معاینہ کیا تو کہا کہ اگر امیر اولاد کی خواہش نہ رکھتے ہوں تو دوا کے ذریعے علاج ہوسکتا ہے ورنہ پھر زخم کو آگ داغنا پڑے گا۔ معاویہ داغنے سے ڈرا اور نسل کے منقطع ہونے پر راضی ہو گیا اور کہا: یزید اور عبد اللہ میرے لئے کافی ہیں۔ (۴)

عمر و بن بکر بھی اسی رات مصر کی مسجد میں گیا، اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا مگر اس دن عمرو عاص کو زہر دست بخار آ گیا اور کمزوری اور سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آسکا لہذا

(۱) مقاتل الطالبین ص ۲۹۔ الامامة و السياسة ج ۱، ص ۱۳۷۔

(۲) تاریخ طبری ج ۶، ص ۳۸ کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۱۹۵۔ روضة الواغظین ج ۱، ص ۱۶۱۔

(۳) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۶، ص ۱۱۴ (۴) مقاتل الطالبین ص ۳۰۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۶، ص ۱۱۳۔

خارجہ بن حنیفہ (حذافہ) (۱) کو نماز پڑھانے کے لئے مسجد بھیجا اور عمرو بن بکر نے عمر و عاص کے بجائے اسے قتل کر دیا اور جب حقیقت معلوم ہوئی تو کہا: اُردتُ عمراً وأرادَ اللهُ خَارجَةَ" (۲)

یعنی میں نے عمر و عاص کو قتل کرنا چاہا اور خدا نے خارجہ کو قتل کرانا چاہا۔

لیکن عبد الرحمن بن ملجم مرادی ۲۰ شعبان ۴۰ ہجری کو کوفہ آیا اور جب علی علیہ السلام کو اس کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا: "وہ آگیا؟" اب اس چیز کے علاوہ مجھ پر کوئی چیز باقی نہیں ہے اور اب اس کا وقت بھی آگیا ہے۔



ابن ملجم اشعث بن قیس کے گھر میں اترتا ہوا اور ایک مہینہ اس کے گھر میں رہا اور روزانہ اپنی تلوار کو تیز کر کے اپنے کو آمادہ کرنا تھا۔ (۳) اور وہاں ایک لڑکی قطامہ جو خود خوارج میں سے تھی اس سے ملا اور اس کا عاشق ہو گیا مسعودی کے نقل کرنے کے مطابق قطامہ، ابن ملجم کی چچازاد بہن تھی اور اس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں قتل ہوئے تھے۔ قطامہ کوفہ کی ایک خوبصورت ترین لڑکی تھی، جب ابن ملجم نے اسے دیکھا تو تمام چیزوں کو بھول گیا اور اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی (۴) قطامہ نے کہا: میں پوری رغبت و خواہش سے تمہیں اپنا شوہر قبول کروں گی مگر شرط یہ ہے کہ میرا مہر میری خواہش کے اعتبار سے قرار دو۔ عبدالرحمن نے کہا: بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ قطامہ نے جب عاشق کو سراپا تسلیم دیکھا تو مہر کو اور بھی سنگین کر دیا اور کہا: تین ہزار درہم، ایک غلام، ایک کنیز اور علی ابن ابیطالب کا قتل۔

ابن ملجم: میں تصور نہیں کر سکتا کہ تم مجھے چاہو اور پھر مجھ سے علی کے قتل کرنے کی درخواست کرو۔  
 قطامہ: تم ان پر اچانک غافلانہ حملہ کرنے کی کوشش کرو اس صورت میں اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو ہم دونوں ان سے اپنا بدلہ لے لیں گے اور پھر ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے اور اگر اس راہ میں تو مارا گیا تو خدا نے آخرت کے لئے جو ثواب تیرے لئے ذخیرہ کیا ہے وہ اس دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ بہتر اور پایدار ہے۔

(۱)، تاریخ یعقوبی ج ۲، ص ۲۱۲۔

(۲)، (۳) تاریخ یعقوبی ج ۲، ص ۳۱۲۔

(۴) مروج الذهب ج ۲، ص ۴۲۳

ابن ملجم: تمہیں معلوم ہو کہ میں صرف اسی کام کے لئے کوفہ آیا ہوں۔ (۱)

کسی شاعر نے قطامہ کے مہر کے سلسلے میں اشعار کہے ہیں:

قَلْمٌ أَرْمَهْرًا سَا قَهْ دُو سَمَا حَةَ

كَمْهَرٍ قَطَامٍ مِّنْ فَصِيحٍ وَ أَعْجَمٍ

ثَلَاثَةَ أَلْفٍ وَعَبْدٍ وَ قَيْنَةً

وَ قَتْلَ عَلِيٍّ بِالْحَسَامِ الْمَصَمَمِ

فَلَا مَهْرًا عَلِيٍّ مِّنْ عَلِيٍّ وَإِنْ عَلَا

وَلَا قَتْلَ إِلَّا دُونَ قَتْلِ ابْنِ مُلْجَمٍ (۲)

میں نے آج ایسا مہر تک نہیں دیکھا جسے کوئی اہل کرم ادا کرے چاہے وہ عرب ہو یا عجم مثل مہر قطامہ کے تین ہزار درہم، ایک غلام، ایک کنیز اور تیز تلوار سے علی بن ابی طالب کا قتل اور کوئی بھی مہر علی علیہ السلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اگرچہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو اور کوئی بھی جرم ابن ملجم کے جرم سے زیادہ بدتر نہ ہوگا۔ قطامہ نے کہا: میں اپنے قبیلے سے کچھ لوگوں کو تیرے ہمراہ کروں گی تاکہ اس کام میں تیری مدد کریں اور پھر اس نے یہی کام کیا اور کوفہ کے خارجیوں میں ایک شخص کو جس کا نام وردان بن مجالد تھا اسی "تیم الرباب" قبیلے کا رہنے والا تھا اس کے ہمراہ کر دیا۔

ابن ملجم جس کا ارادہ حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کا تھا اس نے خوارج میں شیبیب بن بجرہ سے جو اشجع قبیلہ کا تھا ملاقات کی اور اس سے کہا کہ کیا دنیا اور آخرت کا شرف چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا: تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا: علی بن ابیطالب کے قتل کرنے میں میری مدد کرو۔ شیبیب نے کہا: تیری مانتیرے غم میں بیٹھے، کیا تو پیغمبر کے زمانے میں علی کی خدمتوں اور ان کی فداکاریوں سے بے خبر ہے؟

ابن ملجم نے کہا: تجھ پر وائے ہو، کیا تو نہیں جانتا کہ علی خدا کے کلام میں لوگوں کی حکمیت کے قائل ہوئے ہیں اور ہمارے نمازی بھائیوں کو قتل کر دیا ہے؟ اس لئے اپنے دینی بھائیوں کا انتقام لینے کے لئے ہم انہیں ضرور قتل کریں گے۔ (۳) شیبیب نے قبول کر لیا اور ابن ملجم نے تلوار آمادہ کی اور اسے مہلک زہر میں بچھایا اور پھر وعدہ کے مطابق وقت معین پر مسجد کوفہ آیا۔ ان دونوں نے ۱۳ رمضان جمعہ کے دن قطامہ

(۱) الاخبار الطوال ص ۲۱۴۔

(۲) كشف الغمہ ج ۱، ص ۵۸۲۔ مقاتل الطالبین ص ۳۷، مسعودی نے مروج الذهب (ج ۲، ص ۴۴) میں آخری دوشعر کو ابن ملجم سے

نسبت دیا ہے۔  
(۳) کشف الغمہ ج ۱، ص ۵۷۱۔

سے ملاقات کی جب کہ وہ حالت اعتکاف میں تھی اس نے دونوں سے کہا کہ مجاشع بن وردان بن علقمہ بھی چاہتا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرے۔ جب کام کے انجام دینے کا وقت آیا تو قطامہ نے ان کے سروں کو ریشمی رومال سے باندھا اور تینوں نے اپنی اپنی تلواریں ہاتھ میں لیں اور رات کو جو لوگ مسجد میں تھے انہیں کے ساتھ بسر کی اور مسجد کے ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گئے جو باب السدہ کے نام سے مشہور ہے۔ (۱)

شب شہادت امام علیہ السلام

امام علیہ السلام اس سال ماہ رمضان میں مسلسل اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ ماہ رمضان کے وسط میں جب آپ منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: شقی ترین شخص ان بالوں کو میرے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔

اسی طرح آپ نے فرمایا:

ماہ رمضان آگیا ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے میں حکومت کے حالات بدل جائیں گے، آگاہ ہوجاؤ کہ تم اس سال ایک ہی صف میں (بغیر امیر کے) حج کرو گے اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان نہیں ہوں گا۔ (۲)

آپ کے اصحاب کہہ رہے تھے: وہ اس کلام کے ذریعے اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ (۳)

اسی وجہ سے حضرت اپنی عمر کے آخری دنوں میں روزانہ رات کو اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے گھر جاتے تھے، کسی رات امام حسن علیہ السلام کے پاس تو کسی رات امام حسین علیہ السلام کے گھر اور کسی رات اپنے داماد عبد اللہ بن جعفر، جناب زینب کے شوہر کے گھر افطار کرتے تھے اور تین لقموں سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے کم کھانے کا سبب پوچھا تو امام نے فرمایا: خدا کا

(۱) مروج الذهب ج ۲، ص ۴۲۴۔ تاریخ طبری ج ۶، ص ۸۳۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۶، ص ۱۱۵۔ کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۱۹۵۔  
مقالہ اطالین ص ۲۳۔ البدایة والنہایة ج ۷، ص ۳۲۵۔ الاستیعاب ج ۲، ص ۲۸۲۔ روضة الواعظین ج ۱، ص ۱۶۱۔  
(۲)، (۳) ارشاد مفید ص ۱۵۱ (مطبوعہ اسلامیہ)۔ روضة الواعظین ج ۱، ص ۱۶۳۔

فرمان آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا پیٹ خالی، ہوا یک یاد و رات سے زیادہ باقی نہیں اسی رات آپ کے سر پر ضربت لگی۔ (۱)

شہادت کی رات آپ افطار کے لیے اپنی بیٹی ام کلثوم کے مہمان تھے، افطار کے وقت آپ نے تین لقمہ غذا تناول فرمائی اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے اور شام سے صبح تک بہت ہی مضطرب اور بے چین تھے۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور ستاروں کی گردش کو دیکھتے، اور طلوع فجر جتنا نزدیک ہوتا اضطراب اور بے چینی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا تھا اور فرماتے تھے: خدا کی قسم، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ جس نے مجھے خبر دی ہے اس نے جھوٹ کہا ہے یہی وہ رات ہے کہ جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ (۲)

یہ وعدہ پیغمبر نے آپ کو دیا تھا۔ علی علیہ السلام خود نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر آخری خطبہ میں رونے لگے میں نے عرض کیا یا رسول خدا! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: اس مہینے میں جو تمہارے ساتھ پیش آئے گا اسی کے بارے میں رو رہا ہوں: "كَأَنِّي بَكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي لِرَبِّكَ وَقَدْ انْبَعَثَ أَشَقَى الْأُولَى وَالْآخِرِينَ شَقِيْقٌ عَاقِرٌ نَاقَةٌ تُؤَدِّقُضْرَبُكَ ضَرْبَةً عَلَى فَرْقِكَ فَخَضَبَ مِنْهُ الْحَيْتُكَ (۳)

یعنی گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں مشغول ہو اور دنیا کا سب سے شقی اور بد بخت ترین آدمی ناقہ نمود کے مارنے کی طرح کھڑا ہوگا اور تمہارے سر پر ضربت مارے گا اور تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ بالآخر کرب اور بے چینی کی رات ختم ہوئی اور علی علیہ السلام سحر کی تاریکی میں نماز صبح ادا کرنے کے لئے مسجد کی طرف گئے چلے، گھر میں جو مرغابیاں پلی تھیں انہوں نے راستہ روکا اور لباس سے لپٹ گئیں۔

(۱) ارشاد: ص ۱۵۱۔ روضة الواعظین: ج ۱ ص ۱۶۴۔ کشف لغم: ج ۱، ص ۵۸۱۔

(۲) روضة الواعظین: ج ۱، ص ۱۶۴۔

(۳) عیون اخبار الرضا: ج ۱ ص ۲۹۷ (مطبوعہ قم)۔

بعض لوگوں نے چاہا کہ ان سب کو دور کر دیں مگر آپ نے فرمایا: "دَعُوْهُنَّ فَاِنَّهُنَّ صَوَابِحٌ ۙ تَتَّبِعُهَا نَوَابِیْحٌ" یعنی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ فریاد کر رہی ہیں اور اس کے بعد مسلسل نوحہ و بکا کریں گی۔ (۱)

امام حسن علیہ السلام نے کہا: بابا: یہ کیسا فال۔ بد بیان کر رہے ہیں؟ فرما یا: اے بیٹا! یہ فال بد نہیں کہہ رہا ہوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں قتل کیا جاؤنگا (۲)

ام کلثوم امام علیہ السلام کی گفتگو سن کر مضطرب ہو گئیں اور عرض کیا کہ حکم دے دیجیے کہ جعدہ مسجد میں جائیں اور نماز جماعت پڑھا ئیں۔

حضرت نے فرمایا: قضائے الہی سے بھاگا نہیں جاسکتا پھر آپ نے کمر کے پٹکے کو مضبوطی سے باندھا، اور یہ دو شعر پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے:

أَشَدُّ حِيَازٍ يُمِكُّ لِلْمَوْتِ

فَإِنَّ الْمَوْتَ لَا يَبْغِيكَ

وَلَا تَجْزَعُ مِنَ الْمَوْتِ

إِذَا حَلَّ بِوَادِيكَ. (۳)

اپنی کمر کو موت کے لئے محکم باندھ لو کیونکہ موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی اور جب موت تمہارے قریب آئے تو اس سے فریاد و چیخ و پکار نہ کرو۔

امام علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور تکبیرۃ الاحرام اور پھر قرأت کے بعد سجدے میں گئے۔ اس وقت ابن ملجم نے زہر میں بھھی ہوئی تلوار آپ کے سر مبارک پر ماری اس حال میں کہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا: "اللہ الحکم لا لک یا علی"۔ اتفاق سے یہ ضربت بھی اسی جگہ لگی جہاں پہلے عمر و بن عبدود نے تلوار ماری تھی، (۴) آپ کا سر مبارک پیشانی تک پارہ ہو گیا۔

مرحوم شیخ طوسی نے اپنی کتاب امالی میں ایک حدیث امام رضا علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے

(۱) تاریخ یعقوبی: ج ۲، ص ۲۱۲۔ ارشاد: ص ۶۵۲۔ روضة الواعظین: ج ۱، ص ۱۶۵۔ مروج الذهب ج ۲، ص ۴۲۵۔

(۲) کشف الغمہ: ج ۱، ص ۵۸۴۔

(۳) مروج الذهب: ج ۲، ص ۴۲۹۔ مقاتل الطالبین ص ۳۱۔

(۴) کشف الغمہ ج ۱، ص ۵۸۴۔

والد گرامی سے انہوں نے اپنے آباء طاہرین سے... اور انہوں نے امام زین العابدین - سے نقل کیا ہے:

جب امام علیہ السلام سجدے میں تھے تو ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پر تلوار سے ضربت لگائی (۱) شیعوں کے مشہور و معروف مفسر ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے ضربت ماری اس وقت حضرت علی علیہ السلام پہلی رکعت میں تھے اور آپ نے سورہ انبیاء کی ۱۱ آیت تلاوت کی تھیں۔ (۲)

اہل سنت کے مشہور عالم سبط ابن جوزی لکھتے ہیں جس وقت امام علیہ السلام محراب عبادت میں آئے تو چند لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور ابن ملجم نے آپ کے سر پر ضربت ماری (۳) فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گیا۔

علی علیہ السلام کے سر سے محراب میں خون جاری ہو گیا اور آپ کی داڑھی کو رنگین کر دیا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا: "فُرْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ" رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ "مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى"۔ (۴)

جب علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگی تو فریاد بلند کی: اسے پکڑ لو، لوگ ابن ملجم کو پکڑنے کے لئے دوڑے اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا مگر یہ کہ اس کو اپنی تلوار سے مارتا تھا پھر قثم بن عباس آگے بڑھے اور اسے اپنی اٹھاکر زمین پر پٹخ دیا

جب اسے علی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تو حضرت نے کہا ابن ملجم؟ اس نے کہا، ہاں۔ جب حضرت نے اپنے قاتل کو پہچانا اپنے فرزند وقت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا :  
 "اپنے دشمن کا خیال رکھے، اس کا شکم سیر کرو اور اسکی رسیونکو مضبوط باندھ دو، اگر میں مر گیا تو

(۱) بحار الانوار ج ۹ ص ۶۵۰ بحوالہ امالی (مطبوعہ قدیم)

(۲) تفسیر ابو الفتوح رازی ج ۴، ص ۴۲۵۔

(۳) تذکرۃ الخواص: ص ۱۷۷ (مطبوعہ نجف)۔

(۴) سورۃ طہ آیت ۵۵ ہم نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی میں واپس کر دیں گے اور پھر دوبارہ اسی میں سے تم کو اٹھائیں گے۔

اسے میرے پاس بھیج دینا تاکہ خدا کے پاس اس سے احتجاج کروں اور اگر زندہ بچ گیا تو اسے بخش دوں گا یا اپنا قصاص لوں گا۔ (۱)

حسنین نے بنی ہاشم کے ہمراہ علی علیہ السلام کو کربلا میں رکھا اور گھر لے گئے پھر دوبارہ ابن ملجم کو آپ کے پاس لائے، امام علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا: اگر میں مر گیا تو اسے قتل کر دینا جس طرح اس نے مجھے قتل کیا ہے اور اگر میں بچ گیا تو پھر میں دیکھوں گا کہ اس کے بارے میں میرا کیا نظریہ ہے، ابن ملجم نے کہا: میں نے اس تلوار کو ایک ہزار درہم میں خریدا ہے اور ایک ہزار درہم کے زہر میں اسے بچھایا ہے اس نے میرے ساتھ خیانت کی تو خدا اسے نابود کر دے۔ (۲)

ام کلثوم نے اس سے کہا: اے دشمن خدا تو نے امیر المومنین کو قتل کر دیا؟ اس ملعون نے کہا: امیر المومنین کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ تمہارے باپ کو قتل کیا ہے۔

ام کلثوم نے کہا: امید ہے کہ انشاء اللہ حضرت کو اس زخم سے شفا ملے گی۔ ابن ملجم نے بے حیائی سے کہا: میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان پر روگی واللہ میں نے ایسی ضربت ماری ہے کہ اگر اسے اہل زمین پر تقسیم کریں تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ (۳)۔

حضرت کے لئے تھوڑا سا دودھ لایا گیا آپ نے تھوڑا سا دودھ پیا اور فرمایا اپنے قیدی کو بھی اس دودھ سے تھوڑا سا دے دو اور اسے اذیت نہ دو۔

جس وقت امام علیہ السلام کو ضربت لگی اس وقت کوفہ کے تمام طبیب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے درمیان سب سے ماہر اثیر بن عمرو تھا جو زخموں کا علاج کرتا تھا۔ جب اس نے زخم دیکھا تو حکم دیا کہ گوسفند کا پھپھوڑا جو ابھی گرم ہو (تازہ ہو) لایا جائے اور پھر اس نے پھپھوڑے میں سے ایک رگ نکالی اور زخم پر رکھا اور جب اسے باہر نکالا تو کہا: یا علی! اپنی وصیتیں بیان کیجیے، کیونکہ ضربت کا زخم دماغ تک

(۱) تاریخ یعقوبی ج ۲، ص ۲۱۲۔

(۲) کشف الغمہ ج ۱، ص ۵۸۶۔ تاریخ یعقوبی ج ۶، ص ۱۸۵۔

(۴) مقاتل الطالبین: ص ۳۶۔ الاخبار الطوال: ص ۲۱۴۔ طبقات ابن سعد: ج ۲، ص ۲۴۔ کامل ابن اثیر: ج ۳، ص ۱۶۹ تاریخ طبری: ج ۶، ص ۸۵۔ عقد الفرید: ج ۴، ص ۳۵۹۔ کشف الغمہ: ج ۱، ص ۵۸۶۔

پہنچ گیا ہے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت امام علیہ السلام نے کاغذ اور دوات منگایا اور اپنی وصیت میں اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا یہ وصیت اگرچہ حسنین سے کی ہے مگر حقیقت میں یہ تمام انسانوں کے لئے رہتی دنیا تک ہے۔ اس وصیت کو بعض محدثین اور مورخین نے جو سید رضی سے پہلے اور ان کے بعد میں گزرے ہیں سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (۱) لیکن اصل وصیت اس سے زیادہ ہے جسے مرحوم سید رضی نے نہج البلاغہ میں تحریر کیا ہے۔ اس میں سے کچھ حصہ تحریر کر رہے ہیں:

"أَوْ صِيكَمَا بَتَقَوَىٰ اللَّهُ وَأَنْ لَا تَبْغِيَا الدُّنْيَا وَإِنْ بَعَثْنَا وَلَا تَأْسَفَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا وَقُولَا بِالْحَقِّ وَأَعْمَلَا لِلْأَجْرِ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَالْمُظْلَمِ عَوْنًا."

"میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوائے الہی اختیار کئے رہنا اور دنیا تمہاری کتنی ہی طلب گار ہو تم دنیا کے طلب گار نہ بننا اور دنیا کی جس چیز سے تمہیں محروم کر دیا جائے اس کا غم نہ کھانا، جو کہو حق کی حمایت میں کہو اور

جو عمل کرو اجر الہی کیلئے کرو ، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہو۔"  
 أُوصِيكَمَا وَجَمِيعَ وَاٰلِيْهِ وَوَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابُ بِيْ بِنَقْوَى اللّٰهِ وَنَظْمَ اَمْرِ كُمْ وَصَلٰحَ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، فَاِنِّيْ سَمِعْتُ جَدَّ كُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ  
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "صَلٰحَ ذَاتِ الْبَيْنِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ".

"میں تم دونوں کو اور اپنی تمام اولاد کو اور اپنے کنبہ کو اور جس کے پاس بھی یہ میری تحریر پہنچے وصیت کرتا ہوں  
 کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں ، اپنے ہر کام میں نظم (وضبط) کا خیال رکھیں اور باہمی تعلقات درست رکھیں کیونکہ میں نے  
 تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰؐ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا ایک سال نماز  
 روزے سے افضل ہے۔"

"اللّٰهُ اللّٰهُ فِي الْاَيَّامِ فَلَا تَعْبُوْا اَفْوَاهَهُمْ وَلَا يَضِيْعُوْا بِحَضْرَتِكُمْ. وَاللّٰهُ اللّٰهُ فِيْ جِيْرَانِكُمْ فَاَنْهَمْ وَصِيَّةً نَّبِيِّكُمْ. مَا زَالَ يَوْصِيْ بِهَمْ حَتّٰى  
 ظَنَّنَا اَنْهُ سَيُوْرُّهُمْ"

(۱) ابو حاتم سجستانی، المعمرين و الوصايا : ص ۱۴۹، تاريخ طبري : ج ۶ ص ۸۵، تحف العقول: ص ۱۹۷ من لا يحضره الفقيه : ج ۱  
 ص ۱۴۱، كافي : ج ۷ ص ۵۱، مروج الذهب (ج ۲ ص ۲۵) ۴۲۵ میں اس کا کچھ حصہ نقل کیا گیا ہے مقابل الطالبین : ص ۳۸

"دیکھو! یتیموں کے بارے میں اللہ کو یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ انہیں فاقہ کرنا پڑی اور نہ ایسا ہونے پائے کہ وہ تمہارے سامنے  
 (کسمپری کی حالت میں) ضائع ہو جائیں اور خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں (کے حقوق) کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ  
 تمہارے نبی کی وصیت (کے مصداق) ہیں، آپ برابر ان کے بارے میں وصیت و نصیحت فرماتے رہے یہاں تک کہ ہمیں  
 گمان ہوا کہ آپ انہیں حق وراثت بھی عطا کرنے والے ہیں۔"  
 "وَاللّٰهُ اللّٰهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بَعْدَ غَيْرِكُمْ. وَاللّٰهُ اللّٰهُ فِي الصَّلَاةِ فَاَنْهَمْ عَمُوْدُ دِيْنِكُمْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لَا تَخْلُوْهُ مَا بَقِيْتُمْ فَاِنَّهٗ  
 اِنْ تَرَكَ لَمْ تُنَاطِرُوْا".

"اور دیکھو قرآن کے بارے میں خدا کو نہ بھولنا، ایسا نہ ہو کہ اور لوگ اس (کے احکام) پر عمل کرنے میں تم سے آگے  
 نکل جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور خدا را اپنے پرودگار کے گھر  
 کو جب تک جیتے رہو خالی نہ چھوڑنا کیونکہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو تمہیں مہلت نہیں ملے گی اور بلا میں گرفتار ہو  
 جاؤ گے۔"

"وَاللّٰهُ اللّٰهُ فِي الْجِهَادِ بِأَمْرِ الْكُفْرِ وَالنَّفْسِ وَالسَّنَنِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَّاصِلِ وَالتَّابِذِ وَالتَّادِيْرِ وَالتَّقَاطِعِ، لَا تَتْرُكُوْا  
 الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَوِيْلُ لِيْ عَلَيْنِكُمْ شِرَارُ كُمْ ثُمَّ تَدْعُوْنَ فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ"  
 "اور خدا کی راہ میں مال، جان اور زبان سے جہاد کرنے کے بارے میں خدا کو یاد رکھنا۔ باہمی تعلقات کو استوار رکھنا  
 اور آپس کی داد و دہش میں فرق نہ آنے دینا اور خبر دار نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنا، نہ ایک دوسرے سے الگ رہنا  
 ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا ورنہ بد کردار لوگ تم پر مسلط کر دئیے جائیں گے پھر دعائیں بھی  
 مانگو گے تو قبول نہ ہونگی۔

پھر ارشاد فرمایا:

اے اولادِ عبدالمطلب! خبردار ایسا برگز نہ ہونے پائے کہ (میرے قتل کا بدلہ لینے کے لئے) تم مسلمانوں کے خون سے  
 بولی کھیلنے لگو " امیر المومنین قتل کر دئے گئے "  
 ".....أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ نَبِيَّ إِلَّا قَاتِلِيْ، أَنْظِرُوْا إِذَا أَنْامْتُمْ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاصْرَبُوْهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، وَلَا تَمْتَلُوا بِالرَّجُلِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ  
 اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، يَقُوْلُ "إِيَّاكُمْ وَالْمَثَلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعُقُوْرَ" - (۱)

"یاد رہے کہ میرے قصاص کے طور پر صرف میرے قاتل کو ہی قتل کرنا ، اس کی ضربت سے اگر میری موت واقع  
 ہو جائے تو قاتل کو ایک ضربت کے بدلے ایک ہی ضربت لگانا اور (دیکھو) اس شخص کی لاش مثلاً نہ کی جائے (ناک  
 ، کان اور اس کے دوسرے اعضاء نہ کاٹے جائیں) کیونکہ میں نے رسول خداؐ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "خبردار کسی  
 کی لاش کو مثلاً نہ کرنا اگر چہ کائے والا کتا ہی کیوں نہ ہو"

امام علیہ السلام کے بیٹے خاموش بیٹھے ہوئے تھے ، اس حال میں بابا کا غم ان کے پورے وجود پر چھایا ہوا اور حضرت  
 کی دلکش اور روح پرور گفتگو کو سن رہے تھے، امام علیہ السلام پر وصیت کرتے کرتے غشی طاری ہو گئی اور جب  
 دوبارہ آنکھ کھولی تو فرمایا: اے حسن! میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آج کی رات میری عمر کی آخری رات ہے،  
 جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا اور رکن پہنانا اور تم خود میرے کفن و دفن کا انتظام کرنا اور

میری نماز جنازہ پڑھانا اور رات کی تاریکی میں شہر کو فہ سے دور پوشیدہ طور پر مجھے دفن کرنا تا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔

علی علیہ السلام دو دن زندہ تھے اور ۲۱ رمضان شب جمعہ کو ( ۴۰ ہجری کے ماہ رمضان کی اکیسویں تاریخ کی شب میں) ۶۳ سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام نے آپ کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی اور نماز میں سات تکبیریں کہیں اور پھر فرمایا "اما انھا لا تُکَبِّرُ علیٰ احدٍ بعدہ" یعنی جان لو کہ علی علیہ السلام کے جنازہ کے بعد کسی بھی شخص کے جنازے پر سات تکبیریں نہیں کہی جائیں گی، علی علیہ السلام کو فہ میں "غری" (موجودہ نجف اشرف) نامی جگہ دفن ہوئے، آپ کی خلافت کا زمانہ چار سال اور دس مہینے تھا۔ (۲)

(۱) نہج البلاغہ مکتوب نمبر ۴۷۔

(۲) مناقب آل ابی طالب ج: ۳، ص ۳۱۳۔ تذکرۃ الخواص: ص ۱۱۲۔ تاریخ یعقوبی: ج ۲، ص ۲۱۳۔

حضرت علی علیہ السلام کا غم

امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد حسن بن علی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر خدا (ص) پر درد بھینجنے کے بعد فرمایا: "ألا انہ قد مضیٰ فی ہذہ اللیلۃ رجل لم یدرکہ الأولون ولن یری مثله الا خرون۔ من کان یقاتل وجبرئیل عن یمینہ و میکائیل عن شمالہ واللہ لقد تُوِّ قی فی اللیلۃ الّتی قبض فیہا موسیٰ بن عمران و رفع فیہا عیسیٰ بن مریم و انزل القرآن۔ الا وائہ ما خلف صفراء ولا بیضاء الا سبعمائة درہم فضلت من عطائہ أراد ان یتتاع بها خادماً لا ہلہ" (۱)

آج کی رات وہ شخص (اس دنیا سے) گزر گیا جس کی حقیقت تک پہلے والے بھی نہ پہنچے تھے اور آئندہ آنے والے بھی ہرگز اس کے جیسا نہیں دیکھ پائیں گے، یہ وہ شخص تھا کہ جب بھی جنگ کرتا تھا تو اس کے داہنی طرف جبرئیل اور بائیں طرف میکائیل رہتے تھے خدا کی قسم "اسی رات آپ کی شہادت ہوئی جس رات میں موسیٰ بن عمران کی وفات ہوئی تھی اور عیسیٰ بن مریم آسمان پر اٹھانے گئے تھے اور قرآن نازل ہوا تھا اور جان لو کہ اس نے زر و سیم (مال) نہیں چھوڑے ہیں مگر سات سو درہم جو ان کے حساب میں بچا ہوا تھا اور اس سے آپ اپنے گھر کے لئے ایک خادم خریدنا چاہتے تھے۔

پھر قعقاع بن زرارہ اٹھے اور کہا: "رضوان اللہ علیک یا امیر المومنین۔ فواللہ لقد کانت حیائک مفتاح خیر، ولو انّ الناس قبلوک لا کلو امن فو قہم و من تحت ارجلہم ولکنہم غمطوا النعمتو آثروا الدنیا علی الآخرة"۔ (۲)

"اے میرے مومنین آپ پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، خدا کی قسم آپ کی زندگی ہر اچھا نی کی کنجی تھی اگر لوگ آپ کو مانتے تو اپنے سروں کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے اور خدا کی نعمتیں ان کے شامل حال ہوتیں، لیکن ان لوگوں نے نعمت کی ناشکری کی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔

ابو الاسود دؤلی نے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت یہ مرثیہ کہا ہے:

ألا ابلغ معاویة بن حرب

فلا قرّت عیون الشامتینا

أفی شہر الصّیام فجعتونا

بخیرِ الناس طرّاً اجمعینا؟

(۱) تاریخ یعقوبی ج ۲، ص ۲۱۳۔

(۲) تاریخ یعقوبی: ج ۲، ص ۲۱۳۔

قتلتم خیر من ركب المطايا

وذللها ومن ركب السقينا

ومن لبس النعال من حذاها  
ومن قرء المثنى و المبيئاً  
اذاستقبلت وجه ابى حسين  
رايت النور فوق الناظرينا  
لقد علمت قریش حيث كانت  
بانك خير هم حسباًو ديناً (۱)

معاویہ بن حرب سے کہو کہ شمانت کرنے والوں کی آنکھیں روشن نہ ہوں ، تم نے رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں تمام لوگوں سے افضل شخص کے سوگ میں بٹھا دیا؟ تم ایسے بہترین انسان کو قتل کر دیا، تجو سوار یونپر سوار ہوا اور انہیں مسخر کیا، وہ بہترین شخص جس نے پیر مینغلین پہنی اور بہترین شخص جس نے آیات مثنائی اور قرآن کو پڑھا، اگر تم حسین کے بابا کے چہرے کو دیکھو تو اس کی روشنی و نورانیت کا مشاہدہ کرو گے جو تمام دیکھنے والوں کے اوپر پرتوا فگن ہے، اے علی! قریش جہاں بھی ہوں انہیں اس بات کا علم ہے کہ آپ حسب و نسب اور دین مینان لوگوں سے بہتر ہیں۔ جن جن لوگوں نے اما م کی شان میں مرثیہ کہا انہیں میں سے صعصعہ بن صوحان بھی ہیں جو بلاغت اور حاضر جوابی میں مشہور تھے۔ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے غم میں کہا: اے امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پر قربان اور آپ کو مبارک ہوں (الہی کرامتیں) طاہر الولادة ، صابر اور مجاہد تھے ، جو تمنا رکھتے تھے آپ نے اسے حاصل کر لیا اور خدا سے بہترین معاملہ کیا اور اس کی بارگاہ میں چلے گئے اور اس نے آپ کو خوشی سے قبول کیا اور آپ پر ملائکہ نازل ہوئے اور حضرت پیغمبر (ص) کے جوار میں سکونت اختیار کی اور خدا وند عالم نے آپ کو ان کا جوار عطا کیا اور آپ کو اس منزل پر فائز کیا جس پر پیغمبر (ص) فائز تھے اور اپنے جام سے سیراب کیا۔ اپنے خدا سے (کہ جس نے آپ کی پیروی کرنے کا ہم پر احسان کیا اور توفیق عطا کی کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں اور آپ کے دوستوں کے دوست رہیں اور آپ کے دشمنوں کے دشمن رہیں) دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آپ کے ساتھ محشور کرے کیونکہ آپ اس منزل پر پہنچے ہیں کہ آپ

(۱) مروج الذهب: ج ۲، ص ۲۸۴۔ تاریخ طبری: ج ۴، ص ۱۱۶۔ کامل ابن اثیر: ج ۳، ص ۳۹۴۔ اغاتی: ج ۱۱، ص ۱۲۲۔ مقاتل الطالبین: ص ۴۳۔ میں ابولفرج اصفہانی نے ان اشعار کی جو ۲۱ بیت کا مرثیہ ہے الہیثم بنت الاسود کی طرف نسبت دی ہے۔

سے پہلے کوئی اس منزل پر نہیں پہنچا اور ایسا مرتبہ آپ کو ملا ہے کہ آپ سے پہلے یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا، آپ نے خدا کی راہ میں پیغمبر (ص) کے ہمراہ بہترین صورت سے جہاد کیا اور دین خدا کو مستحکم کیا اور سنت پیغمبر کو استحکام بخشا اور فتنہ و فساد کو ختم کر دیا اور آپ کی وجہ سے اسلام پایدار (ذی مرتبہ) ہو گیا اور دین آپ کی وجہ سے منظم ہو گیا اور ایسے فضائل آپ کو ملے جو آپ کے علاوہ کسی کو نہ ملے، سب سے پہلے پیغمبر (ص) کی دعوت کو قبو ل کیا اور ان کی اطاعت و پیروی کو ہر چیز پر مقدم کیا اور ان کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہے اور اپنی جان پر کھیل کر خدا کی راہ میں جہاد کیا اور اپنی تلوار کو انکی مدد کرنے کے لئے نیام سے باہر نکالا اور بڑے سے بڑے ستمگر کو آپ نے شکست دیدی اور ہر کافر آپ کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوا، کفر و شرک اور ظلم کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ دیا اور گمراہوں اور نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ پس مبارک ہو آپ کو اے امیر المومنین کہ خدا نے آپ کو ایسے فضائل و کمالات نصیب کئے۔ آپ پیغمبر (ص) کے سب سے زیادہ قریب تھے اور سب سے پہلے ایمان لائے اور علم و فہم میں سب سے اعلیٰ اور یقین میں کامل تر اور تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور دلیر اور اسلام مینا پ کے کارنامے تمام لوگوں سے زیادہ ہیں۔

خدا وند عالم ہم لوگوں کو آپ کے اجر سے محروم نہ کرے، کیونکہ آپ خیر و خیرات کی کنجی تھے برائیوں لیکن آپ کی شہادت کی وجہ سے برائیوں کے دروازے ہماری طرف کھل گئے اور نیکیوں کے دروازے بند ہو گئے۔ اگر لوگ آپ کی باتوں کو سنتے تو نیکیاں ان کے سروں کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے جاری ہوتیں لیکن افسوس کہ لوگوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔

خوارج اور دوسرے دشمنان اسلام، ابن ملجم کے اس ہولناک ستم پر بہت خوش ہوئے اور اس کے کام کی تعریف و تمجید کی۔ خوارج میں سے ایک شخص عمران بن حطان و قاشی نے ابن قثم کے بارے میں کہا:

یا ضربة من نقی ما ارد بها

الا ليبلغ من ذى العرش رضوانا

انى لاذكره يوماً فأحسبه

اوفى البرية عندالله ميزاناً

ایک پریزگار کی کتنی بہترین ضربت ہے کہ جس کا مقصد رضوان الہی تک پہنچنے کے علاوہ کچھ نہ تھا، میں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ خدا کے نزدیک اس کے ترازو کا پلہ تمام چیزوں سے زیادہ بھاری ہے۔ قاضی ابو طیب طاہر بن عبداللہ شافعی نے اس کے جواب میں یہ اشعار کہے:

يا ضربة من شقى ما آردبها

انى لا ذكره يوماً فالعنه

عليه ثم عليه الذهر متصلاً

فانتما من كلاب النار جاء به

الا ليهدم للاسلام اركاننا

والعن عمران و حطانا

لعائن الله اسراراً و اعلاناً

نص الشريعة برهانا و تبياناً (۱)

"اس شقی کی کیسی تباہ کن ضربت تھی کہ جس کا دین کے ستونوں کو ڈھا نے کے علاوہ کوئی مقصد نہ تھا، مینجس دن اس کو یاد کرتا ہوں تو اس پر اور عمران و حطان پر ایک دنیا لعنت بھیجتا ہوں۔ اس پر خداوند عالم کی پوشیدہ اور ظاہری طور پر بے شمار لعنتیں ہوں اور تم دونو دوزخ کے کتے ہو کہ اس پر شریعت کی نص شاہد و گواہ"۔ اس طرح سے ایک عظیم المرتبت انسان کی نوارنی اور معنوی زندگی جس کی ولادت کعبہ میں اور شہادت مسجد میں ہوئی، ختم ہو گئی۔ وہ انسان کہ پیغمبر اسلام (ص) کے بعد جس کی مثال نہ دنیا نے دیکھی اور نہ دیکھ پائے گی۔ نہ جہاد اور ایثار میں اس کا کوئی نظیر تھا نہ اس کائنات کے اسرار و رموز اور علم میں اس کی کوئی مثال تھی اور نہ دوسرے ہی فضائل میں کوئی آپ جیسا تھا یہاں تک کہ آپ کا وجود شریف، ایسے متضاد فضائل کا مجموعہ تھا کہ کسی بھی شخص کے اندر وہ تمام تمام فضائل جمع نہیں ہو سکتے:

جمعت في صفاتك الاضداد

فلهدا عزت لك الانداد

زاهد حاكم حلیم شجاع

فاتك ناسك فقير جواد

تمام متضاد اور مختلف صفات آپ کے اندر جمع تھے اسی وجہ سے آپ کا کوئی نظیر نہ مل سکا۔ آپ زاہد، حاکم حلیم و بردباد، بہادر، عابد، جری، خالی ہاتھ، سخی اور جواد (ایثار کرنے والے) تھے مولف اسی جگہ پر اپنی بات کو نہایت شرمندگی کے ساتھ ختم کر رہا ہے یہ بھی جانتا ہے کہ مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ملکوتی فضائل و کمالات کی ایک جھلک بھی نہ پیش کر سکا ہے لیکن

(۱) مروج الذهب : ج ۲ ص ۲۷۴ - عمران بن حطان کے ان دونوں شعروں کے جواب میں بہت سے دوسرے اشعار بھی کہے گئے ہیں، مسعودی نے اپنی کتاب میں جن کا ذکر کیا ہے۔

اس بات پر خوش ہے کہ اس نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے اور ایک معمولی اور بے وقعت دہاگہ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے یوسف کے خریداروں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ شاید یہ ایک دن اس کی شفاعت کا ذریعہ ہو جائے۔ بحمدانہ الشکر بحق چہارہ معصومین علیہم السلام ۲۱ رمضان المبارک ۱۴۲۶ ہجری قمری مطابق ۲۶ اکتوبر ۲۰۰۵ء بروز چہار شنبہ ترجمہ مکمل ہوا۔ والسلام

سید حسین اختر رضوی عفی عنہ

"دربار حسینی، نونیٹا"



فروغ ولایت(سیرت امیر المومنین علی علیه السلام کا مکمل جائزہ)

منابع مصادر

ا

المراجعات  
الدرجات الرفیعة  
النقض علی العثمانیة  
السیرة النبویة  
التنبیه والاشراف  
الولاية فی طریق حدیث الغدیر  
انجیل  
السقیفه  
الامامة والسیاسة  
اعلام النساء  
اصل سلیم  
الخوارج فی العصر الاموی  
الخوارج فی الاسلام  
التنبیه والرد  
الفتوح  
اسباب النزول  
انساب الاشراف  
الجرح والتعديل

ب

بحار الأنوار (بحار)  
بررسی مسند احمد  
بدایع الصنائع

ت،ث

تاریخ طبری  
تاریخ کامل  
تفسیر طبری  
تفسیر برهان  
تفسیر آلاء الرحمن

تهذيب الأحكام  
تفسير قمى  
تفسير ابو الفتوح رازى  
تاريخ الخميس  
تورات  
تاريخ ابى الفدائى  
تلخيص الشافى

س، ش، ص، ط  
سيره ابن هشام  
سيره حلبى  
سيرة نبويّه  
سيره پیامبر اکرم (ص)  
سنن ابن ماجه  
سنن بيهقى  
شرح الشفائى  
شرح قصيده عبدالباقى افندى  
شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد  
شرح شفائى قاضى عياض  
شافى  
شخصيتهاى اسلامى در شيعة  
شرح نهج البلاغه عبده  
شرح حديدى  
صحاح [سنّه]  
صحيح بخارى  
صحيح مسلم  
صبح الأعشى  
صواعق  
طبقات كبرى

ع، غ، ف، ق  
عقد الفريد  
عقبات الأنوار  
على والخلفاء  
عقريّة الامام على  
عيون أخبار الرضا  
غزوات  
فرحة الغرى  
فهرس نجاشى  
فتوح البلدان  
فروغ ابديت  
قرآن مجيد (قرآن/قرآن كريم)  
قاموس الرجال

قضاء امير المومنين

ن

نهج البلاغه عيده  
نهج البلاغه فيض الاسلام  
نهج البلاغه ابن ميثم  
نهج البلاغه ابن ابى الحديد  
نقض العثمانيه  
ناسخ التورخ  
نقش و عاظ در اسلام

و

وفيات الأعيان  
وفاء الوفاء  
وسائل الشيعه  
وقعه صفين  
وقعه النهروان

استناد الشعراء ذاكثر شعور اعظمى (ممبئى)

فروغ ولايت

بے فروغ ولايت ایسی کتاب  
خوش ہو دل عارف پیمبر کا

دشمن نفس مصطفےٰ کے لئے  
مثل نشتر قلم بے جعفر کا  
یہ زبان و بیان کی خوبی  
لفظوں پر ہو گمان گوہر کا

حال ابتر ہو جس کو پڑھتے ہی  
روسیہ، دشمنان حیدر کا  
نکتے روشن ہیں مثل نجم شعور  
بے گمان کہکشاں کے دفتر کا

کیوں نہ قلب عدو سے نکلے "آہ"  
ترجمہ بے حسین اختر کا